

القرآن

فَلَا يَعْتَرُونَ بِإِلَوْنِ اللَّهِ أَصْحَابَهُ

# أَسْمَاءُ الْمُبْرَكِينَ

رِحْمَة

سَوَانِخٍ

بِرَكَةِ الْعَصْرِ، شَيْخِ الْحَدِيثِ، قَطِ الْعَالَمِ  
حَضْرَتِ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ سَعْدِ رَكَنِيَّ الْكَانْدَهْلَوِيِّ

ثُمَّ الْمُهَاجِرِ الْمَدِينِيِّ قَدِّسَ سَرْهُ



4/501  
شَاهِ فَقِيل  
كَالْوَنِي  
كَارِبِي

ناشر مَكْتَبَةُ حُكْمَرَ فَالْمَرْفُوفُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَعْقَبَرُو دِيَالِو لِلْأَبْصَارِ الْقَانِ

# آبِيلت

نمبر اتھ

سوائخ

برکۃ العصر . شیخ الحدیث . قطب العبا

حضرت مولانا محمد سید رحیم کاظمی

ثہ المهاجرالمدنی قدس سرہ



مکتبہ عمر فاروق

۴ شاہ فیصل کالونی کراچی

501/4

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب .....	آپ بیتی (جلد اول)
مؤلف .....	حضرت مولا نا محمد زکریا الکاندھلوی قدس سرہ
اشاعت دوم .....	تصحیح شدہ ایڈیشن
ضخامت .....	576
قیمت .....	
ناشر .....	فیاض احمد 916253583-4144-59445491-021
موباکل .....	3432345-3340
مکتبہ عمر فاروق شاہ فیصل کالونی نمبر ۲۵، کراچی نمبر ۳۲	

## قارئین کی خدمت میں

کتاب ہذا کی تیاری میں تصحیح کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تاہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو اتماس ہے کہ ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا مدارک کیا جاسکے۔

- جزاء کم اللہ تعالیٰ جزاء جمیلاً جزیلاً -

# ”آپ بیتی نمبرا“ و ”سو انجی یوسف“

نمبر شمارہ	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	تنقید بر سوانح یوسفی	۱۹
۲	والد صاحب کا امتحان اور میرا جواب	۲۵
۳	انوکھی تربیت	۲۵
۴	چند واقعات ضرور سنوت کو لطف آئے یا نہ آئے مجھے تو لکھنے میں	۲۷
۵	ایک اہم واقعہ	۳۲
۶	اچھے کپڑوں سے نفرت	۳۳
۷	کرنل اقبال کا ساٹھ روپے گز کا جوڑ اسلوانا	۳۳
۸	جبزیر میں کیا دیا جائے	۳۵
۹	والد صاحب کا طرزِ تعلیم ”سوال واقعہ“	۳۶
۱۰	میرے ہی قلم سے تحریر	۳۷
۱۱	حضرت شاہ عبدالرحیم کا مشہور مقولہ	۳۹
۱۲	حضرت اقدس مولانا الحاج احمد علی صاحب کا کمال تقویٰ	۴۰
۱۳	حضرت سہاپوری کا تشوہاد سے انکار	۴۱
۱۴	مدرسہ کی اشیاء ذاتی استعمال کے لیے نہیں	۴۱
۱۵	محبّتِ قم اور مدرسین مظاہر جلسہ کے موقع پر بھی اپنے گھر سے	۴۱
۱۶	حضرت مولانا عنایت الہی کے دو قلمدان اور پیش کو واقعہ	۴۲
۱۷	حضرت سہاپوری کی اس باقی کی نگرانی	۴۳
۱۸	اخبار بینی سے نفرت	۴۵
۱۹	صاحب کے طالب علمی کے واقعات	۴۵
۲۰	لکھنے کا واقعہ حضرت حاجی صاحب کا	۴۷
۲۱	صرف روٹی پے گزار کرنا	۴۸

”آپ بیتی نمبرا“ یا ”یادِ ایام نمبرا“  
بابِ اول

۵۶	..... مولانا حبیب الرحمن صاحب کا سوال اور بندہ کا جواب	۲۳
۶۳	..... ہر نیکی صدقہ ہے یہوی سے صحبت بھی صدقہ ہے	۲۴
۶۴	..... صاحبزادوں کی تربیت کے لیے درخواست	۲۵
۷۵	..... مولوی انیس الرحمن و مولوی عبدالجلیل صاحبان کا ذکر جمیل	۲۶

## باب دوم

۷۶	..... درس و مدرسیں اور مظاہر علوم و تالیفات	۲۷
۷۸	..... رمضان المبارک میں قرآن کا ابتدائی معمول	۲۸
۷۹	..... بندہ کی ابتدائی فارسی	۲۹
۸۰	..... گنگوہ سے سہار پور میں آمد	۳۰
۸۵	..... والد صاحب کا طرز تعلیم	۳۱
۸۶	..... سال اول از رمضان ۲۸ھ تا شعبان ۲۹ھ	۳۲
۸۶	..... سال دوم رمضان ۲۹ھ تا شعبان ۳۰ھ	۳۳
۸۶	..... سال سوم رمضان ۳۰ھ تا شعبان ۳۱ھ	۳۴
۸۶	..... سال چہارم رمضان ۳۱ھ تا شعبان ۳۲ھ	۳۵
۸۷	..... سال پنجم رمضان ۳۲ھ تا شعبان ۳۳ھ	۳۶
۸۷	..... سال ششم رمضان ۳۳ھ تا شعبان ۳۴ھ	۳۷
۸۷	..... سال هفتم رمضان ۳۴ھ تا محرم ۳۵ھ	۳۸
۸۷	..... شوال ۳۵ھ تا شعبان ۳۶ھ	۳۹
۸۷	..... شوال ۳۶ھ تا شعبان ۳۷ھ	۴۰
۸۹	..... مولانا ماجد علی صاحب استاذ منطق	۴۱
۸۰	..... میری منطق کا سال	۴۲
۸۲	..... اساتذہ کرام کے احوال	۴۳
۸۷	..... ایک عجیب قصہ یا خواب	۴۴
۸۷	..... ابتداء مشکلاۃ	۴۵
۸۸	..... دورہ کا سال	۴۶
۸۹	..... میرے والد صاحب کی مدرسی بخاری	۴۷

۹۰	.....	۳۸ حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام
۹۱	.....	۳۹ حضرت سے دوبارہ احادیث پڑھنا
۹۲	.....	۴۰ ابتداء تالیف بذل الحجود
۹۳	.....	۴۱ تیرا دور شروع ہوا
۹۵	.....	۴۲ طحاوی سے میرے والد اور انور کشمیری کا شغف
۹۶	.....	۴۳ اب مدرسی کی سنو
۹۸	.....	۴۴ کتب زیر مدرسی زکر یا عقلي عنہ
۹۸	.....	۴۵ از محرم ۳۵ھ تا شعبان ۳۵ھ
۹۹	.....	۴۶ از شوال ۳۵ھ تا شعبان ۳۶ھ
۹۹	.....	۴۷ از شوال ۳۶ھ تا شعبان ۳۷ھ
۹۹	.....	۴۸ از شوال ۳۷ھ تا شعبان ۳۸ھ
۱۰۰	.....	۴۹ از شوال ۳۸ھ تا شعبان ۳۹ھ
۱۰۰	.....	۵۰ از شوال ۳۹ھ تا شعبان ۴۰ھ
۱۰۰	.....	۵۱ از شوال ۴۰ھ تا شعبان ۴۱ھ
۱۰۰	.....	۵۲ از شوال ۴۱ھ تا شعبان ۴۲ھ
۱۰۰	.....	۵۳ از شوال ۴۲ھ تا شعبان ۴۳ھ
۱۰۰	.....	۵۴ از شوال ۴۳ھ تا شعبان ۴۴ھ
۱۰۰	.....	۵۵ از شوال ۴۴ھ تا صفر ۴۵ھ
۱۰۰	.....	۵۶ از شوال ۴۵ھ تا صفر ۴۶ھ
۱۰۰	.....	۵۷ از شوال ۴۶ھ تا صفر ۴۷ھ
۱۰۰	.....	۵۸ از شوال ۴۷ھ تا صفر ۴۸ھ
۱۰۰	.....	۵۹ از شوال ۴۸ھ تا صفر ۴۹ھ
۱۰۰	.....	۶۰ از شوال ۴۹ھ تا صفر ۵۰ھ
۱۰۰	.....	۶۱ از شوال ۵۰ھ تا صفر ۵۱ھ
۱۰۰	.....	۶۲ از شوال ۵۱ھ تا صفر ۵۲ھ
۱۰۰	.....	۶۳ از شوال ۵۲ھ تا صفر ۵۳ھ
۱۰۲	.....	۶۴ سبعہ معلقہ کا سبق
۱۰۳	.....	۶۵ چھتیم صاحب رحمہ اللہ
۱۰۷	.....	۶۶ تقویم جائیداد میں بذہانہ کا سفر
۱۱۳	.....	۶۷ اسٹرائک کی لعنت مدرسے میں نہیں تھی
۱۱۳	.....	۶۸ مدرسین کا مدرسہ کی خدمت
۱۱۸	.....	۶۹ بندہ کی مشیر ناظم کی تجویز
۱۲۲	.....	۷۰ اخبار مدینہ کا غلط الزام
۱۲۸	.....	۷۱ تالیفات
۱۲۹	.....	۷۲ (۱) شرح الفیہ اردو: ..... غیر مطبوع

۱۲۹	(۲) اردو شرح سلم:.....غیر مطبوع.....	۷۳
۱۲۹	(۳) اضافہ برائش کال اقلیدس:.....غیر مطبوع.....	۷۵
۱۲۹	(۴) تقریر مشکوٰۃ:.....غیر مطبوع.....	۷۶
۱۲۹	(۵) تقاریر کتب حدیث:.....غیر مطبوع.....	۷۷
۱۳۰	(۶) مشائخ چشتیہ:.....غیر مطبوع.....	۷۸
۱۳۰	(۷) احوال مظاہر علوم:.....غیر مطبوع.....	۷۹
۱۳۰	(۸) تلخیص البذل:.....غیر مطبوع.....	۸۰
۱۳۰	(۹) شذرات الحدیث:.....غیر مطبوع.....	۸۱
۱۳۲	(۱۰) جزء جمیع الاداع وال عمرات:.....مطبوع.....	۸۲
۱۳۲	(۱۱) خصائیں نبوی شرح شامل ترمذی:.....مطبوع.....	۸۳
۱۳۳	(۱۲) حواشی بذل الحجود:.....غیر مطبوع.....	۸۳
۱۳۳	(۱۳) تحفۃ الاخوان:.....مطبوع.....	۸۵
۱۳۳	(۱۴) شرح عربی جزری:.....غیر مطبوع.....	۸۶
۱۳۳	(۱۵) رسالہ در احوال قراء سبعہ۔ البدور مع نجومہم.....(غیر مطبوع).....	۸۷
۱۳۴	جس لطیفہ کا اوپر ذکر ہوا وہ یہ ہے:.....	۸۸
۱۳۵	(۱۶) او جز المسالک شرح موطا امام مالک ۲ جلد:.....(مطبوع).....	۸۹
۱۳۶	(۱۷) فضائل قرآن:.....(مطبوع).....	۹۰
۱۳۶	(۱۸) فضائل رمضان:.....(مطبوع).....	۹۱
۱۳۶	(۱۹) قرآن عظیم اور جبریہ تعلیم:.....(مطبوع).....	۹۲
۱۳۷	(۲۰) فضائل تبلیغ:.....(مطبوع).....	۹۳
۱۳۷	(۲۱) الکوکب الدری:.....(مطبوع).....	۹۴
۱۳۷	(۲۲) حکایات صحابہ:.....(مطبوع).....	۹۵
۱۳۸	(۲۳) الاعتدال فی مراتب الرجال:.....(مطبوع).....	۹۶
۱۳۹	(۲۴) مقدمات کتب حدیث:.....(غیر مطبوع).....	۹۷
۱۳۹	(۲۵) فضائل نماز:.....(مطبوع متعدد بار).....	۹۸
۱۳۹	(۲۶) فضائل ذکر:.....(مطبوع متعدد بار).....	۹۹

۱۳۹	.....	۱۰۰ (۲۷) فضائل حج: ..... (مطبوع متعدد بار)
۱۴۰	.....	۱۰۱ (۲۸) فضائل صدقات: ..... (مطبوع)
۱۴۰	.....	۱۰۲ (۲۹) لامع الدراري تین جلد: ..... (مطبوع)
۱۴۰	.....	۱۰۳ (۳۰) فضائل درود شریف: ..... (مطبوع)
۱۴۱	.....	۱۰۴ (۳۱) رسالہ اشراط: ..... (مطبوع)
۱۴۱	.....	۱۰۵ (۳۲) رسالہ آپ بیتی: ..... (مطبوع)
۱۴۱	.....	۱۰۶ (۳۳) اصول حدیث علی مذهب الحنفیہ: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۱	.....	۱۰۷ (۳۴) الواقع والدھور: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۲	.....	۱۰۸ (۳۵) المؤلفات والمؤلفین: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۲	.....	۱۰۹ (۳۶) تلخیص المؤلفات والمؤلفین: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۲	.....	۱۱۰ (۳۷) بجزء المعراج: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۲	.....	۱۱۱ (۳۸) جزوفات النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۲	.....	۱۱۲ (۳۹) جزء افضل الاعمال: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۳	.....	۱۱۳ (۴۰) جزء روایت الاستحاضة: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۳	.....	۱۱۴ (۴۱) جزء رفع الیدين: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۳	.....	۱۱۵ (۴۲) جزء الاعمال بالنیات: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۳	.....	۱۱۶ (۴۳) جزء اخلاقات اصلوۃ: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۳	.....	۱۱۷ (۴۴) جزء اسباب اختلاف الانہر: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۳	.....	۱۱۸ (۴۵) جزء المبہمات فی الاسانید والروایات: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۵	.....	۱۱۹ (۴۶) رسالہ التقدیر: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۵	.....	۱۲۰ (۴۷) سیرت صدیق: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۵	.....	۱۲۱ (۴۸) رسالہ فوائد حسینی: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۶	.....	۱۲۲ (۴۹) حواشی کلام پاک: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۶	.....	۱۲۳ (۵۰) حواشی الاشاعت: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۶	.....	۱۲۴ (۵۱) حواشی وذیل التجذیب: ..... (غیر مطبوع)
۱۴۷	.....	۱۲۵ (۵۲) حواشی اصول الشاشی، هدایہ وغیرہ: ..... (غیر مطبوع)

۱۲۶	(۵۳) حواشی مسلسلات:.....(غير مطبوع)
۱۲۷	(۵۴) جزء مکفرات الذنوب:.....(غير مطبوع)
۱۲۷	(۵۵) جزء ملقط المرقاة:.....(غير مطبوع)
۱۲۷	(۵۶) جزء ملقط الرواۃ عن المرقاة:.....(غير مطبوع)
۱۲۷	(۵۷) مجتمع المسند للإمام احمد:.....(غير مطبوع)
۱۲۸	(۵۸) جزء المناط:.....(غير مطبوع)
۱۲۸	(۵۹) رسالہ مجید دین طرت:.....(غير مطبوع)
۱۲۸	(۶۰) جزء صلوٰۃ الاستقاء:.....(غير مطبوع)
۱۲۸	(۶۱) وجزء صلوٰۃ الخوف:.....(غير مطبوع)
۱۲۸	(۶۲) وجزء صلوٰۃ الکسوف:.....(غير مطبوع)
۱۲۸	(۶۳) جزء ماقال الحمد ثون فی الامام العظیم:.....(غير مطبوع)
۱۲۸	(۶۴) جزء تخریج حدیث عائشہ فی قصّة بریرہ:.....(غير مطبوع)
۱۲۹	(۶۵) تقریر نسائی شرایف:.....(غير مطبوع)
۱۲۹	(۶۶) جزء امراء المدینہ:.....(غير مطبوع)
۱۲۹	(۶۷) جزء طرق المدینہ:.....(غير مطبوع)
۱۲۹	(۶۸) جزء ما شکل علی الجارین:.....(غير مطبوع)
۱۲۹	(۶۹) جزء الجھاد:.....(غير مطبوع)
۱۵۰	(۷۰) جزء انکحة صلی اللہ علیہ وسلم:.....(غير مطبوع)
۱۵۰	(۷۱) مشائخ تصوّف:.....(غير مطبوع)
۱۵۰	(۷۲) اولیات القيامة:.....(غير مطبوع)
۱۵۰	(۷۳) مختصات المشکوٰۃ:.....(غير مطبوع)
۱۵۰	(۷۴) رسالہ رد مودودیت:.....
۱۵۰	(۷۵) مشرقی کا اسلام:.....(غير مطبوع)
۱۵۱	(۷۶) میری محسن کتابیں:.....
۱۵۱	(۷۷) نظام مظاہر علوم:.....
۱۵۱	(۷۸) جامع الروایات والاجزاء:.....(غير مطبوع)

۱۵۲	(۷۶) مجمع رجال تذكرة الحفاظ للذھبی:..... (غیر مطبوعہ)	۱۵۲
۱۵۲	(۸۰) تبویت تاویل مختلف الاحادیث لابن قتیبه:..... (غیر مطبوعہ)	۱۵۳
۱۵۳	(۸۱) تبویب مشکل الاثار:..... (غیر مطبوعہ)	۱۵۳
۱۵۲	(۸۲) مجمع الصحابة الـتی اخـرـج عـنـہـم، ابـوـدـاؤـ وـالـطـیـاـسـیـ فـیـ..... (غیر مطبوعہ)	۱۵۵
۱۵۲	(۸۳) تبویب احکام القرآن للجصاص:.....	۱۵۶

## ”آپ بیتی نمبر ۳“، یا ”یادِ ایام نمبر ۳“

### باب سوم

۱۵۶	اس سیدہ کارکی چند بڑی عادتیں.....	۱۵۷
۱۵۷	مہمان سے سوال کہ قیام کب تک ہے اس کا مأخذ.....	۱۵۸
۱۵۹	سہار پور کا تبلیغی اجتماع.....	۱۵۹
۱۶۰	حضرت مدینی کا بندہ کے ساتھ تعلق اور اشاء اسفار میں.....	۱۶۰
۱۶۱	بندہ کے ساتھ حضرت مدینی کے ہمپر کابی میں اطراف.....	۱۶۱
۱۶۲	حضرت کے سفر آئندہ کا واقع سردی اور بارش.....	۱۶۲
۱۶۲	حضرت مدینی کی لکھنؤ سے واپسی.....	۱۶۳
۱۶۳	دیگر اکابر کی طرح پیچا جان کی بندہ کے زیادہ سے.....	۱۶۳
۱۶۴	پیچا جان کے نماز میں طویل قیام کا قصہ.....	۱۶۵
۱۶۴	کاندھلہ کا سفر اور اعزہ کا لوتی جانا.....	۱۶۶
۱۶۶	مہمل جواب مہمان کا یہ کہ جب تک ارشاد ہو قیام کروں گا.....	۱۶۷
۱۶۶	ایک بڑی عادت دوبارہ دعوت مہمان اور اسکے تین قصے.....	۱۶۸
۱۷۵	سفر سے نفرت.....	۱۶۹
۱۷۶	حضرت مدینی کے گھنٹوں کا علاج بجلی کے ذریعے.....	۱۷۰
۱۷۸	بر بڑی عادت سفارشوں سے نفرت.....	۱۷۱
۱۷۸	مدرسہ کے مصالح ذاتی مصالح پر مقدم ہیں.....	۱۷۲

### باب چہارم

۱۸۸	حوادث و شادیاں.....	۱۷۳
-----	---------------------	-----

۱۸۹	۱۷۳ فصل اول.....حوادث
۱۹۰	۱۷۵ حادثہ انتقال والد صاحب .....
۱۹۱	۱۷۶ تفصیل ادا بیگنی قرضہ .....
۱۹۲	۱۷۷ بچیوں کے حج کے قرضے کی کیفیت اور مالک کی قدرت .....
۱۹۹	۱۷۸ شادیوں میں شرکت سے لفڑت بالخصوص تالیف بذل کے .....
۲۰۱	۱۹۷ بندہ کا سفر مظفر نگر اور آموں کا قصہ .....
۲۰۳	۱۸۰ پچاجان کا یکشانہ قیام کا ندھلہ میں معمول .....
۲۰۴	۱۸۱ لڑائی کے بعد انتہاء تعلقات کا زور .....
۲۰۵	۱۸۲ دوسری حادثہ والدہ مرحومہ کا انتقال .....
۲۰۶	۱۸۳ پہلی اہلیہ کا انتقال اور بندہ کے نکاح ثانی کی تحریک .....
۲۰۹	۱۸۴ عزیز طلحہ کے بڑے بھائی کے انتقال پر پچاجان کے علمی مراسلم .....
۲۱۱	۱۸۵ چوتھا حادثہ میرے پچا کا انتقال .....
۲۱۱	۱۸۶ حادثہ بڑی لڑکی کا انتقال .....
۲۱۱	۱۸۷ حادثہ انتقال دوسری لڑکی شاکرہ .....
۲۱۳	۱۸۸ حادثہ انتقال عزیز یوسف مرحوم .....
۲۱۷	۱۹۸ اکابر میں پہلے حادثہ انتقال حضرت گنگوہی .....
۲۱۷	۱۹۰ دوسری اسanhجہ ارتھا می بڑے حضرت رائے پوری .....
۲۱۸	۱۹۱ مولانا ثابت علی صاحب کا انتقال .....
۲۱۸	۱۹۲ مولانا عبدالطیف کی صدر مردی .....
۲۱۹	۱۹۳ مولانا ثابت علی صاحب کی نگرانی امتحان .....
۲۲۰	۱۹۳ تیسرا حادثہ انتقال حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ .....
۲۲۲	۱۹۵ عجب نقش قدرت نمودار تیرا .....
۲۲۳	۱۹۶ چوتھا حادثہ انتقال حضرت کا وصال .....
۲۲۳	۱۹۷ پانچواں حادثہ انتقال حضرت تھانوی .....
۲۲۴	۱۹۸ چھٹا حادثہ انتقال حضرت میرٹھی .....
۲۲۵	۱۹۹ فرشتی رحمت علی کے انتقال میں بندہ کی شرکت .....

۲۰۰	آٹھویں حادثہ انتقال حضرت مدینی قدس سرہ اور حضرت .....
۲۰۱	مقدمہ لامع و کوکب واوجز کی تمہید لقلم حضرت مدینی .....
۲۰۲	نوال حادثہ انتقال حضرت رائپوری مع تفصیل شدید بیماری .....
۲۰۳	حضرت کی وصیت خواہش دفن کے بارے میں .....
۲۰۴	عالم بزرخ میں بعد نہیں .....
۲۰۵	فصل ثانی ..... تقریبات اور شادیاں .....
۲۰۶	نکاح کی مروجہ رسم کی مذمت .....
۲۰۷	بندہ کا پہلا نکاح .....
۲۰۸	آپ بیتی کے چند واقعات اس جگہ لکھوانے ہیں .....
۲۰۹	ہمشیرہ مرحومہ کی شادی .....
۲۱۰	عزیزان مولوی یوسف مولوی انعام کی شادی .....
۲۱۱	نکاح والدہ سلمان .....
۲۱۲	تیسرا چوتھی بچپن کا نکاح .....
۲۱۳	مولوی یوسف کا عقد ثانی اور حکیم الیاس کا نکاح .....
۲۱۴	عزیز ہارون طلحہ و عاقل کا نکاح .....
۲۱۵	عزیز سلمان کا نکاح .....
۲۱۶	عزیزان شاہد وزیر کا نکاح .....
۲۱۷	زیور ضرور دیا جائے، کپڑوں کی مخالفت .....
۲۱۸	شادی کی دعوت سے نفرت .....
۲۲۵	آٹھویں حادثہ انتقال حضرت مدینی قدس سرہ اور حضرت .....
۲۲۶	مقدمہ لامع و کوکب واوجز کی تمہید لقلم حضرت مدینی .....
۲۲۸	نوال حادثہ انتقال حضرت رائپوری مع تفصیل شدید بیماری .....
۲۳۳	حضرت کی وصیت خواہش دفن کے بارے میں .....
۲۳۷	عالم بزرخ میں بعد نہیں .....
۲۳۹	فصل ثانی ..... تقریبات اور شادیاں .....
۲۴۰	نکاح کی مروجہ رسم کی مذمت .....
۲۴۰	بندہ کا پہلا نکاح .....
۲۴۰	آپ بیتی کے چند واقعات اس جگہ لکھوانے ہیں .....
۲۴۲	ہمشیرہ مرحومہ کی شادی .....
۲۴۵	عزیزان مولوی یوسف مولوی انعام کی شادی .....
۲۴۹	نکاح والدہ سلمان .....
۲۵۱	تیسرا چوتھی بچپن کا نکاح .....
۲۵۵	مولوی یوسف کا عقد ثانی اور حکیم الیاس کا نکاح .....
۲۵۸	عزیز ہارون طلحہ و عاقل کا نکاح .....
۲۵۹	عزیز سلمان کا نکاح .....
۲۶۰	عزیزان شاہد وزیر کا نکاح .....
۲۶۲	زیور ضرور دیا جائے، کپڑوں کی مخالفت .....
۲۶۳	شادی کی دعوت سے نفرت .....

## ”آپ بیتی نمبر ۳“ یا ”یادِ ایام نمبر ۳“

### باب پنجم

۲۱۹	پہلا دور قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ .....
۲۲۰	اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کی بغیر نہیں رہتا .....
۲۲۱	دوسرا دور مرشدی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ .....
۲۲۲	چھ ماہ تک مدرسہ قدیم سے باہر نہ رکنا .....
۲۲۷	پہلا دور قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ .....
۲۲۲	اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کی بغیر نہیں رہتا .....
۲۲۳	دوسرا دور مرشدی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ .....
۲۲۳	چھ ماہ تک مدرسہ قدیم سے باہر نہ رکنا .....

۲۷۳	..... ۲۲۳ بندہ کا نمائش میں جانے سے انکار.....
۲۷۵	..... ۲۲۴ حضرت کا ارشاد "ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا"
۲۸۰	..... ۲۲۵ تیسرا دور شیخ الہند قدس سرہ .....
۲۸۱	..... ۲۲۶ حضرت شیخ الہند کی مالٹا سے واپسی .....
۲۸۲	..... ۲۲۷ ایک ہفتہ مظاہر علوم میں .....
۲۸۲	..... ۲۲۸ حضرت شیخ الہند اور میرے حضرت کے درمیان بے تکلفی .....
۲۸۵	..... ۲۲۹ چوتھا دور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری .....
۲۸۵	..... ۲۳۰ رائے پور کا رمضان .....
۲۹۳	..... ۲۳۱ رائے پور کی مسجد باغ کا افتتاح .....
۲۹۹	..... ۲۳۲ پانچواں دور حکیم الامت حضرت تھانوی .....
۳۱۱	..... ۲۳۳ والد صاحب کا بہشتی زیور کو طبع کرانا .....
۳۱۲	..... ۲۳۴ چھٹا دور شیخ الاسلام حضرت مدینی .....
۳۳۲	..... ۲۳۵ سید احمد غفرلہ ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۷۵ھ .....
۳۳۵	..... ۲۳۶ حضرت شاہ تیسین صاحب نگینوی رحمۃ اللہ علیہ .....
۳۳۱	..... ۲۳۷ میرے والد ماجد صاحب نور اللہ مرقدہ .....
۳۳۶	..... ۲۳۸ والد ماجد اور میرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف .....
۳۳۹	..... ۲۳۹ میرے والد صاحب کی تعلیم بدرسہ حسین بخش .....
۳۵۰	..... ۲۴۰ والد صاحب کا طرز تعلیم .....
۳۵۶	..... ۲۴۱ میرے چچا حضرت اقدم مولانا محمد الیاس صاحب قدس سرہ .....
۳۵۸	..... ۲۴۲ مظاہر علوم کی تدریس .....
۳۵۸	..... ۲۴۳ نظام الدین منتقل ہونا اور بیماری کا شدید حملہ .....
۳۵۹	..... ۲۴۴ ما جوں کا اثر اور اس کے چند واقعات .....
۳۶۸	..... ۲۴۵ حضرت میر بخشی و حضرت رائے پوری سے میری اور چچا کی تبلیغی .....
۳۷۱	..... ۲۴۶ ورنہ با تو ما جر اہاد اشتبیم .....
۳۷۲	..... ۲۴۷ چچا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشنی .....
۳۷۳	..... ۲۴۸ تحدیث بالعتمۃ کے سلسلہ میں چند واقعات .....

۳۷۳	..... پچاز کریا مرحوم کی شادی اور اس میں بندہ کی شرکت ..... ۲۹۳
۳۷۵	..... سرہند شریف کے مزار پر حاضری ..... ۲۵۰
۳۷۶	..... قرض پلیٹ فارم مکٹ خریدنا ..... ۲۵۱
۳۷۸	..... مکتوب نمبرا ..... ۲۵۲
۳۸۱	..... مکتوب نمبر ۲ ..... ۲۵۳
۳۸۲	..... مکتوب نمبر ۳ ..... ۲۵۴
۳۸۲	..... مکتوب نمبر ۴ ..... ۲۵۵
۳۸۵	..... مکتوب نمبر ۵ ..... ۲۵۶
۳۸۶	..... مکتوب نمبر ۶ ..... ۲۵۷
۳۸۷	..... مکتوب نمبر ۷ ..... ۲۵۸
۳۸۷	..... مکتوب نمبر ۸ ..... ۲۵۹
۳۸۹	..... مکتوب نمبر ۹ ..... ۲۶۰
۳۹۰	..... مکتوب نمبر ۱۰ ..... ۲۶۱
۳۹۱	..... مکتوب نمبر ۱۱ ..... ۲۶۲

### باب ششم

۳۹۳	..... جملہ جوں کی تفصیل ..... ۲۶۳
۳۹۳	..... حضرت کی ہمراکابی میں بندہ کا سب سے ..... ۲۶۴
۳۹۳	..... پہلا سفر حج ۳۸ھ اور ساتھ جانے والے رفقاء ..... ۲۶۵
۳۹۳	..... حضرت اقدس قدس سرہ کارفقاء کی وجہ سے جہاز چھوڑ دینا ..... ۲۶۶
۳۹۳	..... بمبئی میں دیوبندیوں کے داخلوں کی ممانعت ..... ۲۶۷
۳۹۳	..... سفر حج کے دوران کھانے کا انتظام ..... ۲۶۸
۳۹۵	..... جہاز میں اور چدہ میں اتر کراور مکہ مکرمہ میں تراویح ..... ۲۶۹
۳۹۷	..... حر میں شریفین میں تراویح کے واقعات ..... ۲۷۰
۳۹۸	..... ایک عربی کا حضرت کی دعوت کرنا اور اس کا دلچسپ قصہ ..... ۲۷۱
۳۹۹	..... ہم لوگوں کی مدینہ پاک حاضری اور سفری داستان ..... ۲۷۲
۴۰۳	..... مدینہ پاک میں بجائے تین دن کے ایک ماہ قیام کرنا ..... ۲۷۳

۳۰۴	..... بندہ کے پاس مولانا شیر محمد صاحب کا امامت رکھوانا ..... ۲۷۴
۳۰۵	..... مولانا سید احمد صاحب کی فیاضیاں ..... ۲۷۵
۳۰۶	..... حضرت نور اللہ مرقدہ کامدrese سے تعلق ..... ۲۷۶
۳۰۷	..... دوسرا اور تیسرا حج ..... ۲۷۷
۳۰۸	..... بندہ کا حضرت قدس سرہ کی ہمدرکابی میں دوسرا حج ..... ۲۷۸
۳۰۹	..... حضرت کا سفر حیدر آباد اور ایک ہفتہ قیام ..... ۲۷۹
۳۱۰	..... اگلے دن اس ناکارہ کی روائی حیدر آباد اور ریل کے ایشتوں ..... ۲۸۰
۳۱۱	..... سفر خرچ کی میزان ..... ۲۸۱
۳۱۲	..... حضرت قدس سرہ کی توجہ اور شفقت کا ایک قصہ ..... ۲۸۲
۳۱۳	..... مدینہ پاک سے واپسی اور اوتوں کالا ری سے بد کنا ..... ۲۸۳
۳۱۴	..... بندہ کی قافلہ امارت ..... ۲۸۴
۳۱۵	..... حضرت رائے پوری کا ہدیہ عمرہ بندہ کے لیے ..... ۲۸۵
۳۱۶	..... عرفات کے موقع پر آندھی، طوفانی بارش اور حضرت ..... ۲۸۶
۳۱۷	..... رمضان ۹۰ھ میں مشرقی پاکستان کے طوقانوں سے حالات ..... ۲۸۷
۳۱۸	..... بندہ کا چوتھا حج اور تیسرا سفر جاز ..... ۲۸۸
۳۱۹	..... منی میں روانگی ..... ۲۸۹
۳۲۰	..... علماء عرب سے ملاقا تیں ..... ۲۹۰
۳۲۱	..... مدرسہ شرعیہ میں قیام ..... ۲۹۱
۳۲۲	..... بندہ کا طائف میں تبلیغی سفر ..... ۲۹۲
۳۲۳	..... جدہ میں تبلیغی اجتماع ..... ۲۹۳
۳۲۴	..... واپسی از جدہ برائے پاکستان اور وہاں کے اسفار کے مختصر ..... ۲۹۴
۳۲۵	..... اختتام سفر ..... ۲۹۵
۳۲۶	..... یہ میرا پاٹچوال حج ہے ..... ۲۹۶
۳۲۷	..... احباب کا اصرار سفر حج کا ..... ۲۹۷
۳۲۸	..... بسمیلی میں مولانا واصی اللہ صاحب کے مستقر پران کی ..... ۲۹۸
۳۲۹	..... روانگی مدینہ طیبہ اور عبد العزیز ساعاتی کے مکان پر قیام ..... ۲۹۹

۳۰۰	واپسی از جاز پاک برای پاکستان	۲۳۳
۳۰۱	واپسی در سہاپور	۲۳۴
۳۰۲	جاز پاک میں سیالاب کی تفصیلات	۲۳۶
۳۰۳	واپسی مولانا انعام الحسن صاحب از جاز	۲۳۶
۳۰۴	بندہ کی روانگی جاز پاک ۸۹ ہجومیت علی میاں وغیرہ	۲۳۷
۳۰۵	تبليغی سفر	۲۳۹
۳۰۶	شہداء خیبر کی زیارت اور وہاں دل بستگی و کشش	۲۳۹
۳۰۷	سفر طائف	۲۴۰
۳۰۸	مکہ مکرہ میں حاضری	۲۴۱
۳۹۰	سفر پیوں	۲۴۱
۳۱۰	جده کے اجتماع میں شرکت	۲۴۲
۳۱۱	حاضری مکہ مکرہ ہجومیت علی میاں	۲۴۳
۳۱۲	تراتح مکہ مکرہ	۲۴۳
۳۱۳	واپسی مدینہ طیبہ از مکہ مکرہ در رمضان	۲۴۴
۳۱۴	روانگی از مدینہ طیبہ برائے ہندوپاک	۲۴۴
۳۱۵	واپسی از دہلی	۲۴۶
۳۱۶	اس سفر کے پیشرات میں سے ایک بشارت اور جزء جنت الوداع	۲۴۷

## آپ بیتی نمبر ۵ یا یادِ ایام نمبر ۲

### باب ہفتہم

۳۱۷	تقسیم ہند	۲۵۰
۳۱۸	ما ثور دعاوں کی اہمیت	۲۵۱
۳۱۹	تقسیم کا اثر دین اور علم پر	۲۵۱
۳۲۰	دورانِ قیام نظام الدین کے تقسیم کے موقع کے	۲۵۲
۳۲۱	حضرت مدینی اور ائمہ پوری کے مشورہ سے ہندوستان سے	۲۶۵

## باب هشتم

۳۲۸	.....	۳۲۲ متفرقات
۳۲۸	.....	۳۲۳ اکابر مدارس کا اہتمام اور مال وقف کی اہمیت
۳۲۹	.....	۳۲۴ مظاہر علوم کی ماہانہ تقسیم کے نقشہ کی ترتیب
۳۷۰	.....	۳۲۵ قاری سعید مرحوم سے تعلق
۳۷۳	.....	۳۲۶ مولانا عبدالطیف سے تعلق اور ان کے چند واقعات
۳۷۵	.....	۳۲۷ مدرسہ کی رخصت کا قانون
۳۷۶	.....	۳۲۸ مدرسہ کی حق تلفی کا خمیازہ
۳۷۷	.....	۳۲۹ مدینہ منورہ میں ایک ڈاکو کا مجھ سے تعلق
۳۷۷	.....	۳۳۰ ماموں عثمان مرحوم کا ایک دلچسپ واقعہ
۳۸۰	.....	۳۳۱ حافظ یوسف را پوری نور اللہ مرقدہ کا عجیب واقعہ
۳۸۳	.....	۳۳۲ نانا ابا اور ان کے تعویذ
۳۸۵	.....	۳۳۳ ایک بادشاہ اور کیمیا کا ایک عجیب قصہ
۳۸۸	.....	۳۳۴ ایک نابینا اہل حدیث کا قصہ
۳۸۹	.....	۳۳۵ مولوی عبدالجبار اہل حدیث
۳۹۰	.....	۳۳۶ ایک اہل حدیث کا قوم میں ہاتھ نہ چھوڑنا
۳۹۱	.....	۳۳۷ مجھے اہل حدیث سے مخالفت نہیں
۳۹۱	.....	۳۳۸ احکام شرعیہ پر بغیر مصلحت سمجھے عمل کرنا ضروری ہے
۳۹۳	.....	۳۳۹ شب معراج میں حضور کے قلب اطہر میں ایمان و حکمت بھرنا
۳۹۳	.....	۳۴۰ صحابہ کرام کی کرامات کے واقعات
۳۹۵	.....	۳۴۱ حج کے موقع پر دو آدمیوں کی دعائیں
۳۹۵	.....	۳۴۲ ایک آرہ کش کا ایک عجیب واقعہ
۳۹۶	.....	۳۴۳ مولوی نصیر الدین ناظم کتب خانہ تحریکی
۴۰۲	.....	۳۴۴ حضرت سہاپوری کا دب کر مصالحت کی کوشش کرنا
۴۰۸	.....	۳۴۵ ضمام
۴۰۹	.....	۳۴۶ اصلاح متعلقہ تولد ولاداول

۵۰۹	.....	۳۲۷ اصلاح بسلسلہ نکاح ماموں یا میں
۵۱۰	.....	۳۲۸ نقل مکتوب بھائی شیم سلمہ
۵۲۲	.....	۳۲۹ فتویٰ پر بغیر تحقیق و تخطیف کرنا:
۵۲۳	.....	۳۵۰ صرات کے ترک طعام کی ابتداء
۵۲۵	.....	۳۵۱ خط و کتابت از حکیم الامت قدس سرہ برائے دفع ابہام
۵۲۶	.....	۳۵۲ (مکتوب حضرت حکیم الامت قدس سرہ بنام ناکارہ
۵۳۱	.....	۳۵۳ رمضان المبارک حضرت تھانوی و حضرت سہار پوری
۵۳۰	.....	۳۵۴ مسلسلات کی پہلی اجازت
۵۳۱	.....	۳۵۵ حضرت اقدس حکیم الامة کامل مسلسلات کے سلسلہ میں ایک مکتوب
۵۳۲	.....	۳۵۶ مکتوبات زکر یا بنام حضرت سہار پوری بسلسلہ ذکر
۵۳۵	.....	۳۵۷ ایک ضروری تنبیہ
۵۳۶	.....	۳۵۸ ایک اہم مضمون متعلق خلفاء
۵۵۰	.....	۳۵۹ سلوک کی نسبت چار قسمیں
۵۵۱	.....	۳۶۰ اول نسبت انعکاس
۵۵۲	.....	۳۶۱ دوسری نسبت القائی
۵۵۳	.....	۳۶۲ تیسرا نسبت اصلاحی
۵۵۷	.....	۳۶۳ ایک اہم اور ضروری وصیت
۵۵۸	.....	۳۶۴ چوتھی نسبت اتحادی
۵۵۹	.....	۳۶۵ شاہ غلام بھیک کا واقعہ
۵۶۰	.....	۳۶۶ حضرت جبرائیل کا حضور کو دبوچنا
۵۶۳	.....	۳۶۷ تکملہ
۵۶۲	.....	۳۶۸ شیخ اندلسی کا عبرت آموز قصہ
۵۶۷	.....	۳۶۹ اقدمی علی رقبہ کل ولی اور اکابر کے اس نوع کے اقوال کا صحیح مجمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِهِ الْکَرِیمِ ط

یہ کوئی مستقل رسالہ ہے اور نہ کوئی مستقل مضمون جب عزیزی مولوی محمد ثانی سلمہ نے عزیز مولا نا محمد یوسف صاحب نور اللہ مر اقد ہم و رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح شائع کی تو اپنی محبت اور علی میاں کی شفقت کی وجہ سے اس کا باب اول اس ناکارہ کے متعلق تھا، وہ علی میاں سے لکھوا یا، جس پر میں نے ذیل کا خط عزیز محمد ثانی کو لکھا تھا کہ جو باعث لکھنے کی تھیں۔ وہ چھوڑ دیں اور جو نہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں۔ جب رسالہ اسٹرائک طباعت کے واسطے دیا تو مجھے خیال ہوا کہ طلبہ پر تنبیہات کے ساتھ یہ ناکارہ مثال کے طور پر ان تنبیہات کو بھی ذکر کر دے جو اس ناکارہ پر میرے والد صاحب قدس سرہ کی طرف سے ہوئیں تاکہ طلبہ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان ناکارہ خیالات میں جو جمود اور تنگ نظری ہے وہ بڑی تنبیہات کے بعد پیدا ہوئی اور دوسروں کے عیوب کے ساتھ اپنے عیوب بھی ظاہر کر دوں تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے:

میں ہوں کرتا ہوں گلہ اپنا، نہ غیروں کی بات  
وہ یہی آخر کہیں گے اور کیا کہنے کو ہیں

فقط:

ذکر یا

## تلقید بر سوانح یوسفی

صلاح کار کجا و من خراب کجا،  
بین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا  
عزر گرامی قدر و منزلت! عافا کم اللہ و سلم، بعد سلام مسنون تمہاری کتاب سے بہت ہی سرت  
ہوئی، اللہ تعالیٰ اپے فضل و کرم سے دتوں جہاں میں بہترین جزاۓ خیر عطا فرمائے اور اس کے  
منافع دینی و دنیوی سے بھر پور متمتع فرمائے۔ امید سے زیادہ بہتر لکھی اگرچہ اس کے بہت سے  
اجزاء متفرق میں سن چکا تھا لیکن مسلسل سننے میں جو لطف آیا وہ پہلے نہیں آیا تھا، کاش میری آنکھیں  
قابل نظر ہوتیں تو ایک دوشب ہی میں نہ شادیتا۔ مجھے اکابر کی سوانح پڑھنے کا ساری عمر سے شوق  
ہے۔ شروع کرنے کے بعد چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، دن میں تو کبھی فرصت نہیں ملی، عشاء کے بعد  
ضروری مطالعہ سے فراغت کے بعد شروع کیا کرتا تھا اور اکثر صحیح بھی کردی اس لیے کہ مجھے شباب  
کے زمانہ میں تمام رات جا گنا بہت آسان تھا۔ حضرت مدینی نور اللہ مرقدہ اکثر اخیر شب میں  
تشریف لاتے، تین چار بجے پہنچتے اور تشریف آوری کے تارکا بہت اہتمام تھا اور چونکہ ایک عیوب  
مجھے میں رہ رہا ہے کہ سوکر انھنا میرے بس کا نہیں تھا، اس لیے عشاء کے بعد سے اپنا کام شروع  
کر دیتا تھا اور دو تین بجے پاپیا دہ ریل پر پہنچ جاتا تھا کہ میں معدود ریل سے پہلے کبھی ریل پر سواری  
میں نہیں گیا، اسی بناء پر اکابر کی سوانح ہمیشہ ایک شب یا دوشب میں پوری کی، حضرت گنگوہی،  
حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت مدینی اور حضرت سید صاحب، پچا  
جان وغیرہم نور اللہ مرافقہ ہم کی سوانح اور مکاتیب اسی ذوق و شوق سے پورے کیے لیکن اب  
آنکھوں کی معدود ریل سے کم تھا جتنا بنا دیا اور دوسروں کے لیے

وصل ہو یا فراق ہو غالب جا گنا ساری رات مشکل ہے

کی بناء پر مہماںوں سے فراغ کے بعد ایک دو گھنٹہ ہوتا رہا۔ اس لیے کئی شب لگ گئیں۔ ایک  
باپ کے سوا جو تم نے علی میاں سے لکھوا یا ساری کتاب میں بہت لطف آیا۔ البتہ یہ باپ تم نے  
گلاپ کے حوض میں ایک بوتل پیشتاب کی ڈال کر یا مہذب الفاظ میں نہایت نشیش محمل میں پرانے  
ٹاثٹ کا پیوند لگا کر کتاب کو بد نہما کر دیا۔ اس کے باوجود اس باپ میں بہت سی خامیاں رہ گئیں۔ اگر  
میں اس کا مسودہ پہلے سن لیتا تو بہت سی اصلاحیں کرتا تا۔ جو با تین نہ لکھنے کی تھیں ان میں اطمیناب  
ممل کر دیا اور جو لکھنے کی تھیں ان میں ایجاد مخل کر دیا۔

”دو (۲) نازک امتحان و توفیق الہی“ کے لکھنے میں مجھے کوئی بار نہیں، ہمچنہ اس وجہ سے کہ شاید کسی

اللہ کے بندے کو اس نوع کی توفیق نصیب ہو جائے لیکن علی میاں نے صرف دو لکھے اور وہ بھی بہت محمل (۱) اور اس سے زائد کی تفہی بھی فرمادی۔

(۱) پہلے خیال تھا کہ میرا ی خط سوانح یوسفی کے ساتھ شائع ہوگا، اس لیے میں نے ان دونوں امتحانات کو محمل ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اب جب کہ یہ مستقل شائع ہو رہا ہے اس لیے خیال ہوا کہ اس کو مفصل لکھ دوں، میں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھوایا تھا۔ لیکن لکھوانے کے بعد میرے کاتب عزیز مولوی شاہد سلمہ نے بتایا کہ یہ تو آپ بیتی میں آچکا ہے برا اقتضی ہوا کہ لکھوانے میں برا وقت خرچ ہوا تھا۔ یہ واقعات تفصیل سے آپ بیتی جلد دوم میں بعنوان علی گڑھ کی ملازمت کی تجویز میں لکھا جا چکا ہے۔

دوسراؤ واقعہ جس کو علی میاں نے مختصر لکھا ہے میں تو اس کو بھی مفصل لکھوارہ تھا کیونکہ مجھ کو ضعف و پیری اور میرے حافظہ کی وجہ سے یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا واقعہ کہاں لکھا گیا، لیکن عزیز موصوف نے بتایا کہ یہ واقعہ بھی آپ بیتی میں گزر چکا ہے، مگر اس وقت متعدد احباب کے تلاش کرنے کے نہیں ملا، اس لیے اس واقعہ کو عزیز مولوی یوسف مرحوم کی سوانح سے نقل کرنا بہا ہوں گے ایسا نہ ہو کہ نقل کراؤں اور پھر وہ کہیں مطبوع عمل جائے۔ علی میاں کہتے ہیں:

اس (علی گڑھ کے واقعہ) سے بڑا امتحان چند دنوں کے بعد پیش آیا۔

کرتال میں نواب عظمت علی خاں مظفر نگر کے مشہور وقف کی جانب سے ایک بڑا تبلیغی وارالعلوم قائم کیا گیا۔ جس کی خصوصی غرض و نعایت یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ اور اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے نیز جدید شعبہات اور مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے جو اس وقت اپنی تبلیغی کوششوں میں بہت سرگرم تھے، ایسے فضلاء تیار کیے جائیں جو عربی و انگریزی دونوں سے واقف ہوں اور علوم قدیم و جدید دونوں کے جامع ہوں۔ اس کے لیے یہ تجویز ہوئی کہ بڑے وظائف و دیگر مستند عربی مدارس کے فضلاء کو انگریزی اور کالجوس و یونیورسٹیوں کے فارغین کو عربی پڑھائی جائے۔ مولانا ناصر حجم بخش صاحب مرحوم جوریا است بہاولپور کے صدر گوئی اور ایجمنٹ تھے اس تحریک کے ہڈے سرپرستوں میں سے تھے۔ ان کا تعلق گنگوہ، رائے پور اور سہاپور سے خادمانہ اور مخاصانہ تھا اور وہ مظاہر علوم کے بھی سرپرستوں میں سے تھے۔ انہوں نے ابتدائی مدرس حدیث کے لیے شیخ کا انتخاب کیا اور اس کے لیے سہاپور کا مستقل سفر کیا، ضابطہ کی تین سو ماہوں اور تجوہ کے علاوہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ سہوں دینے کا وعدہ فرمایا۔ مثلاً رمضان کی چھٹی (اور) حضرت کی خدمت میں رہنے کے لیے ہر سال تین ماہ کی چھٹی بلاوضع تجوہ، اجتساس کی سہولت، ان سب کے ساتھ ساتھ ان کی صرف ایک شرط یہ تھی کہ حضرت پر یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ مدرسے کے مدرس کو کسی اور جگہ کے لیے آمادہ کریں، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دو سال کی چھٹی لے لو اور یہ کہو کہ قرض کا بار زیادہ ہے، شادی بھی ہو جکی ہے اور بچے بھی ہیں، مدرسہ کی تجوہ میں گزارنیں ہوتا، اس وقت شیخ کی تجوہ نیک رونپے تک پہنچنی تھی، مولانا ناصر حجم بخش صاحب کے دیرینہ تعلقات ان کی بزرگانہ، مخدومانہ حیثیت ان کا پر خلوص اصرار، قرض کا بار، تجوہ کی قلت اور ترقی کے امکانات کا فقدان یہ سب وہ تھا تھے جو اس پیش کش کو قبول کرنے کی ترغیب بھی دیتے تھے اور ان کے لیے شرعی اخلاقی علمی دلائل بھی پیش کرتے تھے۔ یہ ایک نوجوان عالم کے لیے جو ذہانت کے جوہر سے آرستہ اور حدیث و ادب میں شہرت یافتہ تھا ایک بڑی آزمائش تھی۔ شیخ اس وقت ہفتہ ایک دورا ہے پر کھڑے تھے، اگر وہ ایشات میں قیMLE کرتے تو ان کی زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا اور آج شاید ان سطور

حالانکہ اس نوع کے وقائع بہت کثرت سے پیش آئے اور مجھے تعجب ہے کہ اس قسم کے واقعات تو تذکروں میں علی میاں کے سامنے متعدد بار آئے ہوں گے۔ ان میں کاسب سے پہلا واقعہ جو میری عمر اور حالات کے اعتبار سے زیادہ اہم تھا، وہ تھا جو میرے والد صاحب نوراللہ مرقدہ کے انتقال سے تیسرے دن پیش آگیا۔ بڑے حضرت اقدس رائے پوری شاہ عبدالرحیم صاحب نوراللہ مرقدہ کو اس سیہ کار کے ساتھ جو محبت تھی، وہ اسی کا عکس اور آئینہ تھا جس کو حضرت مولانا عبد القادر صاحب نوراللہ مرقدہ نے اپنے شیخ کے اتباع میں پورا فرمایا وہ سب تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ درحقیقت حضرت رائے پوری ثانی کا اپنے شیخ کا کمال اتباع تھا۔ میرے والد صاحب قدس سرہ سے بڑے حضرت رائے پوری کو اس سے بھی زیادہ تعلق تھا۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میری اہتماء قسمی میں وہ دلداریاں اور شفقتیں فرمائی ہیں کہ ان کی تفاصیل تمہاری پوری سوانح یوسفی بن سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال سے دوسرے ہی دن میرے بچپن اور والد صاحب کے باقر قرض کی بناء پر حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ امور بالا بہت قابل فکر ہیں تم ابھی بچے ہو، تجارت سے واقفیت نہیں، مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی کو تجارت میں بہت مہارت ہے اور حضرت نے صحیح فرمایا کہ مولانا مرحوم کو اس لائن میں بہت مہارت تھی اس لیے تم اپنا کتب خانہ لے کر میرٹھ منتقل ہو جاؤ اور مولانا عاشق الہی صاحب کی زرینگرانی تجارت کرو تو انشاء اللہ قرض بھی جلدی ادا ہو جائے گا اور متعلقین کی کفالت کا انتظام بھی سہولت سے ہو جائے گا۔ حضرت قدس سرہ نے بہت ہی شفقت اور طویل تقریر سے یہ مضمون

کے لکھنے کی توبت نہ آتی کہ غرض ہوا وہ ایکیم فیل ہو چکی، مدرسہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اس کے لاکن مدرسین کچھ تو پیوند خاک ہو گئے اور کچھ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، نظریہ اساب طاہر شیخ کا معاملہ اس سے کچھ مختلف نہ ہوتا، لیکن توفیق الہی نے دشمنی فرمائی اور جس کو شیخ الحدیث کے لفظ سے مقبول خاص و عام ہونا تھا اور جس سے خدا کو حدیث کی خدمت طلبہ علوم دینیہ کی تربیت اور ایک عالمگیر دینی تحریک (تبیغ) کی سر پرستی اور مشائخ عصر کی جانشینی کا اہم کام یہا تھا اس کو اس معاملہ میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی گئی۔ شیخ کے الفاظ میں نہیں، فرماتے ہیں:

”اس ناکارہ نے مولانا مرحوم سے کہا کہ آپ کے احسانات بھی پر بہت زیادہ ہیں ان احسانات کے مقابلے میں مجھے آپ سے معدورت کرنی نہیں۔ یہ نامناسب ہے لیکن ان سب کے باوجود آپ تو مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سے اجازت لوں لیکن آپ کے براہ راست کہنے پر اگر حضرت مجھے حکم بھی فرمائیں تو میں عرض کروں گا کہ اس حکم کی قیمت سے معدور ہوں۔“ عزمیت کا یہ جواب سن کر مولانا رحیم بخش صاحب جو بڑے جوہر شناس اور جہاں دیدہ تھے کبیدہ خاطر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے جواب کی بڑی قدر کی اور فرمایا کہ میں تمہارا معتقد تو پہلے سے تھا لیکن اس جواب سے میں اور زیادہ معتقد ہو گیا۔

ارشاد فرمایا جس کو میں نے مختصر فصل کیا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت میرے پاؤں کے بیچ کی زمین نکل گئی۔ میں نے آبدیدہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت اگر یہ حکم ہے تو سراں گھوں پر اور اور اگر یہ مشورہ ہے تو میری تمنا تو یہ ہے کہ حضرت سہارنپوری تو انشاء اللہ تشریف لے ہی آئیں گے (حضرت سہارنپوری قدس سرہ اس وقت نہیں تال جبل میں بد تفییش محبوس تھے جس کا قصہ تذکرہ انخلیل میں مفصل موجود ہے) میری تمنا ہے کہ حضرت سہارنپوری کی زندگی میں کسی دوسری جگہ نہ جاؤں۔ حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ نے میرا جواب سن کر فرمایا کہ بس! اور انہتائی مسرت اور انہتائی اخلاص کے ساتھ مجھے اس قدر دعا کیں دیں کہ آج بھی وہ دعا کیں میرے لیے انہتائی موجب لذت ہیں اور ان کی برکات ہر وقت محسوس کرتا ہوں اور ارشاد فرمایا کہ میری بھی یہی خواہش تھی۔ مگر مولانا عاشق الہی صاحب نے بہت اصرار کیا تھا کہ زکر یا میرے کہنے کو مانتا نہیں آپ اس کو حکم فرمائیں کہ وہ میرٹھ فتنقل ہو جائے اور جو وہ مولانا نے بتلائی تھیں وہ ظاہر تھیں، اس لیے میں نے مشورہ دیا تھا۔ یہ جواب سن کر اللہ مجھے معاف کرے مجھے مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اگرچہ مولانا میرٹھ نے ازراہ شفقت فرمایا تھا۔ مگر میری حماقت کہ تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے مولانا کی شفقت کا بدل بہت ہی گرانی کے ساتھ دیا۔ اگر اس وقت کوئی لفظ گستاخی کا مولانا مرحوم کی شان میں نکل گیا تو اللہ ہی معاف فرمائے اور مولانا کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔

دوسرा (۱) تیسا بتلاء وہی ہے جس کو علی میاں نے تحریر فرمایا، گو بہت مختصر لکھا، بہر حال صحیح لکھا۔ چوتھا بتلاء، وہ اس ناکارہ کے سفر حج سے واپسی کے تین چار سال بعد جن کی تاریخیں تو صحیح مل ہی جائیں گی کہ وہ خطوط میرے کباڑخانہ میں کسی بستے کے اندر ضرور موجود ہوں گے، یہ پیش آیا کہ سفر حج سے واپسی ۱۹۳۶ء سے، دورہ شریف کے سابق مستقل میرے یہاں ہونے لگے اور چونکہ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں ابواؤد کا سبق مستقل اور مسلسل رہا اور پھر ”بڈل“ میں اس ناکارہ کا اشتغال بھی مسلسل اسی کے ساتھ رہا اس لیے یہ کتاب تو ۳۷۷ھ جب تک حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سابق ناظم کا انتقال نہیں ہوا، مسلسل اور مستقل میرے ہی پاس رہی، اس کے علاوہ دوسری کتابیں نسائی شریف، بخاری شریف جلد اول وغیرہ بھی ہوتی رہیں، لیکن ابواؤد شریف کو اہل مدرسہ نے ہمیشہ میری ہی سمجھا اور میں نے بھی اس کو ہمیشہ اپنی ہی سمجھا اس لیے جو طلبہ ابواؤد پڑھ کر جاتے تھے وہ اپنی محبت سے اس کے ذکر، تذکرہ اور جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے اطراء المادح کے ساتھ کرتے رہا کرتے تھے۔ ان ہی مادھیں میں سے میرے

(۱) یہ دوسراؤ اقتدار علی گڑھ کا اور تیسرا اکنال کا ہے۔

مخلص دوست مولوی عادل قدوسی گنگوہی بھی تھے، جنہوں نے ۲۲ھ میں دورہ سے فراغت حاصل کی، یہ تو مجھے یاد نہیں کہ حدیث کی کیا کتاب مجھ سے پڑھی، لیکن یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ دائرۃ المعارف حیدر آباد میں تصحیح کے کام پر ملازم ہو گئے اور یہاں کے مطبع کے اکابر میں وہ اوپری نگاہ سے دیکھے جانے لگے، انہوں نے نہ معلوم اہل مطبع کو کیا جھوٹی بچی بتائیں سنائی کہ دو تین سال بعد ان کا ایک بہت ہی طویل خط یاد پڑتا ہے کہ سات آٹھ ورق کا بہت ہی دل بھانے والا پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ دائرة میں تیہتی کے اسماء رجال کی تالیف کا مشورہ طے ہوا اور یہاں مجلس نے دو آدمیوں کا انتخاب کیا ہے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اور تیرا اور ان دو میں بھی تجھے ترجیح ہے، اس لیے کہ کام بہت لمبا ہے اور حضرت شاہ صاحب کی مشیخت وضعف و پیری اور تیرے شباب و جوانی کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے زمانہ میں پوری نہ ہو سکے۔ تخلواہ آٹھ سورو پے اور ایک موڑ تیرے استعمال کے لیے سرکاری، جس کا پڑول اور ڈرائیور کی تخلواہ وغیرہ جملہ چیزیں سرکاری ہوں گی تاکہ تو جہاں جس وقت جانا چاہے جاسکے، مکان بھی سرکاری ہو گا۔ ان میں تو کوئی چیز اللہ کے احسان سے دل بھانے والی نہیں تھی، جس کو میں نے بھانا لکھا وہ یہ تھی دائرة کی ملازمت صرف چار گھنٹے ہو گی، باقی میں تو مختار ہو گا کہ جو چاہے کرے، دائرة کے کتب خانے پر تو تیرا اختیار ہو گا ہی کہ جس وقت چاہے تو آئے اور جس وقت چاہے لکھے، کتب خانہ آصفیہ کے اوپر تجھے یہ اختیار ہو گا کہ جتنی دریچا ہے بیٹھ کر کتابیں دیکھے اور جو چاہے کتابیں منگالے اور تو چونکہ ”اوجز المالک“ لکھ رہا ہے اس لیے اس کی تالیف میں جتنی آسانی یہاں ہو سکتی ہے وہ مظاہر علوم میں نہیں اور دائرة تجھے سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ بھی علم حدیث کا ہی ہے اور بہت ہی اوجز کی تالیف کی سہوتیں لکھی تھیں۔ جس کے جواب میں اس ناکارہ نے صرف ایک کارڈ لکھا تھا کہ جس میں نہ القاب نہ آداب:

”مجھ کو جینا ہی نہیں بندہ احسان ہو کر“

فقط: رکریا

صرف یہ مصرع لکھا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ عزیز کا خط آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے بہت ہی شفقت و محبت سے لکھا تھا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر۔ ”اوجز“ کی تالیف جتنی بہتر یہاں ہو سکتی ہے سہار پیور میں نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت تو مجھ پر ملازمت سے وحشت کا ایسا اثر مسلط تھا کہ نظر ثانی کی بالکل گنجائش نہ تھی۔ مگر بعد میں کبھی کبھی اس ابتلاء کے متعلق اب تک یہ خیال آتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں میں نے اچھا کیا یا برآ کیا۔ اس زمانہ میں ملازمت سے طبعیت کو وحشت ہی بہت تھی، لیکن اوجز کی تالیف میں بہت سی سہوتیں اور موارد متعدد تھیں۔

اس کے بعد پانچواں ابتداء تقسیم ہند سے دو تین سال پہلے پیش آیا۔ وہ یہ کہ اسی ابو داؤد شریف کی برکت سے بنگالی طلبہ (جن کی تقسیم ہند سے پہلے تک بہت ہی کثرت سے آمد تھی، ان میں سے اب بھی مشرقی پاکستان کے مدارس میں صدر مدرس یا شیخ الحدیث ہیں) نے نہ معلوم کیا کیا کہا اور کس کس سے کہا۔ وہاں سے چانگام یاڑھا کہ کے مدرسہ عالیہ کے نشیطین کا ایک بہت لمبا خط آیا۔ نام میں اس وقت تردود ہے جس میں وہاں کی مشینت حدیث کے لیے اور صرف ترمذی، بخاری شریف پڑھانے کے لیے بارہ سوروپے تجوہ پر اس ناکارہ کو بہت ہی اصرار سے بلا یا تھا اور ایک تاریخی اس مضمون کا کہ خط کے جواب کا شدت سے انتظار ہے، مگر اس وقت تک خط نہیں پہنچا تھا اور دو روز بعد دوسری تاریخی خط کے جواب کا سخت انتظار ہے، ملا۔ اس وقت خط پہنچ چکا تھا۔ تاریخی جواب تو میں نے صرف یہ لکھ کر کہ ”معدوری ہے“۔ مفصل خط میں ان کو میں نے لکھا کہ ”جن دوستوں نے آپ سے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسنطن سے غلط روایت پہنچائی ہیں، یہ ناکارہ نہ اس کا اہل ہے اور نہ متحمل“۔

اس کے بعد البیت اللہ کا احسان ہے کہ پھر کوئی واقعہ اس قسم کا پیش نہیں آیا اور بجز حیدر آباد والے واقعہ کے اور سب پر اللہ کا بہت ہی شکر ادا کیا کہ اللہ نے بہت ہی کرم و احسان فرمایا۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں پھنس جاتا تو صورۃ جو ایک ڈھونگ بنارکھا ہے یہ بھی نہ رہتا۔

البیت حیدر آباد والے واقعہ میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ شاید ”لامع“، ”او جز“، ”خوب اچھی لکھی جاتی اور چونکہ مدرسہ کا قصہ بھی نہ ہوتا اس لیے فراغت بھی خوب ملتی اور جلدی لکھی جاتی۔ لیکن *الْخَيْرُ فِيمَا وَقَعَ*۔

یہ چند واقعات اس زمانے کے میں جب عرف اشعر کا زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ حقیقی شعور تواب تک بھی نصیب نہیں ہوا لیکن جوز مانہ عرفی بے شعوری کا تھا اور اگر یوں کہوں کہ ابتدائی ابتداء کا تھا تو بے محل نہ ہوگا۔ مرز اثریا جاہ مرحوم کا ذکر تو میرے پیچا جان نور اللہ مرقدہ اور عزیز مولوی یوسف مرحوم کی سوانح میں کثرت سے گزر چکا، ان کو میرے دادا صاحب نور اللہ مرقدہ سے بہت ہی عقیدت اور محبت تھی انہوں نے میرے دادا نور اللہ مرقدہ سے باصرار یہ خواہش اور تقاضا کیا کہ میں اپنی عمر کی قیصر جہاں بیگم کا نکاح عزیز مولوی محمد بھی صاحب سلمہ سے کرنا چاہتا ہوں، دادا صاحب پسند تو نہ کرتے تھے مگر مرز اصحاب کے شدید اصرار پر انہوں نے میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے استمزاج کیا، والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے معدرت کر دی، جس کا صاحبزادی مرحومہ کو بھی بہت قلق تھا۔ مگر اس خاندان سے میرے والد صاحب اور پیچا جان نور اللہ مرقدہ ہما اور اس ناکارہ کے بھی ابتدائی دور میں ایسے تعلقات وابستہ تھے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میرے والد

صاحب اور پچاچان نور اللہ مرقدہ ہما کی کثرت سے آمد و رفت قیصر جہاں مرحومہ کے مکان میں ہوتی تھی۔ جب بھی میرا جانا ہوتا تو مرحومہ باوجود اپنی انتہائی نفاست، نزاکت کے مجھے۔ اپنے پاس سلایا کر دیں اور بہت لپٹ کر سویا کرتی تھیں، میری عمر اس وقت ۲۰ سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے۔ مرحومہ نے کئی مرتبہ میرے سامنے والد صاحب سے اصرار کیا کہ مجھے تو آپ نے قبول نہ کیا مگر زکریا میرا بچہ ہے میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی، اپنے پاس رکھوں گی اور اپنی بڑی سے اس کا نکاح کروں گی۔ والد صاحب کا جواب تو ہوتا تھا کہ جس چیز کو میں نے اپنے لیے پسند کیا اس کے لیے کیسے پسند کروں؟ مگر ان کا شدید اصرار از خود رفتہ تھا کی بناء پر ایک مرتبہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے امتحاناً مجھے سے دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ ”پانداں لیے لیے پھرنا میرے بس کا نہیں“۔ اس کی شرح یہ ہے کہ مرحومہ کے شوہر مرزاعہ محمد شاہ کو مرحومہ سے عشق تھا، وہ نہایت نفسی مسہری پر بیٹھی رہتی تھیں اور مرزاعہ شاہ مرحوم پانداں ان کے پاس لا کر رکھتے اور یہ کہتے تھے کہ ”بیگم ایک پان کھلا دو“۔ مجھے یہ چیز اس قدر ناگوار ہوتی کہ اپنے خاندان کے بالکل ضد، ہمارے گھر کا تعامل یہو گویا محكومہ خادمہ ہے۔ خاندان کا منصب ہے یہو یہ کہے کہ ایک پان بنالا۔

### والد صاحب کا امتحان اور میرا جواب:

میرے اس جواب پر والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے خود اپنا قصہ مجھے سنایا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے سے بچپن میں قیصر جہاں کے نکاح کے متعلق دریافت فرمایا تھا تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ ان شہزادی سے نکاح کے بعد بوریے پر لیننا تو کبھی تھیب نہیں ہوگا اور یہ قصہ سنائے کریے فرمایا کہ میرے اور تیرے جواب میں آسمان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب سے تکبر کی بوپکتی ہے۔ اللہ ان کو بہت ہی جزاۓ خیر عطا فرمائے کہ بہت ہی باریک نگاہ سے میری ہر حرکت کو دیکھا کرتے تھے۔

یہ ساری باتیں تو ایک اہتماء کے دور کی ہیں اور یہ بھی چند واقعات ذکر کیے ورنہ ان جزئیات کے لیے ایک ”الف لیلۃ“ چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ہر ہر موقع پر انتہائی کرم اور لطف اور مدد فرمائی۔

### الوکھی تربیت:

اس سے زیادہ اہم اور تہایت ہی اہم عنوان ”تربیت“ کا تھا، جس کو علی میاں نے بالکل ہی اڑا دیا، ضمناً کہیں کہیں ایک دو واقعے آگئے ہیں، یہ عنوان بھی بہت طویل ہے، جس طرح میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس سے کارکی تربیت فرمائی وہ درحقیقت بہت ہی اہم اور بہت ہی دقیق اور شدید نگرانیوں کے ساتھ ہوتی۔ اگر مجھے میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی تو میں یقیناً آج کچھ بنا

ہوا ہوتا، مگر مثل مشہور ہے کہ کتنے کی دم بارہ سال تک میں رکھی مگر وہ سیدھی ہو کر نکلی۔

میرے والد صاحب نور الدلیل مرقدہ کے یہاں سب سے زیادہ شدت ترک تعلقات پر تھی، ان کا مقولہ جو بار بار انہوں نے ارشاد فرمایا یہ تھا کہ ”آدمی چاہے کتنا ہی غبی اور کندڑ ہن ہو اگر اس میں تعلقات کا مرض نہیں تو وہ کسی وقت ذمی استعداد بن کر رہتا ہے اور آدمی چاہے جتنا بھی ذمی استعداد، ذہین اور علم کا شوق ہے، جو اگر اس کو تعلقات کا چسلک ہے تو وہ اپنے جو ہروں کو کھو کر رہے گا۔“ اس کے ساتھ ساتھ ابتداء عمر میں امردوں کا کسی سے میل جوں ان کے نزدیک خطرناک تھا، اس کو علی میاں نے تحریر تو فرمایا، جیسا کہ (صفہ ۹۷) پر لکھا ہے، لیکن اس کو الٹا کر دیا، یہ تو میری مجال ہی نہ تھی کہ میں کسی کو سلام کروں یا میں از خود کسی ایسے شخص کے پاس جماعت کی نماز میں کھڑا ہوں جس کے پاس اس سے پہلے گئی نماز میں کھڑا ہو چکا ہوں۔ اگر کوئی دونسر اجنبی مجھے سلام کر لیتا تھا تو مجھ سے جواب طلب ہو جاتا کہ یہ کون ہے؟ اور اگر کوئی ایسا شخص جو پہلی نماز میں بھی میرے برابر ہوتا تھا، اتفاقاً میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تو مجھے ڈر کے مارے نیت توڑ کر جانا پڑا جاتا تھا۔ اس لیے کہ اس کو بھگلتا تو مجھے پڑتا تھا اور اس خیال سے کہ پاس والے کو یہ خیال ہو گا کہ کیا بات ہوئی، کبھی کھانے کا بہانہ کرتا تھا اور کبھی ناک پکڑ کر کہ گویا نکسیر آگئی ہے، وہاں سے نکلتا تھا اور ان دونوں چیزوں کا رد عمل اب اس زور سے ہو رہا ہے کہ سلام کا تو کہنا ہی کیا میری معذوری کی وجہ سے دونوں طرف اٹھانے والے گویا متعین ہیں۔

اس کے ساتھ ہی میرے والد صاحب کی نگاہ میں بڑی اہم چیز صاحبزادگی کا مسئلہ بھی تھا، ان کا بار بار کا سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا مقولہ کہ یہ صاحبزادگی کا سورہ بہت دیر میں نکلتا ہے، اس ناکارہ کے متعلق اگر کبھی ان کو کسی فعل سے اس کا شہر بھی ہو جاتا تھا تو پھر تحریر نہیں ہوتی تھی۔ ابھی ایک واقعہ اس سلسلہ میں لکھوں گا۔

میرے پیارے دوست! لکھنے کی چیزیں تو یہی تجھیں علی میاں نے ایران، توران اور فضول باتیں لکھ دیں، ان سے کسی کو کیا فائدہ ہو گا اور میری نگاہ میں تو مبالغہ بھی بہت ہے، مختصر اپنی تربیت کے چند واقعات ضرور لکھوں گا، اگرچہ یہ چیزیں بعد از وقت ہیں، اگر میں مسودے کو پہلے دیکھ لیتا تو امید تو نہیں تھی کہ علی میاں ان کو میرے الفاظ میں چھاپ دیں گے لیکن میں تو اصرار کرتی دیتا۔ میں تو حدیث پاک کے سبقوں میں ہمیشہ اپنی واقعات کو بہت لطف اور مزے سے نقل کرتا ہوں اور بڑی دعا میں دیتا ہوں کہ ان کے جتوں ہی کی برکت سے دینداری کی ظاہری صورت بنائے بیٹھا ہوں اور ان کی ہر مار پر بڑی دعا میں دیتا ہوں، گواں وقت تقاضائے عمر اور نافہنی جتنا بھی رو یا ہوں یا رنج و غصب کیا ہو ظاہر ہے۔

چند واقعات ضرور سنتوم کو لطف آئے یانہ آئے مجھے تو لکھنے میں لطف آئے، ہی گا:

(۱).....میری عمر تین چار سال کی تھی، اچھی طرح سے چلنا بھی بے تکلف نہیں سیکھا تھا، سارا منظر خوب یاد ہے اور الیسی باتیں "أَوْقَعَ فِي الدِّهْنِ" ہوا کرتی ہیں، میری والدہ نور اللہ مرقدھا کو مجھ سے عشق تھا، ماڈل کو محبت تو ہوا ہی کرتی ہے، مگر جتنی محبت ان کوئی اللہ ان کو بہت بلند درجے عطا فرمائے، میں نے ماڈل میں بہت کم دیکھی، اس وقت انہوں نے میرے لیے ایک خوبصورت تکیہ چھوٹا سا سیا تھا، ایک بالشت میری موجودہ بالشت سے چوڑا اور ڈیڑھ بالشت لمبا، اس کی ہیئت بھی کبھی نہیں بھولوں گا، اس کے اوپر گوشہ، گوھرو، کرن بنت وغیرہ سب کچھ ہی جڑا ہوا تھا، نیچے لال قند کا غلاف اور اس پر سفید جالی کا جھالر، بہت ہی خوشنما، وہ مجھے اتنا محبوب تھا کہ بجائے سر کے میرے سینے کے اوپر رہا کرتا تھا، کبھی اس کو پیار کرتا، کبھی سینے سے چمنا یا کرتا، والد صاحب نے آواز دے کر فرمایا کہ "زکر یا مجھے تکیہ دے دے"۔ مجھے میں پدری محبت نے جوش مارا اور اپنے نزدیک ایثار اور گویا دل پیش کر دینے کی نیت سے میں نے کہا کہ "میں اپنا تکیہ لے آؤں"۔ فرمایا کہ "ورے آ" میں انتہائی ذوق و شوق میں کہ ابا جان اس نیاز مندی اور سعادت مندی پر بہت خوش ہوں گے، دوڑا ہوا گیا، انہوں نے با میں ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اور دائبے ہاتھ سے منہ پر ایسا زور سے تھپڑ سید کیا کہ آج تک تو اس کی لذت بھولا نہیں اور مرتبے وقت تک امید نہیں کہ بھولوں گا اور یوں فرمایا کہ "ابھی سے باب کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنا لااؤں، کچھ کما کر ہی کہنا کہ اپنا لااؤں"۔ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے اور شخص اس کا ہی لطف و احسان ہے کہ اس کے بعد سے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل میں یہ مضمون پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اپنا اس دنیا میں مال نہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ دن بہ دن یہ مضمون پختہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔

(۲).....میری عمر آٹھ سال کی تھی، حضرت گنگوہی قدس سرہ کے وصال کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، حضرت کے وصال کے بعد والد صاحب نے خانقاہ شریف ہی میں بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا تھا اور جس وقت یہ واقعہ لکھ رہا ہوں خوب یاد ہے کہ اسی (۸۰) لڑکے تھے، ان میں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے بھی تھے اور حمامہ اور ہدایہ اولین پڑھنے والے بھی۔ اوپر کے اسباق تو والد صاحب اور پچا جان پڑھایا کرتے تھے اور ہر اونچی جماعت والے کے ذمہ اس سے نیچے والی جماعت کے اسباق ہوتے تھے کہ اپنے پڑھنے اور ان کو پڑھائے اور والد صاحب کے سامنے یہ اسباق پڑھائے جاتے تھے۔ خانقاہ کی مسجد میں اس وقت تک والد صاحب ہی نماز پڑھاتے تھے۔ نماز شروع ہو گئی اور میں خانقاہ کی مسجد میں ایک طاق تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر لٹکنے کی کوشش میں تھا مگر

اس پر میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ ان شاگردوں میں ایک شخص مولوی صغیر احمد تھے جو معلوم نہیں اب حیات ہیں یا نہیں مگر گنگوہ کے رہنے والے اور بعد میں بھی کے بڑے واغظوں میں ہو گئے تھے، وہ وضو کر کے جلدی سے آئے اور ادھر رکوع شروع ہو گیا، انہوں نے تیزی سے آکر محبت کی بناء پر مجھے طاق پر لٹکا دیا، مجھے غصہ آگیا کہ میری مسامی جمیلہ میں اس نے نانگ کیوں اڑائی۔ جب سب سجدہ میں گئے تو میں نے مولوی صغیر کی کمر میں زور سے ڈک مارا، چوت تو ان کو کیا لگتی مگر آواز بہت ہوئی۔ نماز پڑھتے ہی مقدمہ قائم ہو گیا، خانقاہ میں گولر کے نیچے سارا مجمع اور حضرت گنگوہی قدس سرہ کی سہ دری کے آخری در کے سامنے ابا جان اور مطالبہ یہ ”کہ کس نے مارا تھا اور کس کے مارا تھا؟“ مگر ڈر کی وجہ سے کوئی بولا نہیں۔ دس بارہ منٹ کے بعد فرمایا کہ اچھا اب تو سبق کا حرج ہو رہا ہے سبق کے بعد سب کی چھٹی ہند، جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ عصر کے بعد دوبارہ میدان حشر قائم ہوا، ان کا مطالبہ اور جواب میں سکوت۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی ایک کو بھی جانے کی اجازت نہیں، چاہے صحیح ہو جائے اور میں اپنے دل میں یہ دعا میں کر رہا تھا کہ جو ہونا ہو گا ہو جائے گا مولوی صغیر جلدی سے بتا دیں خواہ متوہ سب پہنچ رہے ہیں۔ بالکل میدان حشر کا منظر تھا جس کی بناء پر سب پریشان پھر رہے تھے۔ کوئی پندرہ منٹ کے بعد مولوی صغیر نے دبی ہوئی اور میری ہوئی آواز زبان سے کہا کہ ”میرے مارا تھا“۔ اب تو مقدمہ کا بہت سا حصہ گویا طے ہو چکا۔ اس پر ٹھیک سے مطالبہ ہوا کہ ”کس نے؟“ مگر وہ چپ۔ جب اس نے دیکھا کہ ”ضربِ ضرب“ ہونے کو ہے تو اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ ”اس نے“۔ اس پر والد صاحب نے فرمایا کہ ”اس نے؟“ انہوں نے کہا جی پھر فرمایا کہ ”اس نے؟“ اس وقت والد صاحب کا دستور عصر کے بعد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری کا تھا، یہ ناکار بھی ساتھ ہوتا اور میری ایک چھوٹی سی چھتری تھی جو ٹوٹ گئی تھی اور اس کی ڈنڈی کو لکڑی بنا لیا تھا جو مزار پر جانے کے وقت میں میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، میرے ہی ہاتھ سے چھین کر اتنا مارا کہ وہ چھوٹی سی لکڑی بھی دو جگہ سے ٹوٹ گئی اور صرف ایک لفظ ان کی زبان پر ہر مار پر ہوتا تھا ”ابھی سے صاحبزادگی کا یہ سور“۔ انہیں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ بد صاحبزادگی باپ کے شاگردوں کو مار دیا۔ سردی کا زمانہ تھا اور میں روئی کا انگر کھا پہنا کرتا تھا مگر اس وقت نہیں تھا، اس لیے کہ صحیح اور عشاء کے وقت پہنا کرتا تھا اور عصر کے وقت چونکہ سردی نہیں ہوتی تھی، اس وقت صرف ایک ہی کرتہ بدن پر تھا۔ میرے بازو اتنے سُوج گئے تھے کہ پندرہ دن تک انگر کھا بالکل نہیں پہن سکا۔ اس وقت تو نہیں مگر ان کا ایک خاص مقولہ جو کئی دفعہ مجھ سے فرمایا، یہ تھا کہ ”اگر تو پتتے پتتے مر گیا تو تو شہید ہو گا، مجھے ثواب ہو گا“۔ آپ خود سوچیں کہ جس کا یہ نظر یہ ہو وہ کیا کس رچھوڑے گا۔

(۳).... اسی زمانے کا قصہ ہے کہ اس تابکار کو بزرگی کا جوش ہوا اور مغرب کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ کے جھرے کے سامنے لمبی نفلوں کی تیت باندھ لی، ابا جان نے آکر زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ ”سبق یاد نہیں کیا جاتا“، میرے چچا جان ”اس زمانے میں بڑی لمبی نفلیں پڑھا کرتے تھے، بعد مغرب سے عشاء کی اذان کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے، لیکن والد صاحب کے یہاں مختصر سے نوافل کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا کہ خود تو پڑھی نہیں جاتی، دوسرے کو بھی پڑھنے نہیں دیتے، مگر جلدی ہی سمجھ میں آگیا کہ بات صحیح تھی، وہ نفلیں بھی شیطانی حریف علم سے روکنے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا تو اب نفس بہانے ڈھونڈتا ہے۔

(۴).... میری عمر دس سال تھی، میری والدہ گنگوہ سے راپورچار ہی تھیں، بہلی میں اور بھی چند مستورات تھیں اور میں بھی تھا، ایک شٹو (گھوڑی) جس کے ساتھ اس کا چلانے والا بھی تھا، اس پر والد صاحب تشریف فرماتھے۔ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو گھوڑے کی سواری کی عادت نہ تھی مگر معمولی سائٹو جس کے ساتھ چلانے والا بھی ہواں پر دو دفعہ بیٹھنے کی نوبت آئی، راستے میں ایک جگہ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت ارشاد فرمایا کہ ”تو گھوڑی پر بیٹھے گا؟“ میں نے بہت شوق سے کہا ”جی“ اور شوق سے کوڈ پڑا اور گھوڑی پر بیٹھ کر شوق سے عزت میں گھوڑا کو بہلی کے سامنے لایا، میری والدہ نے اور دوسری مستورات نے جب میں قریب پہنچا، کچھ زبان سے اور کچھ اشارے سے کہ بُری بات ہے اپا تو پیدل جا رہے ہیں اور تو گھوڑی پر بیٹھا ہے۔ میں نے ابا جان سے عرض کیا کہ عورتیں یوں کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے بہت غصہ میں فرمایا کہ ”انہی کے تجھے نظر نہیں آتا، عورتیں ہی کہہ رہی ہیں تیری آنکھیں پھوٹ گئیں ہیں“۔ مابدلت بیک بینی و دو گوش گھوڑی سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ گئے، اس بات پر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی گرانی نہیں ہوئی اور میرے ذہن میں تھا کہ تو نے برا کیا۔

(۵).... میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس کا بھی بہت اہتمام تھا کہ میرے پاس پیسہ نہ رہے، کسی دوسرے سے پیسہ لینا تو درکنار کی کھانے پینے کی چیز کا لینا بھی ناممکن تھا بلکہ اس کے شپ پر بھی سخت تحقیقات ہوتی تھیں، جیسا کہ اگلے نمبر پر مستقل ایک واقعہ ذکر کروں گا، البتہ خود پیسے دینے کا معمول تھا اور ساتھ یہ کہ میرے پاس پیسہ نہ رہیں، اس لیے جب مجھے کچھ دینے کا ارادہ فرماتے تو پہلے والدہ سے فرمادیتے کہ زکریا کو اتنا پیسہ پارو پیسہ دینا ہے اور والدہ نور اللہ مرقدہ حاصل اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اوپنجے درجے عطا فرمائے، مجھ سے محبت بے انہما تھی، اسی وقت سے مجھے قرض دینے کے فضائل اور ثواب اتنے لا تُعَد و لا تُحْصَى سناتیں اور آخرت میں کار آمد ہونے کی

ترغیبیں اور دنیا میں جو خرچ ہواں کی لغویت بتلاتیں اور اس کے بعد پھر فرماتیں کہ ”تیرے پاس کچھ پیسے ہوں تو دے مجھے ثواب ہوگا“۔ کچھ تو واقعی والدہ کی محبت اور کچھ ثواب کی اہمیت تو اس وقت کہاں ہوتی، البتہ ”مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِّبَ“ کا نقشہ بغیر حدیث پڑھے ہی سامنے تھا اس لیے کہ ان پیسوں کا حساب دینا تو کارے دار دخدا اور اسی کا یہ اثر ہوا کہ اب تک پیسے جیب میں رکھنے کی عادت نہیں۔ اللہ نے دوست و احباب ایسے مہیا کر رکھے ہیں کہ وہ ہر وقت میری فرمائیں پوری کرتے رہتے ہیں اور دو چار دن میں ایک بل مجھے دے دیتے ہیں اور یہ وہی دست غیب کا نسخہ ہے جو کسی تبلیغی اجتماع میں صوفی عبد الرحمٰن صاحب کو بتایا تھا۔

(۶).... اس سے پہلے نمبر میں لکھا تھا کہ شبہ پر تحقیقات ہوتی تھیں ایک واقعہ مثال کے طور پر کوئی رہا ہوں، مدرسہ قدیم (دفتر مدرسہ مظاہر علوم) کی چھت پر والد صاحب کا قیام اور پیشاب کی جگہ اسی چھت پر اس کے مقابل تھی، والد صاحب پیشاب کے لیے تشریف لے گئے، راستہ میں ایک جگہ سے کتاب کی خوبیوں آئی جو مولانا ظفر احمد صاحب پاکستانی شیخ الاسلام پاکستان نے کسی طالب علم سے بعد مغرب یہ کہہ کر کہ ایک کتاب لا کر یہاں رکھ دینا میں نفلوں کے بعد لے لوں گا، تماز کی نیت باندھ لی۔ والد صاحب کے بعد میں پیشاب کو یہ شبہ ہوا کہ وہ کتاب اس نے منگائے تھے اور پیشاب کے بہانے سے یہ کھا کر آیا ہے، مجھ سے مطالبہ فرمایا کہ ”وہ کتاب کس کے ہیں؟“ میں نے اعلیٰ ظاہر کی، اول توختی سے فرمایا، پھر جا کر ان کو دیکھا تو وہ وہیں رکھے تھے۔ چونکہ مولانا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک دسترخوان تھے۔ جب سب حضرات کھانے کے واسطے بیٹھے تو مولانا ظفر احمد صاحب نے کسی طالب علم سے فرمایا کہ وہاں کتاب رکھے ہیں وہ اٹھا لاؤ تو والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اطمینان ہوا۔

(۷).... پیسوں کے سلسلے میں ایک عجیب واقعہ سناؤں، ان کی تعلیم کا طرز تو عجیب و نرالا تھا، ان کے یہاں اہم کتاب کے شروع پر یاختم پر مخفی کے نام سے کچھ پیسے ملنے کا بھی دستور تھا جو میرے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ مخصوص شاگردوں میں سب ہی کے ساتھ تھا۔ لیکن میرے ساتھ یہ خصوصیت تھی کہ ان پیسوں کی مخفی کھانا سخت معیوب تھا، بلکہ نہایت سنگین جرم تھا کہ یہ ان کے یہاں چٹور پن تھا، بلکہ ان پیسوں کا مصرف کوئی ضرورت کی چیز کتاب وغیرہ یا والدہ کے توسط سے کوئی مقوی دماغ چیز تھی۔ جب میرا فتحہ شروع ہوا اور ان کے یہاں تعلیم میں بھی جدت تھی، جس کا اثر پچاچا جان کی تعلیم میں بھی تھا کہ ان کے یہاں درس نظامی کی پابندی نہیں تھی بلکہ ہر شخص کی حیثیت کے متوافق کتاب تجویز ہوتی تھی ”الفیہ ابن مالک“ کا سبق روزانہ حفظ سناؤ کرتے تھے۔ ان کے یہاں ہدایہ الخوا اور کافیہ ساتھ تھا، کافیہ کی ترتیب پر جتنا سبق شام کو کافیہ کا مناسب ہوتا اس کی

بقدرت صحیح کو ہدایت الخوا ہوتی تاکہ وہ کافر کے لیے مطالعہ کا کام دے، اسی طرح قدوری اور کنز ساتھ ہوتی کنز کی ترتیب پر۔ جب میرا فقد شروع ہوا یعنی قدوری اور کنز کی بسم اللہ ہوئی تو مجھے میں روپے انعام ملے تھے اور دینے کے بعد فرمایا کہ ”ان کا کیا کرو گے؟“ میں چونکہ بھیڑیے کی آنکھ سے سبق پڑھے ہوئے تھا، میں نے کہا کہ میرا یوں جی چاہتا ہے کہ اپنے چاروں بزرگ حضرت سہارنپوری، حضرت دیوبندی، حضرت رائے پوری، حضرت تھانوی کو پانچ پانچ روپے کی مٹھائی پیش کروں، یہ میری تجویز کسی اخلاق پر تو مبنی تھی ”منْ حُوَسْبَ عَذَابَ“ کے ڈر سے تھی، بڑی شاباش ملی اور میری فہم و دانش پر مبارکہ، پھر فرمایا کہ ”مٹھائی کیا دے گا؟“ اس کے بعد لکھنے والے نے کہا کہ کہ یہ قصہ اخلاق علی میاں سوانح میں حاشیہ، صفحہ نمبر ۹۷ پر لکھے ہے ہیں، اس لیے اسی جگہ پر ختم کر دیا۔ البتہ ابتدائی حصہ کی ترتیب اور میری تجویز کی وجہ اس میں نہیں ہے۔

(۸) ..... کاندھلہ کی عید کا واقعہ بھی علی میاں نے صفحہ نمبر ۲۷ پر لکھا تو ہے مگر بہت مختصر۔ رمضان المبارک ۲۸ھ میں جب کہ میری عمر تیرہ سال کی تھی اور سہارنپور آنے کے بعد پہلی عید تھی، کاندھلہ اس سے پہلے شاید تین چار سال کی عمر میں ایک عید کی تھی، اس کی چھل پہل، عیدگاہ میں بچوں کے ساتھ جانا اور عیدگاہ کے مناظر خوب یاد تھے، ۱۵ رمضان کے آس پاس والد صاحب نے ازراہ شفقت و مراحم خسر و اش فرمایا کہ ”تیرا کاندھلہ عید کرنے کو جی چاہتا ہے؟“ میں نے بڑے زور سے کہا کہ ”جی“ فرمایا کہ ”اچھی بات ہے ۲۹ کو بھیج دوں گا“۔ خوب یاد ہے کہ یہ پندرہ دن خوشی کے اندر رہ رہ روز عید تھا اور ہر رات شب قدر، بھی خوشی میں اچھل بھی پڑتا تھا اور ایک ایک دن بڑی مشکل سے گزارتا تھا اور جب ۲۹ کی رات آئی تو پھر کیا پوچھنا، سوچتا تھا کہ اب کس کے ساتھ جانا طے ہو گا ۲۹ کی صحیح کو میں تو ہر آن:

”چون گوش روزہ دار بر اللہ اکبر است“

اس آواز کا منتظر تھا کہ یہ فرمائیں کہ ”جا فلاں کے ساتھ چلا جا“، انہوں نے دس گیارہ بجے کے قریب تہایت رعب دار منہ بنا کر فرمایا کہ ”بس کیا کرے گا جا کر؟“ آواز سے تو ہم رو ہی نہیں سکتے تھے، آنسوؤں پر قابو ہی نہیں تھا، بے اختیار نکل پڑے اور جگہ میں جا کر پھر جو بچکیوں کے ساتھ رونا شروع کیا، اللہ بہت ہی معاف فرمائے جو منہ میں آیا سب کچھ کہہ دیا۔ بھلا اس جھوٹے وعدہ کی کیا ضرورت تھی؟ بزرگ ہو کر بھی مکاری کرتے ہیں، میں نے کون کی درخواست یا مamt کی تھی، اپنے آپ خود ہی تو وعدہ کیا اور وہ دن اور دوسرا عید کا دن میرے لیے محروم تھا اور وہ میری لال آنکھوں اور آنسوؤں کو خوب دیکھ رہے تھے مگر ایک لفظ نہیں کہہ کر دیا۔ عید سے دوسرے دن یوں فرمایا کہ ”میرا جی تو چاہتا تھا تیرے بھجنے کو اور میرا ارادہ بھی تھا مگر جتنی خوشی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں

لگی۔ ”اس وقت تو بھلا آپ کیا جائیں کہ کیا سمجھ آتی مگر اب واقعی سمجھ میں آگئی کہ ”لکیلا تأسو علیٰ ما فاتحُمْ وَلَا تَفْرُخُونَ بِمَا اتَّحَمْ“ کی داع غیل پڑ گئی۔

(۹) ..... مجھے بھی بچپن میں اچھا پہننا یاد نہیں، اپنے ہوش سے پہلے والدہ نے پہنائے ہوں تو یاد نہیں، ان زمانے میں ہر جمعہ کو سرمنڈانا بھی ضروری تھا کہ بال بھی زینت ہیں، کاندھلہ میراوطن ہے لیکن عمر بھر میں بھی بھی تین مرتبہ کے علاوہ ایک دوشب سے زیادہ قیام یاد نہیں، بلکہ ہوا ہی نہیں، پہلی دفعہ ان تین میں سے والد صاحب کی حیات میں ہے جس کا قصہ لکھ رہا ہوں اور دو (۲) دفعہ ان کے وصال کے بعد۔ ان میں سے پہلی مرتبہ ۳۶ھ میں جب کہ پچا جان نور اللہ مرقدہ سہار پور سے دہلی منتقل ہوئے، روانگی سے قبل یماری نہیں شروع ہو گئی تھی، کاندھلہ دو چار روز بعد علاج ٹھہر نے کا ارادہ تھا مگر مرض نے اتنا طول پکڑا کہ ہر روز ان کی حیات کا آخری دن تھا۔ اس کی سرگزشت بھی بڑی عجیب ہے اور بڑے عجیب واقعات اس میں پیش آئے جو بڑی لمبی داستانیں ہیں اس یماری میں پچا جان نور اللہ مرقدہ سے جنات کی بیعت ہوئی۔ یہ قیام سب سے زیادہ طویل ہوا۔ تیسرا مرتبہ ۳۲ھ میں جب کہ میری حقیقی پھوپھی مرحومہ سخت عالات کے بعد انتقال فرمائیں۔ ان کے انتقال کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بہت سخت یمار تھیں، اشارہ سے نماز پڑھتی تھیں۔ اسہال کبدی کی دن سے تھے کہ بوقت صادق یوم دشنہ ”مجھے جلدی بٹھا، مجھے جلدی بٹھا تو پچھے سہارا گا دے“، مجھے خیال ہوا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے مبادا اس میں دری ہو جائے، میں نے ایک دوسرے عزیز کو اشارہ کیا وہ جلدی سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے جلدی میں فرمایا کہ تو پیٹھے حضور تشریف لے آئے اور ہاتھ سے کوٹھے کی طرف اشارہ کیا کہ حضور تشریف لے آئے اور یہ کہتے ہی گردن پیچھے کو گر گئی۔ رَحِمَهَا اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً۔

### ایک اہم واقعہ:

اس جگہ جس واقعہ کو لکھتا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی عجیب ہے، اوائل ۳۰ھ میں جب کہ میری عمر ۱۵ ایس کی تھی، میری والدہ مرحومہ کاندھلہ میں نہایت ہی سخت علیل ہو گیں اور ایسی علیل ہو گئیں کہ ہر دن ان کی زندگی کا آخری تھا (اگرچہ اس مرض میں انتقال نہیں ہوا) والد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کو جب اس شدت مرغی اور مایوسی کی حالت اور میری یاد کی خبر پہنچی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پانچ سات دن کا قصہ ہے مجھے کاندھلہ بھیج دیا اور اتنا لیسا چوڑا کام میرے پرداز دیا کہ پندرہ سو لے گھنٹے تک بھی پورا نہ ہو سکے۔ روزانہ تاریخ وار مقامات کے سو (۱۰۰) لغت لکھنا اور صراح وغیرہ دوسری کتب کی مدد سے ان کا ترجمہ بھی لکھتا۔ پھوپھا مرحوم (پھوپھا رضی الحسن صاحب) سے سلم

العلوم کا سبق پڑھنا۔ ایک منزل روزانہ قرآن کی دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد دادی صاحبہ (جو حافظہ قرآن تھیں) کو سنانا اور تین سبق فارسی کے گلستان، بوستان، یوسف زیخا، حاجی محسن مرحوم کو پڑھانا۔ چونکہ مجھے کبھی اچھا کپڑا پہننے کی نوبت نہ آئی تھی اور میری والدہ کی انتہائی خواہش اور رکھنا یہی کہ وہ مجھے کبھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں، مگر والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ بھی نہیں بن سکتی تھیں، چونکہ وہ ان کی مایوسی کی حالت تھی اور ہر دن کو وہ اپنا آخری دن سمجھتی تھیں، اس لیے انہوں نے میری خالہ و پھوپھیوں سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اور چونکہ ہر رشتہ دار اس وقت ان کی ہر دل جوئی کا متنہی تھا، اس لیے سب نے مل کر نہایت نقیض جوڑا میرے لیے بیا، والدہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں زندہ رہی تو اس کے دام ادا کروں گی۔ سب نے کہا کہ ایسے لفظ ملت کہو کیا یہ تمہارا ہی بچہ ہے ہمارا نہیں، بہر حال ان کی عجلت پر نہایت عمدہ جوڑا اسلا۔ جواب تک نظروں میں ہے۔

نہایت ہی نقیض حسین ایک گلابی بیان، اس پر نہایت ہی باریک اچکن کا کرتہ اور نہایت ہی عمدہ ”سلیے کا عمامہ“ اور چونکہ اس وقت میرے تمام عزیز علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور سب سلیپر پہننے تھے گواں سے پہلے میں نے بھی پہنے اور نہ پسند آیا۔ ساری عمر دھوڑی کا جوتہ اور وہ بھی بغیر پھول کے، مگر ماحول کا تواثر ہوتا ہی ہے۔ بھائی اکرام، ظہیر الحسن مرحوم، ماسٹر محمود، یہ سب لوگ سلیپر پہننے تھے مگر معمولی اور اس وقت ہمارے اور والدہ مرحومہ کے شوق سے خریدا جا رہا تھا، اس لیے باتا کا نہایت ہی مضبوط سولہ روپے کا سلیپر خریدا اور اس وقت کے سولہ آج کے پچاس روپے سے کم تو نہ ہوں گے، دو تین دن میں بڑی محنت اور بہت عجلت سے میری خالہ اور پھوپھیوں نے بہت ہی نقیض جوڑا رسیا۔ درمیان میں مکان کا انداز بھی سنئے۔ اس زمانے میں یہ نوعیت ہوتی تو تھی۔ بہت سے قصبات میں، مگر ہمارے مکانوں کی نوعیت یہ تھی کہ صدر دروازے کے متصل تو مردانہ بیٹھک تھی اور دروازہ (۲) ایسا تھا کہ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو اندر کے مکانات میں جن کے اندر کھڑکیاں اور دروازے تھے ایک مکان میں کھس کر بغیر پردہ کرائے عورتیں ایک دوسرے کے مکانات میں آ جائی تھیں اور چور کھڑکی (۳) میں اور صدر دروازے میں تقریباً دو (۲) فرلانگ کا فرق ہے اور اندر سب مکانات ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ مکانات کا تحفظ بھی اور غالباً اندر کے زمانے میں اس نوعیت کے بنائے گئے تھے کہ اگر فوج کی یورش صدر دروازے کی طرف سے چلے تو مستور کھڑکی کی طرف کو فوراً انکل جائیں۔ حضرت حاجی صاحب تور اللہ مرقدہ بھی کئی دن تک ان مختلف مکانات میں مستور رہے۔ میرے والد صاحب تور اللہ مرقدہ والدہ کی اور میری دونوں کی خیر خبر لینے کے واسطے کا نامحلہ تشریف لے گئے اور صدر دروازہ سے نہیں گئے کہ ان کے پہنچنے کا شور ہو جائے گا، چور کھڑکی میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں پردہ کراتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ

ابھی آکر ملوں گا، اس دروازے پر پہنچ جو میری والدہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا، مابدولت اس شاہی جوڑے کو پہن کر اور اس کی نمائش کرنے کے واسطے دروازے سے نکل رہے تھے۔

ایک دم ایک کی نگاہ دوسرے پر پڑی، ان کی نگاہوں میں شیر بیر کی طرح سے خون کی لہر دوڑ گئی اور میں لنگور کے سامنے بندرا یکی حالت میں تھا کہ پاؤں کے نیچے زمین تھیں تھی اور انہوں نے لٹکا کر فرمایا کہ ”آ گے آ“، قلمیل کے سوا چارہ کیا تھا اور وہ نہایت ہی نیس اور مغضوب جوتا جو چار پانچ منٹ پہلے ہی پاؤں میں ڈالا تھا وہ ان کے با تھے میں تھا اور بجائے پیر کے سر پر پڑا پڑ پڑ رہا تھا اور ایک لفظ ربان پر تھا کہ ”تجھے معشوق بننے کے واسطے بھیجا تھا؟“ اور دروازہ ایک دم بند کرادیا گیا اور سارے گھروں کی مستورات مجھے چھڑانے کے واسطے وہاں جمع ہو گئیں، ابا جان نے ایک ڈانٹ پلانی کہ جو چھڑائے گا اس کے جوتا ماروں گا۔ بلا مبالغہ سو (۱۰۰) کے قریب تو سر پر پڑے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کا احسان تھا کہ ایڑی کی طرف نہیں پڑے بلکہ نیچے کی طرف سے پڑے، جس سے سر نہیں پہننا۔ البتہ صمیع کی طرح سے دماغ کا بہترین علاج ہو گیا۔

وہ عمامہ تو اسی وقت تھے کہ چھوٹی ہمشیرہ کے نکاح کے لیے رکھا گیا اور اچکن کے گرتے کی بھی دو (۲) کرتیاں بہن کی شادی کے لیے بنا کر رکھ دی گئیں اور وہ بنیان اور سلیپر عزیز ظہیر الدین مرحوم کو نذر آنہ ہو گیا اور عمدہ لٹھے کا پا جامہ اس وقت تو جھک مار کر اس تارنا ہی پڑا اور ہم پھر وہی کر پاوہی جائی۔

### اچھے کپڑوں سے نفرت:

اللہ کے فضل و انعام و احسان سے اچھے کپڑے سے جو نفرت اس وقت دل میں بیٹھی تھی اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور اب واقعی اس کے اندر تصنیع نہیں کہ اب اچھے کپڑے سے کچھ اس قدر نفرت سی ہو گئی ہے کہ اپنے ہی نہیں دوسرے کے بدن پر بھی اچھا نہیں لگتا اور اب دماغ میں یہ چیز جنم گئی کہ اچھے کپڑے کے اندر کیا فائدہ اگر اچھی غذا اکھائی جائے تو خیر دماغ و جسم کو طاقت دیتی ہے مگر اچھے کپڑے سے نرگنگ دزوپ میں فرق پڑے اور نہ بدن میں طاقت آئے پسند رہ نہیں دن میں وہ اس سے زیادہ میلا ہو جاتا ہے جتنا کہ کھدر بھی نہیں ہوتا میرے حضرت اقدس رائے پوری شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ نے بارہا اچھے اچھے کپڑے عنایت فرمائے اور بارہا فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے اچھے کپڑوں میں دیکھوں، مگر اپنی نالائقی و حماقت سے وہ اچھے اچھے کپڑے جو حضرت کے پاس بدلایا میں آئے تھے اپنی بچیوں کی شادیوں میں دے دیے۔

### کرنل اقبال کا ساٹھ روپے گز کا جوڑ اسلوانا:

کرنل اقبال بھوپالی میرے بہت ہی کرم فرمادی اور مخلصوں میں تھے اور محسن بھی تھے، بار بار کثرت

سے مکہ جاتے تھے اور ہر دفعہ میں کوئی مادی ہدایہ مصلحتی، رومال وغیرہ ضرور لاتے تھے حالانکہ میں بخت سے ہر دفعہ ان سے لڑتا، اللہ ان کو بہت ہی جزاۓ خیر عطا فرمائے، ایک مرتبہ انہوں نے عزیزان مولوی یوسف مرحوم اور مولوی انعام سلمہ سے یہ کہا کہ میرا را وہ بہت دنوں سے شیخ کے لیے بہت بہترین گرتہ سینے کا ہوا رہا ہے۔ عزیزان نے بہت زور سے ان کو منع کر دیا کہ بغیر اجازت نہ بنوانا وہ پہنچ گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سانحہ روپے گز کے حساب سے پانچ گز کپڑا ان کے لیے خرید کر لایا ہوں۔ تم شیخ کا گرتہ چکے سے مجھے دے دو، میں سلوا کر خود پہنا کر آؤں گا۔ عزیزان مولوی انعام سلمہ نے کہا کہ بالکل نہیں وہ سلا ہوا بھی پھاڑ دے گا، پسلے پوچھ لو..... مرحوم کو بار بار کی لڑائی سے تجربہ ہو چکا تھا اس لیے یہ کہا کہ پوچھنے کی تو ہمت نہیں مگر میرا خیال تھا کہ جب وہ سل جائے گا تو اس کا گرتہ کسی دوسرے کو تو آئے گا نہیں اس لیے وہ پہن، ہی لے گا۔ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے اور ایک دو نہیں میں یوں واقعات اس نوع کے پیش آچکے ہیں۔ کچھا چھٹے کپڑے کی نفرت سر پر سپرنے دل میں ایسی پیدا کر دی کہ اب دوسروں پر بھی اچھا کپڑا برآ لگتا ہے۔

### جہیز میں کیا دیا جائے:

شادیوں میں عمدہ کپڑوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، جہیز اور بڑی کے نام سے اس قدر روپیہ ضائع کیا جاتا ہے جو محض بے کار ہے یہ شاہنشہ جوڑے جو جہیز اور بڑی میں دیے جاتے ہیں اور کئی کئی سو میں تیار ہوتے ہیں وہ بالکل بے کار اور اضاعت مال ہے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ گھروں میں پہنے جاسکیں، ایک دو مرتبہ عمر بھر میں کسی کی شادی میں دکھلاؤے کے لیے پہنے کے علاوہ کوئی مصرف ان کا نہیں، پھر وہ رکھے رکھے گل جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ مرجائے تو مرسوں کے اندر جا کر کوڑیوں کے بھاؤ نیلام ہوتے ہیں۔

میں لڑکیوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں بلکہ بڑا مُعین ہوں، مگر کپڑے اور لمبی چوڑی دعوتوں کا بہت مخالف ہوں، ان دنوں لغویات میں جس قدر روپیہ خرچ ہوتا ہے اتنی رقم کا زیور اگر لڑکیوں کو دے دیا جائے تو کس قدر ان کے لیے وقت پر کام آنے والی چیز ہے، زیوروں میں بھی ایسے زیوروں کا مخالف ہوں جن کے اندر گھڑائی تو بہت جائے اور مالیت کچھ نہ ہو کہ اگر بد وقت ضرورت فروخت کیا جائے تو گھڑائی کی تو قیمت ہی نہیں، اگر ایسے زیور جن کے اندر گھڑائی تو نہ ہو اور مالیت زیادہ ہو جیسے کڑے وغیرہ تو ان بیچاریوں کے وقت پر کام آجائے، اللہ تعالیٰ کسی کو حج کی سعادت عطا فرمائے تو کرایہ تو تیار ہلے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ میری ضربات کی آخری ضرب تھی، اس کے بعد ایک آدھ تھہر تو شاپیڈ بھی لگا ہو ورنہ قابل یاد کوئی مار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم

سے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ان ضربات کی بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر مار پر لاکھوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے، آمین ثم آمین! کہ یہ ناکارہ سیاہ کارگٹ کی دم کی طرح سے جس کو اس کے مالک نے بارہ سال تک نلی میں اس لیے رکھا کہ وہ سیدھی ہو جائے اور بارہ سال کے بعد وہ نیزھی کی نیزھی ہی تھی۔ حالت تو اپنی خراب ہی رہی لیکن ان تنبیہات اور تربیت اور اللہ کے فضل و احسان کی وجہ سے آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ ورنہ نہ معلوم کس جوں میں ہوتا۔ (۱۰)..... ما رخوب یاد رہا کرتی ہے۔ مارتونبر ۹ پر ختم ہو گئی۔ البتہ تنبیہات ضرور باقی رہ گئی تھیں۔

### والد صاحب کا طرزِ تعلیم ”سوال واقعہ“:

جس طرح میں لکھ چکا ہوں کہ ان کا طرزِ تعلیم بالکل الگ تھا۔ مشکوٰۃ شریف میں نے ترجمہ سے نہیں پڑھی، ساری بلا ترجمہ پڑھی۔ اس میں یہ اجازت تھی کہ جس لفظ کا جی چاہے ترجمہ پوچھلوں اور وہ امتحاناً کبھی کبھی پوچھتے رہتے تھے۔ ترجمہ مظاہر حق کا دیکھنا تو جرم تھا، ہدایہ اور طحاوی کا دیکھنا ضروری تھا اور صحاح کی کتابوں میں سے جس کتاب کی حدیث ہواں کو نکال کر اس کے حواشی دیکھنے کی اجازت تھی۔ قانون تعلیم یہ تھا کہ ہر حدیث کے بعد یہ بتانا ضروری تھا کہ حفیہ کے موافق ہے یا خلاف، اگر خلاف ہے تو حفیہ کی دلیل اور حدیث پاک کا جواب، یہ تمام گویا حدیث کا جزو لازم تھا جو میرے ذمہ تھا۔ اپنی دلیل نہ بتانا تو یاد نہیں، اس لیے کہ ہدایہ اور اس کی شروع اور حواشی اور فقہ کی دوسری کتابیں دیکھنے کی نوبت کثرت سے آتی رہتی تھی۔ البتہ حدیث کا جواب کبھی کبھی نہیں دے سکتا تھا تو وہ خود بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عوید کی حدیث کی توجیہ میں بندہ نے یوں کہہ دیا کہ ”تشدد پر محمول ہے“۔ اتنی ڈانٹ پڑی کہ کوئی حدیث نہیں۔ اچھی طرح یاد نہیں شاید تھی بھی لگا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ”اس کا مطلب تو یہ واکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرانے کے واسطے جھوٹ بول دیا۔ کچھ سوچ کر بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں تیرے ڈرانے کے واسطے؟“ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ”تشدید کی توجیہ احکام میں ہوا کرتی ہے، جیسا کہ شارب خمر کے بارے میں چوتھی مرتبہ پینے کی صورت میں قتل کا حکم ہے اور اسی قسم کے تشدد میں احکام اور اخبار کی حدیث میں تشدد نہیں ہو سکتی“، اس کے بعد جب کبھی اکابر شراح کے کلام میں اخبار کی حدیث میں تشدد کا لفظ دیکھا ہوں تو ڈاٹ یا ڈا جاتی ہے۔

ان کو یہ بھی اہتمام تھا کہ شاگرد سے استاذ کی بے ادبی نہ ہو، میں نے چونکہ مشکوٰۃ شریف اس طرز سے پڑھی جواہر گزرا اور مدرسہ کے اندر مشکوٰۃ اور حدیث کی کتب لمبی لمبی تقریروں سے ہوتی تھی، میں نے کئی دفعہ اجازت چاہی کہ حدیث کی فلاں کتاب کی سماعت کر لوں۔ بڑی شدت سے

منع فرمایا کہ حدیث کی کتاب اپنے اور حضرت قدس سرہ کے علاوہ کسی سے نہیں پڑھنی، البتہ منطق و ناطق کی کتاب کسی اور سے پڑھنے تو مفضلہ نہیں اور ارشاد فرمایا کہ ”تو چونکہ بے ادب گستاخ ہے، منطق فلسفہ وغیرہ کے اساتذہ میں سے اگر کسی کی گستاخی کرے گا تو وہ کتابیں جاتی رہیں گی، بلکہ سے جاتی رہیں لیکن حدیث کے اساتذہ میں سے اگر کسی کی تونے گستاخی کی تو یہ کوار انہیں کہ تیری حدیث ضائع ہو“

”خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو نہ افسانہ تھا“

### میرے ہی قلم سے تحریر:

(۱۱)..... یہ سارے افسانے خواب ہی ہو گئے اور یہ سارے مراحل والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال سے تقریباً ڈبڑھ سال پہلے ختم ہو گئے، اس کے بعد گویا نگرانی ختم ہو گئی۔ انتقال سے تقریباً ایک سال پہلے یا اس سے بھی کچھ زائد، حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ جن کا شدید اصرار والد صاحب کے بار بار بلانے پر رہتا تھا، ان کے خط کے جواب میں والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی قلم سے تحریر فرمایا کہ ”اب تک عزیز زکریا کی بیڑی میرے پاؤں میں ایسی زنجیر بنی ہوئی تھی کہ میں اس کی وجہ سے کہیں آجائیں سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا ہے۔

حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ بہت اشتیاق رہتا تھا اسی لیے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رائے پور طویل قیام کے لیے تشریف لے گئے اس ناکارہ نے ان کی تشریف ہری کے بعد مکاری سے ان کی یاد اور ان کی غیبت سے اپنے نقسان کا اظہار کیا تو جواب میں تحریر فرمایا ”بڑوں کی نگرانی کی حاجت اس وقت تک رہتی ہے جب تک تعلق مَعَ اللہ پیدا نہ ہو اور اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے تمہارے اندر پیدا ہو گیا اب میری ضرورت نہیں رہی۔“

کاش اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے والد صاحب کے اس حسن ظن کو ان کے بعد میرے دوسرے اکابر اور احباب و اصحاب کے حسن ظن کو ”آتا عنده ظن عَبْدِي بِي“ کے عالی شان فرمان کے وجہ سے صحیح فرمادے تو اس کے لطف و کرم اور ان احسانات عظیمه سے بعید نہیں جو ہمیشہ ہی میری ناپاکیوں کے باوجود در ہے۔

یہ تو آپ کی سوانح کے صرف ایک باب پر تقدیری استدراک تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ نشانات سننے میں لگائے ہیں، ان کو بھی درج کرتا ہوں، تاکہ طبع ثانی میں ان کی رعایت ہو جائے۔

محمد زکریا

منظارِ ہر علوم۔ سہار پور

بروز جمعہ ۲ شعبان ۱۴۷۵ھ

دوسرے نشانات چونکہ کتاب کی طباعت کے متعلق تھے اس لیے ان کی تصحیح کے لیے کتاب ہی تصحیح دی گئی۔



ان نینوں کا بھی بسیکھ  
وہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھ  
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں  
محوجیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے

عزیز مولوی محمد ثانی سلمہ کے پاس جو مضمون میں نے بھیجا تھا وہ صرف اوپر والا تھا، جب اس کی اشاعت کا خیال ہوا تو بعض دوستوں کا اصرار ہوا کہ میں نے چند روز ہوئے جو مضمون مدرسین و ملازمین مدرسہ مظاہر علوم کی خدمت میں بھیجا تھا وہ بھی اس کے ساتھ شائع ہونا ضروری ہے، مجھے بھی مناسب معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ سالہ قیام مظاہر علوم کے دوران جو کچھ دیکھا اور اکابر کے متعلق سُنا وہ بھی کچھ حذف و اضافے کے ساتھ اجمالاً دوستوں کے سامنے آ جائے کہ یہ واقعات اب سے کچھ پہلے تو سب کو معلوم اور زبان پر جاری تھے مگر اب ان واقعات کے دیکھنے اور سننے والے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، آئینہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو گا کہ اکابر کا معمول مدارس کے سلسلے میں کس قدر احتیاط اور شدت کا رہا۔ یہ ناکارہ طلب علم کے زمانے میں ۱۳۲۸ھ میں آیا تھا جب کہ میری عمر تیرہ سال سے کم تھی اور اب ربیع الآخر ۱۳۸۸ھ شروع ہو گیا، تقریباً سانچھ سال اس مدرسہ کے اندر ہو گئے ہیں، دیکھا اور سناتو بہت کچھ اور ان سب کا احصاء دشوار بھی اور بڑی طویل کتاب چاہتا ہے، لیکن نمونہ کے طور پر چند واقعات اہل مدارس کی خدمت میں ضرور پیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ شاید کسی اللہ کے بندے کو ان اکابر کے اتباع کی توفیق نصیب ہو جائے۔ بہت اختصار کے ساتھ صرف نمونہ کے طور پر چند واقعات ذکر کرتا ہوں۔

### حضرت شاہ عبدالرحیم کا مشہور مقولہ:

(۱) ..... قدوة الاتقیاء حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ سرپرست دارالعلوم دیوبند و مظاہر علوم سہارنپور کا یہ مقولہ بہت ہی مشہور تھا اور سنابھی ہے کہ مجھے مدارس کی سرپرستی سے جتنا ڈر لگتا ہے اتنا کسی سے نہیں لگتا۔ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں ملازم ہو وہ مالک کے کام میں کوتا ہی کرے، خیانت کرے، کسی قسم کا نقصان پہنچائے، ملازمت سے علیحدہ ہوتے وقت یا مرتے وقت مالک سے معاف کرائے تو معاف ہو سکتا ہے لیکن مدرسون کا روپیہ جو عام غرباء اور اور مزدوروں کے دودوپیے ایک ایک آٹے کا چندہ ہوتا ہے ہم سب سرپرستان مدرسہ اس کے مالک تو نہیں، امین ہیں۔ اگر اس مال کے اندر افراط و تفریط ہو تو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے معاف تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دوسرے کے مال میں ہم کو معافی کا کیا حق ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہم اگر

بمصاحی مدرسہ چشم پوشی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے درگز رفرما لے۔ لیکن اگر اپنے ذاتی تعلقات سے ہم لوگ تابع کریں تو ہم بھی جرم کے اندر شریک ہیں۔ لیکن جرم کرنے والے سے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہو سکتا کہ حقوق العباد ہے اور جن کامال ہے وہ اتنے کثیر ہیں کہ ان سے معاف نہیں کرایا جاسکتا۔

### حضرت اقدس مولانا الحاج احمد علی صاحب کا کمال تقویٰ:

(۲)..... حضرت اقدس شیخ مشائخ الحمد شیخ مولانا الحاج احمد علی صاحب محدث سہار پوری، بخاری، ترمذی کتب حدیث کے مخشی اور مشہور عالم محدث ہیں۔ جب مظاہر علوم کی قدیم تغیر کے چندہ کے سلسلے میں گلکتہ تشریف لے گئے تو وہاں مولانا کا اکثر قیام رہا ہے اور وہاں کے لوگوں سے وسیع تعلقات تھے تو مولانا مرحوم نے سفر سے واپسی پر اپنے سفر کی آمد و خرچ کا مفصل حساب مدرسہ میں داخل کیا تو وہ رجسٹر میں نے خود پڑھا۔ اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ گلکتہ میں فلاں جگہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ اگرچہ وہاں چندہ خوب ہوا لیکن میری سفر کی نیت دوست سے ملنے کی تھی چندہ کی نہیں تھی۔ اس لیے وہاں کی آمد و رفت کا اتنا کرایہ حساب سے وضع کر لیا جائے۔

(۳)..... حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی قدس سرہ (جو گویا مظاہر علوم کے بانی ہیں) کا یہ معمول میری جوانی میں عام طور سے مشہور اور لوگوں کو معلوم تھا کہ مدرسہ کے اوقات میں جب کوئی مولانا قدس سرہ کا عزیز ذاتی ملاقات کے لیے آتا تو اس سے باقیں شروع کرتے وقت گھری دیکھ لیتے اور واپسی پر گھری دیکھ کر کتاب میں ایک پرچار کھارہ تھا اس پر تاریخ وار آن منشوں کا اندرج فرمائیتے تھے اور مہینہ کے ختم پر ان کو جمع فرمایا اگر نصف یوم سے کم تو آدھہ روز کی رخصت اور اگر نصف یوم سے زیادہ ہوتا تو ایک یوم کی رخصت مدرسہ میں لکھا دیتے۔ البتہ اگر کوئی فتویٰ وغیرہ پوچھنے آتا تھا مدرسہ کے کسی کام سے آتا تو اس کا اندرج فرمائیتے تھے۔

(۴)..... حضرت اقدس سیدی مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جب یکساںہ قیام چجاز کے بعد آخر ۳۲ھ میں مظاہر علوم میں تشریف لائے تو میرے والد مولانا محمد بھی صاحب نور اللہ مرقدہ کا شروع ذیقعدہ میں انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت نے مدرسہ سے تخلواہ لینے سے یہ تحریر فرمایا کہ ان کا مام سمجھ کر کرتے تھے اور میں وہ دونوں مل کر ایک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے، اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں مدرسہ کی تعلیم کا پورا کام نہیں کر سکتا اس لیے قبول تخلواہ سے معدود ہوں۔ اس پر حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑی طویل تحریرات ہوئیں۔

حضرت رائپوری نے لکھا کہ آپ کے وجود کی مدرسہ کو سخت ضرورت ہے، آپ کے وجود سے مدرسہ کا سارا نظام یا حسن و جوہ قائم ہے اس لیے آپ کو مدرسہ اب تعلیم کی تخلواہ نہیں دے گا بلکہ ناظم مدرسہ کی تخلواہ دے گا۔ حضرت کے مدرسہ میں تشریف نہ رکھنے سے مدرسہ کا نقصان ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت رائپوری کی بڑی تائید فرمائی۔ اس پر حضرت سہارپوری نے تخلواہ لینی قبول فرمائی۔

### حضرت سہارپوری کی تخلواہ سے انکار:

اس سے قبل کا قصہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت سہارپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تخلواہ چالیس روپے تھی اور عرصہ تک یہی رہی اور جب بھی ممبرانِ مدرسہ کی طرف سے حضرت کی ترقی کا مسئلہ پیش ہوتا تو حضرت ارشاد فرماتے کہ میری حیثیت سے یہ بھی زائد ہے۔ مگر جب ماتحت مدرسین کی تخلواہ چالیس تک پہنچ گئی تو ممبران نے اصرار کیا کہ آپ کی وجہ سے نیچے کے مدرسین کی ترقی رک جائے گی کہ صدر مدرس سے دوسروں کی تخلواہ بڑھ جائے اس پر حضرت نے اضافہ قبول فرمایا۔

حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے متعلق بھی اس نوع کا قصہ معروف ہے کہ حضرت نے پچاس سے زیادہ کے اضافے کو قبول نہیں فرمایا۔ لیکن عرصہ کے بعد اسی اشکال کی وجہ سے حضرت نور اللہ مرقدہ نے اضافہ قبول فرمایا۔

### مدرسہ کی اشیاء ذاتی استعمال کے لیے نہیں:

(۵)..... میں نے خود توبیہ واقعہ نہیں دیکھا مگر دو (۲) واسطوں سے نہ ہے کہ حضرت اقدس سہارپوری کی خدمت میں ایک صاحب عزیزوں میں سے جو بڑے مرتبہ کے آدمیوں میں سے تھے ملاقات کے لیے تشریف لائے، حضرت سبق پڑھا رہے تھے، اختتام سبق تک تو حضرت نے توجہ بھی نہ فرمائی۔ ختم سبق کے بعد حضرت ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت اسی جگہ تشریف رکھیں، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مدرسہ نے یہ قالین اس باقی پڑھانے کے لیے دیا ہے ذاتی استعمال کے لیے نہیں۔ اس لیے اس قالین سے علیحدہ بیٹھ گئے۔

البتہ یہ واقعہ میرا ہمیشہ کا دیکھا ہوا ہے کہ مدرسہ قدیم (دفتر مدرسہ) میں حضرت کی ہمیشہ دو (۲) چار پالی رہتی تھیں، ان ہی پر حضرت آرام فرماتے تھے ان ہی پر بیٹھتے تھے، مدرسہ کی اشیاء کو میں نے استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

### مہتمم اور مدرسین مظاہر جلسہ کے موقع پر بھی اپنے گھر سے کھانا کھاتے:

(۶)..... مظاہر علوم کا جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا، میں نے اکابر مدرسین و ملازمین میں سے کبھی

کسی کو جلسہ کے لئے کھانے یا چائے یا پان کو کھاتے نہیں دیکھا۔ جملہ حضرات مدرسین اپنا اپنا کھانا کھاتے تھے جب بھی وقت ملے۔ البتہ حضرت قدس سرہ مدرسہ کے خصوصی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن حضرت کے مقام سے دس بارہ آدمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی میں سے حضرت تناول فرماتے تھے۔ مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا۔ مولانا عنایت الہی صاحب مہتمم مدرسہ شب و روز مدرسہ کے اندر رہتے اور ظہر کے وقت یا رات کے پارہ (۱۲) بجے اپنے دفتر کے کوئے میں بیٹھ کر رکھندا اور معمولی کھانا تھا کھالیتے تھے۔

مولانا ظہور الحق صاحب مدرسہ اس زمانے میں مطبخ طعام کے منتظم ہوتے تھے اور چوبیں گھٹھے مطبخ کے اندر رہتے تھے لیکن سالن چاول وغیرہ کا نمک کسی طالب علم سے چکھواتے تھے، خود نہیں چکھتے تھے۔ جب وقت ملتا اپنے گھر جا کر کھانا کھا آتے۔ اسی طرح سے دیگر اکابر مدرسین کو میں نے کوئی شے مدرسہ کی چکھتے نہیں دیکھا۔

ان سب احتیاطوں کے باوجود حضرت سہار پوری قدس سرہ جب ۳۲ھ میں مستقل قیام کے ارادہ سے حجاز تشریف لے گئے تو اپنا ذاتی کتب خانہ یہ فرمایا کہ مدرسہ کے اندر وقف کر گئے تھے کہ نہ معلوم، مدرسہ کے کتنے حقوق ذمہ رہ گئے ہوں گے۔

(۷).....میرے والد صاحب قدس سرہ کے زمانے میں مدرسہ کا مطبخ جاری نہیں ہوا تھا۔ مدرسہ کے قریب کسی طباخ کی دوکان تھی، گھر والوں کے نہ ہونے کے زمانے میں جامع مسجد کے قریب ایک طباخ کی دکان تھی جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے یہاں سے کھانا آیا کرتا تھا۔ سردی کے زمانے میں وہاں سے آتے آتے خصوصاً شام کو رکھندا ہوا تھا، تو سالن کے یہاں کو مدرسہ کے حمام کے سامنے اندر نہیں بلکہ باہر رکھاوائیتے تھے، اس کی پیش سے وہ تھوڑی دیر میں گرم ہوا تھا، تو یہ فرمایا کہ دو تین روپے ہر ماہ چندہ کے اندر داخل فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے انتفاع ہوا ہے۔ تھواہ تو میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے سات سالہ قیام مدرسہ میں کبھی لی ہی نہیں۔

### حضرت مولانا عنایت الہی کے دو قلمدان اور پیش کا واقعہ:

(۸).....حضرت مولانا الحاج عنایت الہی صاحب مہتمم مدرسہ، اللہ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، مدرسہ کے مہتمم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور عدالتی تمام کاروبار ان ہی کے ذمہ تھے اور اس معنی میں محصل چندہ شہر بھی تھے کہ محصل چندہ شہر جب کسی کے متعلق یہ کہتا کہ فلاں صاحب نے چندہ نہیں دیا، دو مرتبہ جا چکا ہوں تو حضرت مہتمم صاحب اپنے گھر آتے جاتے اس کے گھر جاتے اور خوشامد فرماتے کہ تمہارا چندہ نہیں آیا۔ ان کی خوبیوں کا بیان تو اس مختصر تحریر میں نہیں آسکتا۔ لیکن دفتر کے اندر ان کے پاس دو قلمدان رہتے تھے، ایک ذاتی، ایک مدرسہ کا۔ ذاتی قلمدان میں کچھ

ذاتی کاغذر ہے۔ اپنے گھر کوئی ضروری پرچہ بھیجنا ہوتا تو اپنے قلمدان سے لکھتے، مدرسہ کے قلمدان سے کبھی نہیں لکھتے تھے۔ گرمیوں میں سات بجے کے قریب اور سردیوں میں آٹھ بجے کے قریب آتے اور عصر کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ ساری دو پہر کام کرتے اور آتے ہوئے اہل چندہ کے گھر ہوتے ہوئے آتے۔ لیکن حضرت سہارنپوری نوراللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ دوسرے ملاز میں کی ترقی کے ساتھ یہ کہہ کر ان کی ترقی روک دی تھی کہ مدرسہ کے اندر دیر میں تشریف لاتے ہیں۔ میں نے ہر چند عرض کیا کہ حضرت چھ گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں بار بار سفارش اور اصرار بھی کیا، لیکن حضرت فرماتے رہے کہ مدرسہ کے اوقات کی پابندی ملازم کے لیے ضروری ہے۔

(۹) ..... حضرت مہتمم صاحب کی جدوجہد اور جانشناہی، ہمہ تن مدرسہ کے امور میں اشتغال اتنے کثیر واقعات ہیں جو اس قابل تھے کہ ان کی مکمل سوانح لکھی جاتی۔

آخر زمانہ حیات میں امراض کی کثرت اور ضعف کی وجہ سے میں نے یہ تجویز پیش کی کہ حضرت مہتمم صاحب کی پیش ہو جائے۔ مہتمم صاحب مدرسہ کے ابتدائی قیام کے وقت میں ابتدائی طالب علموں میں تھے، اس کے بعد معین مدرس ہوئے اور ترقی فرماتے فرماتے مدرس دوم تک جا پہنچے، دورے کے اسباق بھی اس زمانے میں مرحوم کے یہاں ہوئے۔ ۲۳-۲۴ سے یا وجود مرحوم کے شدید انکار کے بضرورت مہتمم مقرر ہوئے اور اسی عہدے پر ۲۰-۲۱ جمادی الشانیہ کو انتقال ہوا۔ غفران اللہ لله

اخیر زمانہ میں ضعف و پیری کے علاوہ شدید امراض کا ابتلاء رہا۔ صحیح کوڈولی میں بیٹھ کر مدرسہ آتے اور بعد عصر ڈولی میں بیٹھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ اس مشقت کو دیکھ کر مجھے ترس آتا تھا۔ میں نے تفصیلی حالات لکھ کر حضرات سر پستان مدرسہ کی خدمت میں مرحوم کی خدمات جلیلہ کے پیش نظر خصوصی طور پر پیش کی تجویز پیش کی تھی۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سر پست مدرسہ نے یہ تحریر فرمایا کہ ”مدرسہ کے موجودہ چندہ سے پیش جائز نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایک مستقل مدقائق کر کے چندہ کریں، اس میں سے پیش دی جاسکتی ہے، مہتمم صاحب کے متعلق جو لکھا وہ بالکل صحیح ہے، میں اس سے زیادہ واقف ہوں، ان کے لیے جو تم مناسب تجویز کر کے مخصوص احباب سے چندہ مقرر کرالو۔ پانچ روپیہ ماہانہ میں اپنی ذات سے دوں گا۔“

### حضرت سہارنپوری کی اسباق کی نگرانی:

(۱۰) ..... حضرت سہارنپوری نوراللہ مرقدہ کو اس کا بہت اہتمام تھا کہ مدرسہ میں اسباق کے اوقات کی بہت پابندی فرمادیں۔ حضرت کا قانون یہ تھا کہ گھنٹے کے پانچ منٹ بعد فوراً سبق شروع ہو جائے، اس سے پہلے شروع نہ ہو اور گھنٹے سے پانچ منٹ پہلے ختم ہو جائے تاکہ طلبہ کو ایک درس گاہ

سے دوسری درس گاہ جانے میں وقت نہ ہوا اور سبق کا حرج نہ ہو۔ اس کے خلاف اگر کسی مدرس کی شکایت ہوتی تو حضرت کے یہاں سے مدرس سے جواب طلب ہوتا۔ حضرت قدس سرہ کا رعیب جملہ مدرسین پر اتنا زیادہ تھا کہ بجائے سخت لفظ کہنے کے صرف پوچھ لینا، ہمی مدرس کے لیے کافی تھا۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کو اس کا بھی بہت اہتمام تھا کہ اس باقی اعتدال سے ہوں۔ حضرت اس کے نہایت شدید مخالف تھے کہ شروع میں لمبی چوڑی تقریریں ہوں اور آخر میں کتاب رمضانی تروات کی طرح سے جلدی پڑھائی جائے، اس کی شکایت پر بڑے سے بڑے مدرس کو بھی تنیبیہ سے گزیر نہیں فرماتے تھے۔ اسی نظریہ کے ماتحت اور حضرت قدس سرہ کے آخری سے سالہ زمانہ تعلیم کے نمونوں کے موافق وہ نقشہ تعلیم تیار کیا گیا جو عرصہ سے مدرس مظاہر علوم میں معمول یہ ہے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں تعلیم کی نگرانی کا بھی ایک خاص معمول تھا جب طلبہ کی طرف سے کسی مدرس کی شکایت گزرتی تو حضرت قدس سرہ کی اپنی سہ دری میں جہاں حضرت تشریف فرماتے تھے، میں سبق کے وقت مدرس کے پاس یہ پیغام پہنچتا کہ فلاں سبق گھنٹے کے نیچے ہوگا۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ اس زمانے میں بن گیا تھا، جس کی شرح یہ ہے کہ حضرت کے سہ دری میں ایک گھنٹے کا ہوا تھا جو آج بھی ہے، مدرس گھنٹے کے نیچے بیٹھتا اور طلبہ جن کی جماعت اس وقت چھوٹی ہوتی تھی مدرس کے تینوں طرف اور حضرت قدس سرہ اپنی جگہ مجرے کے سامنے تشریف فرمائجے اور پورے گھنٹے وہاں سبق ہوتا اور حضرت ساکت سنتے رہتے، سبق کے بعد اس وقت حضرت کچھ نہ فرماتے۔ اس کے بعد اگر طلبہ کی شکایت صحیح ہوتی اور معمولی ہوتی تو مدرس کو تنیبیہ فرماتے اور اگر شدید ہوتی تو دو چار روز کے بعد وہ دوسرے مدرس کے یہاں منتقل کر دیتے اور اگر طلبہ کی شکایت غلط ہوتی تو معمولی سراغنوں کا کھانا بند اور اگر سخت ہوتی تو ان کا اخراج فرمادیتے۔ اس کا اثر نہیں یہ رہا کہ مدرسین کو فکر رہتا کہ نہ معلوم سبق کب گھنٹے کے نیچے پڑھانا پڑ جائے اور طلبہ کو بھی شکایت کے اندر بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی، کہ اگر حضرت کے نزدیک شکایت غلط ہوتی تو کھانا بند ہو جاتا معمولی بات ہے اور اخراج کا امکان۔

اس کے علاوہ حضرت قدس سرہ کا یہ بھی معمول تھا کہ خصوصی مہماں کو مدرس دکھلانے کے لیے خود تشریف لے جاتے اور مہماں کو درس گاہ کے سامنے گشت کرتے ہوئے جس درس گاہ کے سامنے دل چاہے دس پندرہ مت کھڑے رہتے۔ اس ناکارہ کو گھنٹے والے قصے سے تو بھی سابقہ نہیں پڑا، لیکن دوسرے مرحلے سے بار بار گزرنا پڑا۔ اس ناکارہ کو اپنی جوانی میں بخار وغیرہ امراض کی وجہ سے سبق ناممکن کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دفعہ مشکلہ تشریف کا سبق نہایت شدت بخار کے اندر پڑھا رہا تھا، مُصرّۃ کی بحث تھی اور میں اپنے بخار کے دوران میں زوروں پر تھا۔ اس زمانے کے

سغیر ہند مقام جدہ مدرسہ میں تشریف لائے حضرت ان کو مدرسہ دکھانے خود تشریف لے گئے اور دارالحدیث کے سامنے جہاں مشکلاۃ ہو رہی تھی تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ قیام فرمایا، مجھے حضرت کے کھڑا ہونے کا بالکل علم نہ ہوا کہ، دفعہ حضرت قدس سرہ پر نظر پڑی اور زبان لڑکھڑا گئی اور حضرت فوراً آگے بڑھ گئے۔ بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً پندرہ منٹ سے کھڑے تھے۔

### اخبار بنی سے نفرت:

(۱۱).....اس ناکارہ کی ابتدائی مدرسی کے زمانے میں مظاہر علوم کا کوئی طالب علم اخبار دیکھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ دارالعلوم کے بھی دو چار طالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اخبار کیا چیز ہے، اس زمانے میں ہم لوگوں کے تفریحی معمولات اکابر سلسلہ کی کتب بنی تھی۔ حضرت نانو توی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سہار پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف گویا ہم لوگوں کے لیے اخبار تھے۔ عام طور سے مدرسین اور اوپر کے طلبہ کے شوق و ذوق ان اکابر کی کتابیوں کا مطالعہ تھا۔ اب اس مبارک مشغل کے بجائے اخبارات، لغویات، دوستوں کا مشغله رہ گیا ہے۔

بنیں تفاوتِ رہ از کجا ست تابہ کجا

### صاحب کے طالب علمی کے واقعات:

(۱۲).....حضرت القدس مولانا الحاج شاہ عبدال قادر صاحب را پوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی طالب علمی کے واقعات بہت بی کثرت سے سنائے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سردی میں کوئی کپڑا سردی کا نہیں تھا، کسی سے اظہار کو غیرت مانع تھی۔ اس کی انتہائی کوشش میں رہتا تھا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ جب تک مسجد کے کوڑا کھلے رہتے حمام کے سامنے سکنے کے بہانے سے بیٹھا رہتا اور جب سب چلے جاتے تو مسجد کے اندر رنجیر لگا کر مسجد کی صفائی کے ایک کونے پر لپٹ کر کروٹیں بدلتا ہوا دوسرے کونے تک پہنچ جاتا، وہی صفائی اور ہننا بچھونا بن جاتی تھی۔ سر اور پیروں کی طرف سے خوب ہوا لگتی رہتی تھی۔ تجدید کے وقت اسی طرح کروٹیں بدلتا ہوا دوسری جانب آ جاتا صفائی بچھ جاتی۔ پھر ارشاد فرمایا وہ سردی تو گزر گئی لیکن اللہ کے فضل سے اس کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ مالک کی طرف سے ایک دولحاف عمدہ ہدیہ کے اندر نہ آئے ہوں۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے اپنی طالب علمی کی جدو جہد اور راپور کی ابتدائی حاضری کے واقعات اتنی کثرت سے سنائے کہ ان کے لکھنے کے واسطے بڑا دفتر چاہیے۔

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سہار پور کی طالب علمی کے دور میں داخلہ ہند ہو چکا تھا مطیع تو

مدرسہ کے اندر اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ طلبہ کو وظیفہ ملا کرتا تھا، دارالطلبہ بھی نہیں بنا تھا، اس لیے طلبہ کا قیام مساجد میں رہتا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسجد میں ہمارا پانچ آدمیوں کا قیام تھا، ایک طالب علم امام تھا، اس کا کھانا محلہ سے آتا تھا اور دو کا وظیفہ مدرسہ سے تھا، وہ اس باق سے فارغ ہونے کے بعد اپنی روٹی خود ہی پکایا کرتے تھے، کبھی دال بھی پکائی ورنہ چٹپتی، تین آدمیوں کا کھانا ہم پانچ آدمی کھایا کرتے تھے۔ پیٹ صرف اس دن بھر تا تھا جب کہ محلہ میں کسی جگہ دعوت ہوتی تھی یا جمعرات وغیرہ کو مسجد میں کوئی اور کچھ دے جائے ورنہ آدھی بھوک ہی اکثر کھانے کی نوبت آتی تھی۔

حضرت نے موجودہ طلبہ کے ہنگاموں پر کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم لوگوں نے مطبخ جاری کر کے کیا ہے۔ دونوں وقت پکی پکائی بے فکری سے ملتی ہے، اس لیے کبھی روٹی کچی مل جاتی ہے، کبھی سان ناپسند ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس باق کے بعد اس زمانے میں اپنی اپنی روٹی پکانے کی فکر پڑ جاتی تھی اپنے ہی ہاتھ سے طلبہ عام طور سے پکاتے تھے، پکی پکی جیسے پک جاتی تھی اسی کو غنیمت سمجھتے تھے، اپنی پکائی ہوئی ہوتی تھی اس میں عیب نہیں تکتا تھا اب مطبخ سے پکی پکائی ملے ہے، یمنکروں عیوب اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور شکم سیر روٹی کھا کر لغویات کی سوجھتے ہے، ہم لوگوں کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ خرافات کی سوجھتے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

”الَا يُؤْشِكُ رَجُلٌ شَبَّاعًا عَلَى أَرِينَكِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَمْ مُؤْهَدٌ وَإِنَّمَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَمَ اللَّهُ“  
(الحدیث)

ترجمہ: ”عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی پیٹ بھرا اپنے مزین تحت پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس قرآن پاک کو مضبوط پکڑو، ہم صرف اسی کو مانیں گے جو حلال و حرام قرآن میں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔“  
(مشکوٰۃ برداویت ابی داؤد)

ارشاد مبارک، ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چ فرمایا کہ یہ ساری یا تیس پیٹ بھرا تی اور پیسے سے پیدا ہوتی ہے۔ فقر و فاقہ میں لغویات اور خرافات کی نہیں سوجھتی۔

حضرت نوراللہ مرقدہ اپنے رائپور کی حاضری کے ابتدائی دور کے قصے بھی بہت ہی لطف اور مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے، کیونکہ اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری قدس سرہ کے خادم خاص تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ قدس سرہ کو لٹانے کے بعد

جب دوپہر کو حضرت آرام فرماتے تو میں کواڑ بند کر کے مہمانوں کے کھانے پکنے کی جگہ جاتا، معز الدین مرحوم جو بڑے حضرت کے مہمانوں کے کھانے پکانے کے منتظم تھے وہ سب مہمانوں کو کھلا کر مظہن بند کر کے اپنے گھر چلے جاتے، میں وہاں جا کر دیکھتا۔ کبھی ایک آدھ روٹی پچھی ہوتی ہوئی سالن کی دیکھیوں سے پونجھ کر کھایتا اور کبھی کچھ بھی بچا ہوانہ میں ہوتا تھا تو سوکھے ہوئے ٹکڑے طاقوں وغیرہ میں رکھے ہوئے مل جاتے تھے ان کو پیالے میں ڈال کر پانی میں بھگو کرنے کے ڈال کر اور اگر نمک نہ ملتا تو بغیر نمک ہی کے کھالیا کرتا تھا، کبھی پیٹ بھرتا کبھی نہ بھرتا کسی دوسرے سے تو کیا کہتا میں نے کبھی معز الدین مرحوم سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے واسطے روٹی نہیں رکھی اور کبھی اس قسم کے واقعات سا کرا شاد فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے خدام کے لیے اگر کھانا نہ پچے تو منتظم کی جان کو آجائیں۔

### لکھنے کا واقعہ حضرت حاجی صاحب کا:

(۱۳) ..... میرے پچا جان مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے مجھے ایک مرتبہ کارڈ لکھا کہ کئی دن سے تم کو ایک ضروری خط لکھنے کا تقاضا تھا، مگر میرے پاس کوئی پیر نہ تھا، قرض لینے کو دل نہ چاہا۔ آج اللہ نے پیسے عطا فرمائے ہیں تم کو خط لکھ رہا ہوں۔

اور سید الطائفہ حضرت الحاج مولانا امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک قصہ تو مشہور عالم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کئی دن کے فاقوں کے بعد ایک ایسے مخلص دوست سے جس سے بڑے تعلقات بھی تھے دو بلل قرض مانگے تھے اس نے عذر کر دیا، اس پر حضرت کو بہت ہی رنج و قلق ہوا کہ کیوں مانگے تھے۔ اس کے بعد حضرت قدس سرہ نے خواب میں دیکھا کہ ابتلاء کا دور ختم ہو گیا اب فتوحات کا دور ہے، پھر جو فتوحات ہوں گی وہ سب کو معلوم ہیں۔ ہم لوگوں سے ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔

(۱۴) ..... یہ واقعہ جو آگے لکھوار ہا ہوں میرے سامنے کا تو نہیں ہے مگر میرے ایک عزیز مرحوم نے کئی بار سنایا کہ وہ دہلی کی کسی مسجد میں امام تھے اور پچا جان قدس سرہ کا ابتدائی دور تھا، وہ ایک مرتبہ رمضان میں یہ سمجھ کر کہ پچا جان دہلی کے پیر ہیں رمضان میں بہت فتوحات ہوتی ہوں گی وہ ظہر کے بعد عصر کے وقت نظام الدین پہنچے۔ پچا جان نور اللہ مرقدہ کا معمول عصر کے بعد سے مغرب تک ذکر بالجھر کا تھا، عین افطار کے وقت خدام سے پوچھتے کہ کوئی چیز افطاری کو ہے؟ جو ما حضر ہوتا خدام پیش کر دیتے اور جو کچھ کھانا ہوتا مغرب کے وقت ہی تناول فرمائیتے، وہی افطاری ہوتی اور ہی افطاری کے بعد کا کھانا۔ جب افطار کا وقت ہو گیا اور پچا جان نے حصہ معمول پوچھا کہ لا اور بھائی کچھ ہے کسی نے کہا کہ حضرت کچھ اور تو ہے نہیں کل کے گولہ پچے ہوئے ہیں۔ پچا جان

نے فرمایا کہ وادہ وادہ، وادہ وادہ ضرور لا و میرے عزیز بھی شریک ہو گئے پچا جان نے چار پانچ گولر کھا کر اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا، مغرب کی نماز پڑھائی اور نفلوں کے اندر مشغول ہو گئے۔ عشاء کی اذان تک حب معمول نفلیں پڑھتے رہے، اذان کے قریب فارغ ہو کر تھوڑی دیر لیئے، پھر عشاء اور تراویح بڑے اطمینان سے پڑھا میں۔ وہ غریب عزیز سوچتا ہی رہا کہ کھانے کا نمبر کب کو آئے گا۔ نظام الدین رکے رہنے والے طلب اپنا کھانا خود پکاتے تھے اور پکانے کے بعد ایک ایک دو دو روٹی ان کو تقسیم ہو جاتی تھی، وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کھا لیتے تھے، پچا جان کو تو کیا احساس ہوا ہو گا مگر ان عزیز نے رات بڑی مشکل سے گزاری۔ سحر کے وقت پھر وہی افطاری والا منظر تھا اور وہی گولروں کا لوٹا تھا اور وہی سحری اور وہی شکر۔ صبح کی نماز کے بعد اس عزیز نے دلی آنے کی اجازت چاہی۔ پچا جان بہت بہت نے اور فرمایا کہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ضروریات کا بہت اظہار کیا مگر انہوں نے منظور نہیں فرمایا۔ غریب نے سارے دن روزہ پر روزہ چند گولروں کے سحر و افطار کے ساتھ رکھا تھا، کہا کرتا تھا کہ جو کچھ میرے اوپر گزری تھی میں، ہی جاتا تھا۔ دوسرے دن عصر کے بعد وہی ذکر کا منظر تھا اور مرحوم عزیز کہا کرتا تھا کہ میری جان کو بن رہی تھی کہ اب پھر وہی گول آئیں گے۔ قبل المغرب دہلی سے ریڑھی پر رکھی ہوئی نہایت لذیز مرغ من بریانی کی ایک دیگر آئی جس کی خوبی سے ساری مسجد مہک رہی تھی۔ پچا جان نے افطار کے وقت فرمایا کہ ”آؤ بھائی لطیف! یہ بریانی تمہارے ہی واسطے آئی ہے۔“ مرحوم کہا کرتا تھا کہ دوسرے دن افطار و سحر میں اتنی رغبت اور لذت سے پیٹ بھر کر کھائی کہ عمر بھر یاد رہے گی۔

### صرف روٹی پے گزارا کرنا:

(۱۵)..... میری داوی کے نانا حضرت مولانا مظفر حسین صاحب قدس سرہ کے نام نامی سے ابھی تک ہندو پاک کے ہزاروں آدمی واقف ہیں، ان کی طالب علمی کا ابتدائی دور دہلی میں گزرا، بازار سے کھانا خرید کر کھایا کرتے تھے لیکن صرف روٹی خریدتے تھے، سالن کبھی نہیں خریدتے تھے اور بغیر سالن کے خشک روٹی کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں دہلی کی دکانوں میں جو سالن پکتا تھا اس میں اچھوڑ کا ڈالنالازم تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ آموں کے باغوں کی بیج قبل از بد و صلاح ہوتی ہے جو جائز نہیں ہے، اس لیے سالن سے کبھی روٹی نہ کھاتے تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ کسی مشتبہ مال کو حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کا معدہ قبول نہیں کرتا تھا، اگر کسی جگہ غلطی سے بھی مشتبہ مال کھانے کی توبت آجائی تو قورائی ہو جاتی تھی۔ بہت سے واقعات اس سلسلہ کے حضرت مرحوم کے مشہور و معروف ہیں۔ حضرت مرحوم کے کچھ حالات ”مذکرة الخلیل“ میں، جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کی سوانح ہے، جس میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب، حضرت

اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری، حضرت شیخ الہند، مولانا محمود الحسن صاحب اور میرے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب انیضھوی خلیفہ حضرت گنگوہی قدس سرہم کے حالات بھی مختصر طور پر ذکر کیے گئے ہیں مذکور ہیں۔ ان بزرگوں کے حالات نیز حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی قدس سرہما، حضرت شیخ الہند، حکیم الامم مولانا تھانوی نوراللہ مرائد ہم کی سوانح مستقل شائع ہو چکی ہیں جن سے ان حضرات کے مجاہدات، تقویٰ و طہارت، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کے اندر ہمہ تن مشغولی مفصل موجود ہے۔ احباب کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، ان اکابر کے حالات سے سبق لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی زیادہ ہو جائے بہر حال ختم ہونے والی ہے، موت سے کسی کو چارہ نہیں ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سمجھدار اور عقلمند کا کام ہے دائمی زندگی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہو کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”خدا کی قسم! میں تم لوگوں پر فقیر کا اندیشہ نہیں کرتا، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل جائے گی جیسا کہ پہلوں پر پھیل چکی ہے اور تم اس میں دل لگا بیٹھو گے جیسا کہ وہ لوگ لگا بیٹھے ہیں اور یہ دنیا تم کو بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔“ (مشکوٰۃ برداشت شیخین)

ان حضرات اکابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کو دل میں جگہ دے رکھی تھی اور ان پر عمل کر کے دکھلا دیا۔ ہم لوگوں کو نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق، تھا ان اکابر جن کے ہر قول و فعل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کے اتباع کی امنگ اور شوق۔

فالی اللہ المشتکی

أُولَئِكَ ابْيَانِي فِي جِئْنِي بِسِمْلِهِمْ

إِذَا جَمَعْتُنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعْ

خدایا و آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پسلے  
نبوت کے بیہ وارث ہیں یہی ہیں ظلّ رحمانی  
یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر  
انہیں کے انشا پرناز کرتی ہے مسلمانی  
انہیں کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے  
انہیں کا کام ہے دینی مراعم کی نگہبانی  
رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی  
 اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے  
 اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخن دانی  
 لکھنے کو بہت جی چاہتا ہے مگر اس کے لیے تو بڑے دفتر چاہیں، نمونہ کے لیے یہ بھی کافی ہیں۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فقط

محمد زکریا

منظہ ہر علوم سہار پور

۱۵ اربيع الآخر ۸۸۵ھ

اضافات برحواشی وغیرہ کیم شعبان المعظم ۱۳۹۶ھ جمعۃ المبارک

آپ پریس  
یا

یادداں پر

## جس میں

حضرت اقدس شیخ الحدیث، عارف کبیر  
مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ کے  
طفولیت تعلیم، تدریس، تالیف کے حالات  
تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔

ناشر

مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی نمبر ۲ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

یہ رسالہ جیسا کہ اس کی تمجید سے معلوم ہو گا آپ بینی نمبر ۲ تجویز  
کھا اور لکھتے وقت ابتداء خیال بھی تھا کہ جس طرح اس کے حصہ نمبر ا  
کے درمیان مختصر اوقاعات آئے ہیں ایسے ہی اس میں بھی آجائیں  
گے اور اسی کے برابر آپ بینی نمبر ۲، نمبر ۳ میں علی گڑھ کے قیام  
میں جتنے واقعات متفرق یاد آتے رہیں گے لکھواتار ہوں گا۔ مگر  
اس کے شروع ہی میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مضمایں کو الگ الگ  
فصول اور ابواب میں تقسیم کر دیا جائے اور شروع ہی میں آٹھ باب  
ذہن میں آگئے تھے اور علی گڑھ کے چند روزہ قیام میں آٹھوں بابوں  
پر کچھ اجمالی اور کچھ تفصیلی واقعات لکھے جا پکے تھے یہاں آکر جب  
اس کو صاف نقل کرایا تو وہ مستقل ایک طویل رسالہ بن گیا۔ اس لیے  
متعدد دوستوں بالخصوص مولوی عبدالرحیم متلا سلمہ کا اصرار ہے کہ اس  
کو اول کا جزء نہ بنایا جائے بلکہ اس کو مستقل ایک رسالہ یاد ایام کے نام  
سے شائع کرایا جائے کہ اس کے مضمایں اول سے بہت مختلف ہیں۔  
اس لیے اس کا نام آپ بینی نمبر ۲ یا یاد ایام نمبر اسے موسوم کرتا ہوں اور  
چونکہ یہ آٹھ ابواب پر مشتمل ہے اس لیے خیال ہے کہ ہر نمبر میں دو دو باب  
آجائیں گے جو معتدل اور مناسب رسالوں کی شکل میں شائع ہو سکیں گے۔

فقط والسلام

محمد زکریا کاندھلوی

۱۵ شعبان المظہم ۱۴۳۹ھ

بسم اللہ الرَّحْمٰن الرَّحِیْم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ  
حَامِدًا وَمُصَلِّیاً وَمُسَلِّمًا

### باب اول

#### اعمال کا مدار نیتوں پر ہے

[فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّين] [لَنْ يَنالَ اللَّهُ لَحْوُهَا وَلَا دَمًا وَهَا وَلِكُنْ يَنالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ] "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِإِمْرٍ إِيمَانُهُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَعْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"

ترجمہ: اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ "اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو اور یہ کہ اس کے پاس قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تقویٰ اور پرہیز گاری پہنچتی ہے۔" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ "اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ جس کی هجرت اپنی نیت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اللہ کے نزدیک اور مال کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جس کی هجرت دنیا یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہوگی اس کی هجرت بھی اسی کی طرف ہوگی جس کی نیت کی ہو۔" یہ حدیث پاک بڑی جامع ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو آدھا علم کہا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک تو تصوف سارا کا سارا یہی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

حدیث پاک میں دو جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی نیت کرے۔ دوسرا مرحلہ پہلے کی تائید بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اکثر وہ نے کہا ہے اور مستقل دوسرا مضمون بھی ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے اور وہ یہ کہ آدمی کسی نیک کام میں جتنی نیتیں کر لے اللہ تعالیٰ سب ہی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مولانا نواب قطب الدین صاحب نے مظاہر حق میں اس کی بہت سی مثالیں لکھی ہیں۔ مثلاً مسجد کے جانے میں بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ نیت اعکاف کی کرے اور اس کے ساتھ اس کی بھی نیت کرے کہ رب کریم کے گھر حاضری ہے اور کریم اپنے یہاں آنے والوں کا اکرام کرتا ہی ہے۔ اسی سے نماز کے انتظار میں جتنی

دری پیشے گا اس کا مستقل ثواب ہو گا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے اور یہ کہ اس مقام پر آنکھ، کان اور دیگر اعضاء کی معا�نی سے حفاظت کا مقام ہے کہ بازار وغیرہ میں یہ سب اعضاء کسی نہ کسی گناہ میں بتلار ہتے ہیں، ان سے حفاظت کی نیت کرے کہ اس کا مستقل ثواب ہو گا اور یہ نیت کرے کہ اس پاک جگہ میں دعا درود پڑھتا رہوں گا اس کا مستقل ثواب ہے اور یہ نیت بھی کر لے کہ یہاں یکسوئی اور کمال توجہ الی اللہ نصیب ہو گی جس کا مستقل ثواب ہے اور یہ بھی نیت کر لے کہ وضو کر کے نماز کے لیے جانے کا ثواب حج اور عمرہ کا ہوتا ہے اور یہ بھی نیت کر لے کہ امر بالمعروف، نبی عن المنکر اور علم حاصل کرنا اور علم سکھانا مجمع کی وجہ سے مسجد میں میسر ہوتا ہے اور یہ بھی نیت کرے کہ مسلمانوں سے ملاقات ہو گی کہ مستقل عبادت ہے اور انہیں سلام کرتے کا موقع ملے گا اور آخرت کے امور میں اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ اور فکر کا موقع ملے گا اور اسی طرح سے بہت سے امور پیدا ہو سکتے ہیں اور جتنے امور کی آدمی نیت کر لے گا ان کا مستقل ثواب ملے گا۔ مالک کے یہاں عطا میں کوئی کمی نہیں ہے:

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے  
درتی رحمت کے ہیں ہر دم کھلے

تقریباً تین سال ہوئے عزیز مولوی سید محمد ثانی ندوی لکھنؤی نے عزیز گرامی قدر و منزلت مولانا الحاج محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح لکھی تھی، اس کا ایک باب اس سید کار کے متعلق تھا، مکرم محترم مولانا الحاج ابو الحسن علی میاں صاحب نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا تھا۔ ساری کتاب کا مسودہ تو طباعت سے پہلے وقت فتح مجھے دکھایا گیا، لیکن اس باب کا مجھ سے اخفا کیا جو طبع ہونے کے بعد دیکھا، جس پر میں نے عزیز مولوی محمد ثانی سلمہ کو لکھا کہ تم نے اس باب کا اضافہ کر کے ریشم میں نٹ کا پیوند لگا کر ساری کتاب ہی کو بد نہ کر دیا اور میں نے اس پر تقدیم کے طور پر ایک خط لکھا، جس میں لکھا کہ جو باقیں لکھنے کی تھیں وہ تو آپ نے لکھنی نہیں اور جونہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں وہ بھی مختصر اور اجمال کے ساتھ اور میں نے چند واقعات جو میرے نزدیک قابل تحریر تھے لکھ کر عزیز موصوف کو دیے، جن کو سن کر بعض دوستوں کا اصرار ان کی طباعت پر ہوا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ مستقل چھتی لیکن دوستوں کے شدید اصرار پر میں نے دو سال ہوئے اسے اپنے رسالہ اسٹر انک کا جزء بنایا کہ آپ بیتی کے نام سے شائع کر دیا۔

اس وقت سے دوستوں کا برابر تقاضا ہے کہ وہ بہت مختصر ہے، اس پر کچھ مزید اضافہ ضرور کیا جائے، بالخصوص گزشتہ سال سفر جاز سے واپسی میں رائے ونڈ کے طلبہ عزیز نے تو بہت ہی زیادہ اصرار کیا اور یہ بھی بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس رسالہ کو اساتذہ سے سبقاً سبقاً بار بار پڑھا اور ان

کے اساتذہ نے بھی اس کی تصدیق و توثیق کی۔ لیکن یہ کوئی علمی مشغلہ نہیں تھا، جس کے لیے بہر حال وقت انکالنا ضرور ہوتا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی معدود ری کے باوجود رسالہ ”جزء الحج و العمرۃ“ کا زیادہ اہتمام ہو رہا تھا اور اسے اکثر اوقات پڑا پڑا استتا تھا کہ مجھے اجماعی الشانی ۹۰ ھ مطابق ۱۲۲ اگست، ۰۷ء کو علی گزہ کے ہسپتال میں اپنی آنکھ کے علاج کے سلسلے میں دوبارہ جانا پڑا کہ پہلی مرتبہ ۲۹ ذی الحجه ۸۹ ھ مطابق ۸ مارچ ۰۷ء کو آپریشن کے لیے جانا ہوا تھا اور ۱۳ مارچ کو آپریشن ہوا تھا، لیکن اس وقت تو بات کرنے کی اور خط و کتابت کی بھی ممانعت تھی، مگر آنکھ میں صفائی نہ آنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ تین دن کے لیے بلا یا تھا کہ تین دن کے معاشرے کے بعد وہ بتلامیں گے کہ مزید قیام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ چنانچہ ڈاکٹروں نے اللہ ان سب ہی کو جزاۓ خیر دے، تین چار دن تک ہر جزء بدن کے معائنے کیے بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے دس بارہ دن یہاں قیام کرنا ضروری ہے، ان ایام میں خالی پڑے پڑے مجھے خیال ہوا کہ دوستوں کی اس فرمائش کو پورا کر دوں اور جو کچھ ان ایام میں ہو سکے ان کو لکھ کر آپ بیتی نمبر ۲ ہنادوں، پھر اگر کبھی مقدر میں ہوا تو نمبر ۳ کی بھی گنجائش ہے۔ اس لیے آج ۲۲ جمادی الشانی ۹۰ ھ مطابق ۱۲۶ اگست ۰۷ء چہارشنبہ کو سم اللہ کرادی۔

چونکہ ہر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد ڈاکٹروں کی آمد ہوتی ہے اور انجکشنوں اور معائنوں کا سلسلہ رہتا ہے اس لیے مسلسل وقت مانا تو یہاں بھی دشوار ہے تاہم چونکہ یہ خیال ہے کہ خبر نہیں یہاں کتنا قیام ہے اس لیے جو وقت بے کار جائے اس میں کوئی کام کی چیز آجائے۔

اگر چڈاک نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، کل ایک مہمان جو سہار پورے آئے ہیں وہ ایک دن کی ڈاک باون (۵۲) خطوط ہندی، پاکی، بکلی، مدنی، لندن اور افریقی وغیرہ لے کر آئے ہیں، جن کے سننے میں بھی کئی دن لگیں گے اور آج رات کو ایک اور صاحب آرہے ہیں، دیکھنے وہ کتنے خط لاویں۔ اس کے باوجود جتنا بھی وقت ملتا رہا دن میں اور رات میں اس کا مسودہ لکھا گیا۔ چونکہ رات کو نیند بہت کم آتی تھی اس لیے رات کو وقت زیادہ ملتا تھا اللہ تعالیٰ دوستوں کو جزاۓ خیر دے کہ وہ بھی میری وجہ سے اپنی نیند ضائع کرتے تھے۔

- وہاں کے اخْتَارِ روز کے قیام میں جو اس کی ابتداء کے بعد سے ۱۳ نومبر تک ہوئے، آٹھ بابوں کا مسودہ تقریباً تیار ہو گیا، جن میں سے بعض ابواب کے مضامین تو پورے آگئے اور بعض ابواب کے مضامین بطور فہرست جو یاد آتے رہے وہ لکھے گئے، تکمیل سہار پورے آنے کے بعد ہوئی۔

ان میں سب سے پہلا باب ”حسن نیت“ کے متعلق ہے۔ دوسرا ”درس و مدریس مظاہر علوم و تالیفات“ کے متعلق ہے۔ تیسرا ”اپنی چند بری عادتوں کا بیان“ ہے۔ چوتھا جو درحقیقت تیرے باب ہی کا جز ہے ”حوداث اور شادیوں میں اپنا معمول“۔ پانچواں ”تحدیث بالعتمۃ“ ہے۔ چھٹے

میں ”اپنے جوں کی کچھ تفصیلات“، جو درحقیقت میں پانچویں ہی باب کا جز ہے۔ ساتواں باب ”تفصیل ہند“ اور آٹھواں باب ”متفرقات“۔ ان میں بعض اجمالاً اور بعض تفصیلاً علی گڑھ میں لکھے جا چکے تھے، شاید کبھی موقع ہوتوان پر اضافہ بھی ہو جائے۔

پہلا باب جس کے متعلق قرآن پاک کی دو آیتیں اور ایک حدیث پاک بھی لکھی جا چکی ہے وہ ایمان و اسلام، احسان و سلوک سب ہی کا لپٹ باب ہے اور خلاصہ ہے۔ چند واقعات اس سلسلے میں یاد آگئے۔

### مولانا حبیب الرحمن صاحب کا سوال اور بندہ کا جواب:

(۱) ..... مولانا حبیب الرحمن رئیس الاحرار کے دیکھنے والے تو ابھی بہت ہوں گے اور نام سننے والے تو بہت زیادہ۔ مفہماں میں تو مرحوم کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور تعلق اس درج بڑھ گیا تھا کہ وہ بجائے دہلی کے سہارپور میرے پاس رہنے کی تمنا میں بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے بلکہ اصرار بھی اور میں اپنے بے گار اور ان کے باکار ہونے کی وجہ سے اس کو بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن ابتداء میں میرے اور مرحوم کے تعلقات بہت ہی خراب تھے۔ ان کی تو مظاہر میں بھی ان زمانے میں آمد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مجھے دیوبند کبھی بھی حضرت قدس سرہ کافر ستادہ بن کر کتب خانے سے کسی کتاب کی تلاش میں یا محترمین ہمہ ممین رحمہم اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر مشورہ کے لیے جاتا ہوتا تھا۔ ایک بجے والی سے جانا ہوتا تھا اور ہمروزہ واپسی کے ارادہ سے جانا ہوتا تھا۔

رئیس الاحرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت واقف تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ مدرسہ کا مدرس ہوں اور میں ان سے صرف تناول اقتضان کے لدھیانہ کا کوئی طالب علم جس کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں لیڈ ری کرتا تھا، وہ چونکہ گھومتے رہتے تھے اس واسطے میری دیوبند کی ہر مرتبہ کی آمد پر دو تین مرتبہ ان کا سامنا ہوتا اور وہ بہت ہی چلا کر مجھے سنا کر بہت ناراضی کا اظہار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں سیاست سے بالکل بے تعلق، اخبار بینی کا دشمن ہوں اور اس زمانے میں دیوبند، سہارپور میں اخبار بینی آئی بھی نہیں تھی۔ سہارپور کا کوئی طالب علم یا مدرس تو اخبار بینی جانتا ہی نہ تھا کہ کیا بلا ہے۔ حضرت قدس سرہ کی چار پانی پر عصر کے بعد دو چار اخبار پڑے رہتے تھے جن کو کوئی باہر کا مہمان اٹھا کر دیکھ لیتا تھا۔ دیوبند میں مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ہمتوں تو نہایت مخالف اور اخبار بینی کے دشمن۔ لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ مدرسین کوئی ایک آدھہ دیکھ لیتا تھا۔ رئیس الاحرار صاحب مرحوم جب مجھے دیکھتے، دور سے چلا کر کہتے ”ایے شخص کا وجود زمین پر بوجھ ہے، یہ مرکیوں نہیں جاتے، ان کے لیے زمین کا اندر وہ زمین کے پیر دن سے بہتر ہے۔“ وغیرہ وغیرہ اور اس ناکارہ کی اتنی جرأت تو نہیں ہوتی۔

تحمی کے پکار کر کچھ کہتا۔ مگر ایک دو طالب علم جو مجھے دیکھ کر میرے ساتھ ہو لیتے تھے ان سے پیام آکھلوادیتا تھا کہ "اس شخص کو مدرسہ کی روٹی کھانا حرام ہے، مدرسہ کا چندہ لیڈری کے واسطے نہیں آتا۔ جس شخص کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی واسطہ نہ ہو، مطالعہ سبق سے کوئی کام نہ ہواں کو مدرسہ کی روٹی کھانا حرام ہے۔ مدرسہ کے اندر قیام ناجائز ہے۔ مدرسہ کی ہر قسم کی اعانت حاصل کرنا گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پیام پر مرحوم اور بھی زیادہ برافروختہ ہوا کرتے۔ کئی سال بھی قصر رہا۔

مگر اللہ جل شلیل نے مرحوم کی دھیگری فرمائی کہ اعلیٰ حضرت قدوسۃ الاعیان فخر الاولیاء حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے اخیر زمانہ حیات میں حضرت قدس سرہ سے حضرت الحاج شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے کہ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ اعلیٰ حضرت سے جو شخص بیعت ہونا چاہتا تھا، ضعف و نقاہت کی وجہ سے حضرت خود تو نہ فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ بیعت کے الفاظ کھلا دیتے تھے۔ بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اثر سے خالی نہیں جاتا۔ چنانچہ یہ تعلق رنگ لائے بغیر نہیں رہا اور آخر میں تو رئیس الاحرار کو حضرت مولانا عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ سے عشق کا تعلق ہو گیا تھا اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس سے کار سے بھی، لیکن شروع کے چند سال ایسے گزرے کہ مرحوم اپنی سیاحت میں رہتے۔ کلکتہ، سمبی اور پشاور وغیرہ ان کی روزمرہ کی گز رگاہ تھی اور سہار پور ہر جگہ کا جتناش۔ اس لیے جب سہار پور سے گزر ہوتا تو ہر روزہ واپسی یا ایک شب قیام کے لیے رائے پور بھی جاتے۔

اس کے دیکھنے والے تو آج بھی سینکڑوں ہیں کہ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کار کے ساتھ عشق کا ساتھ تھا، جملہ مفترغہ کے طور پر ایک واقعہ لکھتا ہوں کہ میرے محلص دوست صوفی اقبال پاکستانی تم المدنی جو پاکستان میں ملازم تھے جب حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ پاکستان جاتے اور صوفی اقبال مجھے خط لکھتے تو بہت اصرار سے مجھے لکھا کرتے کہ میرے خط کے جواب میں حضرت رائے پوری کو سلام ضرور لکھو دیجیو۔ اس لیے کہ جب میں عصر کے بعد کی مجلس میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ شیخ کا خط آیا ہے حضرت کو سلام لکھا ہے تو فوراً چار پائی کے قریب بلا یا جاتا ہوں اور فوراً خیریت و حالات وغیرہ دریافت کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے مغرب تک چار پائی کے قریب بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔

اس تعلق کی بناء پر جب کوئی شخص رائے پور حاضر ہوتا تو حضرت کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ شیخ سے مل کر آئے یا نہیں؟ اگر وہ کہتا کہ مل کر آیا ہوں تو بڑی بشاشت سے بات پوچھتے، خیریت پوچھتے، کیا کر رہے تھے؟ کوئی پیام دیا وغیرہ وغیرہ اور اگر وہ کہتا کہ نہیں مل کر آیا تو زیادہ التفات نہ فرماتے، بلکہ جیسا تعلق ہوتا ویسا ہی برداشت کرتے۔ اس مجبوری کو بہت سے ایسے لوگ جن میں رئیس الاحرار

بھی تھے باوجود دل نہ چاہئے کے نہایت گرانی کے ساتھ کھڑے مصافی کرنا ضروری سمجھتے تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہو کر آیا ہوں اور سلام عرض کیا ہے اور میں بھی اس قسم کے لوگوں سے باوجود جی نہ چاہئے کے چاہے کتنی ہی مشغولی کا وقت ہو اور کتنا ہی ضروری کام کر رہا ہوتا ضرور بلا کر حضرت کی خدمت میں سلام عرض کر دیتا۔ مبادا وہ جا کر کہہ دیں کہ میں تو حاضر ہوا تھا باریابی نہ ہوئی۔

رئیس الاحرار مرحوم سے کئی سال سے صرف اس نوع کی ملاقات رہی۔ ایک مرتبہ ابیح صحیح کو میں اوپر اپنے کمرے میں نہایت مشغول تھا، مولوی نصیر نے اوپر جا کر کہا کہ ”رئیس الاحرار آئے ہیں رائے پور جا رہے ہیں صرف مصافی کرنا ہے۔“ میں نے کہا ”جلدی بلاؤ،“ مرحوم اوپر چڑھے اور زینے پر چڑھتے ہی سلام کے بعد مصافی کے لیے ہاتھ بڑھا کر کہا کہ ”رائے پور جا رہا ہوں اور ایک سوال آپ سے کر کے جا رہا ہوں اور پرسوں صحیح واپسی ہے اس کا جواب آپ سوچ رکھیں، واپسی میں جواب لے لوں گا۔ یہ تصوف کیا بلاء ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟“ میں نے مصافی کرتے کرتے یہ جواب دیا کہ ”صرف صحیح نیت۔“ اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس کی ابتداء ائمما الأعْمَال بالنیّات سے ہوتی ہے اور انتہا ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَانَكَ تَرَاهُ“ ہے۔ میرے اس جواب پر سکتے میں طاری ہو گئے اور کہنے لگے ”دلی سے یہ سوچتا آرہا ہوں کہ تو یہ جواب دے گا تو یہ اعتراض کروں گا اور یہ جواب دے گا تو یہ اعتراض، اس کو تو میں نے سوچا ہی نہیں۔“ میں نے کہا کہ جاؤ تاگے والے کو بھی تقاضا ہو گا، میرا بھی حرج ہو رہا ہے، پرسوں تک اس پر اعتراض سوچتے رہتا۔ اس کا خیال رہے کہ دن میں لمبی بات کا وقت نہیں ملنے کا، دو چار منٹ کو تو دن میں بھی کراں گا۔ لمبی بات چاہو گے تو مغرب کے بعد ہو سکے گی۔“ مرحوم دوسرے ہی دن شام کو مغرب کے قریب آگئے اور کہا کہ ”کل رات کو تو نہرنا مشکل تھا، اس لیے مجھے فلاں جلسہ میں جانا ہے اور رات کو تمہارے پاس نہرنا ضروری ہو گیا، اس لیے ایک دن پہلے ہی چلا آیا۔“ اور یہ بھی کہا کہ ”تمہیں معلوم ہے مجھے تم سے کبھی نہ عقیدت ہوئی نہ محبت۔“ میں نے کہا ”علیٰ هذَا القياس۔“ مرحوم نے کہا ”مگر تمہارے کل کے جواب نے مجھ پر تو بہت اثر کیا اور میں کل سے اب تک سوچتا رہا۔ تمہارے جواب پر کوئی اعتراض سمجھی میں نہیں آیا۔“ میں نے کہا ”إِنَّهَا اللَّهُ مُوَلَّا نَا اعْتِرَاضٌ مُّلْنَى كا بھی نہیں۔“ ”إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ سارے تصوف کی ابتداء ہے اور ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَانَكَ تَرَاهُ“ سارے تصوف کا منتها ہے۔ اسی کو نسبت کہتے ہیں، اسی کو یادداشت کہتے ہیں، اسی کو حضوری کہتے ہیں۔

حضوری گرہمی خواہی، ازو غافل مشو حافظ

مَتَّى مَاتَلَقَ مَنْ تَهْوَى دَعَ الدُّنْيَا وَ أَمْهَلَهَا

میں نے کہا ”مولوی صاحب سارے پاپ اسی کے لیے پیلے جاتے ہیں۔ ذکر بالجھر بھی اسی واسطے ہے، مجاہدہ اور مراقبہ بھی اسی واسطے ہے اور جس کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے کسی بھی طرح یہ دولت عطا کر دے اس کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیاء اثر سے ایک ہی نظر میں سب کچھ ہو جاتے تھے اور ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد اکابر اور حکماء امت نے قلبی امراض کی کثرت کی بنا پر مختلف علاج چیزیں کہ اطباء بدنسی امراض کے لیے تجویز کرتے ہیں، روحاںی اطباء نے روحاںی امراض کے لیے ہر زمانے کے مناسب اپنے تجربات جو اسلاف کے تجربات سے مستنبط تھے نئے تجویز فرمائے ہیں جو بعضوں کو بہت جلد لقوع پہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت دریگتی ہے۔“

پھر میں نے مرحوم کو متعدد قصے سنائے، جن میں سے ایک قصہ تو میں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا اور کئی مرتبہ سنا اور میں نے بھی حدیث کے اس باقی میں اور دوستوں کی مجالس میں ہزاروں مرتبہ اس کو سنایا ہوا گا وہ یہ کہ:

قصہ پانی پت کا ضلع کرنال ہے، ان دونوں کے درمیان جمنا چلتی تھی، معلوم نہیں اب بھی ایسا ہے یا نہیں، جمنا کا ہر جگہ دستور یہ ہے کہ خشکی کے زمانے میں لوگ جوتے ہاتھ میں لے کر پار ہو جاتے ہیں، جہاں پانی زیادہ ہو وہاں کشتیاں کھڑی رہتی ہیں، ملاج دوچار پیسے لے کر ادھر سے ادھر پہنچادیتے ہیں، لیکن جب جمنا طغیانی پر ہوتا پھر عبور نا ممکن ہوتا ہے۔

ایک شخص پانی پت کا رہنے والا، جس پر خون کا مقدمہ کرنال میں تھا اور جمنا میں طغیانی اور نہایت زور۔ وہ ایک ایک ملاج کی خوشامد درآمد کرتا رہا، مگر ہر شخص کا ایک جواب کہ اس میں تیرے ساتھ اپنے آپ کو ڈبوئیں گے۔ وہ بیچارہ غریب پریشان روتا پھر رہا تھا۔ ایک شخص نے اس کی بدحالی دیکھ کر کہا کہ اگر میرا نام نہ لے تو ترکیب بتاؤں، جمنا کے قریب فلاں جگدا ایک جھونپڑی پڑی ہوئی ہے اس میں ایک صاحب محذوب قسم کے پڑے رہتے ہیں، ان کے جا کر سر ہو جا، خوشامد، منت ساجت (خوشامد پر ایک قصہ کیمیاء کیا دا آگیا، وہ باب ہشتم میں یاد رہا تو انشاء اللہ تکھواؤں گا) جو کچھ تجھ سے ہو سکے کسرتہ چھوڑنا اور جتنا بھی برا بھلا کہیں حتیٰ کے اگر تجھے ماریں بھی تو منہ نہ موڑتا۔ چنانچہ یہ شخص ان کے پاس گیا اور ان سے خوشامد درآمد کی، انہوں نے اپنی عادت کے موافق خوب ملامت کی کہ میں کوئی خدا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر جب یہ روتا ہی رہا (اور روتا تو ہڑے کام کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمادے) تو ان بزرگ نے کہا کہ ”جمنا سے کہہ دے کہ اس شخص نے جس نے نہ عمر بھر کچھ کھایا نہ بیوی کے پاس گیا، اس نے بھیجا ہے کہ مجھے راستہ

دے دے۔ ”چنانچہ یہ گیا اور جتنا نے راستہ دے دیا۔ اس کا تو کام ہو گیا۔

اس میں کوئی استبعاد نہیں، پہلے انہیاء کے معمراں اس امت کی کرامات ہیں اور پانی پر چلنے کے قصے تو صحابہ کرام کے بھی تواریخ میں منقول ہیں اور کرامات صحابہ رضی اللہ عنہ تو مستقل ایک رسالہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا گیا تھا، جس میں علاء بن الحضر می صحابی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ایک جہاد میں جو کسری سے ہوا تھا۔ سمندر میں گھوڑے ڈال دینا اور سمندر کو پار کر دینا جس میں زینیں بھی نہ بھیگیں، نقل کیا گیا ہے۔ عامل کسری یہ دیکھ کر ایک کشتی میں بیٹھ کر یہ کہہ کر بھاگ گیا کہ ان سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اس واقعے کو ابن عبد البر اور تاج الدین سکلی نے بھی مختصر آذ کر کیا ہے۔

اس جھوتپڑی میں ان بزرگ کے بیوی بچے بھی تھے۔ دینداروں کی بیویاں ذریثہ خصم ہوتی ہیں، یہ بیچارے اس فکر میں رہتے ہیں کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر سیر پر چڑھ جاتی ہیں، ان بزرگ کی بھوی نے رونا شروع کیا کہ ”عمر بھر کبھی پچھہ کھایا نہیں، بغیر کھائے ہا بھی بن رہا ہے، اس کو تو تو جانے تیرا خدا۔“ مگر تو نے جو یہ کہا کہ میں بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، یہ سنت کی دھماڑ میں کہاں سے لائی؟“ انہوں نے ہر چند سمجھایا کہ ”یہ میری ہی اولاد ہے، میں نے ان کی اولاد ہونے سے انکار نہیں کیا۔“ مگر اس نے اتار و ناچلانا شروع کیا کہ ”تو نے میرا منہ کالا کر دیا، وہ ساری دنیا میں جا کر کہے گا کہ پیر صاحب تو بیوی کے پاس گئے نہیں، یہ اولاد کہاں سے آگئی؟“ ہر چند پیر صاحب نے سمجھانا چاہا مگر اس کی عقل میں نہیں آیا اور جتنا جتنا وہ کہتے وہ رو تی۔ جب بہت دری ہو گئی تو ان پیر صاحب نے یوں کہا کہ میں نے ساری عمر خوب کھایا اللہ کا شکر ہے اور تیرے سے صحبت بھی ہمیشہ خوب کی، تجھے بھی معلوم ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے بچپن میں ایک مولانا سے وعظ میں بات سنی تھی۔ وہ یہ کہ جو کام اللہ کے واسطے کیا جائے وہ دنیا نہیں دین بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے اور ثواب بن جاتا ہے، اس وقت سے میں نے جب بھی کوئی چیز کھائی یا تو اس نیت سے کھائی کہ اس سے اللہ کی عبادت پر قوت حاصل ہو یا اس نیت سے کھائی کہ لانے والے اور کھلانے والے کا دل خوش ہو۔ اسی طرح سے میں شادی کے بعد سے تیرے پاس خوب گیا، لیکن یہ قصہ پہلے سے سنا ہوا تھا اس لیے جب بھی میں تیرے پاس گیا تیرا حق ادا کرنے کی نیت پہلے سے کر لی کہ اللہ نے بیوی کا حق رکھا ہے۔

میں نے تو یہ قصہ اپنے والد صاحب سے بار بار ایسے ہی سنایا۔ مگر مولانا الحاج ابو الحسن علی میاں صاحب دام بحمدہم نے حضرت الحاج شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی نقشبندی بھوپالی کے جو معلومات جمع کیے ہیں اس کے صفحہ ۳۵۶ پر یہ قصہ دوسری نوع سے نقل کیا ہے۔ جو حسب ذیل ہے:

حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر تھے، دوسرے

بزرگ دوسرے کنارے پر۔ ایک بزرگ نے جو متاہل اور صاحب اولاد تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ ”کھانے کا ایک خوان لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر جو دوسرے بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلا کر آؤ۔“ بیوی نے کہا کہ دریا گھرا ہے، میں اس کو کس طرح پار کر کے دوسرے کنارے جاؤں گی؟“ فرمایا کہ ”جب دریا میں قدم رکھنا تو میرا نام لے کر کہنا کہ اگر میرے اور میرے شوہر کے درمیان وہ تعلق ہو جوزن و شوہر میں ہوا کرتا ہے تو مجھے ڈبو دے ورنہ میں پار ہو جاؤں۔“ اس نے یہی کہا۔ یہ کہتا تھا کہ دریا پایا پ ہو گیا اور گھنٹوں گھنٹوں پانی میں وہ دریا کے پار ہو گئیں۔ انہوں نے کھانے کا خوان ان دوسرے بزرگ کو پیش کیا انہوں نے اس کو اکیلے تناول فرمایا (یعنی ختم کر دیا) جب واپس ہونے کا وقت ہوا تو ان کو فکر ہوئی کہ آنے کا وظیفہ تو مجھے معلوم ہو گیا، اب جاتے وقت کیا کہوں؟ ان بزرگ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ ”میں دریا کیسے پار کروں؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”پہلی مرتبہ دریا کو کس طرح پار کیا تھا؟“ انہوں نے کہا کہ ”میرے شوہرنے مجھے یہ ہدایات کی تھی کہ میں اس طرح کہوں انہوں نے فرمایا کہ اب جائے تو میرا نام لے کر کہنا کہ ”اس نے ایک لقمہ بھی کھایا ہو تو میں ڈوب جاؤں ورنہ پار ہو جاؤں۔“ چنانچہ وہ پار ہو گئیں۔

اب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے صاحب اولاد ہو کر خلاف واقعہ بات کیوں کی؟ اور ان بزرگ نے آنکھوں کے سامنے پورا کھانا تناول کرنے کے باوجود ایک لقہ بھی کھانے سے انکار کیوں کیا؟“ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ ”میں نے جو کچھ کیا امرِ الٰہی سے کیا اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کیا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ امرِ الٰہی سے کیا نفس کا اس میں کچھ حصہ نہ تھا اور دنیا جو کچھ کرتی ہے اور جس کارروائج ہے وہ نفس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے امرِ الٰہی پیش نظر نہیں ہوتا، اس لیے دنیا جس کو ازدواجی تعلق اور شکم پری اور نتاً و نوش بھتی ہے، ہم دونوں میں سے کوئی اس کا مرکب نہیں ہوا۔“

لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ وہ پہلا ہو۔ اس قسم کے واقعات متعدد ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس قسم کے واقعات پانی پر چلتا، دریا میں گھوڑوں کا اتار دینا مشہور ہیں۔ یہاں تک پہنچا تھا کہ عصر کے بعد کی مجلس میں شاہ علم اللہ صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے حالات سنائے جا رہے تھے۔ اس میں ایک قصہ کان میں پڑا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ شاہ علم اللہ صاحب نے حضرت بائزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر حائل تھی، اس کے قریب پہنچتے ہی اچانک اس میں صاف راست بن گیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے یہ دیکھ کر فرمایا ”هَلَا مَثْكُرُ اللَّهِ هَلَا مَثْكُرُ اللَّهِ“۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ”یہ شہر اسی حالت میں ہو جائے بندہ لوٹ جائے گا، یا کوئی دوسرا

راستہ اختیار کر لے گا لیکن تیری اس آزمائش سے ذر معلوم ہوتا ہے۔“

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جب سلطان العارفین کو کرامات سے اس درجہ خوف اور گریز تھا اور خدا کی شان بے نیازی سے وہ اس قدر ترساں ولرزائ رہتے تھے تو دوسرے کس شمار میں ہیں۔ طالب حق کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے حضور رحیم صاحب کے سو اکسی اور چیز کے طلب گارند ہو، ”کُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ صَنْمَكَ“ جو چیز تمہیں اللہ سے مشغول کر دے وہی تمہارا بت ہے۔

فقط

اس قصہ پر مجھے میرے حضرت، میرے محض، میرے ماوی، میرے بخا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کا ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔ میرے جملہ اکابر کے یہاں تصرفات کی کوئی وقت کبھی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے روکنے کی کوشش ہوئی۔ میرے ایک مخلص دوست، جو عمر میں مجھ سے بہت بڑے مولوی حافظ عبدالرحمن صاحب گنگوہی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص شاگردوں میں تھے اور یہ بہت بڑی پارٹی تھی میں پھیس لڑکوں کی جو عربی پڑھتے تھے، فارسی اور قرآن پڑھنے والے تو سو سے زائد تھے، یہ گنگوہ میں والد صاحب سے پڑھا کرتے تھے۔ جب ۲۸ میں میرے والد صاحب قدس سرہ مستقل قیام کے ارادے سے مظاہر میں آگئے تو یہ سب خدام بھی آگئے اور علوم کی تکمیل ان سب کی مظاہر میں ہوئی اور پھر علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد یہ سب میرے حضرت مرشدی مہاجر مدن رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت بھی ہوئے۔ ان میں سے مولوی عبدالرحمن صاحب شملہ کے قریب کسوی ایک جگہ ہے وہاں کے امام ہو گئے اور بڑے اوپرے اوپرے حالات خطوط میں لکھا کرتے تھے اور چونکہ حضرت قدس سرہ کی ڈاک بھی میں ہی لکھتا تھا اس لیے دوستوں کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے تھے۔ مولوی عبدالرحمن مرحوم کا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند درجات عطا فرمادے، ایک بہت ہی طویل عجیب خط لکھا جس میں اپنے بہت سے مکاشافات، تصرفات، خوارق بہت ہی لمبے لکھے تھے اور میں حضرت قدس سرہ کو خط سنار ہاتھا اور باغ باغ ہورہا تھا کہ لوئڈ اچو تھے آسمان پر پہنچ گیا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب خط کے جواب میں میرے حضرت قدس سرہ نے یہ لکھوایا کہ فرانچ اور تو افل مسنونہ کے سوائے جملہ نو افل، جملہ اذ کار و اور اد ایک قلم موقوف رکھیں۔“ میں بالکل حیرت میں رہ گیا کہ یہ کیا ہوا؟

اور بھی متعدد قصے، ہمارے اکابر کے اس قسم کے پیش آئے۔ میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کے متعدد خطوط میں بھی جب خوارق اور تصرفات یا مکاشافات ہوتے تھے تو میرے حضرت بجائے حوصلہ افزائی کے اس قسم کے الفاظ لکھوایا کرتے تھے: ”ان چیزوں کی طرف التفات ہرگز نہ کریں کہ یہ ترقی سے مانع ہیں۔“

### ہر تینکی صدقہ ہے یوں سے صحبت بھی صدقہ ہے:

میں نے مولانا تاریخ الاحرار صاحب سے یہ بھی کہا کہ بچپن میں اس قسم کے قصے، کہانیوں کے ذیل میں سے جاتے تھے، یا والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس باق میں سناتے تھے کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس باق میں قصے سنانے کا معمول ہو گیا تھا، جس کا ایک واقعہ ان حالات میں فتح القدر کے سلسلے میں بھی آؤے گا لیکن جب مخلوٰۃ شریف پڑھانے کی نوبت آئی تو یہ مضمون حدیث پاک میں تشریح سے ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو مخلوٰۃ شریف کے باب صلوٰۃ الصبح میں منقول ہے کہ آدمی میں تین سو سانح جوڑ ہیں، جب آدمی صبح کو صحیح و سالم تدرست اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کی صحت وسلامتی کے بد لے اس کے ذمہ ایک صدقہ (شکرانہ) واجب ہوتا ہے ایک دفعہ ” سبحان اللہ“ کہنا ایک صدقہ ہے، ”الحمد للہ“ کہنا صدقہ ہے، لا إلہ الا اللہ“ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، راستہ میں سے کوئی تکلیف وہ چیز کا نہ اور غیرہ ہشادینا صدقہ ہے، آدمی اپنی یوں سے صحبت کرے یہ بھی صدقہ ہے اور دور کعت چاشت کی نمازان سارے ۴۰ صدقوں کا قائم مقام ہے (اس لیے کہ نماز میں ہر جوڑ سے کام پڑتا ہے، اس لیے نماز کی دور کعت سب کے قائم مقام ہو جاتی ہے) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آدمی اپنی یوں سے شہوت پوری کرتا ہے، اس میں بھی صدقہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ جل شانہ بہت ہی درجاتِ عالیہ اپنی اور ان کی شایان شان عطا فرمادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ذرا سی بات پر دریافت کر کے امت کے لیے بہت کچھ ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اشکال پر یوں فرمایا کہ اگر اس پانی کو بے محل رکھے یعنی حرام کاری کرے تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یعنی اگر حرام سے بچنے کی نیت سے اپنی یوں سے صحبت کرے تو کیوں ثواب نہ ہو۔“

اس کی تائید بہت سی روایات اور مضماین سے بھی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کا لطف و احسان اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تولاً تعدّ و لا تُحصى ہیں مگر ہم لوگ اپنی ناقدرتی سے ان قیمتی جواہرات اور موتیوں کو پاؤں سے روندتے ہیں، ان کی طرف التفات نہ کریں تو اپنا ہی نقصان ہے۔

خدا کی وین کا موئی سے پوچھئے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے

اخلاص سے آگ لینے جانے میں بھی پیغمبری مل جاتی ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مشہور مقولہ جو سینکڑوں دفعہ سنا ہو گا کہ ”اتباع سنت کے ساتھ اتباع کی نیت سے بیت الخلاء

میں جانا خلاف سنت نظر میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے میں نے اس مضمون کی ابتداء کی تھی۔

### تشرییہ

#### صاحبزادوں کی تربیت کے لیے درخواست:

مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق میں نے جو اپنی ابتدائی لڑائی لکھی اور بہت سخت تھی، بڑی ناشکری ہو گئی اگر اس کا تکملہ اور منتها لکھوں آخر میں تو مرحوم کو حضرت اقدس شاہ عبدالقدار صاحب رحمہ اللہ علیہ کی برکت سے اتنی محبت ہو گئی تھی جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں یہ مولانا مرحوم مستقل میرے پاس قیام پر اصرار فرماتے رہے۔ مولانا نے ازراہ محبت یہ بھی اصرار کیا کہ وہ اپنے چھوٹے لڑکوں کو میری تربیت میں رکھیں، میں نے باوجود ان کی شفقت و محبت و اصرار کے مhydrat کر دی۔ انہوں نے حضرت اقدس سیدی و مولائی شاہ عبدالقدار صاحب نور اللہ مرقدہ سے اصرار بہت زور سے کرایا تو میں نے حضرت سے کہا کہ یہ رئیس الاحرار کے صاحبزادے ہیں، میرا ان کا جوڑ نہیں کھانے کا۔ مولانا مرحوم نے کہا کہ تیری ساری شرائط منظور ہوں گی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہوں گے، تو قرعہ فال عزیز گرامی قدر و منزالت مولوی رئیس الرحمن ناظم مدرسہ والی مسجد خالصہ کالج لاکپور کے نام نکلا کہ ان کی تعلیم اس وقت ایسی تھی کہ میرے پاس جوڑ کھا سکتی تھی، میں نے چار شرائط لٹا گئیں۔

(۱)..... اخبار دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہو گی۔ اگر کوئی شکایت کی وقت اخبار دیکھنے کی مجھ تک پہنچی تو سلام علیک۔

(۲)..... کسی جلسے میں جائے کی اجازت نہ ہو گی، جا ہے ابا جان کی تقریر ہو چاہے شاہ بخاری کی، چاہے حضرت مدینی قدس سرہ کی، چاہے اس تقریر میں میں خود بھی شریک ہوں، جا ہے میں کسی لحاظ ملاحظہ سے اجازت بھی دے دوں۔

مولانا مرحوم نے ان دونوں شرائط کو بہت ہی بثاشت سے قبول فرمایا اور فرمایا کہ میری اور شاہ جی کی تقریر میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں، سیاست ہمارے گھر کی لوگوں یا ہم اس سے غمینے کے بعد سیاست دو مہینے میں سکھنا دیں گے۔

(۳)..... تیری شرط یہ رکھی کہ مدرسہ سے بغیر اجازت پاہر نکلنے نہ ہو گا۔

(۴)..... چوتھی شرط یہ کہ طلبہ سے تعلقات نہ رکھنے ہوں گے نہ دوستی کے، نہ دشمنی کے، نہ محبت کے، نہ مخالفت کے۔

عزیز موصوف کو اللہ بہت ہی جزاے خیر دے، میں ہمیشہ اس کی ادا کا ممنون رہوں گا کہ پہلی دو شرطوں پر تو اس نے میری امید سے بہت زیادہ عمل کر کے دکھلا دیا، حتیٰ کہ ایک دوسراں بعد جب میں نے مَضْرَرَت نہ سمجھ کر اکابرِ شلاشہ مذکور کی تقریر میں جانے کی اجازت بھی دی اور دل سے دی، اخلاص سے دی تب بھی عزیز موصوف نے کہہ دیا کہ اب تو وعدہ پورا کرنا ہی ہے۔

اسی کا وہ ثمرہ تھا کہ حضرت اقدس سیدی و مولائی حضرت اقدس شاہ عبدال قادر صاحب نور اللہ مرقدہ کی نگاہ میں بھی عزیز موصوف منظور نگاہ بن گیا اور حضرت اقدس سرہ کی طرف سے خلافت بیعت عطا ہوئی۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدالجلیل کو بھی دونوں ایک ہی سال کے مظاہر کے فارغ التحصیل ہیں، یعنی ۲۰ھ کے اور دونوں کو ہی حضرت قدس سرہ کی طرف سے خلافت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنی خلوق کی ہدایت کا کام لے۔

البته تیسری چوتھی شرط پر وہ پختگی نہ دکھا سکا جو پہلی دو شرطوں پر دکھائی اگر میں یہ کہوں کہ اس میں میری ہی کمزوری کو خل تھا تو بے محل نہ ہوگا۔

### مولوی انیس الرحمن و مولوی عبدالجلیل صاحبان کا ذکر جمیل:

مولانا حبیب الرحمن صاحب کے اصرار میں کچھ عزیز عبدالجلیل کو بھی دخل تھا جو حضرت قدس سرہ کا بھتیجا میرے ہی پاس رہتا تھا، مدرسہ میں پڑھتا تھا، بہت ہی کیسو قابل رشک زندگی گزارتا تھا، اس کی ایک ادا اس وقت کی مجھے بہت ہی پسند تھی کہ جب حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کی آمد پر حضرت کا قیام یادِ عوت کسی جگہ ہوتی تو یہ بھی کھانا کھائے بغیر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں نہیں جاتا تھا، میرے یہاں سے کھانے سے نمٹ کر جاتا تھا اور لوگوں کے اصرار پر بھی شدت سے انکار کر دیتا تھا کہ ”میں کھا کر آیا ہوں۔“ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے اور میں تقاضے کرتا مگر یہ ہمیشہ ہی عذر کرتا کہ میں کھا کر آیا اور عذر جھوٹا نہیں ہوتا تھا قبل از وقت بھی گھر سے کھانا لے کر وہ کھا کر جاتا، بلکہ بعض دفعہ تو پہلے سے دعوت کرنے والوں کو بھی یہ کہہ کر عذر کر دیتا تھا کہ اس وقت آنے میں سبق کا حرج ہو گا یا مطالعہ کا حرج ہو گا۔



## باب دوم

### درس و تدریس اور مظاہر علوم و تالیفات:

اس ناکارہ کی پیدائش ۱۳۱۵ھ کی شب میں رات کو ابجے تراویح کے بعد ہوئی، جیسا کہ معروف ہے اس سے کارکانہ نامہ مع اپنی ساری شاخوں کے اور سارے شجرہ خاندان کے میری تاریخ کبیر میں بہت مفصل مشرح موجود ہے، مگر تیس برس سے پہلے پہلے کے تو سارے بچے کچے اس میں موجود ہوں گے، اس کے بعد کچھ مشاغل اور کچھ آنکھوں کی مجبوری سے اب میں پچھیں سال سے اس کا سلسلہ چھوٹ گیا ورنہ وہ بہت مفصل ہے کوئی دیکھنا چاہے تو شوق سے دیکھ لے۔ نیز اس کا کچھ حصہ حالات مشائخ کا ندھلہ میں مواوی احتشام صاحب بھی شائع کر چکے ہیں۔

ڈھانی برس کی عمر تک یہ ناکارہ کا ندھلہ رہا۔ سناء ہے کہ اس قدر نالائق تھا کہ میرا کھیل توڑ پھوڑ تھا، میری نانی میرے لیے بہت سے برتن ڈول چھوٹی مولیٰ مٹی کی پیالیاں جو اس زمانے میں بہت کثرت سے کھہاریاں بنایا کرتی تھیں اور گھروں میں بچوں کو کھلینے کے واسطے قیمتاً دے جایا کرتی تھیں، جس مکان میں اس ناکارہ کی پیدائش ہوئی تھی اس میں ایک چبوترہ بہت اونچا تھا جو اب تک خوب یاد ہے، یہ ناکارہ اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر ان پیالیوں اور ڈول وغیرہ کو زور سے نیچے پھینکتا اور جب وہ ٹوٹ جاتی تو خوب خوش ہوتا اور جب نہ ٹوٹیں تو بچوں کی طرح نیچے اتر کر بڑی مشقت سے اس کو اوپر لے جا کر پھر نیچے پھینکتا۔ سناء ہے کہ میری والدہ نور اللہ مرقدہ میری اس ناپاک حرکت پر مجھے ڈانٹا کر تیں تو میری نانی مرحومہ میری والدہ پر خفا ہوتیں کہ میری زندگی میں اگر تو نے میرے بچے کو کچھ کہا تو تیری خیر نہیں جب اس کا دل برتن پھوڑ کر خوش ہوتا ہے تو مجھے تو اس کی خوشی چاہیے۔

ڈھانی برس کی عمر میں گنگوہ حاضری ہوئی تو وہاں حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کے سب خدام کے یہاں والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی وجہ سے لاڈھی لاڈ اور پیار تھا۔ یہ منتظر تو مجھے اب تک یاد ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مدینی نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ والی اللہ مرابتہ اس سے کارکو اپنی گردان پر دن بھر بٹھائے رکھتے ایک نانگ سینے کے ایک طرف دوسری نانگ دوسری طرف لٹکائے ہوئے میں گردان پر سوار رہتا، وہ اسی حالت میں اپنے کام میں مشغول رہتے، بازار جاتے یا کسی کام کو جاتے تب بھی نیس ان کی گردان پر سوار رہتا، نماز کے وقت البتہ اتار دیتے تھے۔ حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۰ھ میں گنگوہ حاضر ہوئے تھے اور اول ۲۲ھ میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کے وصال کے بعد مدینہ منورہ واپس

چلے گئے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی خود نوشت سوانح نقش حیات کے صفحہ ۶۵ پر اسی طرح موجود ہے، مگر میری تاریخ کبیر میں ۲۶ھ میں ان کا ہندوستان ہونا مذکور ہے۔

ہمارے خاندان میں عموماً چوتھے یا پانچویں برس بچہ پڑھنے بیٹھ جاتا تھا مگر میں سات برس کی عمر یا اس سے زائد پڑھنے نہیں بیٹھا۔ میری دادی صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب پر خوب خفا ہوتیں، مجھے ان کی خفگی کے الفاظ بھی خوب یاد ہیں کہ ”یحی! اولاد کی محبت سب کو ہوا کرے مگر اولاد کی محبت میں اندھے نہیں ہو جایا کرتے۔“

میرے والد صاحب دو دھن پینے کے زمانے میں پاؤ پارہ یاد کر چکے تھے اور سات برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر چکے تھے اور اس کے ساتھ میرے دادا سے مخفی اپنے چچا جان رحمہما اللہ تعالیٰ سے فارسی سکندر نامہ، زنجنا، بوستان وغیرہ سب کو پڑھ چکے تھے اور میرے دادا صاحب نے ان کو سات برس کی عمر میں یوں کہہ دیا تھا کہ ”ایک قرآن روز پڑھ لیا کرو یا قی سار ادن چھٹی، چھ ماہ کے بعد عربی شروع کروائیں گے۔“ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں صبح کی نماز پڑھتے ہی اپنی چھت پر بیٹھتا، وہ اپنی نانی صاحبہ کے مکان کی چھت بھی دکھلایا کرتے اور ظہر سے پہلے قرآن شریف ختم کر کے پھر اتر کر روٹی کھایا کرتے تھا اور شام کو اپنے شوق سے ابتدائی عربی شروع کر دی تھی۔ اس لیے میری دادی صاحبہ کو اور بھی زیادہ غصہ آتا وہ فرماتیں کہ ”یہ نیل آسمان پر جارہا ہے تو آخر اس سے کیا کرائے گا؟ جو تے آٹھوائے گا، چھار بناوے گا، پاخانہ کمواوے گا، بھنگلی بناوے گا، آخر تو نے کیا سوچ رکھا ہے؟“ ان کی شدید خفگی مجھے خوب یاد ہے اور میرے والد صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کا ایک جواب کہ ”آپا جو دن کھلینے کو میں کھلینے دو، ایک وفعجب اوکھل میں سردے گا تو پھر قبر میں جاتے ہوئے نکلے گا۔“ اس جواب پر بہت ناراض ہوتیں کہ ”آخر اوکھل میں سردینے کا کوئی وقت آوے گا یا مر نے کے بعد دے گا؟“ مجھ پر براہ راست بھی خفا ہوتیں کہ ”فلان بچے کے اتنے سپارے ہو گئے فلاں کے اتنے ہو گئے، تیرے کتنے ہوئے اندھے؟“

ساتواں یا آٹھواں سال تھا۔ گنگوہ میں جناب الحاج ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب مظفر نگری جو حضرت گنگوہی قدس سرہ کے وہ اور ان کے اہلیہ عاشق زار۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے لیے بڑے اہتمام سے پلاو پکایا کرتے تھے، مجھے بھی خوب یاد ہے، ان کا پکانا بھی اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کے ساتھ کھانا بھی معلوم نہیں روزانہ ایک مرغ تو ضرور کشنا تھا اور اس میں نہ معلوم کتنی چیزیں پڑتی تھیں، مرغ بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت پال رکھے تھے اور ان کو بھی نہ معلوم کیا کیا کھلایا جاتا تھا۔

انہی ڈاکٹر صاحب کے متعلق تذکرۃ الرشید میں ایک قصہ یاد پڑتا ہے بچپن کا پڑھا ہوا ہے کہ

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت! ڈاکٹر صاحب یہاں کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ ذکر شغل سلوکی مشاغل جس میں خانقاہ کے سارے خدام ہر وقت مشغول رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب ان میں زیادہ مشغول نہ رہتے تھے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے بے ساختہ فرمایا کہ ”مجھے پلاو کھلانے کے لیے۔“

ان کی اہلیہ محترمہ سے ہمارا قاعدہ بغدادی شروع ہوا۔ پڑھنے پڑھانے کا تو ہمیں کچھ یاد نہیں، دو پائیں ضرور یاد ہیں، ابا جان کی یہاں کتابوں کی دکان تھی، قاعدہ بغدادی کی گذی ہمیں معلوم تھی، تین چار دن میں پہلا پھاڑ کر دوسرا لے آیا کرتے تھے، دوسری بات یہ خوب یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ، اگر یہ ناکارہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوتا تھا تو اس پلاو میں سے میرا حصہ ضرور نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ بادام اور کشمش اور کھویا، یہ تین چیزیں بھی خوب یاد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دن بھر کھانے میں گزرتا تھا، یاد نہیں قاعدہ بغدادی کرنے والوں میں پڑھایا نہیں پڑھا، اس کے بعد ہمارا سیپارہ لگ گیا۔

کسی مکتب میں یا کسی باقاعدہ حافظ صاحب کے پاس تو پڑھنے کی نوبت کبھی آئی نہیں، اس واسطے کہ آپ بیتی نبرامیں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ میرے والد صاحب قدس سرہ کے یہاں پڑھنے سے زیادہ اہم اختلاط سے حفاظت تھی۔ اسی واسطے قرآن پاک اب تک بھی فارسی میں پڑھ رہا ہو۔

میرے ابا جان کے خاص شاگروں میں ایک صاحب حافظ ابراہیم صاحب رسول پوری بھی تھے جو گنگوہ میں ابا جان کے پاس پڑھا کرتے تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے حافظ تھے، ایک دن کے واسطے ہماری شاگردی ان حافظ صاحب کے حوالہ ہوئی اور سرمنڈوانے، ہی اولے پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ اس دن میری اپنی والدہ صاحب سے لڑائی ہو گئی، ایک پیسہ کہیں سے آگیا تھا، اس میں ایک طرف تو سکہ تھا دوسری طرف تلوار کا نشان تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں نے والدہ مرحومہ نور اللہ مرقدہ کے پاس امامت رکھوایا تھا، ان کو کچھا ہمیت نہ ہوئی، انہوں نے خرچ کر ڈالا، ایک دن پہلے اس یہ کارنے ان سے مانگا، انہوں نے فرمایا کہ وہ خرچ ہو گیا، کہیں سے آوے گا تو دے دوں گی، اس زمانے میں اس قسم کے اکثر سکے آتے رہتے تھے، اپنے غصہ سے تو یہ سیدہ کاراب تک بھی عاجز ہے۔

غضہ میں رات کو روٹی نکھائی، صبح کو والدہ صاحب نے جدید استاد حافظ صاحب مرحوم سے کہلوادیا کہ اس لئے رات غصہ میں روٹی نہیں کھائی۔ حافظ صاحب مرحوم نے فرمایا کہ جاروٹی کھا کر آ، میں نے کہا کہ ”جی میرا پیسہ مل جاوے گا تو کھالوں گا۔“ انہوں نے فرمایا، ”اچھا تو کان پکڑ لے اور جب روٹی کھاوے گا چھوڑ دیجئے۔“ پکڑ لیے، جب حافظ صاحب سبق کے لیے گئے جو آدھ پون گھنٹے کا تھا اس وقت چھوڑ دیئے، جب دور سے آتے دیکھا تب پکڑ لیے، دو ایک گھنٹے کے بعد پھر وہ

اباجان کے پاس سبق کے لیے گئے پھر چھوڑ دیئے، پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر چھوڑ دیئے، عصر کی نماز تک یہی قصہ رہا۔ رات بھی روٹی نہ کھائی تھی اس واسطے ماں پر جو گزرنی چاہیے تھے گزری۔ دو پھر کو والدہ کو معلوم ہوا کہ حافظ جی نے چھٹی بند کر رکھی ہے جب تک روٹی نہ کھاوے گا چھٹی نہیں ملے گی اور میری ایک درخواست تھی کہ ”تموار کا پیسہ مل جاوے تو کھالوں گا۔“ عصر کے بعد جب ابا جان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو ہماری یہ ایک روزہ شاگردی ختم ہو گئی۔ ابا جان نے حافظ صاحب کو فرمایا کہ ”حافظ جی تربیت کے لیے تو میں خود کافی ہوں، آپ کے سپرد تو اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ یاد کرتا رہے گا۔“

ہماری شاگردی تو اس وقت سے ختم ہو گئی، مگر یہ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرمادے، بعد میں بہت اصرار سے اس سے بیعت بھی ہو گئے۔ جب وہ میرے جوتے کو ہاتھ لگاتے تو میں ان سے کہتا ”ایسا ہر گز نہ کہجئے آپ میرے استاد ہیں۔“ وہ مرحوم بہت ہی شرمندہ ہوتے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو اس حرکت سے روکنے کے لیے جواباً ان کے جوتے کو سیدھا کر کے رکھ دیا، اس پر وہ بیچارے بہت ہی پشیمان ہوئے۔ میں نے کہا کہ ”جب آپ میرے جوتے کو ہاتھ لگاویں گے اس کا رقم میں یہی کروں گا۔“

حافظ صاحب کی ولادت تقریباً ۱۳۰۲ھ میں ہے اور وصال ۵ جمادی الثانی ۱۳۵۶ھ مطابق ۱۳ اگست، ۱۹۳۷ء شبِ جمعہ۔ حافظ صاحب نے رائپور کے مدرسہ میں قرآن پاک حفظ کیا اور وہیں اردو وغیرہ پڑھی۔

اس کے علاوہ ایک عرصہ کے بعد عالی جناب حافظ محمد صالح صاحب نکور درصلع جالندھر کے اصل رہنے والے تھے، جو حضرت گنگوہی قدس سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، نہایت بزرگ، نہایت نیک، نہایت متواضع، نہایت خاشع خاضع، بڑی کثرت سے نفلیں پڑھنے والے، وہ جب حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تبرکات میرے والد صاحب نے مجھے ان کی شاگردی میں بھی حصول برکت کے لیے چند روز رکھا، جب تک حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا گنگوہ میں قیام رہا۔

اس کے علاوہ جب بھی کانڈھلہ جانا ہوتا تو ہمارے کانڈھلہ کے مشہور معروف حافظ، استاذ الکل حافظ رحیم بخش صاحب ابن حافظ خدا بخش عرف ”حافظ منکو“ میرے پیچا جان نور اللہ مرقدہ اور ان کے معاصرین اور ان سے چھوٹی پڑھی میرے بعد تک کی ساری ہی حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں قوہ کے نیل گرتے اور نیل کا کام ان کے گھر میں ہوتا تھا۔ مرحوم چھٹی لینا یماری یا کسی اور حرج میں جانتے ہی نہ تھے۔ ایک دفعہ بہت شدید یماری میں چند روز کے لیے جب اٹھنے

کے قابل نہ تھے، گھر پر رہے تو ہم شاگردوں کو مکان ہی میں بلا لیا تھا، وہیں پڑے پڑے پڑھاتے تھے۔ بہت ہی بزرگ اور نیک تھے۔ چائے وغیرہ تو اس زمانے میں کاندھلہ میں دوакے لیے تلاش سے بھی نہ ملتی تھی اس لیے یہ مدت تھا ہی نہیں، اپنے محلہ کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اور وظائف پڑھتے ہوئے کاندھلہ کے مشہور مدرسہ قرآنیہ میں تشریف لاتے جو جامع مسجد کے بالکل مقابل تھا، آتے ہی پہلے جامع مسجد میں تشریف لے جاتے، اشراق کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر مکتب میں آتے اور قساں بقین جس میں یہ ناکارہ بھی کبھی ہوتا جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے اور حافظ صاحب کے سلام پھیرتے ہی جہاں انہوں نے جوتے پہنے دو تین ایک دم سبق سنانا شروع کر دیتے تھے۔ مرحوم جو پہلے بسم اللہ کر دیتا اس کا شروع کر دیتے باقی کو کہہ دیتے کہ ”چشت“ جو ہمارے یہاں ڈانٹ کا ایک فقرہ ہے۔ اس مکتب میں ایک انار کا چھوٹا سا درخت تھا۔ گرمی سردی ہر موسم میں جب اس انار کے درخت کی جڑ میں دھوپ آجائی تو حافظ صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے، نہایت اطمینان سے جامع مسجد تشریف لے جاتے، تجدید و ضوفرماتے، چاشت کی نماز بہت اطمینان سے پڑھتے اور ان کے اٹھتے ہی سارے مکتب کے بچے اپنے اپنے قرآن جزوں میں بند کر دیتے مگر کیا مجال تھی کہ کوئی لڑکا پہلے جا سکے، حالانکہ اگر دو چار بھی چلے جاتے تو کیا پڑتے چلتا۔ مگر ایک بچے کی بھی ہمت نہ ہوتی، چاہے کتنا چھوٹا ہو کہ حافظ صاحب سے پہلے جا سکے۔ چاشت کی نماز پڑھ کر حافظ صاحب مکتب میں آتے اور جوتا نکالنے سے پہلے ہی کسی لڑکے سے کہتے کہ ”لامیری لگکی اٹھادے۔“ یہ اعلان چھٹی کا تھا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا اور لڑکوں میں ایک دم بھلکدڑ مچنا، اخیر میں حافظ صاحب ہی تہما مدرسہ سے انکا کرتے۔ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مارتے کم تھے، مگر ان کا رعب اس قدر رخت تھا کہ اب تک بھی اس کے تصور سے خوف سا آ جاتا ہے۔ دوسرے مدرس دوم حافظ عبدال سبحان مرحوم تھے۔ وہ اتنا سخت مارتے تھے کہ ان کے درجہ میں ہر وقت کھرام مچا رہتا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی تسبیہ یہ ہوا کرتی ”یاد نہیں کرتا سبحان کے پاس بھیج دوں گا۔“

یہ ناکارہ جب کاندھلہ دو چاروں کو جاتا حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاگردی میں داخل ہو جاتا، شاید دوڑھائی سارے پوری مقدار مختلف سالوں کی ہوگی۔ حافظ صاحب کو میرے دادا نور اللہ مرتضیہ نے اس مدرسہ میں دو روپے پر مدرس رکھا تھا، پندرہ میں برس بعد مدعے ہو گئے تھے۔ ہمارے کاندھلہ کے اکابر جب علی گڑھ سے واپس ہوئے تو انہوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب کو کالج میں قرآن کا مدرس بناؤ کر دیا کہ ایسے کا بٹھایا ہوا ہوں کہ ۱۰۰۰ پر بھی نہیں جا سکتا۔

سنا گیا ہے کہ حافظ صاحب مرحوم پہلے پہلوانی کرتے تھے اور کسی پہلوان کے پچھاڑنے کے لیے میرے دادا کے پاس تعویذ لینے گئے۔ ان کو پسند آگئے، انہوں نے حال دریافت کیا۔ ”کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟“، ”نیل گرہوں!، پہلوانی کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا،“ ”پچھا اور بھی آتا ہے؟“، انہوں نے کہا قرآن حفظ کیا ہے۔ دادا نے قرآن شا اور اس کے بعد پہلوانی سے توبہ کرائی، بیعت کیا اور فرمایا کہ ۲ روپے مہینہ میں دے دوں گا تم بچوں کو قرآن پڑھایا کرو اور نیل گروں کی مسجد میں ان کو بٹھا کر محلہ کے بچوں کو سپرد کر دیا۔ دادا صاحب کے جانے کے بعد شرفانے قصبے نے اس میں اپنی توہین بھی کہ ان کے بچے نیل گر سے پڑھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا، چند ماہ بعد جب دادا صاحب دوبارہ آئے اور حال معلوم کیا تو بہت ناراض ہوئے اور ان کے لیے جامع مسجد کے سامنے منہدمہ مسجد میں مدرسہ بنادیا۔

میرے دادا صاحب کے انتقال کے بعد میرے تایا صاحب مولانا محمد صاحب سے بھی نیاز مندانہ تعلق رہا اور میرے بچا تو ان کے شاگرد تھے، میں نے بارہا دیکھا کہ بچا جان جب کاندھلہ جاتے تو حافظ صاحب کی بہت ادب سے اہتمام سے دست بوکی کرتے۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا حکیم صدیق احمد صاحب کاندھلوی یکے از خلفاء قطب عالم گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے قرآن شریف کا لفظی ترجمہ حرف احرفا پڑھا۔

مشہور ہے کہ حافظ صاحب کی چالیس سال تک تکمیر تحریکہ ایک دفعہ کے علاوہ فوت نہیں ہوئی۔ ۱۳۲۷ء میں ۹۰ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کے حافظ کردہ ۳۰۰۰ کے قریب ہیں اور کیرانہ کے راستے میں اپنی بائی پی میں مدفن ہیں۔ (کذافی مکتب الحاج صوفی افتخار الحسن کاندھلوی) حضرت حافظ صاحب کوفاری بہت اچھی آتی تھی۔ اپنے صاحبزادوں کو خود فارسی پڑھایا کرتے تھے۔

ان دو بزرگوں کے علاوہ کسی سے قرآن پاک پڑھنے کی توبت نہیں آئی۔ نقل نظامی قرآن جس میں میں نے پڑھا اور اس کا ہر صفحہ آیت پر ختم ہوتا ہے ایک صفحہ کے متعلق میرے والد صاحب کا حکم یہ تھا کہ ”اس کو ۱۰۰ دفعہ پڑھ دو پھر چھوڑ دو، یاد ہونے کے ذمہ دار نہیں۔“، ”بھی سو ۰۰ دفعہ پڑھا ہو تو یہ بھی اندازہ ہو کہ کتنی دیر میں سو دفعہ ہوتا ہے۔ اپنی ایک حماقت ساری عمر یاد رہے گی کہ دس پندرہ مسٹ میں آکر کہہ دیتا کہ سو دفعہ ہو گیا اور اپنے کلام کو موثق اور مؤکد بنانے کے واسطے یا اپنی حماقت کے اظہار کے واسطے خود ہی کہہ دیتا کہ آج بالکل صحیح صحیح ہوا کل تو کچھ گڑ بڑ بھی تھی اور باجان کا یہ مقولہ بھی ہمیشہ یاد رہے گا کہ ”آج کا بالکل صحیح صحیح کل تو معلوم ہو جاوے گا سمجھ تو اب تک بھی نصیب نہ ہوئی اس وقت تو عمر بھی سمجھ کی نہ تھی بھی ابا جان کے اس ارشاد کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا کہ آج کا بالکل صحیح کل کو معلوم ہو جاوے گا۔ سارا قرآن پاک اسی طرح پڑھ کر ختم کر دیا اور حافظ ہو گئے۔“

میری دادی صاحب نور اللہ مرقدہا حافظ تھیں اور بہت اچھا یاد تھا۔ سال بھر کا معمول خانگی مشاغل، کھانے پکانے کے علاوہ ایک منزل روزانہ کا تھا اور رمضان میں چالیس پارے روزانہ کا تھا۔ ان کے کچھ حالات تذکرہ اخنیل میں بھی ہیں۔ جب وہ گنگوہ میں ہوتیں تو میرا سبق ان کے ذمہ تھا، وہ نہ ہوتیں تو والد صاحب کبھی اپنے سامنے کسی بچے کو بٹھا کر سنوار دیتے۔ جن میں میرے مخلص دوست مولوی عبدالرحمن صاحب گنگوہی جن کا ذکر اس میں پہلے گزر چکا ہے یا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے محبوب شاگرد مولوی سعید مرحوم گنگوہی ہوا کرتے تھے اور گویا قرآن شریف ختم ہو، جانے کے بعد مولوی سعید مرحوم کے ذمہ میرا اپارہ سننا بھی تھا۔ اس میں ایک پارہ میں سو ۱۰۰ غلطیاں معاف تھیں اور والد نور اللہ مرقدہ بھی بھی سفر میں سناتے تھے مگر اس میں تو جو یاد تھا وہ بھی بھول جاتا تھا۔

### رمضان المبارک میں قرآن کا ابتدائی معمول:

قرآن شریف کی یاد تو کما تھے، اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن ۳۸ھ سے ماہ مبارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے کا معمول شروع میں ہوا تھا جو تقریباً ۸۰ھ تک رہا ہو گا، بلکہ اس کے بھی بعد تک۔ ابتدائی معمول یہ تھا کہ سوا پارہ جس کو عموماً حکیم احراق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی یا میرے حضرت نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کے گھر میں، اس کو تراویح کے بعد شب میں قرآن پاک دیکھ کر اور اکثر ترجمہ کے ساتھ سحر تک چار (۴) پانچ (۵) دفعہ پڑھتا تھا، گرمیوں کی شب میں کچھ کم، سردیوں میں کچھ زائد۔ اس کے بعد تہجد میں اس کو دو مرتبہ اس کے بعد سحر کھانے کے بعد سے لے کر صحیح کی نماز تک اور نماز کے بعد سونے تک ایک دفعہ اور پھر صحیح کو سونے کے بعد اٹھ کر جو عموماً دس بجے ہوا کرتا تھا، چاشت کی نماز میں سردیوں میں ایک مرتبہ، گرمیوں میں دو دفعہ۔ اس کے بعد ظہر کی اذان سے پندرہ منٹ پہلے تک ایک یاد و مرتبہ دیکھ کر پھر ظہر کی سنتوں میں ابتداء دو مرتبہ، اول کی سنتوں میں ایک دفعہ اور آخر کی دو سنتوں میں دوسری دفعہ اور بعد میں ہر دو سنتوں میں ایک ہی مرتبہ رہ گیا۔ ظہر کے بعد دو سنتوں میں سے کسی کو ایک مرتبہ سنانا اور پھر عصر تک موسم کے اختلاف کی وجہ سے ایک یاد و دفعہ پڑھنا۔ عصر کے بعد کسی دوسرے اوپر تھے آدمی کو سنا نا۔ ابتداء حضرت کی حیات تک حافظ محمد حسین صاحب اجر اڑو گی کو، اس کے بعد دو تین سال تک مولوی اکبر علی صاحب مدرس مظاہرہ علوم کو، اس کے بعد بہت عرصہ تک مفتی محمد بیکی کو اور ان ہی کے ساتھ ان کے دو توں بھائی حکیم الیاس، مولوی عاقل بھی شریک ہونے لگے۔ مغرب کے بعد نفلوں میں ایک دفعہ پڑھنا اور نفلوں کے بعد تراویح تک ایک دفعہ پڑھنا۔ تراویح کے بعد یہ پارہ ختم ہو جاتا تھا اور اگلے کا نمبر شروع

ہو جاتا تھا۔ ۲۳ گھنٹے میں اس کی تشکیل ضروری تھی کہ ۳۰ پارے پورے ہو جائیں۔ اللہ کے انعام و فضل سے سالہا سال یہی معمول رہا، انہر زمانے میں یہاں یوں نے چھڑا دیا۔ اس زمانے کا ایک لطیف بھی یاد آگیا، جو کئی سال تک بہت مشہور رہا۔ میرے عزیز مخلص دوست طیب رامپوری، میرے دوسرے مخلص مولوی عامر سلمہ کے والد، اس زمانے میں ان کی آمد و رفت بہت کثرت سے تھی اور چونکہ بہت مختصر وقت کے لیے آتے تھے اور سیاست کی خبریں بہت مختصر ۶ الفاظ میں جلدی جلدی سناتے تھے، اس لیے ان کی آمد میں میرے یہاں کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ رمضان میں ۸۔ ۹ بجے صبح کو آئے مولوی نصیر سے کہا کہ کواڑ ٹھلوادو۔ اس نے کہا رمضان ہے خود زنجیر کھڑکھڑا نے کارا دہ کیا، اس نے منع بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ”یا تو وہ سورہا ہو گا نیند خراب ہو گی اور اگر اٹھ گیا ہو گا تو نفلوں کی نیت باندھ لی ہو گی، کھڑکھڑا تے رہو۔“ اس پر خفا ہو کر مدرسہ میں چلے گئے۔ راستے میں مولوی منتظر احمد خاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ملے، انہوں نے کہا، ”حکیم جی تم کہاں آگئے؟ شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔“ اس پر کچھ سوچ پیدا ہوئی اور نصیر پر سے کچھ غصہ کم ہوا۔ اس کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچ، وہ ڈاک لکھوار ہے تھے، فرمایا ”حکیم جی کہاں آگئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔“ وہاں سے اٹھ کر کرمفتی محمود صاحب کے حجرے میں گئے، مفتی صاحب کا قیام اس زمانے میں مدرسہ قدیم ہی کے حجرہ میں تھا، مفتی جی نے بھی یہ فقرہ دہرا دیا۔ حکیم جی نے پوچھا ”آخر رمضان میں کوئی وقت بات کاملات کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟“ مفتی جی نے کہا تراؤح کے بعد آدھ گھنٹہ۔ حکیم جی نے کہا مجھے تو رامپور واپس جانا ہے۔ تب مفتی جی نے کہا کہ ظہر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے تشریف لائیں گے اس وقت مل لینا ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں مل لینا وہ ظہر سے پہلے مسجد میں آئے تو میں نیت باندھ چکا، ظہر کی نماز کے بعد میں نے پھر سنتوں کی نیت باندھ لی، بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا، مگر جب دیکھا کہ رکوع کا ذکر ہی نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں سنتوں میں دودفعہ پارہ پڑھنے کا معمول تھا، وہ بڑی دیر انتظار دیکھ کر مژگشت میں چلے گئے، وہ واپس آئے تو میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر قرآن پاک سنانے میں مشغول ہو گیا تھا، وہ بہت کھٹ کھٹ کر کے اوپر چڑھے اور جاتے ہی بہت زور سے ”بھائی جی سلام علیکم، بات نہیں کرتا صرف ایک فقرہ کہوں گا، رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں بھی آتا ہے مگر یوں بخار کی طرح کہیں نہیں آتا۔ سلام علیکم جارہا ہوں، عید کے بعد ملوں گا۔“ میں نے کہا ”علیکم السلام،“ اور پھر قرآن سنانے میں مشغول ہو گیا۔

بندہ کی ابتدائی فارسی:

۲۵ سے میری فارسی اردو اس حالت میں شروع ہوئی کہ قرآن پاک تو گویا پڑھا بے پڑھا

برا برتھا، مگر ہم حافظوں میں شمار ہونے لگے۔ میں نے فارسی زیادہ تر اپنے بچا جان نور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ ان پر اس زمانے میں بزرگی کا بہت سی غلبہ تھا، مجاہدات سلوک کا بہت زور تھا، خانقاہ قدوسیہ کے پیچھے ایک بہت مختصر آپ چک تھی، اس میں ایک بوریے پر آنکھ بند کیے ہوئے دوز انوں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ میں سبق کے لیے جاتا تو قانون یہ تھا کہ ایک کتاب بچا کے سامنے کھول کر کھدیتے، ایک ساتھی میرا اور تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں، ہم دونوں دوسری کتاب میں پڑھتے۔ بیٹھنے کے بعد بسم اللہ کر کے سبق شروع کر دیتے، اگر اس میں ذرا دیر ہوتی تو بچا جان نور اللہ مرقدہ ایک انگلی سے اپنے سامنے کی کتاب بند کر دیتے اور گویا تا خیر کے عتاب میں سبق بند، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر چلتے اور بھی دوبارہ شروع کرتے اور کتاب کھول کر دوبارہ ان کے سامنے رکھتے تو موج تھی کبھی پڑھا دیتے کبھی ”چشت“ فرمائ کر اٹھادیتے۔ سبق میں اپنے ہی مطالعہ پر مدار تھا۔ معمولی غلطی پر ”چشت“ کہتے یا ”ہوں“ اور فتح غلطی پر پھر وہی ایک انگلی سے کتاب بند کر دیتے۔

اس سید کار میں اس زمانے میں بولنے کا مرش بہت زیادہ تھا، بچا جان نور اللہ مرقدہ نے مجھ سے فرمایا کہ ”اگر تو چھ بھتے چپ رہے تو میں بھتے ولی کر دوں۔“ اس زمانے میں چھ بھتے تو درکنار چھ دن بھی چپ رہنا مصیبت تھا۔ میں نے بڑے ہو کر نظام الدین می ایک مرتبہ ان کو یہ ارشاد یاد دلا یا ان کو یاد آگیا، میں نے کہا کہ ”آپ نے اس وقت میں چھ بھتے کو فرمایا تھا۔ آپ میں چھ ماہ کامل چپ رہ کر دکھاؤ۔“ بچا جان نے فرمایا کہ ”وہ بات تو گئی، وہ تو اس وقت کی تھی۔“

اس زمانے میں بچا جان دن میں سارا دن مراقبہ کرتے، نہ معلوم کیا سوچا کرتے اور مغرب سے عشاء تک نفلیں پڑھتے۔ اس زمانے میں بچا جان کو جو کی روٹی کا اتباع سنت میں کھانے کا شوق پیدا ہوا اور ان کے ساتھ ہم نے بھی زور دکھائے، تقریباً چھ ماہ بچا جان کا یہ دستور رہا۔ اس کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے حکیم صاحب نے اس کو منع کر دیا، جس پر میرے والد صاحب نے بھی ان کو روک دیا اور وہ سلسہ بند ہو گیا۔ ورنہ تین چار روٹی ہو کی پکنا خوب یاد ہے اور بچا جان کے ساتھ اپنا کھانا بھی۔

**گنگوہ سے سہار پور میں آمد:**

رجب ۲۸ھ میں یہ ناکارہ سہار پور آگیا، اس لیے کہ دو تین ماہ قبل میرے والد صاحب قدس سرہ مستقل قیام کے ارادے سے گنگوہ سے سہار پور منتقل ہو گئے۔ دارالعلوم کا جلسہ دستار بندی، اس میں تقریباً کتب خانہ کا بہت سا حصہ گنگوہ سے دیوبند منتقل ہوا تھا کہ اکابر دیوبند نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کی تالیفات کی اشاعت کی وجہ سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر اصرار کیا تھا کہ اپنا کتب خانہ اور اپنی دکان دارالعلوم کے جلسہ دستار بندی میں لگاویں۔ اس سے فراغ پروہ سارا کتب خانہ دیوبند سے سہار پور منتقل ہوا اور چونکہ چھکڑوں میں آیا اور دیوبند بھی چھکڑوں میں ہی گیا

تحا۔ اس لیے کتابیں خراب بہت ہوئیں۔ ہزاروں کتابوں کی سلائی ٹوٹی۔ سہار پور آکر باقاعدہ عربی تعلیم شروع ہوئی اور اس سے پہلے ابتدائی عربی اور فارسی زیادہ تر ترچھا جان نور اللہ مرقدہ سے اور کم والد صاحب قدس سرہ سے پڑھنے کی نوبت آئی، لیکن سہار پور آنے کے بعد باقاعدہ ہماری ایک مستقل جماعت بنی، جس کے دوسرے ساتھی میرے حضرت قدس سرہ اعلیٰ اللہ مرابتہ کے عزیز مظہر علی خاں راجو پوری تھے اور تیرے ساتھی سید محفوظ علی گنگوہی جو بعد میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے سالے بن گئے تھے اور اس کے بعد دیوبند منتقل ہو گئے تھے۔ جب مرحوم کی ہمیشہ کی شادی حضرت شاہ صاحب سے ہو گئی، اس وقت تک وہ سہار پور ہی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقیم رہے اور اس سے پہلے گنگوہ میں بھی میرے والد صاحب ہی کے پاس پڑھتے تھے۔ یہاں آکر باقاعدہ میرے ساتھی بن گئے تھے اور مستقل جماعت ہماری تین آدمیوں کی خصوصی جماعت شمار ہونے لگی۔ سید محفوظ صاحب کے دیوبند جانے کے بعد ہم دوہی رہ گئے۔

صرف پڑھانے کا والد صاحب کا ایک خاص طریقہ تھا۔ وہ الفاظ لکھوا دیا کرتے تھے اور کچھ قواعد لکھوا دیتے تھے۔ مثلاً اجوف، ناقص وغیرہ کے۔ میں نے میزان منشعب معروف و متداول نہیں پڑھی۔ اس زمانے میں میرے ہی لیے غالباً ایک میزان منشعب خاص تصنیف ہوئی تھی جو دو دو ورق کی تھی آسی مدرسی پریس میں چھپی تھی اس میں میرے مقدر سے گردان بھی بجائے فَعَلْ یَقْعِلُ کے ضَرَبَ يَضْرِبُ کی تھی، میزان میں بھی وہی تھی منشعب میں بھی وہی تھی جو دو دو ورق کی تھی اسی مدرسی پریس میں چھپی تھی اس میں میرے مقدر سے بھی وہی تھی اور عمل میں بھی وہی اور اس کے بعد وہ ایسی کہیں گم ہو گئی کہ تلاش سے بھی نظر نہ پڑی۔

### والد صاحب کا طرز تعلیم:

میرے والد صاحب کے یہاں پہلے قواعد زبانی یاد کرائے جاتے تھے اور اس کے بعد ان قواعد کا اجراء تختی یار دی کاغذوں پر کرایا جاتا تھا، اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ صرف میر اور پیش گنج تین تین چار چار دن میں سنا دی تھیں ان میں وقت نہیں خرچ ہوا۔ اس واقعہ کی کچھ تفصیل اکمال الشیم کے مقدمہ میں بھی گزر چکی ہے۔ البتہ فصول اکبری میں بہت وقت خرچ ہوا۔ رمضان میں تعطیل نہیں ہوتی تھی، البتہ رمضان کی کتابیں علیحدہ ہو جایا کرتی تھیں۔ میری صرف صغیر کی کاپی پر جو ابتدائی زمانہ کی مشق کی ہوتی ہے، میری طالب علمی کی کتابوں کا بھی ایک نقشہ جو مقدر نے مل گیا وہ اس جگہ درج کرتا ہوں، اتفاق سے بہت پرانی کاپی غالباً ۲۸۵ کی ہے، جس پر نقشہ ملا، شروع کے تین سال کا ہے۔ اتنا یاد ہے کہ اس زمانے میں رمضان کی کتابیں بالکل الگ ہوتی تھیں پہلے

رمضان میں خویں ہوئی تھی اسی کے ساتھ جملوں کی ترکیب خویں کے قواعد کے مطابق بنوائی گئی۔ خویں کے چند سبق میں نے مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام حال پاکستان سے بھی پڑھے ہیں۔ مولانا سے میں نے صرف خویں کے چند سبق پڑھے اور کچھ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ میرے والد صاحب حمد اللہ تعالیٰ زیادہ تر خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا ظفر احمد صاحب حمد اللہ تعالیٰ کا حال اکمال الشیم کے مقدمہ میں خود ان کے گرامی نامے سے لکھا جا چکا ہے۔ ان کی پیدائش ان کی تحریر کے موافق ۱۳۱۰ھ اربع الاول ۱۳۱۰ھ ہے۔ مدرسہ مظاہر علوم میں ۵ جمادی الثانی ۲۹ھ کو مدرس مقرر ہوئے۔ ۲۵ھ میں طویل رخصت لے کر اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ اطالال اللہ بقائہ

### وہ نقشہ یہ ہے

#### سال اول از رمضان ۲۸ھ تا شعبان ۲۹ھ:

خویں تمام۔ شرح مائتہ مع ترکیب تمام۔ ہدایۃ الخویں تمام۔ کافیہ کبری تمام۔ ایسا غوجی تمام۔ مرقاہ (تمام)۔ شرح تہذیب (نصف)۔ مفید الطالبین (باب اول)۔ فتح الیمن (دو قصیدہ از باب دوم)۔ الفیہ (تمام)۔ ابن مالک (نصف)۔ فصول اکبری (ثلث)۔ ترجمہ پارہ عم (تمام)۔ تبارک الذی (نصف)۔ مجموع چھل حدیث (یہ پانچ چھل حدیثوں کا مجموعہ، شاہ ولی اللہ صاحب اور ملا جامی کا اس زمانے میں بہت مشہور اور شائع تھا)۔

#### سال دوم رمضان ۲۹ھ تا شعبان ۳۰ھ:

باقیہ الفیہ۔ باقیہ شرح تہذیب۔ قطبی تصدیقات و تصورات مع میر۔ تلخیص فن اول۔ مقامات ۲۳ مقامے۔ حساب تاکسویر عام۔ باقیہ ترجمہ تبارک الذی۔ فتح الیمن باب اول، باب ثانی، باب خامس۔ قصیدہ بردہ۔ بانت سعاد۔ قصیدہ ہمزیہ۔

#### سال سوم رمضان ۳۰ھ تا شعبان ۳۱ھ:

مخصر۔ نور الانوار۔ متنبی۔ سبعہ معلقہ۔ حسامی۔ شرح جامی ۶، احصہ۔ کنز۔ قدوری۔ مینڈی۔ سلم۔

#### سال چہارم رمضان ۳۱ھ تا شعبان ۳۲ھ:

کالپی میں اس کی تفصیل نہیں، مدرسہ کی روایت میں صفحہ ۱۰۱ پر اس سال کی کتب ممتحنہ یہ ہیں: مشکوٰۃ شریف۔ ہدایۃ اولین۔ متنبی۔ حمسہ۔ طحاوی۔ شرح نجہ۔ الفیہ عربی۔ مگر اس کا امتحان نہیں دیا۔

### سال پنجم رمضان ۳۲ھ تا شعبان ۳۳ھ:

کاپی میں اس سال کی کتب بھی درج نہیں ہیں۔ مدرسہ کی روائی سے نقل کر رہا ہوں:  
 ملا حسن۔ حمد اللہ۔ میرزا ہد۔ امور عامہ۔ میرزا ہد ملا جلال۔ میرزا ہد رسالہ غلام تیجی۔ مؤٹا  
 محمد۔ طحاوی۔ اقلیدس۔ شمس بازغہ۔ مگر اقلیدس، شمس بازغہ کا امتحان نہیں دیا۔ مؤٹا امام مالک  
 کا امتحان بغیر پڑھے دیا تھا، ممتحن کو یہ علم ہو گیا تھا کہ بغیر پڑھے دیا ہے، اس لیے انہوں نے  
 بغیر پڑھے کی رعایت کی کہ فیل کر دیا اور کرنا چاہیے تھا۔

### سال ششم رمضان ۳۳ھ تا شعبان ۳۴ھ:

کتب مقرر وہ ازو الد صاحب:

اس سیہ کارنے حدیث کی کتابوں کا امتحان نہیں دیا۔  
 ترمذی شریف۔ بخاری شریف۔ ابو داؤد شریف۔ ہدایہ ثالث (ابتدائی حصہ)۔ نائب  
 شریف (تمام)۔

### سال هفتم رمضان ۳۴ھ تا محرم ۳۵ھ:

نزو حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ: بخاری شریف (دوسری مرتبہ)۔ ترمذی شریف۔ شروع سال  
 میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ نینی تال جیل میں تھے۔ آخر ذی الحجه میں تشریف آوری ہوئی تھی۔

### شووال ۳۵ھ تا شعبان ۳۶ھ:

نزو حضرت قدس سرہ۔ ابو داؤد شریف۔

### شووال ۳۶ھ تا شعبان ۳۷ھ:

نزو حضرت قدس سرہ۔ مسلم شری۔ نائب شریف۔

میں اکمال الشیم کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص  
 شاگردوں کے پڑھانے میں مجتہد تھے، کسی نصاب کے پابند نہیں تھے، ان کے یہاں زبانی تعلیم  
 زیادہ اہم تھی بہت کتابی تعلیم کے۔ ادب کے درمیان میں بہت زور تھا، خو میر کے ساتھ ہی عربی  
 سے اردو، اردو سے عربی بنوانے کا اہتمام تھا۔ ادب میں چھل حدیثوں کا بہت دستور تھا۔ ایک چھل  
 حدیثوں کا مجموعہ تھا۔ جس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ملا جامی، قاضی شاء اللہ صاحب  
 پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی چھل حدیث پڑھائی جاتی تھیں۔

ان کے یہاں کافیہ ہدایۃ الخواص تھے پڑھانے کا معمول تھا۔ جتنی شام کو کافیہ پڑھانی ہوتی صحیح کو

اتنی ہدایت الخو ہو جاتی، گویا ہدایت الخو کافیہ کی جگہ مطالعہ ہوتا۔ اسی طرح سے کنز اور قدوری ساتھ ہوتی، اس طرح پر کہ کنز اصل ہوتی اور قدوری بمنزلہ مطالعہ کے ہوتی، جتنی شام کو کنز ہوتی اس کی ترتیب کے موافق صحیح کو قدوری ہو جاتی۔

ادب کی کتابوں میں وہ مخشی کتابوں میں پڑھانے کے مخالف تھے۔ میں نے مقامات جو پڑھی وہ کلکت کی مطبوعہ میرے لیے خاص طور سے وی پی منگائی گئی تھی۔ جس میں نہ کوئی حاشیہ تھا نہ اعراب۔ سبعہ معلقات انہوں نے اپنے دست مبارک سے لکھ کر پڑھایا اس لیے کہ موجود، سبعہ معلقات سب مخشی تھے۔ اسی طرح متنبی بھی ان کے دست مبارک کی لکھی ہوئی پوری موجود ہے۔

کسی کتاب کا پورا ہونا حدیث کے علاوہ ان کے یہاں ضرور نہ تھا بلکہ ہر کتاب کا نصاب یہ تھا کہ جب آٹھ سبق ایسے پڑھ لوک استار جو چاہے پوچھ لے اور شاگرد پوچھنے پوچھنے وہ کتاب گویا پڑھ لی، اس کے بعد ختم کرنا ضروری نہ تھا۔ اگر شاگرد کا جی چاہتا تو دوبارہ کی طرح سے فرفرنا کر ختم کروئیا، نجی چاہتا تو کچھ ضروری نہ تھا۔ البتہ حدیث پاک کے ختم کا ضرورا ہتمام تھا۔

الفیہ ابن مالک اس ناکارہ نے پورا پڑھا اور اس کا سبق حرفًا حرفاً سانا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر ہر شعر کا ابتدائی کلمہ لکھ لیتا تھا، پھر سارا شعر یاد آ جاتا تھا۔ پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک اردو شرح بھی لکھی گئی تھی۔ تالیفات میں اس کا ذکر آئے گا۔

شرح جامی کے متعلق نقشہ میں ۶، الکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ الفیہ کے بعد ایک دفعہ کا ندھلہ جاتے وقت سہارپور کے اشیشن پر شرح جامی شروع ہوئی تھی، کاندھلہ کے اشیشن تک بغیر ترجیح کے میں پڑھتا چلا گیا۔ ابا جان نے کہیں کہیں مطلب پوچھا، میں نے بتلا دیا۔ کاندھلہ جا کر ایک دن قیام رہا، وہاں بھی ایک گھنٹہ سبق ہوا، تیرے دن واپسی پر کاندھلہ کے اشیشن سے اشیشن سے سبق شروع ہوا تھا سہارپور کے اشیشن تک ختم ہو گیا تھا۔ ان تین دن میں مرفوں کا تو ساری ہو گئی تھیں منصوبات کا بھی بہت سا حصہ ہو گیا تھا۔ میری شرح جامی بھی قسمت سے نہ معلوم کہاں سے آئی تھی، بہت ہی مختصر حاشیہ۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا کہ اس میں حاصل محصول کیا چیز ہوتی ہے؟ جب مدمری کے زمانہ حاشیہ۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا کہ اس میں حاصل محصول کیا چیز ہوتی ہے؟ جب مدمری کے تو میں میں ایک مرتبہ شرح جامی بحث اسم پڑھانے کی نوبت آئی، اس کے حواشی دیکھنے شروع کیے تو میں دیکھتا دیکھتا تھک گیا تحریر، سبب، سوال کا بلی، سوال باؤں، حاشیہ عبد الرحمن، حاشیہ عبد الغفور، نہ معلوم کرنے حواشی دیکھنے، مگر یہ حاصل محصول ختم ہو کر نہ دیا جب پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی معرب کہ لاراء چیز ہے۔

اسی طرح اکثر کتابوں کی تعلیم میری ناقص ہی رہی۔ عبارت تیز اور صاف پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ایسی تیز اور صاف پڑھتا تھا کہ استاذ کو بھی خیال ہوتا کہ خوب سمجھ کر پڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے اب تک بھی جاہل کا جاہل رہا۔

البتہ حدیث پاک کا مجھے بھی اہتمام رہا، وہ میں نے بھی بڑی محنت سے پڑھی، اس میں بھی کئی معرکے ہیں جو عنقریب آنے والے ہیں۔

### مولانا ماجد علی صاحب استاذ منطق:

میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منطق سُلم تک پڑھا کر چھڑا دی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے رفیق درس حضرت گنگوہی قدس سرہ کے زمانے میں مولانا ماجد علی صاحب مانی کلاں شلیع جونپور کے رہنے والے، منطق کے امام، استاذ الاساتذہ، ان کے زمانے میں معقول و منطق شہرہ آفاق تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب قدس سرہ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ زکریا کو منطق میں پڑھاؤں گا اور میرے والد نے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے سُلم تک منطق پڑھا کر چھڑا دیا اور ان کا ارادہ تھا کہ دینیات سے فارغ ہونے کے بعد ایک سال کے لیے مینڈھو بھیجوں گا جہاں مولانا مرحوم مدرس تھے۔ مولانا ماجد علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مناطقہ کے امام تھے ان کی صفات مناطقہ کی صفات ہوتا ہی چاہیے تھا۔ مرحوم کا مشہور مقولہ تھا کہ ترمذی تو مولوی محمود یعنی شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ پڑھا لیتے ہیں اور ابواؤ د مولوی خلیل صاحب یعنی میرے حضرت قدس سرہ اسی بناء پر انہوں نے اپنے ایک خاص شاگرد مولوی فضل الرحمن ٹونکی کو جنہوں نے بارہ برس تک ان سے منطق پڑھی تھی۔ ابواؤ د پڑھنے کے واسطے میرے حضرت کے پاس بھیجا تھا اور میرے حضرت قدس سرہ نے بھی ان کو تباہی سے اہتمام سے ابواؤ د پڑھائی، لیکن بخاری کے متعلق مولانا ماجد علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ تھا کہ ”اس میں تو کچھ کہہ سکتا ہوں تو میں ہی کہہ سکتا ہوں۔“ اسی وجہ سے مولانا مرحوم میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بار بار یہ اصرار کرتے تھے کہ ”زکریا کو جلدی تبیح دو میری خواہش یہ ہے کہ بخاری بھی میں ہی پڑھاؤں۔“ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ منطق کا تو میرا وعدہ ہے، لیکن دینیات سے فارغ ہونے کے بعد بھیجوں گا مرحوم کا یہ مقولہ میں نے خوب بھی سنا جو میرے سامنے میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ”مولوی صاحب آپ اس کا حرج کر رہے ہیں، یہ میرے پاس آنے کے بعد یوں کہے گا کہ میں بخاری بھی تم سے ایک دفعہ دو بارہ پڑھنا چاہوں۔“ میرے والد صاحب کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ ”منطق کا تو وعدہ ہے مگر بخاری کے متعلق تم اگر یوں نہ کہہ دو کہ مولوی زکریا تمہاری اس میں کیا رائے ہے تو کوئی بات نہیں۔“ اور اس پر کچھ خوش نہ ہوتے تھے۔

میرے حضرت قدس سرہ نے ایک مرتبہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ”زکریا نے منطق کہاں تک پڑھی؟“ تو میرے والد صاحب نے مولانا ماجد علی صاحب سے اپنا وعدہ ذکر کر دیا۔ میرے حضرت قدس سرہ نے بڑے زور سے لا حول پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ ”منطق کے

واسطے کہیں بھیجنائیں۔ اس بناء پر اپنی طبیعت کے خلاف میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجھے منطق پڑھوانی پڑی۔ اسی لیے اس نقشہ میں میرا ایک سال خالص منطق کا ہے۔

### میری منطق کا سال:

میرے منطق کے تین استاذ ہیں۔ قطبی میر تک تو میں نے اپنے پچا جان نور اللہ مرقدہ سے مدرس کے اوقات میں پڑھی۔ البتہ شرح تہذیب حضرت ناظم صاحب مولانا عبد اللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے قطبی سے پہلے خارج میں عصر کے بعد پڑھی تھی۔ وہ میرے والد صاحب کے جھرے میں تشریف لایا کرتے تھے، میرے والد صاحب کا جھرہ کتب خانے کا غربی حصہ تھا اور اس کے باہر کا حصہ جہاں اب تک کتب خانہ کی جدید عمارت آگئی اس وقت بالکل خالی تھا اسکی منڈیر پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزاً خیر دے۔ سلم، میدی اور میر زہد، امورِ عامہ حضرت مولانا عبد الوحدید صاحب سنبھلی مدرس دوم مظاہر علوم سے دوسراں میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ منطق کی ساری کتابیں میرے مشق حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم سے اس طرح پڑھیں کہ میر زہد، ملا جلال، ملا حسن تو مدرسے کے گھنٹوں میں ان ہی کے یہاں ہوتی تھیں، اس کے علاوہ باقی سب کتابیں عشاء کے بعد پڑھیں۔ سردیوں کے بعد سے میرا سبق شروع ہوتا تھا، اس طرح پر کہ ایک چار پائی پر تو نیم دراز میں ہوتا تھا اور درمیانی چار پائی پر میرے پچا جان نور اللہ مرقدہ بغیر کتاب کے لیٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ منطق انہوں نے بھی نہیں پڑھی تھی اور اگر میں یوں کہوں کہ منطق کی سب کتابوں میں، اپنے عمم محتشم، استاذ، نائب اشیخ پچا جان کا رفق درس ہوں تو بے محل نہیں۔ تیسری چار پائی پر حضرت ناظم صاحب الحاف اوڑھے لیٹھے ہوتے تھے۔ عشاء کے بعد سے سردیوں کے موسم میں بارہ بجے تک سبق ہوتا تھا اور حضرت ناظم صاحب کے اعزہ حکیم تھی اور مولوی عبد الوحدید، اس زمانے میں مدرسہ میں پڑھتے تھے، میری اور پچا جان والی چار پائیاں ان ہی کی ہوتی تھیں، وہ دونوں زبان سے تو کیا کہہ سکتے تھے، دل دل میں جو کچھ کہہ سکتے ہوں وہ ظاہر ہے، مگر چونکہ طالب علم تھے اس واسطے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید تھی کہ میرے سبق تک مطالعہ دیکھیں، وہ دونوں میرے کتاب کے سبق کے ختم ہونے تک کچھ اونگھتے ہوئے دیکھتے، بیچارے بارہ بجے تک صبر کرتے اور شاوفونا در، ۱۲ بیچ خلاصی ہوتی۔ بارہ بجے ہم تینوں استاذ شاگرداں اٹھ کر بازار چلے جاتے اور ناظم صاحب ان دونوں سے کہہ دیتے کہ آگ جلا کر ذرا سا پانی چائے کا رکھ دو۔ غصہ تو دونوں کو بہت آتا، مگر دو حکم حاکم مرگ مقاجات، وہ چائے کا پانی رکھتے اور چائے دم کر کے رکھتے اور ہم تینوں بازار سے دو دھن، شکر اور مٹھائی خرید کر لاتے، پیسے اکثر ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے اور کبھی پچا جان

کے اور بھی میرے والد صاحب قدس سرہ بھی نہایت ناراضی کے ساتھ غصہ کے ساتھ اس مد میں کچھ مرحمت فرمادیتے۔ میرے والدین کا قیام اس زمانے میں اس مختصر مکان میں تھا جو مدرسہ قدیم کی مسجد کے غربی جانب ہے۔ ابا جان بارہ بجے تک تو انتظار کرتے تھے لیکن بارہ کے دس، بارہ منٹ بعد تحقیق کے لیے تشریف لاتے۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام اس زمانے میں اس مکان میں تھا جواب ”گاڑہ یورڈ نگ“ کے نام سے مشہور ہے اور میرے مکان کے بالکل متصل ہے، میں نے ساری منطق تقریباً اسی مکان میں پڑھی۔ اگر ابا جان کو آنے پر معلوم ہوتا کہ استاد شاگرد سب بازار گئے ہوئے ہیں تو واپس چلے جاتے اور اگر ہم واپس آ جاتے تو بھی ہلکی سی ڈانٹ بھی پڑتی۔ ارے بھائی سابق کی تو مجبوری ہے، اس کے بعد کا وقت شائع نہ کرنا چاہیے۔“ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ کو بھی خطاب فرماتے کہ تم لوگوں کو بھی اٹھتا ہے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ ”حضرت تکان ہو جاتا ہے اس لیے چائے کی ضرورت پیش آتی ہے۔“ ابا جان چپ ہو جاتے۔ حضرت ناظم ان پر بھی چائے کا اصرار کرتے مگر اکثر غصے میں نہیں پیتے تھے۔

مجھے یاد ہے کہ حمد اللہ اٹھارہ یا انہیں دن میں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤی نور اللہ مرقدہ کے چھوٹے بھائی مولوی عبدالرحیم صاحب مرحوم بھی مدرسہ میں پڑھتے تھے اور وہ حمد اللہ کی دفعہ پہلے پڑھ چکے تھے، انہیں حمد اللہ سے عشق تھا۔ میرا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے کہ حمد اللہ بھی ایسی چیز ہے کہ آدمی اٹھارہ دن میں پڑھ لے، وہ اٹھارہ برس میں پڑھنے کی کتاب ہے۔ مجھے ناکر لوگوں سے کہتے کہ ”آپ نے اٹھارہ دن میں حمد اللہ پڑھی ماشاء اللہ کیا کہنا۔“ مقدر کی بات کہ حمد اللہ کے امتحان میں دونوں شریک تھے، اس سیدہ کار کے نمبر بڑھ گئے اور ان کے غالباً ان کے غرور کی وجہ سے گھٹ گئے۔ اس زمانہ میں اساتذہ پر بدگمانی کا کوئی نالائق سے نالائق بھی شبہ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ مرحوم بار بار یوں کہتے تھے کہ ”عقل میں نہیں آتا کہ تیرے نمبر کیسے بڑھ گئے؟“ میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ مشکلاۃ شریف پڑھتے وقت بھی حمد اللہ کا سبق ناکرتے تھے، کہ دونوں سبقوں کے مدرس قریب قریب بیٹھتے تھے۔

مجھے اقلیدس پڑھنے کے زمانے میں اس سے بڑا شغف ہو گیا تھا، اس لیے کہ ابتدائی زمانہ میں صیغہ بنانے کی مشق ابا جان نے بہت کرداری تھی، اس لیے اقلیدس کے زمانے میں اسکی شکلیں گھر نے کا بہت شوق تھا، میرے پرانے کاغذات میں میری صرف صیغہ، صرف کبیر، اقلیدس کی کاپیاں بھی بہت پڑی ہوئیں ہیں۔ تمس بازنہ ہفتہ عشرہ تو متن و شرح دونوں پڑھیں مگر جب یہ اندازہ ہوا کہ متن اور شرح میں زیادہ فرق نہیں اس لیے وہ ایک ہفتہ صرف متن پڑھ کر چھوڑ دیا تھا۔

اس سال میں امتحان کی کتابوں میں موطاً امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر میں نے اس کو بغیر پڑھے امتحان دے دیا تھا۔ اقلیدس جس بازغہ کا پڑھنا تو خوب یاد ہے۔ اقلیدس کی کاپیاں بھی بہت پڑھی ہیں حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دونوں کتابیں پڑھیں مگر امتحان ان کتابوں کا نہیں ہوا اور تصریح شرح پخت میں بھی تھوڑی تھوڑی حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہی پڑھی تھی۔ ان سب کے کفارہ کے لیے اخیر سال میں اپنے حضرت قدس سرہ سے موطاً امام محمد اور طحاوی پڑھی تھی۔ طحاوی کا امتحان نہیں دیا کیونکہ اس سے پہلے سال دے چکا تھا۔

### اساتذہ کرام کے احوال:

یہ غالباً میں لکھوا چکا ہوں کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ ”میں سچھے فقہ، حدیث اپنے اور حضرت کے علاوہ کسی سے پڑھنے نہیں دوں گا، منطق و نطق جس سے چاہے پڑھ لے، اس لیے کہ تو بے ادب اور گستاخ ہے، حدیث اور فقہ کے علاوہ کسی اور کتاب کے استاد کی بے ادبی کرے گا اور وہ علم ضائع ہو جائے گا۔ بلا سے۔ لیکن حدیث اور فقہ کی کوئی کتاب ضائع ہو جائے یہ مجھے گوار نہیں۔“ اس لیے میں نے فقہ کی ابتدائی کتابیں تو اپنے پچا جان سے پڑھی ہیں اور ابتدائی اپنے والد صاحب سے اور حدیث کی کتابیں صرف اپنے والد صاحب اور حضرت قدس سرہ سے۔

اس کے علاوہ میرے صرف تین استاذ ہیں۔ خو میر کے چند سبق مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام پاکستان سے پڑھے ہیں جو اس وقت سہار پور میں مدرس تھے۔ اپنے طلب کے سلسلہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ مولانا نے اپنی پیدائش اور تعلیم وغیرہ خود اپنے گرامی نامے میں مفصل تحریر فرمائی جس کو میں اپنے اکمال الشیم کے مقدمہ میں پورا لکھ چکا ہوں، مولانا نے اپنی ولادت ۱۳۱۴ھ لکھی ہے، جو پہلے گزر چکی۔ ان کی ابتدائی تعلیم تھانہ بھون میں ہوئی اور ابتدائی کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں، جس کی تفصیل مولانا کے اپنے والا نامہ میں موجود ہے جو اکمال الشیم کے مقدمہ میں لکھا جا چکا۔

ان کے علاوہ میرے منطق کے استاذ صرف دو ہیں: ایک مولانا عبد الوہید صاحب سنبھلی رحہ اللہ تعالیٰ جن سے میں نے تین کتابیں مدرسہ کے اس باق کے ساتھ پڑھیں، سُلم العلوم، مینڈی، میر زاہد، امور عامہ اور ان تین کے علاوہ سب حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے پڑھیں حضرت مولانا عبد الوہید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ منطق وفلسفہ کے امام تھے علم ہیئت کی کتابیں کرے کی مدد سے اتنی تفصیل سے سمجھاتے تھے کہ طالب علم کے ذہن میں ساری باتیں بہت وضاحت سے آجائی تھیں۔ حضرت مولانا کی ولادت تقریباً ۱۲۹۰ھ میں سنبھل ضلع مراد آباد میں

ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ان کے والد نے اردو اسکول میں تعلیم دلائی اور اس سے فراغ کے بعد دینیوی کار و بار میں لگالیا۔ مگر اللہ جل شانہ نے علم کا اعلیٰ درجہ مقدار فرمایا تھا، اس لیے ابتداء سرائے تین ضلع مراد آباد کے مدرسہ عربیہ میں داخل ہوئے، مگر چونکہ وہ گھر سے ڈھائی میل دور کے فاصلہ پر تھا، آمد و رفت میں وقت زیادہ خرچ ہوتا تھا، اس لیے حسن پور ضلع مراد آباد کے مدرسہ میں مولانا احمد الدین سرحدی کے پاس صرف ونجوکی تعلیم پوری کی۔ اس کے بعد کسی ماہر فن سے علوم عقلیہ پڑھنے کا شوق ہوا اور معلوم ہوا کہ مولانا غلام محمد صاحب ان فنون کے امام ہیں، چنانچہ ان کی خدمت میں حسن پور سے گھر والوں کو اطلاع کیے بغیر پیدل چل دیے، وہ آنے صرف پاس تھے، ایک ماہ میں لاہور پہنچ، وہاں علوم عقلیہ کی تکمیل اور خاص طور سے علم بیت میں تحریح حاصل کیا اور معلوم ہوا کہ لاہور کے قیام میں حضرت اقدس شاہ عبدال قادر صاحب قدس سرہ راپوری بھی مولانا موصوف کے رفیق درس رہے۔ علوم آیہ کی تکمیل کے بعد حدیث شریف کی تکمیل کے لیے دارالعلوم تشریف لائے اور فراغت کے بعد تقریباً پانچ برس مدرسہ سرائے ترین میں تدریس کی خدمت انجام دی، اس کے بعد نعمانیہ امرتسر میں صدر مدرس رہے، اس کے بعد مینڈھ ضلع علی گڑھ کے مدرسہ میں مدرس رہے، وہاں کے قیام میں جلسہ ستار بندی ہوا، اس میں حضرت سہارپوری، مولانا احمد حسن صاحب امر وہی اور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب راپوری نے شرکت فرمائی اور حضرت سہارپوری نے نواب صاحب سے جو مدرسہ کے سرپرست اور مرتبی تھے، مولانا مرحوم کو مظاہر علوم کے لیے طلب کیا، نواب صاحب مرحوم نے حضرت مولانا کے اصرار پر اجازت دے دی اور حضرت مولانا عبدالوحید صاحب ۱۹ ذی الحجه ۲۸ھ کو مظاہر میں تشریف لائے۔ ذی قعده ۳۳ھ میں بعض خانگی مجبور یوں کی وجہ سے استغفاء دے دیا اور ربیع الثانی ۳۵ھ میں دوبارہ تشریف لائے اور مظاہر سے پھر دوبارہ استغفاء دے کر اولاً مدرسہ شاہی مراد آباد میں اور پھر منڈھ میں چند سال مدرس رہ کر دارالعلوم متو میں صدر مدرسی پر تشریف لے گئے اور وہاں سے علالت کی وجہ سے مکان تشریف لے گئے اور چند ماہ کی علالت کے بعد غرہ رمضان المبارک ۱۳۵۵ھ میں بعمر ۶۳ سال داعی اجل کو بیک کہا، مولانا مرحوم کی مسترد مستغل عادت ہمیشہ نیچے نظر کر کے چلنے کی تھی۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھا توی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے۔

(منقول از مکتوب مولانا محمد حیات صاحب ناظم مدرسہ حیات العلوم مراد آباد مجتصر)

مولانا حیات صاحب نے ولادت تقریباً ۹۰ھ لکھی، لیکن وصال ۵۵ھ بعمر ۶۳ سال لکھا، اس حساب سے ولادت ۱۲۹۲ھ میں ہوتی ہے، بعد میں مولانا مرحوم کے صاحبزادے قاری معید صاحب نے لکھا ہے۔ مظاہر علوم میں آمد کا سال اپنی تاریخ کیہر سے لکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا

گیا کہ چلنے میں اور سبق میں مولانا نبھی نظر رکھتے تھے، تقریر نہایت ممتاز سے آہستہ آہستہ فرمایا کرتے تھے۔ مولانا مرحوم کا ایک مقولہ اس ناکارہ نے کئی بار سننا، نہایت نبھی نظر فرمائے کرتے تھے کہ ”بھیں اس کا یقین ہے، بالکل اعتراف ہے، اس میں نہ تواضع ہے اور نہ مبالغہ ہے کہ ہم لوگ ان کتابوں کے پڑھانے کے ہرگز قابل نہیں۔“ مختلف الفاظ سے اس مضمون کو دہراتے اور پھر ایک دم منہ اوپر کو اٹھا کر جماعت کی طرف اسی طرح سے ہاتھ سے اشارہ کر کے زور سے فرماتے کہ ”یہ جو بلیٹھے ہیں یہ ہم سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔“ سرمدہ لگانے کی مولانا مرحوم کو بہت کثرت سے عادت تھی۔

حضرت استاذ مولانا الحاج الحافظ عبدالطیف صاحب سے تقریباً منطق و فلسفہ کی بندہ نے ساری ہی کتابیں پڑھیں جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا۔ مولانا کی ولادت، میری تاریخ کبیر میں خود مولانا کی ارشاد فرمودہ کہیں درج ہے، مگر چونکہ علی گڑھ میں ہوں، واپسی پر اگر کسی نے ڈھونڈ کر بتا دی تو درج کی جائے گی۔ قرآن پاک حضرت حافظ صاحب نے اپنے وطن پور قاضی ہی میں ایک بکھرے کے حافظ صاحب حافظ امانت علی صاحب سے پڑھا، جو مدرسہ تعلیم الاسلام جامع مسجد پور قاضی میں مدرس تھے اور اب تک یہ مدرسہ اسی نام سے قائم ہے۔ اس کے بعد ابتدائی فارسی اپنے والد صاحب مولانا جمعیت علی صاحب سے جو گورنمنٹ کالج بہاولپور میں شعبہ عربی فارسی کے صدر تھے حاصل کی، پھر حضرت اقدس سہار پوری کی بہاولپور تشریف بری کے موقع پر مولانا جمعیت علی صاحب نے حافظ صاحب کو مولانا کے سپرد کر دیا اور حضرت اقدس سرہ مولانا کو سہار پور لے آئے اور یہاں آکر ازاں تا انتہا مظاہر علوم میں پڑھا۔ البتہ تین ماہ کے لیے شہر میں کچھ فتنہ کے خوف سے حافظ صاحب کو دیوبند تک تجویز دیا گیا اور وہاں صحت اور آب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس تشریف لے آئے۔ عمر تشریف تقریباً ۱۵ سال کی ہوئی۔

(منقول از مکتوب عزیز مولوی عبد الرؤف سلمہ ابن حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قدس سرہ)

حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۱۵ ماہ میں مدرسہ کے کتب خانہ سے بوستان، قال اقوال، ایسا غوجی، مراح وغیرہ لیں اور ۲۳۵ میں اعلیٰ حضرت راپوری قدس سرہ کی تجویز سے جس کی تفصیل تحریر احکام سر پرستان میں موجود ہے، مدرس مقرر ہوئے اور مولانا عنایت الہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مستقل اہتمام کی طرف منتقل ہوئے اور ان کے مختلف اسماق میں سے جلالین تو مہتمم صاحب ہی کے پاس رہی مگر تشریج و قایہ، اصول الشاشی، تہذیب مولانا موصوف کی طرف منتقل ہوئی اور اس کے بعد کتب متفرقہ ہوئیں اور شوال ۱۳۹۶ سے مولانا موصوف کے یہاں ترمذی، بخاری پہلی مرتبہ درس میں ہوئی اس لیے کہ حضرت اقدس سرہ کا صحیح کا وقت بذل الجھود کے لیے

فارغ کر لیا گیا تھا۔ حضرت سہار پوری قدس سرہ کی ہمدرکابی میں شوال ۲۳ھ میں صح کو تشریف لے گئے۔ ۱۳ صفر ۳۸ھ کو دہلی میں بضرورت مدرسہ تشریف لے گئے تھے وہاں شیخ رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوشش پر مرض ہیضہ ہو گیا، سب ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے جواب دے دیا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے سوروپے پر ایک کار کر کے حضرت ناظم کو سہار پور روانہ کیا۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو پچھلی سیٹ پر تکیوں کے سہارے لٹایا۔ یہ ناکارہ اور چچا جان قدس سرہ نیچے جو توں کی جگہ بیٹھے۔ کسی کو امید نہ تھی کہ جتنا بھی پار کر سکیں گے بالکل آخری حالت تھی، مگر جتنا کا پار کرنے کے بعد جب حضرت ناظم کو افاقہ شروع ہو گیا تو پور قاضی (وطن) کی سڑک پر پہنچ کر شدت سے اصرار فرمایا کہ ”میں گھر ہوتا آجائوں۔“ ہم لوگوں نے شدت سے انکار کیا، مگر اللہ کی قدرت کے کر شے کہ میں اور چچا جان ان کو سہارا دے کر مکان پر لے گئے جو سڑک کے قریب ہی ہے، سہار پور پہنچنے پر الحمد للہ مرض بہت تخفیف تھی لیکن ضعف اور مرض کا پچھا اثر کئی ماہ رہا۔ اس کے بعد ۲۲ صفر ۳۷ھ کو بضرورت مدرسہ نگون تشریف لے گئے اور وہاں طبیعت ناساز ہوتی ۲۰ جماوی الثانی کو واپسی ہوتی اور واپسی کے بعد سے مرض کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی، بالآخر ۲۴ ذی الحجه ۳۷ دو شنبہ کی صبح ۱۰ بجے وصال ہو گیا اور ڈھانی بجے شام کو حاجی شاہ میں اس مجسمہ اخلاق کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

مؤٹا امام محمد اپنے حضرت قدس سرہ سے میں نے کئی سال تک پڑھی اس لیے کہ جب حضرت قدس سرہ نے بذل کی مشغولی کی وجہ سے ترمذی، بخاری پڑھانی چھوڑ دی تھی تو اس زمانے میں کئی سال تک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ مؤٹا امام محمد ہوا کرتی تھی اور یہ یہ کاریہ کارہی مستقل اس کا قاری تھا کہ جلدی اور صاف پڑھنے کی مشق تھی اور دوسروں کے پڑھنے میں دیر لگتی تھی۔ اس ناکارہ کے پڑھنے سے تین چار جمعہ میں ختم ہو جاتی تھی۔

نقش جو اوپر درج کیا گیا ان میں بعض کتابیں تو مدرسہ کے امتحان میں شامل ہوتی تھیں اور بعض نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ جو کتابیں مدرسہ کے نصاب میں نہیں ہوتی تھیں یا امتحان کے زمانے میں یا امتحان کے بعد ہوتی تھیں وہ امتحان میں شامل نہیں ہوتی تھیں۔

میں نے اکمال کے شروع میں لکھوا دیا ہے اور بھی بعضی تحریرات میں آچکا ہے کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ مدارس کے موجود طرزِ تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”اس سے استعداد نہیں بن سکتی کہ مدرس تورات بھر مطالعہ دیکھے اور سبق میں ساری تقریریں کرے اور طلبیہ عظام کا احسان ہے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں، اور ہر ادھر مشغول رہیں۔“ ان کا مشہور و معروف طرزِ تعلیم جوان کے خاص شاگرد اُن مولانا عبد اللہ صاحب گنگوہی اور میرے چچا جان میں بھی رہا وہ یہ کہ سارا بار طالب علم کے اوپر رہے، وہ مطالعہ دیکھے، سبق کی تقریر کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد

کا کام صرف یہ ہے کہ ”ہوں“ کرے یا ”اوہ ہوں“ کرے۔ اگر طالب علم زیادہ لغوبات کئے تو طالب علم کے منہ پر کتاب پھینک کر مارے، چاہے کتاب کی جلدیوٹ جائے یا طالب علم کی ناک نوٹ جاوے۔<sup>۳</sup> یہ ان کا مقولہ مشہور ہے مگر اس پر عمل میں نہیں دیکھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا تجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کے بارے میں چوتھی بار قتل کرنے کا حکم فرمادیا، مگر اس پر عمل نہیں فرمایا گیا۔ اسی طرز سے میرے والد صاحب اور پچاچان نے پڑھایا۔

میری فارسی اور ابتدائی تعلیم عربی تو پچاچان سے ہوئی اور منطق بھی میر قطبی تک، اسکے بعد منطق کی تین کتابیں سُلَّم، میدیہ اور میرزاہد امور عامہ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب سے، جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ساری منطق فلسفہ حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم سے، ادب اور فقہ صرف والد صاحب سے، قدوری، فتح العیمن وغیرہ کے بعض سبق پچاچان رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور حدیث صرف والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ اور حضرت قدس سرہ سے۔ مدرسہ میں حدیث کی جو کتابیں دوسرے مدرسے میں کے یہاں ہوتی تھیں۔ ان میں بڑی لمبی تقریبیں ہوتی تھیں۔ ان کو تقریر کرتے دیکھ کر بہت منہ میں پائی بھرتا۔ بار بار والد صاحب سے اجازت لے کر میں حدیث کا کوئی سبق مدرسہ میں سن لیا کروں مگر ہمیشہ نہایت سختی سے منع کرتے بلکہ ڈانت کر ہر دفعہ یہ فرمایا کرتے کہ ”تو بے ادب، گستاخ ہے۔ میر ادب تو جوتے کے زور سے کرتا ہے اور اپنے حضرت کا دل سے کرتا ہے۔“ اور یہ ایک خاص واقع کی طرف اشارہ تھا جس کی طرف انہوں نے زبانی بھی کئی دفعہ فرمایا کہ ”اپنے حضرت کے مجرہ کی چھٹ کر بھی نہیں جاتا اور میری چھاتی پر بھی چڑھنے کو تیار رہتا ہے، جس کی شرح یہ تھی کہ میرے والد صاحب کا مجرہ کتب خانہ کا عربی کمرہ تھا جواب کتب خانہ کا جزء بن گیا اور پاہر کا حصہ بالکل خالی تھا جس کو میں شرح تہذیب کے سبق کے ذکر میں ذکر بھی کر چکا، والد صاحب کے مجرہ سے زینہ میں آنے کے لیے حضرت قدس سرہ کے مجرہ کی چھٹ پر آنا پڑتا تھا تو میں بجائے اس چھٹ کے برابر کی منڈ میر پر سے ہمیشہ گزرتا تھا تھی تو ریا کاری، اس لیے کہ حقیقی ادب تواب تک بھی نصیب نہیں ہوا اس بناء پر میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ”تو بے ادب اور گستاخ ہے، اگر منطق فلسفہ کے کسی استاذ کی بے ادبی کردی اور وہ ضائع ہو گیا تو میری بلا سے لیکن اگر حدیث پاک کے کسی استاذ کی ذرا بھی تو نے بے ادبی کردی تو مجھے یہ گوار نہیں کہ تو حدیث پاک کی برکات سے محروم ہو جاوے۔“ اور بالکل ہی صحیح فرمایا ہے۔ مجھے سے تو حقیقی ادب اپنے کسی استاذ کا نہیں ہو سکا۔ اگرچہ میری بے ادبی کے باوجود میرے استاذ مذکورین کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے بہت ہی محبت اور شفقتیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قدس سرہ اور والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے

علاوہ ہر استاذ کا بر تاؤ میرے ساتھ ایسا مساویانہ رہا جیسا کہ میں ان کا ہم عصر اور فرقہ درس ہوں۔

### ایک عجیب قصہ یا خواب:

جس دن میں نے یہ میڈی شروع کی اس کی رات کو دیکھا تھا کہ میں ہاتھی پرسوار ہوں۔ ایا جان سے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاتھی کی شکل سو رجیسی ہوتی ہے۔ تیرا میڈی کا پڑھنا یہ سور کے ہم شکل پرسوار ہونا ہے۔ اللہ جانے یہی تعبیر ہوگی یا کچھ اور۔ تعلیمی زمانے کی سرگزشتیں تو بہت لمبی ہیں، سب کا احاطہ بھی کرتا بہت مشکل ہے۔

یہ مختلف تحریرات میں پہلے گزر چکا اور یہ معروف چیز ہے کہ میری ابتدائی تربیت قیدیوں کی طرح ہوئی، بغیر والد صاحب اور پچا جان کے کہیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ میرا انتہائی کھیل یا ابتدائی کھیل یا پورا کھیل ”بیت بازی“ تھی، ہم تینوں ساتھی مظہر اور حکیم محفوظ گنوہی ثم الدیوبندی، جب بھی ایا جان کی نگاہ سے ذرا اوچھل ہوتے تو بیت بازی شروع کر دیتے۔ ایک دفعہ حماقت سوار ہوئی کہ بیت بازی کا کھیل قرآن پاک کی آیات سے شروع کر دیا۔ یعنی ایک شخص آیت پڑھے اور آیت شریف کا آخری حرف جو ہو دوسرا شخص وہ آیت پڑھے جس کے شروع میں یہ حرف ہو۔ میرے دونوں ساتھی حافظ نہیں تھے اور میں بھی صرف نام کا تھا۔ مگر خوب یاد ہے کہ نہ معلوم آیتیں کس طرح سوچ لیا کرتے تھے۔ یہ حماقت تین چار دفعہ ہوئی اور پھر بالکل چھوٹ گئی اور منشاء اس کا یہ ہوا کہ عجیب بات تھی کہ جس دن یہ حرکت ہوتی اس دن بلا کسی معقول وجہ کے پٹائی ہو جاتی۔ اس تجربے نے دو تین دفعہ کے بعد ہی توبہ کرادی۔

میری اصل محنت کا زمانہ منطق کے سال سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے محنت تو کم و بیش عربی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی دوسرا مشغله تھا، ہی نہیں۔ کہیں جانا آنانہ تھا، لیکن منطق کے سال میں چونکہ کتابیں بھی بہت سی پڑھیں۔ حضرت مولانا عبد الوہید صاحب سے جو کتابیں پڑھیں وہ تو مدرسہ کے سبق کے ذیل میں پڑھیں لیکن حضرت ناظم صاحب سے جو کتابیں پڑھیں وہ اپنے والد صاحب کے طرز کے موافق زیادہ تر بلاترجمہ کے پڑھیں، لیکن مطالعہ ان کا دن میں دیکھنے کی خوب نوبت آتی تھی۔

### ابتداء مشکلوة:

۳۲ھ کو ظہر کی نماز کے بعد میری مشکلوة شریف شروع ہوئی، والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ظہر کی امامت بھی کی تھی کہ اس زمانے میں نمازو ہی پڑھایا کرتے تھے اور نماز کے بعد غسل فرمایا اور اس کے بعد اوپر کے کمرے میں جو آج کل مہمان خانہ ہے اس زمانے میں فارسی

خانہ تھا اور مدرسہ کے اوقات کے علاوہ میرے والد صاحب اور ہم سب کی گویا رہائش گاہ بھی تھا، اس میں اس در کی طرف جو مسجد کی طرف کھلتا ہے اور وہ مدرس اول فارسی کے بیٹھنے کی جگہ تھی ان کا گدھہ وغیرہ وہاں بچھا رہتا تھا۔ اس پر کچھ بچھا کر دور کعت نفل پڑھی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مشکلہ شریف کی بسم اللہ اور خطبہ مجھ سے پڑھوایا۔ پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر پندرہ نیس منٹ تک بہت ہی دعا میں مانگیں، مجھے معلوم نہیں کیا کیا دعا میں مانگیں، لیکن میں اس وقت ان کی معیت میں صرف ایک ہی دعا کرتا رہا کہ ”یا اللہ! حدیث پاک کا سلسلہ بہت ویر میں شروع ہوا، اس کو مرنے تک اب میرے ساتھ وابستہ رکھیے۔“ اللہ جل شانہ نے میری تاپا کیوں، گندگیوں، سینات کے باوجود ایسی قبول فرمائی کہ محرم ۳۲ھ سے رب جب ۹۰ھ تک تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں حدیث پاک کا مشغله نہ رہا ہو۔ اگرچہ دعا کے وقت میں یہ سونج رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر میں نے پڑھ بھی لیا پھر مدرس بھی ہو گیا تو حدیث پاک پڑھانے تک دس بارہ برس تو لگ ہی جاویں گے کہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جو یکم جو ۲۳۱ھ سے مدرس تھے اس وقت تک مشکلہ تک نہیں پہنچ چکے، مگر اللہ جل شانہ مسبب الاسباب ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو اسباب تو خود اس کی مخلوق ہے۔

۳۲ھ میں مشکلہ پڑھی۔ ۳۳ و ۳۴ھ میں دورہ۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ ۳۵ھ سے بدل شروع ہوئی جو ۳۵ھ میں ختم ہوئی اور اس کے بعد او جز کی تالیف شروع ہوئی جو ۵۷ھ میں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے علم حدیث کے تالیفی سلسلے بھی شروع ہوتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک ساتھ دے رہے ہیں اور شوال ۳۱ھ سے علم حدیث کی تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا جو ۸۸ھ تک رہا اور اس کے بعد نزول آب کی وجہ سے تدریس کا مبارک سلسلہ چھوٹ گیا۔ اللہ ہی کا شکر و احسان ہے کہ اب ۹۰ھ تک تو حدیث کی تالیف کا سلسلہ باقی ہے، دیکھیئے میری بد اعمالیاں اس کو آگے باقی رہنے والیں کی یانہیں۔

### دورہ کا سال:

شوال ۳۳ھ میں میرے دورہ کا سال شروع ہوا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ نہ تو مجھے کہیں ملازمت کرنی ہے نہ مدرسی کا شوق، اس لیے دورہ کی کتابیں ایک سال میں پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ ابو داؤد شریف میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاص سبق تھا، جو میرے حضرت قدس سرہ کے زمانے میں بھی اہتمام سے میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوتا تھا۔ شوال ۳۳ھ میں حضرت قدس سرہ نے حضرت شیخ تور اللہ مرقدہ کی معیت میں حجاز کا وہ مشہور و معروف معرکۃ الاراء سفر کیا جس میں کابل کی طرف سے آکر ہندوستان پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا

تحا اور اس کے قصے اب تو مشہور و معروف ہو چکے ہیں، حضرت مدینی قدس سرہ کی مختلف تصانیف میں اور مولانا محمد میاں صاحب سابق ناظم جمیع العلماء کی تصانیف میں مختصر و مطول آچکے ہیں اور حضرت قدس سرہ کی غیبت میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسباق ترمذی، بخاری بھی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آچکے تھے۔ لیکن میرے ذہن میں چونکہ سارے دورہ کی کتابیں ایک سال میں پڑھنا نہیں تھا، اس لیے میں نے صرف ابو داؤد میں شرکت کی اور والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بہت خوشی سے انہوں نے اس کی اجازت دی۔ چند ہی روز بعد میرا کاندھلہ جانا ہوا تو میرے پھوپھا مولانا رضی الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ”تو نے ترمذی بخاری سیکھی سے کیوں نہیں پڑھی؟“ میں نے اپنا منصوبہ بتایا۔ انہوں نے فرمایا، ”میرا اندازہ یہ ہے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ تو نے ان سے ترمذی نہیں پڑھی۔“ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ میں اسی دن آنے والا تھا اس لیے کہ ایک ہی شب کے لیے گیا تھا، مگر میں نے کاندھلہ سے ہی ایک خط والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بہت زور کا لکھا کہ پھوپھا صاحب سے یہ معلوم ہو کر بڑی حیرت ہوئی، میں نے جو کچھ کیا جناب والا کی اجازت سے ہی کیا۔ وہ خط میری والپی کے ایک دن بعد پہنچا۔ اس کو پڑھ کر میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”نہیں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، میاں رضی کو کسی بات سے شے ہوا ہے۔“ مگر میں نے اندازہ یہ کیا کہ پھوپھا صاحب کی روایت صحیح ہے اور والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر اس کا احساس ضرور ہے، اس لیے میں نے اپنی تجویز کے خلاف ابو داؤد شریف کے ساتھ ترمذی بھی شروع کر دی۔ ترمذی شریف کے بعد بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کے بعد نسائی شریف والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوئی اور چونکہ بخاری شریف پہلی دفعہ ہوئی تھی اس لیے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسائی شریف کا گھنٹہ بھی بخاری جلد ثانی کو دے دیا اور نسائی شریف جمع جمع پوری کرائی۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب، الفقیر میں آدھے صفحے سے زیادہ ایک گھنٹہ میں سبق کسی دن میں نہ ہوتا تھا۔ آیات کا پڑھنا اور اس کے بعد امام بخاری کی تفسیر کے متعلق کلام فرمانا۔ حافظہ چونکہ ماشاء اللہ اچھا تھا اس لیے آیت کے پڑھنے میں تو ان کو درینہیں لگتی تھی، فوراً پڑھتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن پاک بہت از بر تھا۔ البتہ آیات کی مشہور تفسیر اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر اور ان دونوں میں تطابق میں دیگرتی تھی۔

### میرے والد صاحب کی تدریس بخاری:

اس زمانے میں میرا ایک رفیق درس حسن احمد مرحوم سہار پوری محلہ کھالہ پار کار ہے والا، نہایت ہی متین، نیک اور میرے والد صاحب قدس سرہ کا گویا عاشق زار، اتنا معتقد کہ حد نہیں۔ دورہ سے

پہلے تو میری مر جوم سے جان پہچان کچھ زیادہ نہ تھی، صرف ایک نیک طالب علم سمجھتا تھا۔ مگر دورہ میں اس کے جو ہر کھلے۔ مر جوم میرے پاس ہی بیٹھتا تھا اور میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر نقل کرتا تھا۔ میں نے اس کو جوانی کے زمانے میں کبھی کوئی فخش مذاق کرتے نہ دیکھا تھا۔ میرے اور مر جوم کے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے دورہ میں دو اہتمام تھے۔

### حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام:

ایک یہ کہ کوئی حدیث ایسی نہ ہو کہ استاد کے سامنے پڑھنے سے رہ جائے، دوسرے یہ کہ بے وضو کوئی حدیث نہ پڑھی جائے۔ میرا اور مر جوم کا دستور یہ تھا کہ ہم میں سے جس کو وضو کی ضرورت پیش آ جاتی، اس لیے کہ ۵، ۶ گھنٹے مسلسل سبق ہوتا، وہ دوسرے کو کہنی مار کر ایک دم اٹھ جاتا اور دوسرا ساتھی فوراً ابا جان پر کوئی اشکال کر دیتا۔ اگرچہ اس کی نوبت تو بہت کم آتی تھی مہینے دو مہینے میں اس کی نوبت آتی تھی اس لیے کہ صحت اچھی تھی اس سے کار کا تو اس زمانے میں ظہر کے وضو سے عشاء پڑھنے کا معمول سالہا سال رہا۔ پھر بھی کبھی نہ کبھی ضرورت پیش آ جاتی۔ والد صاحب پہلی ہی مرتبہ میں کبھی گئے تھے کہ ایک دم ایک ساتھی اٹھا اور ایک منٹ میں آستینیں اتارتا ہوا بھاگا ہوا آ رہا ہے اس سے ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا اور اس چیز سے ان کو سرت بھی تھی ایک دفعہ حسن احمد مر جوم اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی درجے عطا فرمادے میرے کہنی مار کر ایک دم اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی میں والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت! فتح القدر میں یوں لکھا ہے اور بالکل بے سوچ کہا، میرے بھی ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ فتح القدر میں کیا لکھا ہے، لیکن میرے اس فقرہ پر کہ ”حضرت فتح القدر میں یوں لکھا ہے۔“ میرے والد صاحب بے ساختہ نہ س پڑے اور کتاب میں نشان رکھ کر اور اس کو بند کر کے مجھ سے فرمایا کہ ”جب تک حسن احمد آئے میں تمہیں ایک قصہ نہ دوں، میں تمہاری فتح القدر سے کہاں لڑتا پھر دوں گا۔“ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دستور اسپاٹ میں قصے سنانے کا بہت کثرت سے تھا اور میرے حضرت قدس سرہ کا بالکل نہ تھا اور میں نے حدیث پاک دونوں سے پڑھی۔ اس لیے سال کے شروع کے تین چار ماہ تو والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتباع رہا اور آخر سال میں حضرت قدس سرہ کا۔ بہر حال والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح القدر کی بحث کی جگہ ایک قصہ سنادیا۔ ہم دونوں نے وضو میں آؤ ھے منٹ سے زائد بھی نہ لگتا تھا، اس لیے کہ اوپر ہی لوٹوں میں پانی بھرا رہا کرتا تھا، آداب کی رعایت تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی اور وضو کے چار فرائض پر ہاتھ پھیزرنے میں کیا دیرگتی ہے۔ اس کے بعد والد صاحب قدس سرہ کا معمول یہ ہو گیا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی اٹھتا، والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک قصہ

سادیتے تھے۔ لیکن حضرت قدس سرہ کے دورہ میں اس کی پابندی تور ہی کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہوئی کہ جو استاذ کے سامنے نہ ہوئی ہو۔ لیکن وضو کا یہ اہتمام نہ ہو سکا، اگرچہ حضرت قدس سرہ کے یہاں صرف دو ہی گھنٹے سبق ہوتا تھا، اس لیے وضو کا ٹوٹنا بھی یاد نہیں اور والد صاحب رحمہ اللہ مرقدہ کے یہاں ۵، ۶ گھنٹے ہوتا تھا۔ میری مسلم شریف اور ابن ماجہ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہو سکی، اس لیے کہ مسلم شریف اس سال ناظم صاحب کے یہاں پہلی دفعہ گئی ہوئی تھی اور ابن ماجہ کئی سال سے مولا ناثابت علی صاحب کے یہاں ہوتی تھی اور یہ میں لکھوا چکا ہوں کہ والد صاحب نے طے کر رکھا تھا کہ حدیث کی کتاب میرے اور حضرت کے علاوہ کسی سے نہ ہوگی۔

دورہ کے ختم پر اس سیہ کارنے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ مرقدہ سے ہدایہ ثالث شروع کی، اس زمانے میں مطالعہ کا چرکا پڑ گیا تھا۔ حدیث کی کتابیں ہو چکی تھیں، دن بھر خوب مطالعہ دیکھتا تھا اور مغرب کے بعد موجیوں کی مسجد میں جہاں میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام اکثر رہتا تھا، ہدایہ کا سبق ہوتا تھا، میں تھا ہی تھا، ہدایہ پر نقلی اور عقلی، احادیث کے اور کفایہ اور عنایہ کے، فتح القدير کے خوب اعتراضات کیا کرتا تھا۔ والد صاحب رحمہ اللہ مرقدہ نے دو دن کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ”طالب علموں کی طرح پڑھنا ہو تو پڑھ مددِ رسول کی طرح پڑھنا ہو تو اپنے آپ جا کر اشکال جواب دیکھتے رہو۔“

مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے کسی استاذ پر کبھی دل میں اعتراض پیدا نہ ہوا، نہ یہ گھمنڈ پیدا ہوا کہ میرے اشکال کا جواب استاذ سے نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔

۱۰ اذی قعدہ کو میرے والد صاحب قدس سرہ کا انتقال ہو گیا، یا تو ایک سال پہلے یہ جذبہ تھا کہ ترمذی شریف، بخاری شریف حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہی سے پڑھتی ہے اور اب اجان سے شروع نہ کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد دستور یہی ہے کہ قدر اور محبت زندگی میں کم ہوتی، انتقال کے بعد بڑھ جاتی ہے، اب یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ترمذی شریف، بخاری شریف پڑھ لی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات میں یہ جذبہ تھا کہ حضرت کی واپسی پر دوبارہ پڑھوں گا۔ مگر والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد یہ خیال دل سے نہ یہ کہ نکل گیا، بلکہ اس کا عکس دل میں جم گیا۔

### حضرت سے دوبارہ احادیث پڑھنا:

حضرت قدس سرہ کی نینی تال سے واپسی پر ترمذی شریف جواب تک میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد سے بند تھی، حضرت کے یہاں شروع ہوئی اور حضرت نے تشریف

لاتے ہی اس سے کار کو اور میرے عزیز دوست مخلص اور فیق حسن احمد مرحوم کو دو توں کو یہ حکم فرمایا کہ ”ترمذی شریف، بخاری شریف مجھ سے دوبارہ پڑھو۔“ انکار کی تو کیا مجال تھی اور اس کا شاید بھی کسی حرکت سے ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اسی زمانے میں اس سے کار نے خواب دیکھا کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ ارشاد فرمائے ہیں کہ ”مجھ سے دوبارہ بخاری شریف پڑھ۔“

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ مالا شریف لے جا چکے تھے، بہت سوچتا رہا کہ خواب کی تعبیر کیا ہو گی؟ حضرت قدس سرہ سے خواب عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ مجھ سے بخاری شریف دوبارہ پڑھو۔ اس وقت تو اپنی حماقت سے تعبیر بھجنے آئی، لیکن بعد میں سمجھ میں آگیا کہ اس وقت شیخ الہند فی الحدیث کا مصدق، حضرت قدس سرہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ بہر حال، تعمیل ارشاد میں شروع تو ہم دونوں نے کر دیا، لیکن میر ارشیف حسن احمد مرحوم اس سال فنون کی کتابیں پڑھتا تھا اور وہ بخاری شریف کے نیچے کسی مطالعہ کی کتاب کو رکھتا تھا۔ میں اس پر شدت سے انکار کرتا تھا۔ کہ یہ تو بہت بے ادبی ہے، حدیث پاک کی بھی اور استاذ کی بھی، ایسا ہرگز نہ کر۔ مگر اس کو میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے عشق تو ان کی زندگی میں ہی تھا اور ان کے انتقال کے بعد میری طرح یہ جذبہ اور بھی پڑھ گیا تھا کہ اب تو حدیث کسی سے نہیں پڑھنی۔ میں نے اس کے بال مقابل یہ کوشش کی کہ اتنے قوی اشکالات دمادم کروں کہ حضرت قدس سرہ تحریکی کو دیکھ کر یوں فرمادیں کہ تجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تقریباً یہ سال میر ایسا گزر اک رات دن میں دو ڈھانی گھنٹے سے زیادہ سونے کی توبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ مدرس ہو گیا تھا۔ جس کا قصہ آگے آ رہا ہے اور دو سبق میرے دوستادوں کے یہاں سے اصول الشاشی پچھا جان نور اللہ مرقدہ کے یہاں سے علم الصیغہ مولانا ظفر احمد صاحب کے یہاں سے منتقل ہو کر آئے تھے اور دونوں میری بے پڑھی کتابیں نہیں، جس کی تفصیل آئندہ تدریس میں آئے گی۔ اصول الشاشی کے مطالعے میں کئی گھنٹے خرچ ہوتے۔ لیکن عشاء کے بعد سے رات کے تین چار بجے تک میں ترمذی شریف، بخاری شریف کا مطالعہ دیکھا کرتا تھا اور فتح الباری، عینی، قسطلانی، سندھی کے ابواب بہت ہی بالاستیعاب اور غور سے دیکھتا اور جہاں کوئی اشکال پیش آتا، اس کو نوٹ کر لیتا۔ جواب نوٹ نہ کرتا اور صفحہ کو حضرت قدس سرہ کی خدمت میں، اللہ مجھے بہت ہی معاف فرمائے۔ دمادم اعتمادات کرتا، مگر ا Lund کا بڑا ہی احسان ہے، اسی کا لطف و کرم ہے۔ **اَللَّهُمَّ لَا اُحْصِنُ ثَنَاءً عَلَيْكَ،** مجھے اس کا کبھی وہ ہمہ نہیں ہوا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے میری بات کا جواب نہیں آتا۔ جب شیطان ذرا سا وسوسہ کا شے بھی ذاتا تو میں اپنے دل سے کہتا ”بے غیرت ساری رات تو کتاب دیکھی تجھے

اعتراض کرتے شرم نہیں آتی۔“ دوڑھائی ماہ اسی مناظرے میں گزار دیے۔ اس واقعہ کو مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تذکرۃ الخلیل میں بھی کچھ اجمالاً لکھا ہے۔

میرا اور حسن احمد مرحوم کا یہ معمول تھا کہ سبق کے بعد، ہم دونوں حضرت کے پیچھے پیچھے دارالطلبہ سے مدرسہ قدیم تک آتے، حضرت قدس سرہ، دو ماہ کے بعد حب معمول دارالطلبہ سے تشریف لارہے تھے اور ہم دونوں پیچھے تھے، مدرسہ قدیم کے قریب اٹی کی نال جہاں آج کل آرائشین لگ گئی ہے، اس کے بال مقابل حضرت کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو کر یون ارشاد فرمایا کہ ”ساری عمر سے یہ تمنا رہی کہ ابوداؤ دشیریف پر کچھ لکھوں اور کئی دفعہ شروع بھی کیا مگر پورا نہ ہو سکا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات میں ہمیشہ تقاضا رہا کہ لکھوں اور جواہر کال ہو گا حضرت سے پوچھتا رہوں گا۔ حضرت کے بعد طبعیت سرد ہو گئی۔ لیکن پھر خیال ہوا ہمارے مولانا تیجی صاحب تو حیات ہیں جہاں اشکال ہو گا ان سے الجھتے رہیں گے۔ مگر ان کے انتقال پر تو خیال بالکل ہی نکل گیا تھا۔ اب یہ خیال ہے کہ اگر تم دونوں میری مدد کرو تو شاید لکھ سکوں۔“ حضرت کا ارشاد صحیح تھا اس لیے کہ میں نے خود حضرت کے مسودات میں ایک مسودہ دیکھا تھا۔ جس پر ”حل المعقود فی ابی داؤد مَرَّةٌ ثالثَةُ“ کا لفظ لکھا ہوا تھا، مسودہ کو دیکھا جائے جو مدرسہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے، نام میں کچھ اشتباہ ہے، علی گڑھ سے واپسی پر اگر وقت ملتا تو میں خود دیکھ کر تصحیح کر دوں گا، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مدرسہ کے کتب خانہ میں دیکھ لے۔ میں نے عرض کیا کہ ”حضرت! ضرور اور یہ میری دعا کا شمرہ ہے۔“ حضرت نے فرمایا ”اس کا کیا مطلب؟“ میں نے مشکلاۃ شریف کی ابتدائی دعا کا ذکر کر کے عرض کیا کہ ”حضرت اب تک اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب سمجھ میں آ گئی کہ آنھوں برس تو حضرت کو اس شرح میں لگ ہی جائیں گے اور اس وقت انشاء اللہ یہ ناکارہ بھی حضرت کی برکت سے حدیث پڑھانے تک پہنچ ہی جائے گا۔“ حضرت کا چہرہ سرت سے کھل گیا۔ میرے حضرت قدس سرہ خوبصورت بہت تھے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا مقولہ میرے حضرت کے متعلق کہیں طبع شدہ بھی میں نے دیکھا ہے اور سن بھی ہے کہ مولانا خلیل احمد صاحب تو گلاب کا بھول ہیں۔ اس لیے کہ حضرت قدس سرہ کے چہرے پر غصہ اور خوشی ایسی صاف نظر آیا کرتی تھی کہ پہنچ کر محسوس ہوا کرتی تھی۔

### ابتداء تالیف بذل الحجود:

حضرت قدس سرہ نے اگلے دن مجھے بلا کر کتب خانہ سے کتابوں کے نکالنے کی ایک فہرست مجھے لکھوائی۔ چنانچہ ۲۴ ربیع الاول مدرسہ کے کتب خانہ سے کتابیں لی گئیں اور دارالطلبہ کے خزانے والے کمرہ میں بذل الحجود کی تالیف کی ابتداء ۳۵ یا ۳۶ ربیع الاول میں ہوئی۔ اس کے بعد بھی

میں اسی جذبہ اور کوشش میں کہ حضرت دوبارہ نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ میرے ساتھی میرے بے جا سوالات پر بہت ہی چیز بھیں ہوتے، خاص طور پر مجھے بخاری شریف میں اشکالات کی زیادہ سہولت پیدا ہو گئی، دو گھنٹے میں سبق ایک صفحہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ جمادی الاول آگیا اور بخاری شریف کے چند پارے ہوئے۔ حضرت قدس سرہ، نے ایک دفعہ یوں ارشاد فرمایا کہ ”میں تو رجب میں بہاولپور کا وعدہ کر چکا ہوں، کتاب بہت باقی رہ گئی۔ میرے بعد مولوی ثابت علی صاحب، مولوی عبدالطیف سے پوری کر لیجیئے۔“ اس فقرہ سے زمین پاؤں سے نکل گئی، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جو آپ سے بھی پڑھنا نہ چاہتا ہو وہ اگلے سے کیا پڑھے گا۔

میرا اور حسن احمد کا معمول دارالحدیث میں حضرت قدس سرہ کے دہنی طرف بیٹھنے کا تھا، وہاں ایک الماری رکھی رہتی تھی، اس میں حضرت قدس سرہ کی اور میری اپنی کتابیں رہتی تھیں، اس لیے کہ میرے مطالعہ کی کتاب دوسری میرے گھر پر تھی۔ یہ منظر بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول ہمیشہ جنوبی زینہ کی طرف جانے کا تھا اور اور پر جا کر ہمیشہ دارالحدیث کے پہلے دروازے سے داخل ہوتے، طلبہ ایک دم کھڑے ہو جاتے، تپائیاں ہٹا دیتے، حضرت کے لیے ایک دم راستہ کھل جاتا۔ ارشاد بالا کے بعد جب دوسرے دن حضرت سبق کو شریف لے گئے اور دارالحدیث کے پہلے دروازے سے اندر قدم رکھا اور سامنے میں اپنی جگہ پر نہیں تھا تو وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے اندر گھوم رہا ہے کہ حضرت اپنی جگہ ششدرا کھڑے رہ گئے، قدم آگے نہیں بڑھایا، اس لیے کہ شروع محرم سے آج پہلا دن تھا کہ میں اپنی جگہ نہیں تھا، میں یہ منظر دیکھ کر جہاں بیٹھا تھا وہاں سے کھڑا ہوا، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا اور قدم آگے بڑھایا، اس لیے کہ آج یہ ناکارہ حضرت کے سامنے جماعت کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت کے بیٹھتے ہی رمضانی حافظوں کی طرح سے جو میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی کہ نہ کوئی اشکال تھا، نہ کوئی شبہ تھا۔ کبھی آدھا پارہ، کبھی پون پارہ، دونوں گھنٹے میں ہی پڑھتا تھا، کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں دیا، جمادی الثانی میں بخاری شریف ختم کر دی۔

ایک دفعہ احتیاطاً حضرت کے کان میں ڈال بھی دیا کہ ”حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفر تو تجویز ہو گیا اور بخاری شریف حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہی پوری کرنی ہے۔“ مگر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ”لایقِ نہیں فرمایا۔

### تیسرا دو رشروع ہوا:

میں نے شوال میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ”حضرت! بذل کے لیے وقت بہت تھوڑا املاکا ہے، اس لیے بذل پہلے صرف تیسرا چوتھے گھنٹے میں ہوتی تھی، میرا خیال ہے کہ ترمذی

شریف حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے حوالے کر دیں اور بجائے صحیح کے شام کو ابو داؤد شریف پڑھادیا کریں، میری ترمذی شریف، بخاری شریف تو حضرت کے پاس ہو گئی، میری تمنا یہ ہے کہ بقیہ کتابیں بھی ہر سال ایک ایک کتاب ہو کر پوری ہو جائیں۔“ حضرت نے بڑی صرفت سے اس کو قبول فرمایا اور اس لیے کہ ایک تو اس میں بذل کے لیے زیادہ وقت ملتا تھا جو حضرت کے عین تمنا تھی، دوسرے اس سیہ کار کے اوپر حضرت کی شفقت بے پایاں کی وجہ سے ابو داؤد کے پڑھانے سے حضرت کو صرفت تھی، اس لیے شوال ۳۵ھ سے حضرت کے یہاں ابو داؤد ہوئی، شعبان تک اور شوال ۳۶ھ میں، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں اس سال مسلم شریف ہو گئی، حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا اور اس سال مسلم شریف اور نسائی شریف حضرت کے پاس پڑھی، ابن ماجہ شریف دونوں بزرگوں کے پاس پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، البتہ مدینہ پاک میں ۳۵ھ میں بذل انجھوڑ ختم ہونے کے بعد ابن ماجہ حضرت قدس سرہ سے شروع کی تھی اور چند سبق پڑھتے تھے۔ لیکن پھر ماہ مبارک آگیا اور پھر حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی اس لیے پوری نہ ہو سکی۔

### طحاوی سے میرے والد اور انور کشمیری کا شغف:

طحاوی شریف اولاد میں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشکلوہ کے ساتھ پڑھی۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اور حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کو طحاوی شریف سے بہت خصوصی تعلق تھا، اسی بناء پر گنگوہ کے قیام میں والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے طحاوی کا اردو و ترجمہ بھی شروع فرمایا تھا۔ اس کا اشتہار بھی دیا گیا تھا۔ اس کا بہت سا حصہ میرے پچھا جان تور اللہ مرقدہ نے بھی اباجان کی تعلیم حکم میں لکھا، مگر مقدر سے پورا نہ ہو سکا۔ آسانید کو چھوڑ کر متون حدیث کا خلاصہ اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر کو تفصیل سے لکھنا یہ موضوع تھا۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ طحاوی کی دونوں جلدیں داخل درس ہوں، میں دارالعلوم میں اس پر قابو نہ پاس کا، تم مظاہر علوم میں مجھ سے زیادہ با اختیار ہو اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز فرمایا تھا، اس زمانے میں ایسا ہی تھا۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ارشاد میں، میں نے مظاہر علوم میں طحاوی شریف کا مستقل گھنٹہ کیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے دونوں جلدیں پوری ہونے پر میں بھی قابو نہ پاس کا، کئی دفعہ تقسیم اسماق میں، میں نے یہ پیش کش کی ابو داؤد اور پھر بخاری شریف کی جگہ مجھے طحاوی دی جائے، مگر اہل مدرسہ نے ان دونوں کتابیوں کو طحاوی سے زیادہ اہم سمجھا اور ایک سبق سے زائد یہ ناکارہ بھی اپنی تالیفی سلسلہ کی وجہ سے پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ خدا کرنے آئندہ کوئی طحاوی شریف کا شو قین اس کی دونوں جلدیوں کو پورا کر دیا کرے۔ مشکلوہ والے سال میں

اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ سے تقریباً ایک جلد پوری اور دوسری کا کچھ حصہ پڑھا اور اس کے بعد موطاً امام محمد کے ساتھ کچھ حصہ حضرت قدس سرہ کے یہاں پڑھا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول اول ترمذی شریف، اس کے بعد بخاری شریف اور اس کے ختم پر موطاً امام محمد اور طحاوی شریف پڑھانے کا سلسلہ چند سال رہا، اس لیے بندہ نے طحاوی شریف کا معظم حصہ اول اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے تقریباً ڈیڑھ جلد پڑھی اور اس کے بعد تمہر کا دوسرا سال میں کچھ حصہ حضرت قدس سرہ سے پڑھی۔

یہ تو طالب علمی کا دور تھا، جو بہت ہی عجلت میں چند واقعات لکھے۔

### اب مدرسی کی سنو:

محرم ۳۵ھ کے شروع میں یہاں کارہ مدرس ہوا۔ جب میری مدرسی کا اور میری طرف اس باقی منتقل ہونے کا اعلان ہوا تو میرے عزیز محترم دوست مولوی اور لیس صاحب کاندھلوی مؤلف الحلقہ الصبح، جو آج کل جامعہ اشرفیہ لاہور میں اعلیٰ مدرسین میں شمار ہیں، حدیث و تفسیر کی کتابیں کثرت سے پڑھاتے ہیں انہوں نے بہت اخلاص و محبت سے ایک نصیحت کی جس نے مجھے بہت کام دیا۔ انہوں نے کہا ”میاں صاحب! ایک بات غور سے سن لو تم نے جس طرح خود پڑھا ہے، مدرسون میں یہ طرز نہیں چلنے کا۔ طالب علم دمادم شکایتیں کریں گے اور نالائق بن کر مدرس سے الگ کر دیئے جاؤ گے، میری ایک نصیحت جو مدرس کے طرز تعلیم اور طلبہ کے مزاج کے موافق ہے اور جس سے تم طالب علم کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ، تم اس کی ذرا پرواہ نہ کرنا کہ طالب علم نے مطالعہ دیکھایا نہیں دیکھا، سبق یاد کیا یا نہیں۔ اگر تم نے طلبہ سے مطالعہ پروہ گرفت کی جو تم سے کی گئی تو تمہارے خلاف طلبہ میں شوریج جائے گا۔ وہ نہیں کہنے کے کہم سے مطالعہ کی گرفت کی جاتی ہے یا ہم سے گزشتہ سبق ناجاتا ہے، وہ تمہیں نالائق ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے خلاف پڑھانے سکتے کی، سمجھانے سکنے کی شکایت کریں گے۔ اس لیے میری مخلصانہ نصیحت کو اہتمام سے سن لو کہ جو تمہارے منہ میں آئے کہتے چلے جانا، یہ نہ سوچنا کہ یہ طالب علم کی استعداد کے موافق ہے یا اس سے اوپنجی بات ہے۔ یہ بھی نہ پوچھنا کہ کل میں نے کیا کہا تھا، کس نے یاد کیا کس نے نہیں۔“

اس نصیحت نے مجھے اخیر تک بہت کام دیا۔ میری جہالت پران کی نصیحت نے بہت ہی پرده ڈالے رکھا۔

میرے ابتدائی تقریر کے وقت جو محرم سے ہوا تھا، وہ سبق ایک میرے پچا جان نور اللہ مرقدہ کے یہاں سے اصول الشاشی کا اور دوسرا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھا تویی حال شیخ الاسلام پاکستان جو اس وقت مظاہر علوم کے مدرس تھے علم الصیغہ منتقل ہو کر آیا اور دونوں کتابیں میری بے پڑھی

تحمیں۔ علم الصیغہ کا کچھ زیادہ فکر رہے ہوا، البتہ اصول الشاشی اہم تھی۔ جماعت بھی اس کی کچھ بڑی تھی۔ میں نے پچا جان نور اللہ مرقدہ سے پوچھا کہ سبق کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فضل فی الامر کے ایک ورق کے بعد سے ہے مگر میں نے اس لیے کہ مجھے طلبہ کا اندازہ تھا کہ طالب علم و حکومہ دیا کرتے ہیں۔ پچا جان سے امر کی بحث دو ورق پڑھ لیے، ایک طلبہ کا پڑھا ہوا اور دوسرا بے پڑھا، ان سے تو اپنے ہی ضابطے پر پڑھے کہ جلدی جلدی، لیکن چونکہ اعلان بدھ کو ہو گیا تھا اور شنبہ سے سبق شروع تھے، اس لیے دو تین دن میں کتب اصول میں اصول الشاشی کے شروع و حواشی، نور الانوار و منار، اس کی شرح کشف الاسرار، حسامی اور اس کی جتنی شروح مل سکیں، تو پڑھ تلوٹ، دو دن میں امر کی ابتدائی بحث سب میں نے خوب دیکھی اور درس گاہ میں پہنچنے کے بعد اجنبیات پوچھا، سبق کہاں سے ہے؟ سب نے متفق اللسان ہو کر کہا فضل فی الامر سے۔ میں تو پہلے ہی کچھ رہا تھا کہ دھوکہ دیں گے، میں نے ایک گھنٹا امر کی بحث میں خروج کر دیا۔ معلوم نہیں کیا کیا کہا ہو گا۔ اتنا یاد ہے کہ پہلا دن توفیض فضل فی الامر پر خروج ہوا تھا۔ اس کے بعد پورا ایک ہفتہ اس ایک ورق میں لگا جو پچا جان، ایک دو دن میں پڑھا چکے تھے۔ مولوی اور لیں صاحب کو اللہ جزاۓ خیر دے، ان ہی کی تصحیح اور تحریب کا یہ شمرہ تھا۔

ایک ہفتہ بعد میرے پاس اصول الشاشی کی جماعت نہایت منوكد تحریری اور زبانی درخواست لے کر پہنچی کہ ”هم اصول الشاشی تجھ سے اول سے پڑھنا چاہتے ہیں۔“ میں نے کہہ دیا ”مدرسہ کا سبق ہے میرا ذاتی سبق نہیں، مہتمم صاحب حکم دیں گے تو مجھے انکار نہیں۔“ چونکہ ایک بڑے مدرسے کے یہاں سے منتقل ہو کر آئی تھی، اس لیے باضابطہ تحریری درخواست کی تو لوگوں نے ہمت نہیں کی، البتہ خصوصی لوگوں نے زبانی ان سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ البتہ یہ نفع ضرور ہوا کہ بعض اکابر مدرسین، نیز بعض طلبے، بعض منتظمین کو میرے امر دا اور حکم عمر اور حسین و تمیل ہونے کی وجہ سے مدرسی پر اعتراض تھا۔ مگر اکابر کی طرف سے چونکہ تجویز تھی اور علی الاعلان اعتراض کا اس زمانے میں دستور نہیں چلا تھا، بالخصوص بڑوں کی طرف سے، اس لیے مہتمم صاحب کو بھی کچھ سو جھر رہا تھا اس لیے اصول الشاشی کی جماعت کی اس درخواست نے مہتمم صاحب کو میری طرف سے مطمین کر دیا۔ اللہ ان پڑھنے والوں کو بڑی جزاۓ خیر دے۔

میرا ابتدائی تقریر میرے حضرت قدس سرہ کی تجویز ص پر ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”قرضہ بہت ہے، شادی بھی عقریب ہونے والی ہے، کم سے کم تشوہا حصہ ہونی چاہیے۔“ اس پر اصرار بھی فرمایا۔ مگر میرے حضرت نے فرمایا کہ ”مدرسہ کی روایت کے بھی یہ خلاف ہے، رعایت ہی رعایت ہے۔“ اس لیے کہ مولانا

منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سہارنپوری میرے سے پانچ برس پہلے کے مدرس تھے اور اس وقت تخلوٰہ ترقیات ہو کر ص تک پہنچتی تھی جو میرے تقرر کے ساتھ بھی میری وجہ سے ص ہوئی تھی۔ مولانا مرحوم کا ابتدائی تقریشوال ۳۰ھ میں بلا تخلوٰہ معین مدرس کا ہوا تھا اور شوال ۳۲ھ سے دس روپے مشاہرہ پر تخلوٰہ دار ملازم ہوئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے مدرس دوم تک پہنچتھے اور ۳۲ھ جمادی الاول ۸۸ھ بوقت صحیح انتقال فرمائے اور حاجی شاہ میں مدفون ہوئے نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرتبہ۔

مولانا ظفر احمد صاحب کے پاس بھی سبق اس وقت میزان منشعب سے شروع ہو کر قدوری تک پہنچتھے۔ یہ دونوں پیزیں بھی متعدد اور حاصل دین کے لیے موجب م gland اور گرانی تھیں۔ خود مولانا منظور احمد صاحب کو بھی فطرت تھا خیال تو ضرور ہونا چاہیے تھا مگر انہوں نے اس کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ البتہ مجھ سے یہ اصرار کیا کہ ”میں نے اصول الشاشی اب تک پڑھائی نہیں اور قدوری کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں، اصول الشاشی تیری بے پڑھی ہے، قدوری تیری پڑھی ہوئی ہے، تجھے اس میں آسانی رہے گی۔“ میں نے مولانا مرحوم سے کہا کہ ”بالکل صحیح فرمایا، بہت آسانی رہے گی۔ اصول الشاشی میری پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں مہتمم صاحب سے کہوں کہ آپ کو بدل دیجئے یہ دشوار ہے، اس لیے کہ مہتمم صاحب شروع ہی میں نالائق فرمادیں گے، آپ اگر مہتمم صاحب سے درخواست کر کے تبادلہ کر لیں گے تو مجھے کوئی گرانی نہ ہوگی۔“ مرحوم کو اس کی ہمت اس لیے نہ ہوئی کہ حضرت قدس سرہ کے دور میں اخیر دور تک کسی مدرس کا خود سبق مانگنا انتہائی عیب سمجھا جاتا تھا اور یہ چیز اس کے تکمیر کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ اپنے کو بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں کسی مدرس کو کسی سبق کی خواہش ہوتی اور خواہش تو ہوتی ہی رہتی تھی، تو اس کا دستور یہ تھا کہ کوئی مدرس اپنے دوست کو اس پر آمادہ کر لیتا تھا کہ جب تقسیم اسماق کا وقت آئے اور کتاب کا نام لی جائے تو ٹو میرے نام پر تجویز کر دینا۔ اس لیے مولانا منظور صاحب کی اور بھی ہمت نہ ہوئی کہ مہتمم صاحب سے کہیں اور ان کی بات حضرت کے یہاں پہنچ جائے۔

### کتب زیرِ تدریس زکر یا عفی عنہ

از محرم ۳۵ھ تا شعبان ۳۵ھ:

علم الصیغہ۔ مائتے عامل منظوم۔ شرح مائتے۔ خلاصہ نحو میر۔ فتح الیمن۔ مذیۃ المصلی۔ صول الشاشی۔ قال اقول، تین سبق مستقل۔

از شوال ۳۵ھ تا شعبان ۳۶ھ:

مرقاۃ۔ قدوری۔ شرح تہذی۔ کافیہ۔ نور الایضاح۔ اصول الشاشی۔ شرح جامی۔ بحث فعل، بحث اسم نصف پر منتقل ہو گئی۔ عجب العجائب۔ فتح الیمن۔

از شوال ۳۶ھ تا شعبان ۳۷ھ:

مقامات۔ سبع معلقہ۔ قطبی میر۔ کنز۔ قدوری۔ اصول الشاشی۔

از شوال ۳۷ھ تا شعبان ۳۸ھ:

ہدایہ او لین۔ جماسہ بعد عشاء۔ بذل کی وجہ سے بعض سبق خارج میں ہوا کرتے تھے۔ ایک سبق حضرت کی اشراق کی نماز تک اور ایک سبق عصر کی نماز کے بعد بھی اکثر پڑھانے کی نوبت آتی، شعبان ۳۸ھ میں ججاز چلا گیا اور محرم ۳۹ھ میں واپسی ہوئی، اس زمانہ کے سبق یاد نہیں، لیکن ہدایہ او لین تین دفعہ پڑھانے کی نوبت آتی اور قطبی میر تو لا تعد ولا تحصی، شوال ۳۶ھ سے شعبان ۳۹ھ تک شاید ہی کوئی ایسا سال گزارا ہوگا جس میں قطبی تصدیقات اور میر قطبی میرے یہاں نہ ہوئی ہو۔ اکابر مدرسین منطق سے گھبرا تے تھے، میر قطبی اور قطبی تصدیقات اور شرح تہذیب کی جماعت بھی اکثر میرے ہی یہاں رہتی تھی۔ شرح تہذیب کی جماعت بھی میرے تک پہنچ جاتی تھی۔

اس زمانے کے مدرسین اتنی اعلیٰ تحقیق سے نہیں پڑھاتے تھے جیسا کہ اس زمانہ کے علماء کرام پڑھاتے ہیں کہ کوئی کتاب الاما شاء اللہ نصاب تک نہیں پہنچتی۔ میں نے تین سال "نور الانوار" پڑھائی اور ہر سال "نور الانوار" کے بعد اس کی جگہ حسامی ہوا کرتی تھی۔ بحث فعل کے بعد بحث اسم بھی اکثر تین ربع کے قریب ہو جاتی تھی۔ دورہ کے سبق صرف تین گھنٹے ہوتے تھے۔ دو میں ترمذی، بخاری اور ایک میں ابو داؤد، پھر مسلم پھر نسائی اور دورہ کے اس باقی میں ایک سبق بیضاوی شریف کا تھا، اس کے بعد مذہ اریک۔ اس کے بعد کشاف۔ ایک گھنٹہ ہدایہ آخرین کا تھا، اس کے بعد درختار۔ ایک گھنٹہ توضیح تلویح کا تھا۔ اس کے بعد مسلم الثبوت۔ اس کے بعد کوئی تیری کتاب بھی اکثر ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلے دورہ میں سے توضیح نکلی تھی اور اس کا گھنٹہ مسلم شریف کو دیا گیا تھا۔ پھر ہدایہ نکلا۔ پھر بیضاوی نکلی۔ اب ماشاء اللہ چھ گھنٹے دورہ شریف کو دیئے جا رہے ہیں پھر بھی حضرات محققین عظام رات کو اور جمعہ کو پڑھاتے ہیں پھر بھی مشکل سے دورہ پورا ہوتا ہے اور اب تو محققین عظام جلائیں وہدایہ وغیرہ بھی ماشاء اللہ رات کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تحقیقات میں اور اضافہ فرمادیں۔

میری طالب علمی اور ابتدائی مدرسی میں ۳۶ھ تک بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت قدس سرہ کے

دور میں رات کو پڑھانا مدرس کی نالائقی سمجھا جاتا تھا کہ کتاب پڑھانے پر قادر نہیں تو بالکل صحیح ہے۔

### از شوال ۳۰ھ تا شعبان ۳۱ھ:

رجب ۳۱ھ سے بخاری کے تین پارے ناظم صاحب کے یہاں سے منتقل ہو کر آئے۔

### از شوال ۳۱ھ تا شعبان ۳۲ھ:

مشکوٰۃ شریف ۱

### از شوال ۳۲ھ تا شعبان ۳۳ھ:

مشکوٰۃ شریف ۲

### از شوال ۳۳ھ تا شعبان ۳۴ھ:

مشکوٰۃ شریف ۳

### از شوال ۳۴ھ تا صفر ۳۶ھ:

شوال ۳۴ھ میں سفر جازگور وائی گی ۳۵ھ میں مدینہ طیبہ کا قیام اور وہاں مدرسہ شرعیہ میں مغربی طلبہ کو ابوداؤ دشیریف اور الحاج عبد الحمید کو مقامات عربی زبان میں پڑھائی اور بعض کتب کی تالیف، جو نقشہ تالیفات میں آرہتی ہیں۔

### از اصفر ۳۶ھ تا شعبان ۸۸ھ:

یہ ناکارہ اصفر ۳۶ھ کو جازگے طویل سفر سے واپس پہنچا۔ اصفر ۳۶ھ کو ابوداؤ دسفہ ۸۰ سے ناظم صاحب سے منتقل ہو کر آئی۔ اس کے ساتھ ہی ناسی شریف شروع ہوئی، اس کے بعد موتاً امام محمد، بخاری از جزء ۱۲ء چار پارے، اس کے بعد سے ابوداؤ دشیریف تو مستقل ۷۵ھ تک اس ناکارہ کا سبق رہا۔ بخاری شریف کے متعلق حضرات سر پرستان نے ۳۶ھ میں یہ تجویز کر دیا تھا کہ ترمذی صدر مدرس مولانا عبدالرحمن صاحب کے پاس ہو اور بخاری شریف زکریا کے پاس، اس پر لیے کہ حضرت ناظم صاحب کے پاس انتظامی کام بہت بڑھ گئے تھے۔ مگر ناظم صاحب کو اس پر بہت زیادہ تاثر قلق اور گرانی تھی اور ہونی بھی چاہیے۔ اس لیے زکریا نے سر پرستان کی اجازت سے یہ طے کر دیا کہ ترمذی تو مستقل صدر مدرس کے پاس رہے اور بخاری شریف کا افتتاح ناظم صاحب کرا دیا کریں اور بقرعید کے بعد وہ زکریا کے پاس منتقل ہو چایا کرے اور جلد ثانی ناظم صاحب بعد مغرب پڑھا دیا کریں۔

۳۷ھ میں ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا رنگوں کا سفر ہوا، اس سال ابوداؤ د کے ساتھ بخاری کی

دونوں جلدیں بھی زکریا کے پاس ہوئیں۔

۳۷ھ میں بھی ناظم صاحب کی مسلسل علالت کی وجہ سے دونوں جلدیں مع ابو داؤد کے زکریا کے پاس ہوئیں۔ ناظم صاحب کے انتقال کے بعد سے ابو داؤد مولانا اسعد اللہ صاحب کی طرف منتقل ہو کر بخاری شریف کی دونوں جلدیں زکریا کے پاس رہیں۔ تاشعبان ۸۸ھ۔

صفر ۳۶ھ کے بعد سے چونکہ زکریا کے اوقات زیادہ فارغ تھے، اس لیے دورہ کے مدرسین میں سے علالت یا طویل سفر کی وجہ سے جس کا سبق منتقل ہوتا ترمذی، مسلم وغیرہ وہ زکریا کے پاس منتقل ہوا کرتا تھا۔ شامل تو کئی سال مسلسل رہی، جس کی تفصیل میں آطولیں ہے، کاپی تقسیم اس باقی میں تفاصیل موجود ہیں۔ مسلسلات کی ابتداء میں تو خصوصی احباب و قاتفو قتاً اجازت لیتے رہتے تھے، لیکن ۵۳ھ سے باضابطہ زکریا کے سبق ختم ہونے کے بعد جمع کو ہونے لگی، جو ۸۸ھ تک رہی۔

۸۹ھ میں زکریا کا قیام حجاز میں رہا۔ اس لیے بخاری شریف مولانا یوس صاحب کی طرف منتقل ہوئی، اس لیے مسلسلات بھی انہی کے پاس ہوئی۔ ۲۳ رب جمادی ۹۰ھ کو مسلسلات کا شور ہو گیا اور تقریباً ۸۹ھ ہزار کا جمع ہو گیا، جس میں اکابر و خواص بھی بہت جمع ہو گئے تھے۔

ان خانوں میں کتابوں کا استیعاب نہیں۔ دو چاراً ہم کتابوں کی یادداشتیں ہیں، قطبی میر توہرسال دو تین دفعہ ہو جاتی تھی، اس لیے کہ منطق سے سب ہی گھبرا تے تھے۔ چھوٹا مدرس میں ہی تھا، قطبی میر تو ہوتی ہی تھی۔ تہذیب اور شرح تہذیب کی جماعت بھی میرے یہاں قطبی تک پہنچ جاتی تھی۔ نور الانوار اور اس کے بعد حسامی تین سال مسلسل ہوئی۔ سالوں کی تعیین صحیح اندارج میں نہ ملی۔ اس زمانے کا نقشہ موجود تو ہے مگر اس وقت ملائیں، ممکن ہے بعد میں کسی کو ملے تو اضافہ ہو جائے۔

شووال ۳۶ھ میں ایک اہم واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اور پرلکھ چکا ہوں، حضرت قدس سرہ کے زمانے میں کسی مدرس کی یہ ہمت نہ پڑی تھی کہ اپنے لیے کوئی کتاب مانگ۔ حضرت قدس سرہ کی موجودگی میں ناظم صاحب اس باقی کا نقشہ اور مدرسین کا نقشہ لے کر بیٹھتے تھے، کتاب کا نام پکارا جاتا اور اکابر مدرسین میں سے کوئی شخص کسی مدرس کا نام تجویز کر دیتا، اگر کسی دوسرے مدرس کی طرف سے کوئی جرح نہ ہوتی تو حضرت کی منظوری پر اس کے نام لکھ دی جاتی۔ اکابر مدرسین میں سے اگر کسی کی طرف سے جرح ہوتی، مثلاً اوپنی معلوم ہوتی یا اس سے نیچے کتاب ابھی نہیں پڑھائی، یا پوچھ لجھئے آپ کو اس کتاب کے پڑھانے میں کوئی اشکال تونہ ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر دوسرے مدرسین کی تائید کے ساتھ یا نکیر کے ساتھ حضرت قدس سرہ کا فیصلہ ناطق ہوتا۔

یہ میں اور پرلکھ چکا ہوں کہ کوئی مدرس اپنے لیے کوئی کتاب نہیں مانگ سکتا تھا، البتہ جو کتاب کوئی مدرس کی دفعہ پڑھا چکا ہواں کے مانگنے میں کوئی تردید نہیں ہوتا تھا۔

کوئی مدرس نہی کتاب مانگنا چاہتا تھا تو آپس کے مدرسین میں یہ طے ہو جاتا تھا کہ جب فلاں کتاب کا نام آئے تو اس کے نام تجویز کر دی جائے۔

مجھے ادب سے کچھ شوق بھی تھا اور والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے پڑھایا بھی کچھ محنت سے تھا، شوال ۳۶ھ میں میں نے مہتمم صاحب سے عرض کیا ”اگر نامناسب نہ ہو تو مقامات تقسیم اس باق کے وقت میں میرے لیے تجویز فرمادیں۔“ مہتمم صاحب نے بہت ہی شفقت سے یہ فرمایا کہ ”ایک ہی سال تیری مدرسی کا ہوا ہے، ابھی تقاضا ہی کیا ہے؟ انشاء اللہ مقامات بھی پڑھائے گا اور حدیث بھی پڑھائے گا، جلدی نہ کر، ابھی ہرگز مناسب نہیں۔“ میرا خیال تھا کہ اگر مہتمم صاحب نیم راضی ہوں تو پھر کسی مدرس سے، پچاچان یا مولانا ظفر احمد سے کہوں کہ وہ مقامات میرے نام کر دیں۔ اس لیے کہ زیادہ جرج مہتمم صاحب یا مولانا ثابت علی صاحب مرحوم کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ادب کی سب کتابیں سلسلے گھنٹے میں ہوتی تھیں اور اس گھنٹے میں جلا لین شریف، مختصر المعانی، شرح جامی بحث اسم بھی ہوتی تھی۔ مولانا ظفر احمد صاحب کے یہاں امسال جلا لیں ان کے بڑے شوق پر میرے پچاچان نے تجویز کرائی تھی اور میرے پچاچان نور اللہ مرقدہ کے یہاں ان کی خواہش سے مختصر المعانی آئی تھی۔

### سبعہ معلقہ کا سبق:

جب ادب کی کتابوں کا نمبر شروع ہوا تو متنی کا نام بولا گیا اور وہ مولانا ثابت علی صاحب کے یہاں لکھی گئی تھی، اس لیے کہ ادب کے سبق اس زمانے میں تین ہی مدرسون کے یہاں ہوا کرتے تھے۔ مولانا ثابت علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا ظفر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور پچاچان نور اللہ مرقدہ متنی کے بعد سبعہ معلقہ کا نام بولا گیا۔ ادب کی کتابیں آدھ گھنٹے بھی ہو جاتی تھیں، اس کے علاوہ دوسری کتابیں ایک گھنٹے ہوتی تھیں یا دو گھنٹے۔ جب متنی کے بعد سبعہ معلقہ کا نام لیا گیا، ادب کے تینوں مدرسین کا گھنٹہ پر ہو چکا تھا اور مولانا ظفر احمد صاحب اور پچاچان اپنی اپنی کتاب بدلتا پسند نہیں کرتے تھے کہ پہلی دفعہ ہو رہی تھی اور جب ان سے کہا گیا کہ اپنی اپنی کتابیں بدل لو تو انہوں نے عرض کیا کہ پہلی پہلی دفعہ آئی ہیں اور ادب کی کتابیں یہ حضرات کئی دفعہ پڑھا چکے تھے۔ مہتمم صاحب نے مولانا ثابت علی صاحب پر اصرار کیا کہ متنی اور سبعہ معلقہ آدھا آدھا گھنٹہ پڑھادیں مولانا ثابت علی صاحب نے ذرا شدت سے انکار کیا، جلدی بولئے کہ مولانا بہت عادی تھے، فرمایا ”پہلے گھنٹے میں آدھ گھنٹہ مشکل ہے، پہلے گھنٹے میں آدھ گھنٹہ مشکل ہے“ یہ لفظ دو دفعہ دہرایا اور فرمایا کہ ”چائے بھی تو پینی ہوتی ہے۔“ مولانا مرحوم اپنی چائے خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور بڑی لذیز ہوتی تھی۔ تین چار منٹ سکوت اور رد و قدر میں گزرے۔ مولانا عبد اللطیف

صاحب نے زکر یا کا نام پیش کر دیا۔ مولا ناظف راحمد صاحب نے بڑے زور سے تائید کی ”ضد رہبہت اچھی پڑھائے گا۔“ میرے چچا جان نے بھی فرمایا کہ ”اچھی پڑھائے گا۔“ اس میں اگر مخالفت کرتے تو مولا نا ثابت علی صاحب کرتے، مگر وہ بھی متنی کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ”لکھ دو، پھر کیا تھا، مجھے وہ منظر ہمیشہ یاد رہے گا اور بڑا لطف آتا ہے۔“

### مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ:

حضرت مہتمم صاحب کے ہاتھ میں قلم اور نقشے پر بھکھے ہوئے اور بہت دبی ہوئی آواز سے فرمایا: ”میں نے تو مقامات کو بھی انکار کر دیا تھا۔“ من میں تو سب نے سنی مگر مطلب میں ہی سمجھا۔ اس کے بعد مقامات کا نام لیا گیا، اب تو میری بھی زبان روز سے کھل گئی، میں نے عرض کیا ”میں تو دونوں کتابیں آدھ گھنٹے میں پڑھا دوں گا، بلکہ حضرت مہتمم صاحب اگر اعلان فرمادیں تو مقامات کا سبق آدھ گھنٹے پہلے ہی شروع ہو جائے گا تو دونوں سبق پون پون گھنٹے ہو سکتے ہیں۔“ مجھے چائے پینی نہیں نہ میں چائے پیتا ہوں۔“ وہ بھی میرے نام لکھی گئی۔ مقامات پر تو کوئی شور شغب نہ ہوا، اس لیے کہ یہ جماعت مشکلہ کی جماعت تھی لیکن سید معالقہ کی جماعت دورے کے بعد کی جماعت تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو گزر شستہ سال دورے میں میرے ایک ساتھی بھی رہ چکے تھے، اس لیے معالقہ کی جماعت نے بہت زور و شور ابتداء میرے خلاف اسی طرح کیا کہ حضرت قدس سرہ تک نہیں پہنچا، البتہ مہتمم صاحب تک بڑی بڑی شکایات پہنچی تھیں۔ اس زمانے میں مدرسہ کا قانون یہ تھا کہ مدرسہ کتاب کو جس کو پڑھائے تو دو نئے ایک مطبع کے بھی لے سکتا تھا، ایک گھر پر مطالعہ کے لیے، ایک درس گاہ میں پڑھانے کے لیے اور مختلف مطابع کی تو ہر کتاب کا ایک نئی مختلف حواشی کی وجہ سے بھی لے سکتا تھا۔ اس سے کارنے ایک تو مکاری یہ کی کہ کوئی نئی معالقہ کا مدرسہ سے نہیں لیا اور شرخیں بھی اپنے نام پر کوئی نہیں لی، ایک آدھ مولا ناظف راحمد صاحب سے کہہ کران کے نام پر لی، ایک چچا جان کے نام پر اور معالقہ کے چند نئے مختلف مطابع کے میرے تجارتی کتب خانے میں بھی موجود تھے۔ جو لوگ میرے مخالف تھے اور وہ ابتدائی مدرسین بھی جن کو میرے معالقہ پر رشک وحد فطری چیر تھی، انہوں نے ان طلبہ کی بہت مدد کی اور جو لوگ معالقہ پڑھ چکے تھے ان کو بھی پڑھا کر میرے سبق میں مجھے دل کرنے کے واسطے بھیجا کرتے تھے، مگر اللہ کے انعامات کا نہ یہ یہ کارشار کر سکتا ہے نہ شکرا دا کر سکتا ہے، جو لوگ مجھے دل کرنے کے واسطے معاف نہ کر معالقہ میں شریک ہوا کرتے تھے ان کی درخواستیں معالقہ میں داخلہ کی مہتمم صاحب کے پاس دمامہ پہنچی شروع ہوئیں۔ ایک صاحب نے جو میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی مخالفین میں سے تھے، مہتمم صاحب سے کہا کہ ”معالقہ والے بہت رور ہے ہیں ان کا ناس تو مار دیا، ان کو حضرت مولا ناذ والفقار

صاحب کی اردو شرح "التعليقات علی السبع المعلقات مدرسه" سے دے دو کہ ان کو کچھ تو پتہ چلے۔" مہتمم صاحب نے فرمایا کہ اردو شرح ادب کی کتاب کی ملنے کی ممانعت ہے، مگر ان صاحب نے بہت زور دیا کہ "معلقہ والے بہت رور ہے ہیں۔" مہتمم صاحب نے فرمایا کہ "میرے پاس تو معلقہ میں داخل ہونے کی درخواستیں آرہی ہیں، تم کیوں رور ہے ہیں؟" لیکن ان کے شدید اصرار پر مہتمم صاحب نے ایک تحریر میرے پاس بھیجی کہ "معلقہ کے طلب تعلیقات مانگتے ہیں، تیری کیا رائے ہے؟" میں نے اس پر لکھ دیا کہ "میرا کوئی حرج نہیں، بڑے شوق سے دے دیں لیکن طلبہ کے لیے اردو ترجمہ مضر سمجھتا ہوں۔" مولانا اور لیں صاحب کی نصیحت نے یہاں بھی مجھے بہت کام دیا اور اس دن سے میں تعلیقات کو خاص طور سے دیکھ کر جاتا تھا اور کبھی بھی اپنی حماقت سے یہ لفظ بھی کہہ دیتا تھا کہ "تم میں سے کسی کے پاس تعلیقات ہو تو دیکھ لینا، مولانا نے یہ مطلب تحریر فرمایا مگر میرے نزدیک یہ مطلب زیادہ اچھا ہے۔" اس پر اور بھی طلبہ میں شوق و ذوق پیدا ہوا اور معلقہ کی شرکت کی درخواستیں بھی بڑھ گئیں تو آخر میں ناظم کتب خانہ نے لکھا کہ "معلقہ کا کوئی نسخہ کتب خانہ میں نہیں ہے، مزید خریدنے کی اجازت دی جائے، اس پر حضرت مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتب خانے سے دریافت کیا کہ "ذکریا کے پاس کتنے نسخے ہیں؟" کتب خانے نے جواب دیا کہ اس کے پاس نہ کوئی متن ہے اور نہ کوئی شرح۔ مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قاصدے وہی اصل کتاب کی درخواست لانے والا تھا، دریافت فرمایا کہ وہ اپنی کتاب میں پڑھاتا ہے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ اس کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہوتی، اشعار حفظ پڑھتا ہے اور حفظ ہی ترجمہ اور مطلب سب کچھ کہتا ہے۔" تو کپن تھا، زمانہ جاہلیت تھا، سبعد معلقہ کے سارے ہی اشعار عشقیہ رمضانیں کے تھے، بالخصوص امرؤ القیس کا قصیدہ خوب یاد تھا۔ حضرت مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے حضرت قدس سرہ کے یہاں درخواست لکھی کہ "سبعد معلقہ کتب خانہ میں ختم ہو گئی جماعت بڑھ رہی ہے، مزید خریداری کی اجازت دی جائے۔" میرا اندازہ یہ ہے جو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے حضرت قدس سرہ کو بھی مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تحریر سے بڑی مسرت ہوئی، حضرت قدس سرہ نے لکھوادیا کہ "دس نسخے فوراً خرید لیے جائیں۔" دوسری صبح کو میں اپنے مکان سے دارالطلبہ سبق پڑھانے کے لیے جا رہا تھا اور مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کھالے پار کی طرف سے مدرسہ تشریف لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزاء خیر عطا فرمائے اور بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، مرحوم کامکان قاضی کے محلے میں تھا، لیکن تو راللہ مرقدہ کا دستور یہ تھا کہ گھر سے چلتے وقت ایک دن غربی نالے سے آتے اور ایک دن شہر کے بیچ بازار سے آتے اور ایک دن مشرقی نالہ کھالہ پار کی طرف سے آتے اور ان کے گھر سے مدرسہ تک

تینوں سڑکوں پر جن جن چندہ دینے والوں کے گھر پڑتے، چاہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہوتے، ان کے گھر جا کر بہت خوشامد اش لبھے میں کہتے، ”بھائی تمہارا چندہ نہیں آیا، وہ بہت شرمندہ ہو کر یا تو اسی وقت پیش کرتا یا تھوڑی دیر بعد خود لے کر مدرسہ آتا۔

حضرت مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، وہ مہتمم مدرسہ بھی تھے، مفتی مدرسہ بھی وہی تھے کہ ان کے زمانہ میں کوئی مستقل مفتی اخیر زمانہ کے علاوہ نہیں تھے، خصوصی محصل چندہ شہر بھی وہی تھے کہ محصل شہر تو ایک اور صاحب تھے، لیکن جب وہ یہ کہتے کہ ”فلاں کے یہاں گیا تھا اس نے چندہ نہیں دیا“، تو مہتمم صاحب خود اس کے گھر جا کر تقاضا فرماتے جیسا کہ اوپر لکھا گیا اور مقدمات کی عدالتی کا روایی میں بھی خود جایا کرتے، کوئی ناظم اوقاف علیحدہ نہیں تھے جو عدالتی کام کرتا۔ اللہ بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، جب میں مقابلہ سے سلام کرتے ہوئے آگے گزراتو یہ منظر بھی ہمیشہ یاد رہے ہے کہ حضرت مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح جوان کے ہاتھ میں تھی وہ پڑھتے ہوئے آرہے تھے، میرے موٹڈھے پر ماری اور فرمایا کہ ”تیرے سبعہ معلقہ نے تو میری آنکھ پیچی کر دی، میں نے تو مقامات کو بھی انکار کر دیا تھا، بھائی معاف کرو یجھے۔“ مجھے بھی بہت ندامت ہوئی اور اب بھی جب یہ قصہ یاد آتا ہے تو مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تواضع پر بے اختیار آنسو نگل پڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت اس میں معافی کی کوئی بات نہیں۔ جناب کا ارشاد ابتدائی مدرس ہونے کے لحاظ سے بالکل مناسب تھا۔ ”میں نے عرض کیا کہ معلقہ بالخصوص امر و القیس کا قصیدہ پڑانے کے زمانے ہی سے یاد تھا اور یہ واقعہ تھا کہ مجھے معلقہ جتنا یاد تھا مقامات اتنی یاد نہیں تھی اور اس معلقہ کے ہنگامے نے۔

خدا شرے بر انگیزو درو خیرے نہاں باشد  
میری ادب دانی کو اتنی شہرت دی کہ مولانا بدرالحسن صاحب کا جو قصہ علی میاں نے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح کے صفحہ ۱۹ پر لکھا ہے وہ اسی کا شمر تھا وہ بہت مختصر لکھا گیا ہے۔  
مولانا بدرالحسن صاحب، جو اس زمانے میں لکھنؤ میں سب صحیح تھے کا ندھل تشریف لے جاتے وقت سہارنپور آئے کہ راستہ ادھر سے بھی ہے، سہارنپور میں ان کا قیام خواجه مظاہر حسن مرحوم کے مکان پر ہوا کرتا تھا۔ وہاں قیام فرمایا اور وہ کا زیادہ حصہ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں اور میری تعزیت میں مدرسہ میں گزرتا، انہوں نے نہایت خوبی میری تحقیقات خوب کیں، اللہ جزاً خیر دے اور جب ہر شخص کی زبان سے میری ادب دانی سنی تو مرحوم کو بہت سرفراز ہوئی اور مجھے از راہِ شفقت فرمایا کہ ”تیرے ادب کی بڑی تعریف سنی ہے، تیرے لیے مولوی فاضل کا امتحان دینا بہت آسان ہے، جلد از جلد امتحان کا فارم بچھیج دے، اس میں تیری کامیابی یقینی ہے، اس کے بعد

میں تجھے اپنے ساتھ لکھوڑے لے جاؤں گا اور چند مہینے انگریزی پڑھا کر زبان کا امتحان بی اے کا دلوا دلوں گا، اس کے بعد علی گڑھ کانج کے ناظم دینیات کی ملازمت جو صرف میری ایک تحریر پر مل سکتی ہے، تین سوروپے تجوہ ہے تجھے مل جائے گی۔ ”میں نے معدرت کر دی۔ وہ خاندان میں بڑے شمار ہوتے تھے، ان کے سامنے سب اہل خاندان ادب کی وجہ سے چپ رہتے تھے، بہت کم گو تھے، میں نے بہت ادب سے معدرت کر دی کہ سہار پور چھوڑنے کا تو ارادہ نہیں ہے، انہیں گراں ہوا، فرمایا: ”بے وقوف ہے۔“ ایک آدھ لفظ اور بھی کہا، مگر میں ساکت رہا۔ انہوں نے اگلے دن کاندھلہ جا کر میرے والد کے حقیقی ماموں اور میری اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا مولانا شمس الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو خاندان میں نہایت غصیارے مشہور معروف تھے اور ان کے سامنے بھی خاندان کے بڑوں کی ان کے غصہ کی وجہ سے بولنے کی ہمت کم ہوتی تھی، مجھے سمجھانے کو بھیجا، مرحوم کو حضرت قدس سرہ کی وجہ سے مجھ پر شفقت تھی اس لیے وہ حضرت قدس سرہ سے بیعت ہو چکے تھے۔ مرحوم کی عادت یہ تھی کہ جس بات کو وہ بہت اہتمام سے کہنا چاہا کرتے تھے تو ابتداء کلام اس طرح ہوا کرتی تھی ”اے کہے تو ایک بات کہہ دوں۔“ اس سے اہمیت منقصو ہوتی تھی اور اس جملہ کو دو دفعہ کہا کرتے تھے۔ وہ عصر کے وقت تشریف لائے، میرے یہاں چائے کا دور چل رہا تھا۔ فرمایا کہ ”تیرے پاس آیا ہوں۔“ میں سمجھ گیا۔ مرحوم میرے باپ کے حقیقی ماموں اور اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا تھے۔ میں نے چائے پیش کی اور عرض کیا کہ اب تو وقت بہت قریب ہو گیا، وقت تھوڑا ہی ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہی حاضر ہو جاؤں گا۔ نماز پڑھتے ہی میں ان کو لے کر زنانہ مکان کی چھت پر چلا گیا۔ سردی کا موسم تھا، مغرب سے لے کر عشاء کی اذان ہو گئی، وہ مجھے سمجھاتے رہے اور میرے لڑکپن پر بعض مرتبہ چہرے پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ ان کے ارشاد کا خلاصہ یہ تھا کہ شادی ہو چکی ہے، گھر والا دت بھی قریب تھی، سب سے بڑی بھی اہلیہ مولوی یوسف مرحوم کی ولادت کا زمانہ قریب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ کی شادی بھی کرنی ہے، آٹھ ہزار قرضہ بھی ہے، پندرہ روپے تجوہ میں کیا کیا کرے گا؟

میرے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ ”یہ تو ہمیشہ سن اور پڑھا ہے، جناب کو اس سے بھی انکار نہ ہو گا کہ مقدر میں جو ہے وہ تو مل کر رہے گا اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ میں جس ماحول میں ہوں اس میں اگر اپنی گندگیوں سے محفوظ رہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہو گا، اس کم عمری میں عنقران شباب میں علی گڑھ کے ماحول میں میرا محفوظ رہنا بہت ناممکن ہے، وہ فرماتے تھے دیبا دارالاسباب سے اس باب کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، محض مقدر پر نہیں رہا جا سکتا۔“ میں نے عرض کیا، بالکل صحیح فرمایا، ذرا اس میں تامل نہیں لیکن اس باب کے درجے میں دو سبب موجود ہیں،

ایک مدرسہ کی ملازمت، جو یقیناً محدود ہے، دوسرے کتابوں کی تجارت جس میں اللہ جل شانہ جتنا بھی عطا فرمائے، کوئی تحدید نہیں۔ ”عشاء کی اذان پر میرے مخدوم و مکرم میرے والد صاحب کے ماموں رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا“ اے کہے تو ایک بات کہہ دوں؟“ میں نے کہا ”ضرور“ تو نے جو کچھ کہا، اگر دل سے ہو تو تیرامتہ چوم لینے کے قابل ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تو نے سب کچھ زبان زوری سے کہا ہے، میں نے عرض کیا ”دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ اس کو دل سے بھی کر دے۔“ وہ بھی تشریف لے گئے۔

میرے بعض معاصر عزیزوں کو جن کا نام لکھنا نہیں چاہتا، میری یہ حرکت اس قدر ناگوار ہوئی کہ چند ماہ بعد جب کاندھلہ گیا تو میرے بڑوں نے تو کوئی تعریض نہ کیا، مگر میرے معاصرین نے بہت ہی طعن و تشنج سب و شتم کیا اور اور ایک عزیز مرحوم نے تو سب سے زیادہ غصے کا اظہار کیا، حتیٰ کہ چند معاصرین اعزہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو وہ مرحوم خفا ہو کر یہ کہہ کر اٹھ جاتا کہ میں ایسے کہیں لوگوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، جو صدقے و زکوٰۃ کی روٹیوں کو عزت کی تخلوٰہ پر ترجیح دیتے ہوں۔“ اور مرحوم خوب خفا ہوا لیکن اللہ جل شانہ کا اس سے کارکے ساتھ ایک خاص معاملہ ہمیشہ رہا کہ جوابتداء میں بہت زور سے خفا ہونے وہ انتہا میں اتنے ہی زیادہ محبت، عقیدت اور اگر یوں کہوں کہ عشق میں پتلا ہونے تو غلط نہیں۔ مرحوم اخیر زمانے میں کئی سال بیمار رہا، اللہ بہت ہی مغفرت کرے، مجھے بار پار بلانے کے تاریخی دیتا، میرا بار بار جانا تو بہت مشکل تھا، کبھی بھی چلا جاتا۔ وہ مرحوم اکثر یہاں آتا، کئی کئی دن رہتا اور اس کا اصرار یہ تھا کہ ”میرے سینے پر ہائھر کھ، اس سے سکون ہوتا ہے۔“

### تقسیم جائیداد میں بدھانہ کا سفر:

اس علی گڑھ والے قصہ کے چند سال بعد ایک واقعہ منجائب اللہ پیش آیا۔ ہمارے یہاں جدی جائیداد نا معلوم کئی پشتوں سے مشترک چلی آرہی تھی، ایک دفعہ کاندھلوی اعزہ کا جرنیلی حکم پہنچا: ”تقسیم جائیداد میں تحصیل بدھانہ میں سب افراد کو جانا ہے، سب کی شرکت نہایت ضروری ہے۔“ میں نے اول تو بڑی معدرت کی کہ وکالت نامہ جس کے نام کھولکھل کر بھیج دوں۔“ مگر معلوم ہوا اور سارے ہی خاندان کا اصرار ہوا کہ بدھانہ جانا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کے نہ ہونے سے سب کا معاملہ گڑ بڑ میں پڑ جائے گا۔ یا بھروسی جانا پڑا۔ بدھانہ کے تحصیل دار صاحب، جناب الحاج احمد حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ”مناجات احمد حسن“ مشہور و معروف ہے، کے پوتے تھے، وہ صورت شناس تو نہ تھے مگر گنگوہ کی وجہ سے میرے والد صاحب اور میرے نام سے خوب واقف تھے کاندھلوی روسا سے ان کے اچھے تعلقات تھے، بڑی دعوییں اور ڈالیاں ان کی خدمت میں پہنچا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ روز کے مقدمات ان حضرات کے رہتے تھے اور باوجود

اس کے جیسا مقدمات میں ہوا کرتا ہے، بعض مقدمات میں کئی کئی دن لگ جاتے۔ تجویزیں یہ ہو رہی تھیں کہ معلوم نہیں کتنے دن بدھانہ میں پھرنا پڑے گا، میں تو بدھانہ سے بالکل ناواقف تھا، ان حضرات کی روز کی آمد و رفت تھی اور آپس میں اختلاف رائے ہو رہا تھا کہ کس کے مکان پر پھرا جائے؟ ہر شخص اپنے تعلق والے کو ترجیح دیتا تھا۔

علی الصباح کا ندھلہ سے بہت سا کھانا وانا نہایت لذیز، مرغون روٹیاں اور مرغ نے ساتھ تھے، کا ندھلہ سے چل کر دس بجے کے قریب بدھانہ پہنچے، تجویز یہ پھری کہ پہلے سیدھے تحصیل میں چلیں۔ سامان کھانا وغیرہ سب ان بھلوں میں چھوڑ دیا جو ان حضرات کی تھیں۔ ۲۵، ۳۰ آدمیوں کا مجمع سب روساء آگے آگے اور یہ ناکارہ کمپری کی حالت میں پیچھے پیچھے، پیشکار صاحب نے دور سے مجھے دیکھا اور ایک دم اپنی کری سے اٹھ کر اور پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی کری پر بیٹھنے کا اصرار کیا، میں نے شدت سے انکار کیا کہ میرے اعزہ ان میں بعض میرے اکابر بھی ہیں کھڑے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر پیشکار صاحب ہرگز نہ مانے اور زبردستی مجھے بخدا دیا۔ یہ میرے سارے اعزہ نہایت سوق میں پڑ گئے کہ کھلایا تو ساری عمر ہم نے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی زبردستی پر میں بیٹھ گیا اور انہوں نے کاغذات لے کر تحصیلدار صاحب سے کہا کہ حضور! سب سے پہلے ان کا کام ہو گا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں تو انہوں نے میرے والد صاحب کا نام لے کر کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں، مظاہر علوم میں مدرس ہیں۔ تحصیلدار صاحب نے کہا کہ اچھا اچھا، ان سے تو میں واقف ہوں۔ مگر میں بہت سوق میں پڑ گیا ہوں کہ یہ کہاں سے واقف ہیں۔ اللہ جل جلالہ، پیشکار صاحب اور تحصیلدار صاحب کو بہت ہی جزاً خیر عطا فرمائے، اگر زندہ ہوں تو ترقیات عطا فرمائے اور عالم بقاء میں جا چکے ہوں تو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ تحصیلدار صاحب نے فوراً کاغذات لے کر گھنٹہ پون گھنٹہ تک بہت غور سے ان کو پڑھا، میں بیٹھا رہا اور یہ سب کھڑے رہے، ایک دو صاحب بیٹھ پر بیٹھ گئے اور تحصیلدار صاحب نے گھنٹہ پون گھنٹہ میں سب نمائش کر دستخط کر کے کاغذات پیشکار کے حوالے کر دیے، میرے سب اعزہ کو حیرت ہو رہی تھی اور سب سے زیادہ مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟

وہاں سے واپسی پر پیشکار صاحب میری مشایعت کو آئے اور تحصیل کے دروازے پر انہوں نے اپنی جیب سے میں روپے نکال کر دونوں ہاتھوں سے مجھے پیش کیے میں نے بہت شدت سے انکار کیا، آپ کا تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں جلد فارغ کر دیا، ہم تو سوق رہے تھے کہ رات کہاٹھریں گے۔ میرے اعزہ نے میری تائید کی کہ پیشکار صاحب اس کی ضرورت نہیں، آپ نے تو بڑا احسان کیا، ہم سب کو جلدی نمائادیا، مگر وہ بہت اصرار کرتے رہے، میرے شدید انکار پر

انہوں نے یہ روپے جیب میں ڈال کر یہ کہا کہ ”یہ دو تین برس ہوتے میں نے آپ سے سہار پور میں قرض لیے تھے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں فلا نہ ہوں۔“ ان کے تعارف پر مجھے یاد آیا کہ وہ مظاہر علوم کے کتب خانے میں ملازم رہ چکے ہیں اور اس زمانے میں مجھ سے قرض لیا تھا۔ ان کے اس کہنے پر میں نے کہا کہ ”پیشکار صاحب اب تو انکار کر دیا سو کر دیا، معاف ہیں۔“ پیشکار صاحب تو مصروف کر کے رخصت ہو گئے، میرے عزیز مرحوم نے جو علی گڑھ کے قصے میں بہت زیادہ ناراض سال دو سال تک رہا، یہ کہا کہ آج تو تو نے مجھے تیچا دکھلا دیا، میں تو قرض معلوم ہونے پر بھی بھی واپس نہ کرتا اور ان کے سر ہو جاتا، کئی برس کے قرض کی ادائیگی کو بھی ایسی طرح دے رہے تھے جیسے بڑا احسان کر رہے تھے، نذرانہ دے رہے تھے۔“ مجھے بھی حماقت سوار ہوئی، ایک چھٹتا ہوا فقرہ کہہ دیا ”بھائی تم بڑے لوگ ہو، رو سا ہو، میں فقیر، غریب، ذلیل زکوٰۃ کی رو شیاں کھانے والا، تمہارا مقابلہ کہاں کر سکوں۔“ جن دو چار کو پرانا واقعہ معلوم تھا وہ تو سمجھے کہ میں نے کیا کہا، لیکن مرحوم بہت شرمندہ ہوئے اور مجھے اس کے بعد سے بارہا قلق ہوا کہ کیوں حماقت کی؟ بات میں بات نکل جاتی ہے، کہیں سے کہیں بہک جاتا ہوں قصہ تو تھا معلقة کا پہنچ گیا تھیں بذھانہ میں۔ آپ بیتی کے واقعات تو بہت ہی عجیب و غریب اور مالک کے ”لَا شَعْدُ وَلَا شَخْصٌ“ انعامات کے مظاہر ہیں۔

بہر حال معلقة کا مرحلہ تو اللہ کے انعام و احسان سے ایسی کامیابی کے ساتھ ختم ہوا کہ جس کا شکر او انہیں ہو سکتا، لیکن لوگوں پر گرفتاری بالخصوص ان پر جو اس کو بدلتا چاہتے تھے اور ناکام ہوئے، بلکہ ان کی کوششوں کا اثاثاً تر ہوا اور ایک مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اس سلسلے کی جزئیات تو بہت لمبی چوڑی ہیں لیکن اس سلسلے کا اہم مسئلہ آئندہ سال شوال ۱۳۷۵ھ میں پیش آیا، میں نے اپنے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ ”حضرت دل یوں چاہتا تھا کہ حضرت کے زیر سایہ فقہ کی کتابیں پڑھا لیتا، ہدایہ ایک دو سال حضرت کے زیر تربیت پڑھا لیتا تو پوچھنے میں سہولت رہتی۔“ حضرت قدس سرہ نے فرمایا ”بہت اچھا۔“ میں نے عین تقسیم اس باقی سے تھوڑی دیر پہلے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا تھا۔ جب حضرت قدس سرہ، پھر تم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ حضرات تقسیم کے لیے بیٹھے تو بیٹھتے ہی حضرت قدس سرہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ ”تم نے ہدایہ اولین کو کہا تھا یا آخرین کو؟“ میں نے عرض کی کہ حضرت اولین کو حضرت قدس سرہ نے پھر تم صاحب سے فرمایا ”ہدایہ اولین پہلے اس کے نام لکھ دو پھر آگے چلو۔“ اس پر سارے ہی مدرسین کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، حتیٰ کہ جو حضرات گزشتہ سال معلقة میں میرے حامی تھے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ گزر صرف ایک سال ہوئی ہے اور اس وقت مستور یہ تھا کہ ہر مدرس کے پاس نئی

کتاب کم سے کم تین سال ہونا ضروری تھا اور شرح و قایہ پڑھاتے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مگر حضرت کے حکم کے بعد پھر کون بول سکتا تھا۔ ہدایہ اولین لکھا گیا اور جو گزشتہ سال معلقہ میں اپنی مسائی کونا کام دیکھ چکے تھے، ان کو پھر اپنا غصہ نکالنے کا موقعہ ملا اور تقسیم اساباق کا نقشہ چسپاں ہوتے ہی ایک مجاز اس تاکارہ کے خلاف پیدا ہوا۔ مگر میرے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ تقسیم اساباق کے بعد اس خیال سے کہ مدرسین اور طلبہ کو کتابیں لینے میں کئی دن لگیں گے سیوا ہارہ وغیرہ کے سفر میں تشریف لے گئے اور یہاں حضرت مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ ہدایہ کے تبادلہ کی یورش ہوئی۔ مولانا ثابت علی صاحب تو مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بات بات میں ہر سائی کرتے تھے اور خوب خفا ہوا کرتے تھے، ہدایہ کے متعلق مولانا عبد اللطیف صاحب نے بھی مہتمم صاحب سے کہا کہ ”طلبہ میں شورش ہے اس کو بدل دینا چاہیے۔“ مہتمم صاحب نے فرمایا کہ ”آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نے بیٹھتے ہی کس اہتمام سے ہدایہ کو لکھوا یا تھا، میں تو نہیں بدل سکتا، آپ تحریری حکم بھیجیں کہ صدر مدرس ہیں، مہتمم جزویات ہیں، نگران وار الطلبہ ہیں، آپ کے حکم کی تقلیل میں بدل دوں گا۔“ اتنی ہمت تو مولانا عبد اللطیف صاحب بھی نہ کر سکے کہ حضرت قدس سرہ کے حکم کو تحریری حکم سے منسون کر سکیں۔ اس ہدایہ میں مولانا عبد الشکور صاحب کامل پوری بھی تھے جو بعد میں کئی سال مظاہر میں مدرس رہے۔ تقسیم کے بعد راولپنڈی میں مدرس ہو گئے تھے اور حال ہی میں ۲۳ ربیعہ ۹۰ مطابق ۲۵ ستمبر ۱۹۴۷ء پر روزِ جمعہ پونے چار بجے شام طویل بیماری کے بعد پنڈی میں انتقال ہوا۔ رحمۃ اللہ درحمۃ واسحة واللہ مرتبہ۔

طلبہ نے ہدایہ کی تبدیلی کی درخواست مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھی اور سب نے اس پر دستخط کیے مگر مولوی عبد الشکور صاحب مرحوم نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سفر میں ہیں یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ بغیر حضرت کے کوئی نہیں بدل سکتا اور تمہارا سبق شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ ہم نہیں پڑھتے، اس کی کوئی وجہ نہیں، چند روز سبق پڑھ لو، تمہیں یہ کہنے کا حق ہو گا کہ سبق ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ابھی سے کیا عذر کرو گے؟ یہ بات طلبہ کی سمجھ میں آگئی اور سبق شروع ہو گیا اور معلقہ کے مخالفین نے یہاں بھی طلبہ کو شدیدی اور مولوی اور میں صاحب کی نصیحت نے یہاں بھی بہت کام دیا۔ میں نے دو تین دن تک تو مسلسل فرقہ کی لغوی، اصطلاحی تعریفیں، ان کا درجہ، مصنف کے احوال اور جو جو سمجھ میں آیا سب کچھ کہا اور تین دن کے بعد اسم اللہ سے لے کر کتاب الطہارۃ تک ایک صفحہ پانچ دن میں پڑھایا۔ اس کے بعد بعض طلبہ تو ڈھیلے پڑ گئے، لیکن بعض شری طلبہ نے پھر بھی درخواست کا ارادہ کیا، مگر اکثریت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ”درخواست کا حشر معلوم ہے۔“ گھنٹہ کے نیچے سبق ہو گا۔ یہ اس زمانے کی ایک خاص

اصطلاح تھی۔ وہ یہ کہ جس مدرس کے خلاف طلبہ کی طرف سے تبدیل سبق کی درخواست ہوتی تھی تو عین سبق کے وقت بلا پہلے سے کسی اطلاع کے حضرت قدس سرہ کا حکم مدرس کے پاس پہنچتا تھا کہ ”سبق گھنٹے کے نیچے ہو گا۔“ اور گھنٹے سے مراد وہ گھنٹہ ہوتا تھا جو مدرسہ قدیم میں حضرت قدس سرہ کی سہ دری میں لگ رہا تھا۔ جواب تک اسی جگہ ہے مدرس گھنٹے کے نیچے بیٹھتا، طلبہ چاروں طرف اور حضرت نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرتبہ اپنے جگہ مبارک کے دروازے پر اپنی مخصوص جگہ پر جو ہر وقت حضرت کے بیٹھنے کی تھی، تشریف رکھتے، طالب علم اس وقت میں مدرس کو خوب دق کرتے اور مدرس، حضرت قدس سرہ کی وجہ سے مرجووب بھی بہت ہوتا۔ ایک مصیبت عظیٰ کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت اس وقت کچھ نہیں فرماتے تھے، اگر حضرت کے نزدیک طلبہ کی شکایت بجا ہوتی تو مدرس کو خاص طور سے مطالعہ کی تسبیہ فرماتے، مگر تھائی میں اور اگر طلبہ کی شکایت زیادہ قوی ہوتی اور مدرس کا نقش حضرت کے ذہن میں آ جاتا تو پندرہ بیس دن بعد وہ کتاب کسی بہانے سے بدل دی جاتی اور اگر طلبہ کی شکایت غلط ہوتی تب تو نمبرا معمولی تسبیہ، نمبر ۳ شری لوگوں کا حساب مناسب وقت کھانا بند، نمبر ۳ شری لوگوں کا اخراج۔ یہ قانون سب لوگوں کو معلوم تھا، اس لیے اکثریت نے شدت سے انکار کیا کہ ہم دسخانہ نہیں کریں گے۔ درخواست کا حرث، گھنٹے کے نیچے سبق ہو گا اور اس کا حشر معلوم ہے کہ اخراج اگر نہ ہو تو کھانا تو کم از کم بند ہو ہی جائے گا۔ اس پر وہ درخواست ڈل گئی۔

اس سیہ کار کے ساتھ یہ دو واقعے تو مخالفت کے پیش آئے، اللہ کے فضل سے ان دو کے علاوہ کوئی واقعہ ان چون (۵۳) سالہ مدرسی میں طلبہ کی طرف سے اعراض یا ناگواری کا پیش نہیں آیا۔ بلکہ طلبہ اور اس سیہ کار کی طرف اس باقی کے منتقل ہونے کی مساعی کے پیش آتے رہے۔

بلکہ ۱۴۲۶ھ میں حضرت قدس سرہ کی طرف سے ایک اہم واقعہ پیش آگیا۔ حضرت قدس سرہ کے یہاں شوال میں ترمذی دو گھنٹے ہوا کرتی تھی اور صفر کے آخر میں عموماً ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد انھی دو گھنٹوں میں بخاری شریف شروع ہوتی اور اونکل رجب میں ختم ہو جایا کرتی یہ ہمیشہ کا دستور تھا۔ حضرت قدس سرہ اس کے سخت مخالف تھے اور پار پار مدرسین پر نکیر بھی کرتے تھے کہ شروع سال میں لمبی لمبی تقریریں کی جائیں اور اخیر سال میں رمضانی حافظ کی طرح بلا تقریر کتاب پوری کرائی جائے۔ مولانا عبداللطیف صاحب کے یہاں چونکہ ترمذی، بخاری کی شروعات تھیں، اس لیے دوسرے مدرسین کی طرح ابتداء میں تقاریر کا زور ہوا اور جمادی الآخری کے ختم تک بخاری کی ایک جلد بھی پوری نہ ہوئی۔ حضرت خوب ناراض ہوئے اور مہتمم صاحب سے فرمادیا کہ بخاری کے پارے دوسرے مدرسین پر منقسم کر دیئے جائیں۔ اس پر کارکنانام بھی خاص طور پر لیا۔ اس کو بھی کچھ پارے دے دینا۔ یہ فرمائ کر حضرت تو ایک دونوں کے لیے کسی سفر

میں بلند شہر وغیرہ کہیں تشریف لے گئے۔ مجھ پر اس قدر بوجھ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے مشکلہ بھی اس وقت تک نہیں پڑھائی تھی۔ میں نے مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ”بہت نامناسب ہوگا۔ آپ مجھے ہرگز نہ دیں۔ حضرت مولانا ثابت علی صاحب اور مولانا عبدالرحمن صاحب ہی کو دیں۔“ مہتمم صاحب نے بھی موافقت کی۔ ان دونوں حضرات کو پانچ پانچ پارے دے دیئے گئے اور ساتھ آٹھ پارے مولانا عبداللطیف صاحب کے پاس بدستور رہے۔ تیسرا دن حضرت سفر سے واپس تشریف لائے، میں ڈاک لکھ رہا تھا۔ مہتمم صاحب سے دریافت کیا، ”پارے بانٹ دیئے؟“ مہتمم صاحب نے عرض کیا، ”حضرت تقیم کر دیئے اس نے لینے سے انکار کر دیا۔“ حضرت اس سے کارپر خوب ناراض ہوئے۔ فرمایا ”بہت اچھا۔ انکار کر دیا تو ہماری پالپوش سے یوں چاہتے ہیں کہ ہماری خوشامد ہو۔“

حضرت قدس سرہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غصہ میں چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا اور پھر نعلین شریفین اٹھا کر مکان تشریف لے جانے لگے۔ میں نے جلدی سے حضرت کے ہاتھ سے نعلین شریفین لے لیے اور پچھے پچھے دروازے تک گیا۔ دروازے کی دہیز پر کھڑے ہو کر میری طرف متوجہ ہو کر نہایت غصہ میں فرمایا: ”کچھ کہنا ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ ”حضرت تو ناراض ہی ہو گئے۔“ فرمایا ”ناراض نہ ہوں جب میرا کہنا نہ مانا۔“ میں نے کہا ”حضرت! تو بے تو بے مجھے تو یہ خیال ہوا کہ مدرسہ کی بڑی بدنامی ہو گی۔ دوسرے مدرسہ والے کیا کہیں گے کہ نو عمر لڑکے کو جس نے مشکلہ بھی نہیں پڑھائی، بخاری دے دی۔“ حضرت نے فرمایا کہ ”نou عمر لڑکے کو میں کیا جانوں، دوسرے لوگ کیا جانیں، اگر کوئی الزام دے گا تو مجھے دے گا۔ تمہیں تو نہیں دے گا۔“ میں نے عرض کیا کہ ”حضرت مجھے تعییل ارشاد میں کیا انکار ہے۔“ حضرت نے فرمایا ”کہنا مان لو گے میں راضی ہو جاؤں گا۔“ میں وہاں سے آکر مہتمم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ ”آپ نے تو پتوہی دیا۔“ آپ کو بحیثیت مہتمم کہنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نہ نہیں دی۔“ مہتمم صاحب نے فرمایا ”ہاں مجھے پتوانا چاہتا تھا۔“ اسی وقت از ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۶ اپاروں کا اعلان اس سے کارک نام ہوا۔ اس بخاری شریف میں قاری سعید مرحوم بھی تھے جو بعد میں مفتی اعظم مظاہر علوم ہو گئے تھے۔

ممکن تھا کہ اس بخاری پر کوئی معلقہ یا بدایہ کی طرح خرچہ اٹھتا، لیکن طلبہ میں میرے انکار اور حضرت قدس سرہ کی ناراضگی کا شہرہ قاری سعید مرحوم کے ذریعے اعلان سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے اگر کوئی کہنا بھی چاہتا تو اس واقعے کے بعد کس کی ہمت پڑ سکتے تھی۔

### اسٹرائک کی لعنت مدرسے میں نہیں تھی:

اسٹرائک کی لعنت اس وقت تک ہمارے مدارس میں نہیں آئی تھی۔ مدارس عربیہ والے اس منحوس لفظ کو جانتے ہی نہ تھے کہ کیا ہوتا ہے، اس وقت تک ہر بڑے چھوٹے کے نزدیک مدرسے کے احسانات اہم اور قابلِ لحاظ تھے۔

ایک اصول جو میرے اکابر کے یہاں خاص طور سے تھا کہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو ادا کرنا اپنا فریضہ ہے اور اپنے حقوق جو دوسروں کے ذمہ رہ جائیں، ان کی وصولی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کا خاص طور سے اس قانون پر عمل تھا، وہ کسی بات میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ ہر بات میں یہ سوچتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے پچاچان نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں بھی اور عزیز یوسف مرحوم کی تقاریر میں بھی یہ مضمون بہت کثرت سے ملے گا اور حدیث پاک سے بھی مستبط ہوتا ہے:

”لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيِّ وَلِكُنَّ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رِجْمَةٌ وَصَلَّ“.

”صلدر جی کرنے والا وہ نہیں جو برادر سر ابر کا معاملہ رکھے، یعنی یوں کہے کہ جیسا وہ کرے گا ویسا میں کروں گا۔ بلکہ صلد رجی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رجی کی جائے تو وہ قطع رجی کرنے والے کے ساتھ بھی صلد رجی کرے۔“  
(مشکوٰۃ عن البخاری)

### مدرسین کا مدرسہ کی خدمت:

مدرسے کے معاملات میں نہ صرف اس ناکارہ کا، بلکہ اس زمانے کے تقریباً ہر مدرس اور ملازم کا یہ قانون اور اصول موضوع کے طور پر طے شدہ مفروضہ تھا کہ ہمارا کوئی حق مدرسہ پر نہیں، جو مدرسہ کی طرف سے مل رہا ہے وہ اللہ کا احسان اور اسی کا عطیہ ہے اور ثانیاً مدرسہ کا احسان ہے اور ہم لوگوں کا کوئی حق مدرسہ پر نہیں اور مدرسہ کا ہر کام چاہے کتنا ہی معمولی سا ہو حتیٰ کہ درس گاہ میں جھاڑوتک دینے سے بھی مدرس کو عار نہیں تھا۔

اس زمانے میں یاد نہیں کہ استخباء کے ڈھیلوں کی ایشوں کے لیے یا حمام کی لکڑیوں کے لیے کسی ملازم یا مزدور کو بلا نے کی ضرورت بھی پیش آئی ہو۔ میں نے وزبان سے کہہ رکھا تھا کہ جب ایشوں یا لکڑیوں کی گاڑی آئے اوپر درس گاہ میں مجھے اطلاع کر دے۔ میں گھنٹے کے ختم پر ایک طالب علم کو مولانا عبدالرحمٰن صاحب کے پاس یہ کہہ کر بیچج دیتا تھا کہ ”ایشوں آئی ہوئی ہیں، میں پیچے جا رہا ہوں۔“ مولانا مرحوم بھی فوراً نیچے پہلے پہنچ جاتے اور ہم دونوں کو جاتے دیکھ کر دونوں کے یہاں کی جماعتیں ایسی دوڑتیں کہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ جاتے۔ ہم دونوں کو ایک پھیرا بھی

مشکل سے کرنا ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی طالب علم چھین لیتا تھا۔ لیکن انہیں ہوں یا لکڑیاں دو تو ان منٹ سے زائد گاڑیوں کے خالی ہونے میں نہ لگتے تھے، بہت سے طالب علموں کو ایک ہی پھر اکرنا پڑتا تھا۔ نو عمر لڑ کے اپنی جرأت دکھانے کیلئے ۲ پھرے کر لیتے تھے۔

بہت سی جزئیات اس نوع کی ملیں گی۔ اب اس کے بال مقابل یہ منظر دیکھ کر کسی ملازم سے یوں کہیں کہ پنکھا اٹھادے تو یہ سوچ کر کہ یہ میرا کام نہیں، اس کا معاوضہ کیا ہو گا۔ کسی کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے:

ان نینوں کا بھی بیکھ

وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ

تعلیمی مخالفت کے متعلق لکھا جا چکا، معاقفہ اور ہدایہ کے علاوہ کسی تعلیمی سلسلے میں مخالفت نہیں ہوئی۔ البتہ انتظامی سلسلے کے درمیان مختلف محاذا میرے خلاف شروع سے رہے اور بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ جتنا میں اس لائن سے بھاگا اتنا ہی میرے سر تھوپی گئی اور غور کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مصیبت میرے کیوں لا دی گئی؟

غالباً ۳۸ھ یا ۳۹ھ کا واقعہ ہے، میرے حضرت قدس سرہ اعلیٰ اللہ مرتبہ بہاولپور تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب تور اللہ مرقدہ بھی ہم کاب تھے اور ہمارے مدرسہ کے ایک مدرس بھی ساتھ تھے، جو میرے بڑے مخلص، ان کا کھانا پینا اکثر میرے ساتھ، چائے تو مستقل میرے ساتھ پیتے ہی تھے، انہوں نے بہاولپور کے راستے میں بہت ہی اخلاق و محبت اور انتہائی راز میں ناظم صاحب سے کہا کہ ”میں آپ سے ایک بات بہت اخلاق سے راز میں کہتا ہوں، یہ مولوی زکریا جو حضرت کے ساتھ اتنی چاپلوی ہر وقت کرتے ہیں، ان کا مقصد حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت کی جگہ قائم مقام ہونے کا ہے، آپ کو گرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔“ ناظم صاحب کو اللہ بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے، انہوں نے کسی تصنیع سے نہیں بہت اخلاق سے اس مرحوم سے یوں کہا: ”اگر مولوی زکریا کا ایسا ارادہ ہو تو وہ یقیناً اس کے بہت اہل ہیں، میں ان کے لیے کوشش کروں گا۔“ اور اتنا زور باندھا کہ وہ بیچارے اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔ اس کے بعد ناظم صاحب نے حضرت قدس سرہ سے ان کا یہ مقولہ نقل کر کے اپنی طرف سے بہت پر زور سفارش کی ”حضرت! مولوی زکریا اس کے بہت اہل ہیں، حضرت ان کو نائب ناظم بنادیں، میں ان کی انتہائی مدد کروں گا۔“ حضرت قدس سرہ نے فرمایا: ”وہ صاحب تو بے وقوف ہیں، اس سے تو میں واقف ہوں، اسے تو کوئی بنائے گا جب بھی نہیں بنے گا۔“ حضرت قدس سرہ نے بالکل صحیح فرمایا، مجھے اس سے ہمیشہ بہت ہی وحشت رہی۔

۳۴ھ میں میرا حج کا ارادہ بالکل نہیں تھا، شادی بھی ہو چکی تھی، دو بچیاں بھی ہو چکی تھیں اور ایک بچہ پیدا ہو کر انتقال کر چکا تھا، چوتھے کی امید تھی، قرضہ بدستور تھا۔ تعلیم میں اونچے مدرسوں میں شمار تھا، حدیث کے اس باق شروع ہو چکے تھے۔ شعبان ۳۴ھ میں حضرت قدس سرہ نے اپنی غیبت کے لیے جوانظامات لکھوائے اس میں اس سے کارکو صدر مدرس بنایا اور حضرت عبداللطیف صاحب کو ناظم مدرسہ۔ وہ تحریر تھی تو بڑی راز میں، حضرت مہتمم صاحب لکھنے والے تھے، لیکن اس ناکارہ سے زیادہ راز نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کاغذات اس ڈاک کے تھلے میں رہتے تھے جو میرے پاس رہتا تھا اور جب میں نے یہ پڑھا کہ اس سے کارکا نام مدرس اول میں لکھا گیا تو میرا دماغ چکرا گیا، اس لیے میری نگاہ میں مدرس اول کے فرائض بہت سخت تھے سارے مدرسے کی تعلیم کا صدر مدرس واحدہ مدد و دار، مدرسین کی تعلیم کی نگرانی بھی شرعاً عقلاء عرفان اس کے ذمے۔ اس سے زیادہ مصیبت یہ تھی کہ جہاں کوئی علمی اجتماع یا کسی اونچی جگہ مدرسہ کا کوئی خصوصی اختفال ہوتا، صدر مدرسہ کے نام وارت ہوتا کہ ”آپ آئیے۔“ میں نے حضرت قدس سرہ سے جب وہ اوپر پیشتاب کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ ناکارہ استجاء کا لوتا لے کر ریا کاری سے پیچھے پیچھے گیا اور جب حضرت استجاء سکھدار ہے تھے، میں نے بہت سوکھا سامنہ بنا کر یوں عرض کیا ”حضرت بذل کا کیا ہو گا؟“ حضرت قدس سرہ نے بہت قلق کے ساتھ فرمایا کہ ”کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو گا؟“ تمہارے بغیر تو میں لکھ نہیں سکتا اور تمہارے جانے کی کوئی صورت نہیں، اہل و عیال ساتھ ہیں، طویل قیام ہے۔“ میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو یہ خیال ہے کہ ”میں جائز چلوں۔“ حضرت قدس سرہ کا چہرہ اس وقت مجھے خوب یاد ہے خوشی سے کھل گیا۔ استجاء پاک کر کے وضو کر کے نیچے تشریف لائے اور بیٹھ کر فرمایا، ”تمہارے خرچ کا کیا ہو گا؟“ میں نے عرض کیا کہ ”حضرت اس کا تو بالکل فکر نہیں کریں۔ میں ۳۸ھ میں بھی قرض لے کر گیا تھا، حالانکہ اس وقت ملنا بہت دشوار تھا اور اس وقت بہت آسان ہے، اب بھی لے لوں گا۔“ حضرت نے فرمایا ”تمہاری مدرسہ میں تنخواہ بھی کچھ جمع ہے۔“

اس کی شرح یہ ہے کہ ۳۵ھ میں جب میں ملازم ہوا تھا اور میری تنخواہ پندرہ روپے ہوئی تھی۔ اس وقت بڑے حضرت اقدس رائے پوری شاہ عبدالرحمٰن صاحب نور اللہ مرقدہ نے مدرسہ میں تو سفارش کی تھی کہ ”پندرہ روپے تنخواہ بہت کم ہے، کم از کم پچیس روپے ہوئی چاہیے۔“ اور مجھ سے یوں ارشاد فرمایا کہ ”جب اللہ توفیق دے مدرسہ کی تنخواہ چھوڑ دینا۔“ جس کا اثر یہ تھا کہ میرا حضرت رائے پوری اقدس سرہ کے ارشادگی وجہ سے تو تنخواہ لینے کو بالکل جی نہیں چاہتا تھا، مگر میرے حضرت قدس سرہ لیتے تھے، اگرچہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں لی، پھر بھی چونکہ میرے حضرت لیتے تھے اس لیے نہ لینا بے ادبی سمجھتا تھا، اس لیے کسی ماہ میں اس کا غالبہ ہوتا تھا کسی ماہ

اسکا، البتہ شیئے کی وجہ سے میری ترقیاں رکتی رہیں، جب مدرسین کی ترقی کا وقت آتا اور دوسرے مدرسین کی ترقی ہوتی تو میں اس سے پہلے مہینوں میں تخلواہ لینے والا ہوتا تو میری بھی چار پانچ روپے ترقی ہو جاتی اور جس زمانے میں تخلواہ نہ لیتا، مہتمم صاحب فرمادیتے ”وہ تو پہلے ہی سے نہیں لیتا، اس کی کیا ترقی؟“

بہر حال محرم ۳۵ھ سے شعبان ۲۲ھ تک نوسوپنا لیس روپے میری تخلواہ کے جمع تھے جو اس زمانے میں حج کے اخراجات سے بہت زائد تھے، حج کا خرچ اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ کا چھ سروپے تھے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ تھا کہ بقدر اخراجات لے کر بقیہ اہل و عیال کے خرچ کے لیے دے دیئے جاویں۔ میں نے عرض کیا کہ ”حضرت اس کا فکر نہ فرماؤں، خرچ کا انظام ہو جائے گا، اس تخلواہ کا لینا تو جائز نہیں۔“ اکابر کی خدمت میں گستاخ تو ہمیشہ ہی رہا۔ حضرت نے فرمایا ”کیوں؟“ عرض کیا ”حضرت جن مہینوں کی تخلواہ نہیں لی ان میں اس نیت سے پڑھایا کہ تخلواہ نہیں لوں گا، اب اس کے لینے کا کیا حق ہے؟“ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ ”تم نے کوئی درخواست مدرسہ کو دی؟ تم آجیر تھے، مدرسہ مُتنا جر، تمہیں یک طرفہ فتح اجارہ کا کیا حق تھا؟ جب تک کہ ہم قبول نہ کریں۔“ میں نے عرض کیا ”حضرت اس میں اجارے کی تو کوئی بات نہیں، ایک شخص کام کرتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ لوجہ اللہ کر رہا ہوں اس کے بعد معاوضہ لینے کا کیا حق ہے؟“ حضرت ناظم صاحب بھی تشریف فرماتھے انہوں نے حضرت سے عرض کیا ”حضرت میں انہیں سمجھا دوں گا۔“ حضرت بہت خوش ہوئے اور میں بھی بہت خوش ہوا، حضرت کے سامنے تو میں بہت ادب سے ڈرتے ڈرتے کوئی لفظ کہوں گا اور ناظم سے خوب کھل کر مناظرہ ہوا، انہوں نے حضرت سے عرض کر دیا کہ ”حضرت یہ نہیں مانتا،“ حضرت تھانوی قدس سرہ بھی مدرسہ کے سرپرستوں میں تھے اور مولا ناظر احمد صاحب تھانوی تھا انہوں کے مفتی اعظم اور مجھ سے بے حد بے تکلفی، میں نے ان سے کہا کہ ”مدرسہ کے کاغذات میری تخلواہ کے سلسلے میں حضرت کے پاس آؤں گے، حضرت سے میری تخلواہ نا منتظر کر اد بھیو۔“ انہوں نے حضرت تھانوی قدس سرہ سے نہ معلوم کیا کہا، جب میری درخواست ڈیرہ سال کی چھٹی کی اور مہتمم صاحب کی طرف سے اس پر یہ تحریر کے اس کی تخلواہ بھی کچھ رکی ہوئی ہے اس کے وینے کی بھی اجازت دی جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی بخوبی منتظر فرمائی اور تخلواہ کے متعلق تحریر فرمایا کہ ”اگر قبض الوصول میں تخلواہ درج ہے اور انہوں نے وصول نہیں کی تو اس میں سرپرستان سے اجازت کا کیا مطلب؟ دی جائے اور اگر اس میں کوئی اور اشتباہ ہے تو اس کو ظاہر کیا جائے تاکہ اس پر غور کیا جائے۔“ مولا نا عاشق الہی صاحب بھی اس وقت سرپرست بنائے گئے تھے، یہاں آئے، میں نے ان سے

بھی عرض کیا کہ ”تم سر پرست ہو اس تختواہ کا لینا میرے لیے جائز نہیں، اسے نامنظور کرو بچے۔“  
 لیکن حضرت قدس سرہ کی منظوری کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو رد فرماسکتے تھے، خدام میں سے کس کو ہمت پڑتی؟ یہ گتا خیال تو اللہ میاں نے اس ناکارہ کے حق میں رکھی تھیں، جو ہمیشہ کرتار ہا، مولا ناعاشق الہی صاحب نے اول تو مجھ سے مناظرہ کیا اور جب ناظم صاحب کی طرح وہ بھی مناظرے میں غالب نہ آئے تو انہوں نے بحیثیت سر پرست میرے کاغذ پر لکھا ”ڈیڑھ سالہ رخصت منظور ہے اور تختواہ کے سلسلے میں جیسا کہ اس کی طرف سے رخصت کی درخواست ہے، اسی کی طرف سے یہ درخواست بھی ہونی چاہیے کہ میری تختواہ مدرسہ سے دلوائی جائے۔“ حضرت قدس سرہ نے جب حضرت میرٹھی کی تحریر دیکھی تو سمجھ گئے کہ میرا ان سے بھی مناظرہ ہوا تو میرے حضرت قدس سرہ نے بہت ہی شفقت سے مجھ سے یوں فرمایا کہ ”بذل میرا ذاتی کام تو نہیں، مدرسہ ہی کا کام ہے، اگر میں سر پرستان کی منظوری کے بعد تمہیں بکارِ مدرسہ اپنے ساتھ لے جاؤں اور آمد و رفت کے خرچ کے علاوہ وہاں کے قیام کی تختواہ مدرسہ سے دلواؤں تو تم کیا کہو گے؟“ میں نے عرض کیا ”حضرت! یہ عرض کروں گا بالکل جائز ہے ڈرا ترد نہیں۔“ حضرت نے فرمایا ”تمہاری جمع شدہ تختواہ تو بہت کم ہو گی جتنا کہ اس صورت میں مدرسہ تم کو دے گا۔“ میں نے کہا ”بالکل صحیح ہے۔“ حضرت قدس سرہ نے فرمایا ”پھر تم یہی سمجھو ہو۔“ اس پر میں نے تختواہ تو لے لی، لیکن حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تبیت کچھ ایسا غالب تھا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے سب سے پہلے مہتمم صاحب کو ایک خط لکھا، جس میں اس تختواہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ یہ لکھا کہ ”میرا رادہ ایک عرصہ سے مدرسہ کے ان حقوق کے معاوضہ میں جو مجھ پر ہیں مدرسہ میں ایک بڑی رقم پیش کرنے کا ہو رہا ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے جمع ہونا ناممکن ہے، اس لیے بالفعل میری طرف سے صرف ایک ہزار روپے کا وعدہ اس طرح تحریر فرمائیں کہ اسی ماہ جمادی الاولی سے مبلغ پانچ روپے ماہانہ میری واپسی تک میرے کارکن مولوی نصیر الدین سے اور بعد واپسی کے خود مجھ سے وصول فرماتے رہیں، اگر اس کے پورا ہو جانے سے قبل میرا انتقال ہو جائے تو اس وقت جس قدر رقم باقی ہو وہ میری وصیت ہے جو کہ متعدد کہ سے وصول کی جائے۔“ اخْ مُحْرَه از مدینہ طیبہ۔  
 ۵ جمادی الاولی ۳۵۵ھ۔

اللہ کے فضل سے جب یہ رقم اوایا ہو گی تو مجھے راپوری جذبہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے پہلے زمانہ میں جو تختواہ ہیں لی ہیں وہ بھی واپس کر دی جائیں۔ اللہ نے وہ بھی واپس کر دیں۔  
 لِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنَةُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ،  
 اللَّهُمَّ لَا أَخْصِنُ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْبَتَ عَلَى نَفْسِكَ۔

ذیقعدہ ۳۵ھ میں جب اس ناکارہ کی بذل کے اختتام کے بعد واپسی ہونے لگی تو حضرت مولانا سید احمد صاحب قدس سرہ بانی مدرسہ شرعیہ نے میرے وہاں مستقل قیام پر بہت ہی اصرار کیا اور میرے حضرت قدس سرہ سے بار بار درخواست کی "مدرسہ شرعیہ کی صدر مدرسی کے لیے اس کو قیام کی اجازت دے دیں۔" مگر میرے حضرت قدس سرہ نے یہ فرمایا کہ "آپ کا مدرسہ ابھی ابتدائی ہے اور مظاہر علوم عروج پر ہے، اس کے لیے اس کے واپس جانے کی زیادہ ضرورت ہے، میری غیبت میں اس کا قیام وہاں ضروری ہے، اس کے نہ جانے سے مدرسہ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔" مولانا سید احمد صاحب کا ارشاد تھا جس کو انہوں نے حضرت سے بھی کئی بار عرض کیا کہ میں مولوی الیاس کے پاس اس کے بیوی بچوں کا کرایہ بھیج دوں وہ پہنچا دیں گے۔ مگر حضرت نے قبول نہ کیا اور میری واپسی کے وقت حضرت نے جب عارضی غیبت کے انتظامات کو مکمل فرمایا تو بڑی لمبی تحریر مدرسہ کے انتظامات کے سلسلہ میں حضرت مولانا سید احمد صاحب سے لکھوائی، اس میں یہ کار کے متعلق دونہ بڑکھوائے۔

### بندہ کی مشیر ناظم کی تجویز:

ایک یہ کہ زکر یا کو حدیث سے جتنی مناسبت ہے، میں اسے خوب جانتا ہوں، اس لیے اس کو مدرسہ کا شیخ الحدیث تجویز کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر مدرس حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب ایک سال پہلے ہو چکے تھے، ان کو اس عہدہ سے ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس عہدہ کی ابتداء اس سے ہوئی، ورنہ اس سے پہلے مدارس میں مدرس اول اور شیخ الحدیث ایک ہی عہدہ تھا۔ حضرت اقدس مدنی قدس سرہ نے کئی مرتبہ تفریح اور مزاحا یا ارشاد بھی فرمایا کہ "یہ نیا عہدہ آپ کی خاطر تصنیف کیا گیا ہے۔" مگر پھر دارالعلوم کو بھی ایسی ہی مجبوری کی وجہ سے شیخ الحدیث اور مدرس اول دو عہدے بنانے پڑے۔ حضرت قدس سرہ کی یہ تحریر جب یہاں پہنچی اور حضرات سرپرستان کے یہاں منظوری کے لیے گئی تو اور تو کون انکار کرتا حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس پر ایک اشکال فرمایا کہ "ان سے پہلے اکابر مدرسین مولانا ثابت علی صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب وغیرہ موجود ہیں، ان کے لیے یہ تفوق موجب تکمیر نہ ہو، اس کو غور کر لیا جائے۔" حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی کا یہ اشکال میرے حضرت کو لکھا تو میرے حضرت قدس سرہ نے جواب میں لکھا کہ "اگر اہل مدرسہ کو من جیث المدرسہ مدرسہ کی طرف سے اس میں کوئی تردود ہے تو میں اپنی طرف سے یہ خطاب اس کو دیتا ہوں۔" حضرت قدس سرہ کی برکت سے اس نے ایسی شہرت پائی کہ نام سے زیادہ مشہور ہو گیا۔

انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرہ کے تاریخی کثرت سے کراچی، لکھنؤ، کلمکشہ وغیرہ

سے آتے تھے، ان میں پتہ صرف ”شیخ الحدیث صاحب سہار پور رحمہ اللہ تعالیٰ“ ہوتا، مدرسہ کا نام بھی نہیں ہوتا تھا، مگر پہنچ جاتے تھے۔

دوسرانمبر میرے حضرت قدس سرہ نے اس سیہ کار کے متعلق ”ناجیب ناظم مدرسہ“ کا لکھا۔ اس عہدے سے مجھے اس سے بھی زیادہ وحشت ہوئی جتنی ایک سال پہلے صدر مدرسی کے عہدے سے ہوئی تھی، میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس انتظامی جگہ میں پڑ کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جاتا رہے گا، ناظم صاحب کے مزاج میں پھیلاو بہت ہے، یہ ساری مصیبت مجھے بھگتی پڑے گی۔ یہ تحریر حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے قلم کی تھی، میں نے حضرت مرحوم سے بہت ہی خوشامد لجاجت سے عرض کی کہ ”اس مصیبت کو میرے سے ہٹائیے۔“ انہوں نے کہا، حضرت کی تجویز ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے بڑی خوشامد کی اور یاد پڑتا ہے کہ پاؤں بھی پکڑے اور آبدیدہ ہو کر ان سے درخواست کی، انہوں نے میری حالت دیکھ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے اس تحریر کا ذکر نہیں کیا، مگر معلوم نہیں کہ اس نے کہاں سے دیکھ لی، وہ تو اس سے بہت ہی گہرا رہا ہے اور رنجیدہ ہے، یوں کہتا ہے کہ میرا علمی حرج بہت ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ”مجھے اس پر اطمینان ہے کہ وہ اپنا علمی حرج بالکل نہیں کرے گا، اس نے تو مجھے بھی بھی رسید نہیں دی، وہ ان موجودہ سرپرستوں کے بس کا نہیں۔ یہ سرپرست اس سے کوئی ایسا کام نہیں لے سکتے جس میں اس کا حرج ہو۔“

حضرت مولانا سید احمد صاحب سے مایوس ہو کر میں نے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں پکڑے کہ حضرت مولانا کو بھی حضرت قدس سرہ نے اپنی روانگی ججاز ۳۲۴ھ میں مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ مدرسہ کا سرپرست بنایا تھا۔ میں نے حضرت رائپوری سے عرض کیا کہ ”وہ تحریر آپ کو بحیثیت سرپرست ضرور دکھائی جائے گی، اللہ کے واسطے اس کو منظور نہ کریں۔“ حضرت رائپوری نے فرمایا ”بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے کہ حضرت ایک تحریر لکھیں اور میں اس پر انکار کروں۔“ چنانچہ جب وہ تحریر مکمل ہو گئی تو میرے حضرت قدس سرہ نے حضرت رائپوری کو بحیثیت سرپرست وہ تحریر دکھلائی اور اس کی تاکید فرمائی کہ ”کوئی اشکال ہو تو ضرور کہیں، میرے لکھنے کی وجہ سے سکوت نہ فرماؤ۔“ اور میں اس وقت، خوب یاد ہے، بڑی لجاجت سے اس دعا میں مشغول تھا کہ ”یا اللہ! یہ مصیبت مجھ سے ہٹا لے۔“ جب حضرت رائپوری اسے ملاحظہ فرمائے اور حضرت قدس سرہ نے پوچھا ”کوئی اشکال تو نہیں؟“ تو حضرت رائپوری نے اپنی عادت کے موافق اول تو بڑی توبہ کی ”حضرت تو بہ توبہ! حضرت کی تحریر میں کیا اشکال ہو گا؟“ مگر حضرت قدس سرہ کو بھی حضرت رائپوری کی عادت تو واضح کی معلوم تھی،

اس لیے کئی دفعہ اصرار فرمایا کہ ”کوئی اشکال ہوتا فرمادیں۔“ اس پر حضرت نے پھر یہ کہہ دیا کہ ”حضرت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ایک خلجان تو بے توبہ یہ پہلی آیا کہ مولوی زکریا کے متعلق حضرت نے دونہر لکھے پہلے نمبر میں تو ان کی حدیث دانی کو اور علوشان کو ایسا بڑھایا کہ مدرسہ میں کوئی ان جیسا حدیث دال نہیں ہے اور دوسرا نمبر میں حضرت نے ان کو نائب لکھا۔“ حضرت نے بے تکلف کاغذ اپنے دست مبارک میں لے کر ”نائب“ کے لفظ پر اپنے دست مبارک سے قلم پھیسر کر اس کے اوپر ”مشیر“ کا لفظ لکھ دیا۔ ”مشیر ناظم“ کا عہدہ مدرسہ میں پہلے بھی تھا کہ کئی سال قبل حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے سرپرستی کی ذمہ داریوں سے معدود ری ظاہر کر کے سرپرستی سے استعفاء دیا تھا۔ اس وقت میں حضرت تھانوی قدس سرہ اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے والد مولانا جمعیت علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں مشیر ناظم تجویز کیے گئے تھے۔

یہاں واپسی کے دو تین سال بعد حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا سر جیم بخش صاحب تینوں کا مشورہ بعض امور کی بناء پر یہ ہوا کہ نظمت کے دو حصے کیے جائیں، ایک ناظم تعییمات اور دوسرا ناظم مالیات۔ ناظم مالیات کی عہدہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے پر درہ ہے اور ناظم تعییمات کا عہدہ اس ناکارہ کی اف نشفل کیا جائے۔ اس تجویز کے وقت میں بھی اس ناکارہ نے بہت بھی شدت سے خلاف کیا، ان تینوں بزرگوں نے میرے شدید اختلاف کے باوجود یہ تجویز مدرسہ میں پاس کر کے ”ادکامِ ستار“ میں لکھ کر بقیہ حضرات سرپرستان سے بھی منظوری کرائی۔ ان کی تشریف بری کے بعد میں نے الحاج شیخ رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ایک زور وار خط لکھا، جس میں میں نے لکھا کہ میرے اور ناظم صاحب کے تعلقات اس قدر مضبوط اور بہتر ہیں کہ اگر ایک جان دو قلب کہا جائے تو بے محل نہ ہوگا۔ ناظم صاحب میرا اس قدر لحاظ فرماتے ہیں کہ گویا مجھے بڑا بنا رکھا ہے اور وہ میرے استاذ ہیں، اس تجویز کے بعد تعلقات میں وہ خوشگواری ہرگز نہیں رہ سکتی جو پہلے تھی، یا تو اس تجویز کو منسوخ فرماؤ۔ ورنہ انشاء اللہ آپ حضرات تلاش کرتے پھر یہیں گے کہ زکریانا می بھی کوئی شخص مظاہر علوم میں بھی تھا۔ شیخ صاحب کو اللہ جزاً خیر عطا فرمائے، بہت بھی بلند درجے عطا فرمائے، بہت بھی مدبر، دروانہ دیش، مدرسہ کے معاملات میں اپنے جذبات کو ہمیشہ پس پشت ڈالا۔ مرحوم کے جملہ معترضہ کے میسویں واقعات اس کے شاہد عدل ہیں اور بہت بھی لطف آمیز۔ جملہ معترضہ کے طور پر ایک واقعہ اس وقت تھا صاحب کی علوشان، مدرسہ کی مصالح کو اپنی مصالح پر مقدم کرنے کا لکھواتا ہوں۔

سہار پور میں جمیعۃ العلماء کا مشہور و معروف اجلاس ۲۵ء ہونے والا تھا، تین دن کا اجلاس تھا۔

میں نے حضرت ناظم صاحب سے کہا کہ جمعیت کے اجلاس کے دنوں میں مدرسہ میں تین دن کی چھٹی ہوگی۔ حضرت ناظم نے غصے سے فرمایا "یہ کیسے ہو سکے گا؟ آج جمعیت کے واسطے چھٹی کر دیں، کل کو لیگ والے کریں گے اس میں بھی چھٹی کرنی پڑے گی، پھر احرار، کانگریس، یہ توروز کی پھرمار ہے اور مدرسہ کا تعامل بھی ان اجلاسوں میں چھٹی کا نہیں، یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔" بڑی مدد تقریر فرمائی۔ میں نے ساری سن کر پھر کہہ دیا کہ "جمعیت کے اجلاس کے درمیان مدرسہ میں چھٹی ہوگی۔" ناظم صاحب کو غصہ آگیا، مولانا عبدالرحمن صاحب سے کہا، وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں تھے، انہوں نے اور بھی زیادہ شدت سے انکار کیا کہ "چھٹی ہرگز نہیں ہوگی۔" اتفاق سے شیخ رشید احمد صاحب آگئے، حضرت ناظم صاحب نے بہت تعجب سے میری شکایت شیخ جی سے کی اور کہا کہ یہ توروز کے قصے ہیں، جو مضمون اوپر گزرنا۔

شیخ صاحب کو اللہ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے ہی سمجھدار تھے اور اس سے بڑھ کر کمال یہ تھا کہ مدرسہ کی مصالح اپنے جذبات پر ہمیشہ مقدم سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ "چھٹی ضرور کرنی ہے اور تم سے اجازت ہرگز نہ لینا، ہم لوگ اس چھٹی کی بہت مخالفت کریں گے، بالخصوص حضرت تھانوی کے انکار کے بعد آپ کو چھٹی کرنی مشکل ہو جائے گی اور چھٹی کرنی ضروری ہے، بہت سے بہت یہ ہو گا کہ اگر کوئی ایسی ولی بات پیش آئی تو میں اعتراض کروں گا کہ آپ نے ہماری بغیر منظوری کیسے کر دی؟ آپ لکھ دیجئے گا کہ عین وقت پر شیخ الحدیث صاحب وغیرہ کی رائے یہی ہوئی، اس کی گنجائش نہ تھی کہ سر پرستان سے اجازت لی جائے، لہذا معاف فرماؤں، آئندہ لحاظ رکھا جائے گا۔" ناظم صاحب اور شیخ صاحب کی گفتگو میرے سامنے نہیں ہوئی لیکن اول شیخ جی مر جوم نے اور ان کے جانے کے بعد ناظم صاحب نے ایک ہی مضمون تایا اور ناظم صاحب نے مجھ سے تعجب سے فرمایا کہ "شیخ جی تو دلی کی لیگ کے صدر ہیں، مسٹر جناح کے بڑے دوست ہیں وہ بھی جمیعت کی چھٹی کی تائید کر گئے ہیں۔" میں نے عرض کیا "حضرت بڑی کھلی ہوئی بات ہے، دیوبند میں ایک ہفتے کی چھٹی ہے اور جلسہ لیگ، کانگریس کا نہیں جمیعتہ العلماء کا ہے، ایسی حالت میں مظاہر علوم سبق پڑھائیں، بہت مشکل ہو گا۔" اس کے علاوہ شیخ صاحب کے اپنے جذبات کے خلاف مدرسہ کے مصالح کو مقدم رکھنے کے واقعات بہت ہیں۔

میرے اس خط پر جس کا نظم امت کے دلکشیوں کے متعلق اوپر ذکر آیا شیخ صاحب کو (اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے) بہت غصہ آیا ان کا والا نامہ آیا کہ حکم نامہ پہنچا، ہم تو یہ سمجھے کہ سر پرست بھی آپ ہی ہیں ناظم بھی آپ ہی ہیں، جس سے جو کام لینا ہوا، حکم نامہ لکھ دیا، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی اور میں نے مولانا عاشق الہی صاحب اور سر رحیم بخش صاحب کو لکھ دیا کہ یہ

تجویز بعض مصالح کی بناء پر ابھی قابل عمل نہیں، آئندہ اجتماع پر اس میں دوبارہ غور ہو جائے گا۔“ ان سب باتوں کے باوجود معلوم نہیں اس سیہ کار کے متعلق بعض احمدقوں کو یہ خیال کیوں ہوتا تھا کہ میں نظمت پر فیضہ کرنا چاہتا ہوں۔

ایک بات ضرور تھی کہ مدرسہ میں خواص اور صاحبزادوں کے خلاف میرا ہاتھ زیادہ چلتا تھا اور اس میں بھی حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب، قاری سعید صاحب مرحوم مجھ کو زیادہ ابھارتے تھے، بلکہ تقریباً مجبور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے خاص بلکہ اخْص الخواص نے مدرسہ میں ایک درخواست دی کہ مجھے فلاں جھرہ تہا کو دے دیا جائے اور حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے ان کی خصوصیات کی بناء پر اس پر سفارش بھی لکھ دی، لیکن میرے پاس فوراً خود ہی آئے اور فرمایا کہ ”فلاں نے جھرہ کی درخواست دی اور میں نے سفارش بھی کر دی، مگر تہا جھرہ مانگنے والے کے لیے نہایت مضر ہے ہی، مدرسہ کے لیے بھی مضر ہے۔“ میں نے کہا ”پھر آپ نے مضر بھجنے کے باوجود سفارش کیوں کی؟“ فرمایا کہ ”مجبوری تھی، مگر آخر منظوری تمہاری ہی ہو گئی، اس لیے جلدی اطلاع کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔“ حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں جب وہ درخواست مع صدر مدرس صاحب کی سفارش کے پیشی تو انہوں نے لکھ دیا کہ ”اگر شیخ الحدیث صاحب منظور کر لیں تو کچھ مضا لفہ نہیں۔“ میں نے انکار لکھ دیا۔ درخواست دینے والے کو اس ناکارہ پر جتنا بھی غصہ آئے وہ معدود رہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش لکھ دی، ناظم صاحب نے منظوری دے دی اور میں نے انکار لکھ دیا۔

اس قسم کے قصے تقریباً روزانہ ہی پیش آتے تھے، اس وجہ سے خواص اکثر مجھ سے خفار ہتے اور ان کی خفگی بالکل برعکس تھی۔ حضرت ناظم صاحب کے خواص، مولانا عبدالرحمٰن صاحب کے خواص اور دنوں سے بڑھ کر میرے حضرت قدس سرہ کے خواص، ان لوگوں کے خلاف میرا ہی ہاتھ زیادہ چلا کرتا تھا، اس لیے ان خواص کا مجھ سے ناراض رہتا یا ہونا، بالکل برعکس تھا۔

### اخبار مدینہ کا غلط الزام:

۷۵ھ میں اخبار مدینہ کے ایڈیٹر بزمی صاحب مرحوم کے ایک عزیز مدرسہ میں پڑھتے تھے، انہوں نے چند خواص کی جن کی ناراضگی مجھ سے برعکس اور فطری تھی، میرے خلاف شکایت لکھ کر اور لکھوا کر اخبار مدینہ کے دفتر میں بھیج دی، ایڈیٹر مرحوم کو کیا خبر؟ انہوں نے مختلف خطوط ایک شخص کے خلاف شکایت کے دلکھے تو انہوں نے میرے خلاف اخبار مدینہ ۱۳۵۷ء ارجیع الثانی ۹ جون ۲۸ء میں ایک مضمون بہت سخت لکھ دیا۔ حضرت مدینی قدس سرہ نے جب اس کو پڑھا تو ایڈیٹر صاحب کو سخت خط لکھا کہ ”شیخ الحدیث صاحب کے خلاف آپ نے جو مضمون لکھا ہے، میں

ان سے اس وقت سے واقف ہوں جب کہ ان کی عمر بارہ برس کی تھی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، ان کے خلاف جوازات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ "حضرت کے ارشاد میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جب کہ ۱۳۲۷ھ میں حضرت قدس سرہ کا دو ماہ مسلسل گنگوہ میں قیام رہا، اس وقت میری عمر بارہ برس کی تھی اور وہی میرا ابتدائی تعارف حضرت مدینی قدس سرہ سے ہے، اس کی تفصیل شاید کہیں آجائے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار نے مجھ سے بیان کیا کہ میں لاہور میں ہوٹل میں چائے پی رہا تھا، جب میں نے مدینہ کا یہ مضمون دیکھا میں نے ہوٹل ہی میں بیٹھے ہوئے ایک کارڈ ایڈیٹر صاحب کو لکھا کہ "میں شیخ الحدیث صاحب سے اس وقت سے واقف ہوں جب ان کی طالب علمی کا آخری دور تھا، میں اس وقت سے انتہائی واقفیت کی بناء پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ اطلاعات جو آپ کو دی گئی ہیں انتہائی غلط ہیں۔" مولانا الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمیعۃ علماء ہند اور حضرت شاہ یسین صاحب نگنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطوط کا تو مجھے علم ہے۔ سنا ہے کہ لکھے گئے بہت سے، لیکن ایڈیٹر مرحوم نے کسی اور کے خط کے جواب کی تو ضرورت نہیں سمجھی البتہ حضرت مدینی قدس سرہ کو لکھا کہ میرے پاس اس کے خلاف شکایات کے خطوط کا انبار ہے آپ جب فرمائیں میں لے کر حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے لکھا "یہاں لانے کی ضرورت نہیں، فلاں تاریخ میری خالی ہے، میں اس تاریخ پر سہار پور پہنچ جاؤں گا، آپ بھی مولانا مجید حسن صاحب مالک خبار مدینہ کو لے کر سہار پور پہنچ جاؤ میں۔" اور ایک کارڈ سے حضرت نے مجھے بھی اطلاع فرمادی کہ "میں ان لوگوں کے ساتھ فلاں تاریخ کو ان شکایات کی تحقیق کرنے آؤں گا جو فلاں اخبار میں چھاپی گئی ہیں۔" میں نے اپنے سر پرستان کو بھی اس کی اطلاع کر دی، حضرت میرٹھی کو تو ناگوار ہوا کہ سر پرستان سے مشورے کے بعد تاریخ مقرر ہونا چاہیے، لیکن شیخ رشید احمد صاحب کو اللہ بہت ہی بزرائے خیر عطا فرمائے انہوں نے لکھا کہ شوق سے آئیں میں میں بھی تاریخ پر سہار پور پہنچ جاؤں گا۔ معلوم نہیں رئیس الاحرار صاحب کو کس طرح اطلاع ہوئی کہ وہ بھی تاریخ سے ایک دن پہلے پہنچ گئے۔

۷۔ اجولائی ۱۹۳۸ء مطابق ۱۴ جمادی الاول ۱۳۵۷ھ کو یہ حضرات تشریف لے آئے اور صحیح کے کھانے کے بعد سے لے کر دو پھر کو لیئے بھی نہیں، رات کے بارہ بجے تک شاکی لوگوں کو ایک ایک کو بلا یا جاتا اور ان کے بیانات فلمبند کیے جاتے تھے، مغرب کے بعد تک ان کا سلسہ رہا۔ اس ناکارہ کے خلاف تو ایک شکایت سب کی مشترک تھی کہ نظامت کو مغلوق کر رکھا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے، ناظم صاحب ایک عضو معطل بن گئے ہیں لیکن جب وہ اس کے کچھ جزئیات اور ثبوت مانگتے تو شاکی چپ ہو جاتا۔ ایڈیٹر صاحب کہتے کہ "حضرت سے مرعوب ہیں۔" حضرت فرماتے

”پھر تحقیق کی کیا صورت؟“ بعض ملازمین اور بعض مدرسین کے متعلق بھی کچھ شکایات انہوں نے کیں جس کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا، مجھ سے کوئی چیز دریافت نہیں کی، البتہ حضرت ناظم صاحب قدس سرہ سے میرے متعلق سوال کیا گیا اور حضرت مدینی قدس سرہ نے بلند آواز سے جس کو دور والوں نے بھی سناء، یہ فرمایا ”یہ آپ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ مولوی زکریا نے آپ کو بالکل مفلوج کر رکھا ہے، آپ کو عضو معطل بنادیا ہے۔“ حضرت ناظم صاحب قدس سرہ نے فرمایا ”بالکل غلط، بے بنیاد، یہ شیخ الحدیث صاحب میرے دستِ راست، ان کے مشوروں اور رہنمائی سے مجھے بڑی سہولتیں ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو مجھے بڑی دقت ہو اور اگر یہ نظمت قبول کریں تو میں بڑی خوشی سے ان کے حق میں دستبردار ہوں۔“ حضرت مدینی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا ”اسے کہیں مدعاً سست گواہ چست۔“ اس کے بعد جو فیصلہ لکھا وہ یہ تھا:

”مدینہ“، مورخ ۹ جون ۱۳۸۴ء میں مدرسہ مظاہر علوم کے متعلق شکایات و نقائص کی جو تفصیل شائع ہوئی تھی ان کی ہم نے آج تحقیقات کی اور ہم اس امر کا اعتراف کرنے میں مسرت محسوس کرتے ہیں کہ یہ شکایتیں بے اصل اور بے بنیاد ہیں، مدرسہ کے ارباب اہتمام کے تمام کاموں میں نیک نیتی اور دیانت واری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حضرات مدرسہ کی اصلاح اور درشگل کے کاموں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گے اور جو چیزیں اصلاح طلب ہوں گی ان کی اصلاح میں کامل انہماک اور شفقت کا ثبوت دیں گے۔

تلگِ اسلام حسین احمد غفرلہ

ابوسعید بزمی، ایڈیٹر مدینہ

حبيب الرحمن لدھیانوی، صدر احرار

محمد مجید حسن، مالک اخبار مدینہ

سرپرست مدرسہ

رشید احمد غنی عنہ

یہ تحریر ایڈیٹر ہی کے قلم کی تھی، آخر الفاظ بھی اس کے اصرار پر لکھے گئے، ورنہ حضرت قدس سرہ بعض الفاظ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایڈیٹر کو اس پر حیرت اور غصہ اور قلق تھا کہ اس ناکارہ کے خلاف کوئی شکایت، جو خطوط کے انبار میں تھی تہلیکی اور مجھے اس کی خوشی تھی کہ میرے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کے خلاف ۱۳۲۰ھ میں جو طوفان اٹھا اس سال کی روئندادوں میں اس کا ذکر بھی ہے، وہ بھی ممبروں کے خلاف مدرسہ پر جبر و قبضہ کا تھا۔ ۱۳۰۸ھ سے لے کر ۱۳۲۰ھ تک ایک ہنگامہ مدرسہ کے خلاف مدرسہ کے اندر اور باہر قائم رہا جو اس وقت کی روئندادوں سے کچھ نہ کچھ مترشح ہوتا ہے، اگرچہ حضرت قدس سرہ ۱۳۰۸ھ میں مدرسہ میں نہیں تھے، بلکہ ۱۳۱۲ھ میں آئے تھے، مگر اس فتنہ کی ابتداء ۱۳۰۸ھ سے ہی شروع ہو گئی تھی۔

۱۳۲۰ھ سے حضرت قدس سرہ کی برکات سے جو مدرسہ میں روحانی اور مادی ہر نوع کی ترقیات

ہوئی ہیں وہ آج دنیا کے سامنے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کے کاموں کی حکمت کون پہچان سکتا ہے، شاید: "الَّمْ أَحِسَّ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ" کا مظہر ہو۔

دارالعلوم دیوبند میں بھی ۱۳۰۲ھ سے لے کر ۱۳۱۸ھ تک اندر ولی، بیرونی خلفشارکثرت سے ہوتا رہا، جس کی طرف اجمالاً حضرت مدینی نوراللہ مرقدہ نے نقش حیات ص ۱۲۳ میں اشارہ بھی فرمایا ہے اور تذکرۃ الحلیل (ص ۳۷ اطیع جدید) میں بھی اس کا کچھ مختصر حال ہے۔ اسی زمانے میں حضرت گنگوہی قدس سرہ اور نواب چھتراری صاحب کو خلفشار مٹانے کے واسطے دیوبند تشریف لانا پڑا۔ اس زمانے کا ایک مکتب حضرت گنگوہی قدس سرہ کا اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا، جس کا فوٹو تذکرۃ الرشید جلد دوم کے ختم پر چھپا ہوا ہے، جس کی عبارت یہ ہے:

از بندہ رشید احمد عشقی عنہ

برادرانِ مکرمان بندہ، مولوی محمود حسن و مولوی خلیل احمد صاحب مد فیوضہما!

بعد سلام مسنون، مطالعہ فرمائید

آپ دونوں کے چند خطوط پہنچے، جس سے وہاں کا حال معلوم ہوتا رہا۔ آج مولوی خلیل احمد صاحب کا خط آیا، جس سے پریشانی مدرسین کی دریافت ہوئی، لہذا یہ تحریر ضروری ہوئی۔

میرے پیارے دوستو! تم کو کیوں اضطراب و پریشانی ہے؟ تم تو "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" پر قانع رہا اور مدرسے سے آپ کو فقط اتنا تعلق ہے کہ درس دیئے جاؤ۔ اگر مدرسہ بند حق تعالیٰ کرادے گا تم اپنے گھر بیٹھ رہنا، اگر مفتوح رہا درس میں مشغول رہنا۔ جو تم سے درس کرانا اہل شہر کو منظور نہ ہوگا تو دوسرا باب مفتوح ہو جائے گا، تم کس واسطے پریشان ہوتے ہو، خبر بھی مت ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اپنا کام کیے جاؤ۔ تمہارے برا بر تو کسی کے دست و پانیں چلتے، تم کیوں بے دست و پا اپنے آپ کو لکھتے ہو؟ جس کام کے تم ہو اس میں تکرار نہیں۔ آپ فقط نزاع یہی ہے کہ اہل شوریٰ کی زیادت ہو، تمہارا کیا حرج ہے، تم اپنا کام کرو۔ حاجی صاحب مصلحت کا کام کرتے ہیں وہ اپنی تدبیر میں رہیں۔ خواہ کچھ ہو ہماری تمہاری مرضی کے موافق ہو یا مخالف اور اہل شوریٰ خود سب اختیار حاجی صاحب کو دے کر مطمئن ہو گئے، تم پر کیا بار ہے؟ پس تم جیسے لوگوں سے تردد کا ہوتا ہے موقع ہے، تم کسی امر میں لب کشامت ہو، کوئی پوچھئے تو جواب دو درس کے بارے میں ہم سے پوچھو جو ہمارا کام ہے، انتظام وغیرہ کونہ ہم جانیں نہ ہم دخل دیں اور اندریشہ بدمعاشاں بھی کچھ مت کرو۔ شعر حضرت شیخ المشائخ قدس سرہ کو مدد نظر رکھو:

قصد ظالم بسوئے کشن ما دل مظلوم مابسوائے خدا  
او دریں فکرتا بمچہ کند؟ مادریں فکرتا خدا چہ کند؟  
اے عزیزان! بروز اول مقدر ہو چکا ہے، ذرہ ذرہ جو واقع ہو گا۔ مدرسہ کے امور میں بھی وہی  
واقع ہو گا اور ہو کر رہے گا، خواہ کوئی دفع کرے یا واقع کرے، پھر تم کیوں سرگشہ ہوتے ہو؟

ہرچہ از محبوب رسد، شیریں بود  
ہم کون ہیں؟ بے اختیارِ حضن ہیں، اگرچہ بظاہر مختار ہیں، ہم پر جو گزرے گا وہ عین لطف ہو گا اور  
جو عالم میں صادر ہو گا وہ عین مصلحت ہو گا، خواہ خرابی مدرسہ ہو یا بقا، خواہ عزت و نصب ہمارا تمہارا  
ہو، خواہ ذلت و عزل، تم یہ سب وقائع باز میگر کے سانگ سمجھ کر اپنے درس کے شغل میں بس کرو، ایں  
وآل کو زید و عمر پر چھوڑو۔

ہر کس بخیال خویش خطے دارو  
نے کوئی مفسد کا پچھہ کر سکنے کوئی مصلح کر سکتا ہے، سب فاعلِ مختار کرتا ہے۔

”وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ“

من از بیگا نگان ہر گز نہ نالم      کہ بامن آنچہ کرد آں آشنا کرد  
”وَهُوَ الرَّحِيمُ الرَّاحِمُ“ بس تمام ہو اقصہ وہاں کی خبر کا مشتاق ہوں، بشر ہوں، اپنے  
دوستوں کا دعا گو، خیر طلب ہوں، تم کو کوئی گز نہیں مطمین رہو، نہ مدرسہ کہیں جا رہا ہے۔ ہر شخص کو  
اپنے اپنے خیال پر نازاں جان کر کالائے بد بریش خاوند کرو اور وہ نخود ہو کر می تو شو و مے ینوش  
و چیز سے مخروش۔ فقط

سب عزیزوں کو بعد سلام مسنون یہ ہی مضمون جان بخش بعد سلام مسنون فرمادیں، جو دوستاں اہل  
تدبیر ہیں۔ ان کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ مضمون شکر و رضا ان سے کہہ دیں اور جس کو چاہو سلام کہہ دینا۔  
یہ وقت اور یہ خروش اہلِ فساد عین مصلحت ہے اس کا جس قدر غلغله ہو گا اسی قدر مفید ہو گا انجام  
خیر، ہی خیر۔ واصب و دامِ رہے گا۔

(.....رشید احمد.....)

جب مظاہر کا یہ ہنگامہ ختم ہو گیا تو ناظم صاحب اور حضرت مولانا عبد الرحمن اور اکابر مدرسین کی  
خاص طور سے یہ رائے ہوئی کہ جن لوگوں نے جھوٹے اتزامات مدرسہ پر لگائے اور وہ اب تک  
گمنام ہی چل رہے تھے اب کھل کر سامنے آگئے، ان کا اخراج اب بہت ضروری ہے۔ تین دن تک  
ان حضرات کا ان کے اخراج پر اصرار تھا اور یہ ناکارہ شدت سے مخالفت کر رہا تھا۔ حضرت ناظم  
صاحب اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہما اللہ نے یہ کہہ کر میری مخالفت کو نظر انداز کر دیا کہ چونکہ

اس میں ان کی ذات کا معاملہ ہے اس لیے ان کی رائے اس میں معتبر نہیں، ان میں ایک صاحب ایسے تھے جن کے بڑوں سے حضرت ناظم صاحب کے بڑے تعلقات تھے اور وہ صاحب تھے جن کی وجہ سے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کو وقت اٹھانا پڑتی۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا رہا کہ حضرت میں اپنی وجہ سے نہیں عرض کر رہا، آپ حضرات کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو بڑی وقت اٹھانی پڑے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اخراج کے دوسرے ہی دن ناظم صاحب کی خدمت میں وہ صاحب آئے جن کے متعلق میں نے کہا تھا اور ناظم صاحب نوراللہ مرقدہ نے بہت صفائی سے بلا جھگٹک ان سے کہہ دیا کہ شیخ الحدیث صاحب سے بات کر لیجئے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں ان کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گیا اور سچ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ اس وقت ناظم صاحب پر بڑا غصہ آیا۔ مگر چونکہ یہ تقریباً روز مرہ کا قصہ ہو گیا تھا کہ حضرت ناظم صاحب، جھگڑوں میں ہمیشہ اس سے کار کو آگے کر دیا کرتے تھے، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت ناظم صاحب نے حضرت مدینی قدس سرہ کے سامنے یہ الفاظ کہے تھے کہ ”اگر یہ نہ ہوں تو مجھے بڑی دقت ہو“ یہ بالکل صحیح کہا تھا۔ بہت سے موقع پر اس کی نوبت آچکی تھی کہ میری رائے کے خلاف کوئی بات اکابر مدرسے نے تجویز کر دی اور میں بختنی سے عرض کرتا رہا کہ فلاں مشکل پیش آئے گی اور جب وہ مشکل پیش آتی تو یہ سب حضرات اسی سے کار کے سرخوب دیتے، کئی اہم واقعات اس نوع کے بھی موقع ہوا تو لکھواوں گا۔

سہار پور کی جامع مسجد میں لیگ کا جلسہ، پینڈہ میں لیگ کا اجلاس وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے مدرسہ کے موجودہ اکابر خوب واقف ہیں۔ اگرچہ نئی امت کے لیے یہ بالکل غیر معلوم۔ میں نے اشارہ لکھ دیا، نہ معلوم لکھوانے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔

مگر یہ واقعہ ابھی تک بہت سے دوستوں کو معلوم ہے، اسی وجہ سے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قدس سرہ ناظم مدرسہ کا اس سے کار کے متعلق مشہور مقولہ تھا، وہ پچاس دفعہ کہا ہو گا کہ ”اس کی بات بے سمجھے مان لیا کرو، چھ مہینہ پہلے کی کہتا ہے۔“ میرے حضرت اقدس رائے پوری کا بھی اس قسم کا مقولہ میرے سلسلے میں بہت مشہور ہے۔

بہر حال جب وہ صاحب جن کے متعلق طلبہ کے اخراج کے سلسلے میں میں نے حضرت ناظم صاحب سے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے، وہ میرے پاس تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے یہ کہا کہ ان کے قصور میں تو کوئی انکار نہیں، لیکن اخراج میں نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ”یہ اجتماعی مشورے سے طے ہوا ہے، اس میں انفرادی رائے نہ یہ ناکارہ کوئی دے سکتا ہے، نہ حضرت ناظم صاحب، آپ ایک درخواست حضرت ناظم

صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجئے، دوبارہ مشورہ میں نظر ثانی ہو سکتی ہے، انفراداً نہیں۔ چنانچہ وہ درخواست دوبارہ شوریٰ میں آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو پہلے ہی مخالف تھا، اب بھی میرے نزدیک کوئی بات نہیں گئی اس پر لکھ دیا جائے کہ ”فلان صاحب کی سفارش سے اخراج ملتوی کر دیا جائے“۔ البتہ اس میں ایک اشکال ہو گا، وہ یہ کہ ہر اخراج پر اس سے زیادہ زور دار سفارش آسکتی ہے، اس لیے اور کوئی اچھا عنوان اختیار کر لیا جائے، لیکن وہ حضرات اخراج کے التواء پر راضی نہ ہونے، اس لیے دوبارہ بھی یہی لکھا گیا کہ غور و خوض کے بعد بھی اس اخراج کے التواء کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مدرسہ کو بہت شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد جن جن مشکلات کی طرف اس سے کارنے اشارہ کیا تھا وہ ساری پیش آئیں اور سب کی نگاہوں میں یہ سے کارہی مطعون رہا کہ چونکہ اس کا قصہ تھا اس واسطے اس نے نکلوادیا۔

واقعات تو اس سے کار کی پچین سالہ مدرسی دور کے نہ معلوم کئے ہیں، ان سب کا احصاء مشکل ہے، ہر باب میں نمونہ کے طور پر دو، چار لکھوا کر ختم کر دیا کرتا ہوں، اس لیے اس مضمون کو ختم کر کے تالیفات کی یادداشت لکھواتا ہوں کہ وہ بھی اہم ہے۔

اس باب کے شروع میں درس و تعلیم اور تالیفات تین مضمون تھے، اب یہ تیسرا مضمون ہے۔

### تالیفات:

لکھنے کی مشق تو بچپن ہی سے شروع ہو گئی تھی، گوخط تو اب تک اچھا ہوا، مگر صحیح اور پختہ اتنا ہو گیا تھا کہ ”بذل المحوو“ کی تالیف کے زمانہ میں کئی مرتبہ حاصلین نے بذل کی کتاب اس بہانے سے منتقل کرائی کہ فلان صاحب بہت خوش خط لکھتے ہیں ان سے لکھوائی جائے۔ لیکن استاذ الکل شی محبوب علی صاحب جنہوں نے بذل المحوو کی پہلی جلد لکھی اور وہ اس زمانے کے سارے ہی کاتجوں کے استاد یا استاد کے استاد تھے، اللہ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، انہوں نے میرے حضرت قدس سرہ سے یوں کہا کہ حضرت! میرے لیے تو ان بد خط سے ہی نقل کر دیا کریں، ان کے شو شے اور نقطے بہت صحیح ہوتے ہیں، مجھے جیسے جاہل کے لیے ایسی تحریر یا زیادہ کار آمد ہے جس کے نقطے اور شو شے زیادہ صحیح ہوں خوش خط پڑی نہ ہو۔

بہر حال ابتداء تو جنحتی پر ابست سے ہوئی، اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد جنحتی پر قرآن شریف پڑھنے کے زمانے میں بہشتی زیور کی نقل شروع ہوئی اور اس کے بعد فارسی کی کتابوں کی نقل اور ترجمہ جنحتی پر شروع ہو۔ اس کے بعد مستقل تالیف کا سلسلہ شروع ہوا جس میں سب سے پہلے ابا جان ایک دو لفظ بنا کر اور صرف کے قواعد بتا کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ ”اس کے صیغہ بناؤ“۔ اس زمانے میں اس کی مشق ایسی بڑھی کہ رات دن اسی سوچ میں گزرتا تھا، ”بت“ کے تیس چالیس صیغہ

بنانے تو اب بھی یاد ہیں اور اس کی کاپیاں بھی میرے کاغذات میں اب تک پڑی ہیں۔ جب دہلی  
جانا ہوتا تھا تو مظفر نگر سے اگلا آئینہ کھاتوں ہے دہلی تک اس کے صیغہ بناتا جایا کرتا تھا۔

اس دور کے بعد پھر ادب کا ذوق شروع ہوا تو سہارنپور سے دہلی تک اشعار کا دور تھا۔ کھڑکی  
سے منہ باہر نکال کر شعر پڑھتا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک کا دور شروع ہوا۔ سہارنپور  
سے دہلی تک ۲۰۱۵ اور ۲۰۲۰ تک کے درمیان میں پاروں کا ہمیشہ معمول رہا۔ اس زمانہ میں ریل کے سفر  
بذریعہ طباعت کی وجہ سے بہت کثرت سے ہوا کرتے تھے۔

### (۱) شرح الفیہ اردو: ..... غیر مطبوع

درس کے دوسرے سال میں جب الفیہ شروع کیا تو ساتھ ساتھ اس کی اردو شرح بھی شروع  
کی، جو کل تین جلدیوں میں پوری ہوئی۔ پہلا جزء بہت مفصل شرح کے طور پر، اس کے بعد مختصر  
ہوتی چلی گئی اور ۸ اشعبان ۲۹ھ پختہ کو پوری ہوئی۔ اس کا مسودہ الماری میں موجود ہے۔

### (۲) اردو شرح سلم: ..... غیر مطبوع

جس سال میں سلم پڑھی یعنی ۳۲ھ میں حضرت مولانا عبد الوحید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت طویل  
تقریر فرماتے تھے اور میں سبق کے ساتھ پنسل سے لکھا کرتا تھا اور سبق کے بعد صاف کیا کرتا تھا۔  
یہ دونوں مسودے چند سال ہوئے تو پورے تھے، اب چند سال سے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔

### (۳) اضافہ بر اشکال اقلیدس: ..... غیر مطبوع

۳۲ھ میں جب اقلیدس پڑھی تو کچھ اس وقت ایسا مزہ آیا کہ اس کے قواعد پر اپنی طرف سے  
شکلیں گھڑا کرتا تھا۔ اس کی کاپیاں اضافہ بر اشکال اقلیدس کے نام سے اب تک محفوظ ہیں۔

### (۴) تقریر مشکوٰۃ: ..... غیر مطبوع

ایمداد از مانہ طالب علمی میں پڑھنے کے زمانہ میں بہت مختصر لکھی تھی، پھر شوال ۲۱ھ میں پہلی دفعہ  
مشکوٰۃ پڑھانی شروع کی تو اس کو سامنے رکھ کر اور حواشی کی مدد سے دوبارہ لکھی یہ تقریر طبع تو نہیں  
ہوئی مگر شاید سوئے زائد نقليں طلبہ و مدرسین لے جا چکے ہیں۔

### (۵) تقاریر کتب حدیث: ..... غیر مطبوع

اس ناکارہ نے کتب صحاح اولاً اپنے والد صاحب سے پڑھیں، ثانیاً حضرت قدس سرہ سے۔  
ہر شیخ کی درس کی تقریروں کی نقل کا اہتمام تھا، مگر مکمل اور مرتب نہیں۔ البتہ حضرت قدس سرہ کی  
نسائی شریف کی تقریر مختصر مکمل میری تالیف کی الماری میں ہے۔ مجھے خوب یاد ہے میرے حضرت

قدس سرہ اگر کوئی حرف ایسا فرماتے تھے جو میں السطور میں ہواں کو بھی نقل کر لیتا تھا، یہ سمجھ کر کہ میرے حضرت کا فرمایا ہوا ہے۔

### (۶) مشائخ چشتیہ: ..... غیر مطبوع، (۷) احوالِ مظاہر علوم: ..... غیر مطبوع

جب یہ ناکارہ پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو ۳۵ھ مدمری کے ابتدائی دور میں دور سالے لکھنے شروع کیے تھے، ایک اولاد مشائخ چشتیہ، جس میں اپنے شیخ قدس سرہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ مشائخ کے حالات تبرکات کا لکھنا شروع کیے تھے، اکثر وہ کے پورے ہو گئے اور بعض کے پورے نہیں ہوئے۔

اسی طرح تظری براداء حقوق مظاہر علوم، اس کے پچاس سالہ حالات ابتداء بناء سے ۳۲ھ تک سنوار۔ اہ بنائی مطابق ۱۳۸۳ھ ہر سال کی آمد و خرچ کی میزان، فارغ التحصیل لوگوں کی تعداد اور تقرر، علیحدگی، ملازمین اور متفرق حالات، یہ بھی تقریباً حصہ اول تو پورا ہو گیا اور مدرسہ کے اکثر حالات جو مدرسہ کی روکنادوں وغیرہ اور اشتبہاروں میں چھپے ہیں۔ وہ ۳۵ھ کے بعد سے اسی سے لیے گئے ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ دوسرے حصے میں ان سب اکابر کے مختصر حالات بھی لکھوں گا لیکن مدمری کے اس باقی کے علاوہ بذل کی مشغولیت بھی بڑھتی گئی۔ اس لیے یہ دونوں رسائلے باوجود بہت بڑی مقدار میں ہو جانے کے ناقص ہی ہیں اور اب تو تکمیل کی کوئی صورت بھی نہیں۔

### (۸) تلخیص البذل: ..... غیر مطبوع

ربيع الاول ۳۵ھ جب سے بذل انجھو دشروع ہوئی تھی اس ناکارہ کا معمول یہ رہا کہ حضرت قدس سرہ کے اٹھنے کے بعد سے لے کر اس دن کے لکھنے کا ایک خلاصہ ساتھ لکھتا رہتا تھا جس میں ابحاث طولیہ کے خلاصوں کو اپنی عبارت میں اپنی یادداشت کے واسطے نقل کر دیا کرتا تھا۔ یہ بھی تقریباً سب جلدیوں کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ اسانید سے تو بحث نہیں کرتا تھا۔ لآ یہ کہ کسی خاص سند پر کوئی بحث کرنی ہو۔

### (۹) شذرات الحدیث: ..... غیر مطبوع

ناکارہ کا معمول یہ رہا کہ بذل کے لکھنے کے زمانے میں شروع بخاری وغیرہ میں جب کسی دوسری کتاب کے متعلق کوئی مضمون نظر سے گزرتا تو میں نے ہر کتاب کی ایک کاپی بنارکھی تھی اور اس کتاب کے نام سے اس کاپی پر لکھتا تھا: "شیخ" (شذرات بخاری) اسی طرح شم، شت، شد، غیرہ۔ صحاح ستہ کی ہر کتاب اور موطا میں اور طحا وی اور بدایہ کی کاپیاں بنارکھی تھیں۔ اس کو تفصیل سے اس واسطے لکھوار ہاہوں کہ میری مطبوعہ تالیفات میں "کذا فی الشذر و البسط فی

الشذر، کے حوالے کہیں کہیں آگئے ہیں۔

اس ناکارہ کی بذل کی تایف کے زمانہ میں اس کی بہت خواہش رہا کرتی تھی کہ کوئی شخص حضرت سے دو چار منٹ کو بات کرنے کے واسطے آجائے تو میں جلدی جلدی وہ دیکھنے ہوئے مضمایں شذرات کی کاپیوں پر لکھ لوں۔ اگرچہ حضرت قدس سرہ کو اس وقت میں کسی کا بات کرنا بہت ناگوار ہوتا تھا۔ جس کو میں خوب سمجھتا تھا، مگر میں اپنی غرض کو چاہتا تھا کہ ایک دو منٹ کو کوئی آتا رہے۔ مجھے اس کا وقت صرف ڈاک کی آمد پر ملتا تھا کہ مدرسہ کی ڈاک اول حضرت قدس سرہ کے پاس آتی تھی، حضرت قدس سرہ اپنی ڈاک چھانٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور میری میرے پاس ڈاک دیتے تھے نہ تو حضرت اس وقت اپنی ڈاک پڑھتے تھے نہ یہ ناکارہ۔ البتہ اگر قلم سے یا مرسل کے نام سے کوئی اہم خط سمجھتے تو حضرت بھی سرسری دیکھ لیا کرتے تھے اور میں بھی۔

ایک لطیفہ اس جگہ کا بہت پر اطف یاد آگیا۔ حضرت قدس سرہ کی الہیہ کی طرف کے کوئی عزیز جو کسی جگہ تھانیدار تھے اور اس زمانے کا تھانیدار اس زمانے کا واسراء تھا ہوتا تھا۔ نہایت حجم بحث، وجیہ، تھانیداری سوٹ میں ملبوس آئے۔ میرامنہ چونکہ دروازے کی طرف ہوتا تھا اور حضرت قدس سرہ کی پشت، اس لیے میں ان کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، اس لیے کہ میرے کئی شذرات جمع ہو رہے تھے اور مجھے یہ فکر ہو رہی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ انہوں نے آکر حضرت قدس سرہ کو پشت کی طرف سے سلام کیا اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے اور میں نے بذل کی کاپی ہاتھ سے رکھ کر جلد ہی سے اپنے شذرات اٹھا لیے۔ ہمارے مدرسہ کے ناظم کتب خانہ بھائی مظہر صاحب جو ابتدائی زمانہ میں میرے شریک درس بھی رہ چکے تھے، ان تھانیدار صاحب کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے، وہ ساتھ تھے۔ چند منٹ وہ بیٹھے اور حضرت بڑی گرانی سے ان سے با تین کرتے رہے اور میں نے جلدی جلدی اپنے شذرات پورے کیے۔ جب وہ واپس چلے گئے اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے، میں نے بذل لکھنی شروع کر دی۔ وہ صاحب کے اٹھنے کے بعد مجھ پر بہت ہی ناراض ہوئے۔ باہر جا کر بھائی مظہر سے کہا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے والوں کے بھی اخلاق ایسے خراب ہوا کرتے ہیں۔ یہ شخص جو حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس قدر مغرور اور متکبر ہے کہ ”میں اتنی دیر بیٹھا رہا اور حضرت اس قدر شفقت سے مجھ سے با تین کرتے رہے، لیکن اس مغرور اور بد دماغ نے ایک دفعہ بھی تو نگاہ اٹھا کر یوں نہیں دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا ہے، لگدھا بیٹھا ہے، کتاب بیٹھا ہے، سور بیٹھا ہے۔“ بھائی مظہر نے اس ناکارہ کی طرف سے بہت صفائی پیش کی کہ ”یہ بات نہیں بلکہ یہ مشغول بہت رہتا ہے۔“ لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آسکی کہ اسی بھی مشغولیت ہو سکتی ہے۔ وہ دیر تک خفاہی ہوتے رہے۔ ان کی خفگی بجا تھی کہ ناواقف آدمی کو یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ

اس قسم کی مشغولیت بھی ہو سکتی ہے اور اس ناکارہ کا وہ زمانہ درحقیقت طلب علم کا تھا۔ بسا اوقات رات دن میں ڈھائی تین گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں ہوتا تھا اور بلا مبالغہ کئی مرتبہ بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ روٹی کھانی یاد نہیں رہی کہ مہماں کا ہجوم اس زمانے میں میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ البتہ طلب ساتھ کھانے والے ہوتے تھے، ان سے کہہ دیا تھا کہ تم کھالو میرا انتظار نہ کرو۔ عصر کے وقت جب ضعف معلوم ہوتا تھا اس وقت یاد آتا کہ دو پھر روٹی نہیں کھانی اور رات کو کھانے کا معمول تو اس سے پہلے چھوٹ گیا تھا تیس گھنٹے روٹی کھانے ہوئے گزر جاتے تھے۔

#### (۱۰) جزءِ حجۃ الوداع وال عمرات: ..... مطبوع

جب میں پہلی دفعہ مشکلوۃ پڑھا رہا تھا جو شوال ۲۱ھ میں شروع ہوئی تھی تو ۲۴ ربیع الاول شب جمعہ ۱۲ بجے لکھنا شروع کیا تھا اور ایک دن ڈیڑھ رات میں شنبہ کی صبح کو پورا کر دیا تھا۔ اب تو مشاخ اکابر دیکھ کر تعجب فرماتے ہیں کہ ایک دن ڈیڑھ رات میں تو اس کی نقل بھی مشکل ہے۔ ہر سال یہ ناکارہ اور دیگر مدرسین جب کسی حدیث کی کتاب کی کتاب الحج پڑھاتے تھے تو دو چار دن اس کو مانگ لیتے تھے۔ متعدد اکابر مدرسین کے پاس اس کی نقلیں بھی تھیں، مگر طبع کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا، بلکہ بعض لوگوں نے جب طباعت کی فرمانش کی تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو یادداشتیں ہیں، طباعت کا ارادہ نہیں۔

لیکن گز شستہ سال مدینہ منورہ میں شعبان ۸۹ھ میں دفعۂ اس کی طباعت کا خیال پیدا ہوا اور آخر ذیقعدہ ۸۹ھ میں اس رسالہ کا سنتا شروع کیا۔ نزول آب کی وجہ سے آنکھیں بے کار تھیں، اس لیے عزیزان مولوی عاقل، مولوی سلمان نے سنانا اور صاف کرنا شروع کیا اور ۲۶ ربیع الثانی ۹۰ھ پنجشنبہ اس کی تسبیح پوری ہوئی اور اس کے چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا، کسی شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ ”اس کی تکمیل حضور کے عمروں کے بیان کے ساتھ ہوئی چاہیے۔ اس لیے ۷۱ جمادی الاولی ۹۰ھ بروز بدھ ”جزءِ عمرات“ کی تالیف شروع ہوئی اور ۱۵ ارج ۹۰ھ یوم جمعہ کو ختم ہو گئی اور شعبان ۹۰ھ میں پہلی طباعت لیتھو میں ہوئی اور اسی وقت دوسری طباعت ندوہ لکھنؤ میں ٹائپ پر شروع ہو گئی۔

#### (۱۱) خصائیں نبوی شرح شامل ترمذی: ..... مطبوع

بذر کی طباعت کے لیے بار بار دہلی جانا ہوتا تھا۔ ہر پندرہ ہیں دن میں ایک دوش بوجانا ہوتا تھا، رات کو گاڑی ایک بجے رات سہار پورے چلتی تھی اور جب تک بذر کی طباعت کا سلسلہ رہایہ گاڑی بدستور رہی اور دو یا تین دن دہلی میں قیام رہتا تھا، پروفوں کے دیکھنے کے بعد جتنا وقت

بچتا اس میں اس کو لکھا کرتا تھا۔ ۲۳ھ میں اس کی تالیف شروع ہوئی تھی اور ۸ جمادی الثانی ۲۳ھ شہب جمعہ میں پوری ہوئی، اس کی تالیف دریبہ کلاں کی مسجد میں ہوئی کہ وہیں دن پھر میرا قیام ہوتا تھا اور جب واپس آتا تو اس کے سارے کے سارے کاغذات ایک صندوق میں بند کر کے حاجی عثمان خان صاحب مرحوم کی دکان پر رکھ آتا۔ خصائص کے شروع میں اس کا مختصر حال لکھا جا چکا ہے اور متعدد مرتبہ طباعت کے بعد ۲۰ھ میں اس میں اضافہ ہوا۔

### (۱۲) حواشی بذل الجھوڑ:.....غیر مطبوع

بذل الجھوڑ کی طباعت کے بعد سے اس پر حواشی کا سلسہ اس ناکارہ کی طرف سے شروع ہوا اور اخیر زمانہ تک یعنی ۸۸ھ تک ابوداؤ داور حدیث کی دوسری کتابوں میں جو نئی یات نظر پڑتی رہی، وہ بذل کے حاشیہ پر لکھتا رہا، وہ ایک مستقل ذخیرہ بن گیا۔

### (۱۳) تحفۃ الاخوان:.....مطبوع

### (۱۴) شرح عربی جزری:.....غیر مطبوع

(۱۵) رسالہ در احوال قراء سیعہ۔ البدور مع نجومہم الاربعۃ عشر:.....غیر مطبوع

۲۵ھ میں جب یہ سید کار مدینہ پاک ایک سالہ قیام کی نیت سے گیا اور وہاں کچھ تجوید پڑھنے کا شوق ہوا اور المقری الشہیر استاذ الاساتذہ القاری حسن شاعر جو اس زمانہ میں بھی معمر تھے اور مکہ اور مدینہ کے قراء کے مشہور استاد تھے، بڑا شہرہ ان کا تھا، ان سے شاطی شروع کی، لیکن پہلے ہی سبق میں ان سے لڑائی ہو گئی، اس لیے کہ حضرت قاری صاحب نے یوں فرمایا کہ ”مطلوب صحنه کی ضرورت نہیں، اشعار حفظ یاد کرو۔“ اس ناکارہ نے عرض کیا اشعار تو ضرور حفظ کر کے نایا کروں گا، مگر اتنے مطلب نہ سمجھوں اتنے قرآن کے الفاظ کی طرح سے اس کے اشعار کو یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ میرے حضرت قدس سرہ کوئی ماہ بعد اس قصہ کی خبر ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمایا ”تونے مجھ سے نہ کہا شاطی تو تجھے سمجھا کے میں پڑھاتا قاری صاحب کی شاگردی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کی شفقت و محبت اب تک بھی رہی، چنانچہ گزشتہ سال ۸۹ھ میں جب مدینہ پاک حاضری ہوئی اس وقت بھی وہ زندہ تھے اور بہت ہی ضعیف، بہت ہی معمر، خبر سنتے ہی دوآدمیوں کے سہارے تشریف لائے اور ہر مجلس میں اس ناکارہ کے متعلق، سید محمود کے یہاں اور بڑوں بڑوں کے یہاں بہت فخر سے فرماتے رہے کہ یہ میرا تلمیذ رشید ہے اور ہمیشہ اسی لفظ سے تعارف کرایا کرتے اور میں ان کے ”رشید“ کہنے پر اس قدر شرمندہ ہوتا ہوں کہ نالائق سے لڑائی تو پہلے ہی دن ہو گئی تھی، پھر بھی میں رشید ہی رہا۔ لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہی۔“ تحفۃ

الاخوان فی بیان احکام تجوید القرآن، ان کی عربی تالیف ہے، وہ چونکہ اردو سے واقف نہیں تھے اور ان کے ہندی شاگرد بہت کثرت سے ہر سال ان سے چند روزہ قیام میں بھی کچھ نہ کچھ ان کی عام شہرت کی وجہ سے ان سے پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کا اردو ترجمہ لکھوں، وہ میں نے ایک دو دن میں کر دیا اور ۸ جمادی الاولی ۲۵ھ کی تاریخ اس کے خاتمه پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے متعلق ایک بڑا طفیل بھی پیش آیا، جو عنقریب لکھوں گا اور بھائی الحاج احمد علی صاحب راجو پوری مہاجر مدینہ منورہ کی مساعی جمیلہ سے یہ ان کی حیات تک پندرہ نہیں دفعہ چھپا، ان کی وفات کے بعد کا حال معلوم نہیں۔ لیکن مظاہر علوم کے کتب خانہ میں اس کا مطبوعہ ایک نسخہ تو یقیناً ہے جس کے متعلق بارہالوگوں نے مجھے بتایا، زائد کی مجھے خبر نہیں۔

دوسرے سالہ ”شرح عربی جزری“، غیر مطبوع بھی قاری صاحب موصوف کے تعمیل حکم میں عربی طلبہ کے واسطے لکھی تھی، اس کی طباعت کا حال مجھے معلوم نہیں، البتہ اس کی نقل میرے ساتھ ہندوستان بھی آئی تھی، جو میرے مسودات میں ہے۔

تمیز اسالہ ”در احوال قراء سبعہ“، بھی مدینہ پاک کے قیام میں لکھا، جس میں قراء سبعہ اور ان کے چودہ شاگردوں کے مختصر احوال لکھے تھے، یا اپنے شوق سے لکھا تھا کہ بذل کے لکھنے کے بعد جو وقت بچتا وہ علمی ذوق کی وجہ سے ان ہی میں خرچ ہوتا۔ بالخصوص رات کا وقت کہ مسجد نبوی کے تو کواڑ لگ جاتے اور جلدی سونے کی کچھی عادت نہیں پڑی۔ بہت سی چیزیں تبرکات حوزی تھوڑی تقدیم کر کے بھی لایا تھا، جس میں بھم کبیر، اوسط اور شرح طحاوی للعینی، جواب محمد اللہ مولوی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مساعی جمیلہ سے مدرسہ میں پوری کا عکس آگیا ہے یہ مصر سے وباں کے قیام میں نہایت حسین نہایت خوبصورت گیارہ جزء گیارہ اشرافیوں میں نقل کرائے تھے، مگر افسوس! یہاں آنے کے بعد جلدی ہی دو بزرگوں کی کشمش سے کھوئی گئی، کہ وہ دونوں حضرات اس کے مشتاق تھے اور بار بار ایک دوسرے سے منگاتے تھے، میں تو مطمئن رہا کہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی قادر کو پسند آگئی۔

جس لطیفہ کا اور پر ذکر ہوا وہ یہ ہے:

حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کا دستور یہ تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تب تو کھانا خانقاہ شریف میں آتا، لیکن ہم خدام میں سے اگر دو چار ہوتے تو حضرت قدس سرہ مکان ہی پر لے جاتے اور ہر دو اہلیہ میں سے جو کسی اہلیہ کا نمبر ہوتا ان کے مکان پر کھانا کھانے کی نوبت آتی البتہ چھوٹی محترمہ کے یہاں کھانا کھانے کی زیادہ نوبت آتی، ایک مرتبہ چھوٹی اہلیہ کے زنانہ مکان پر چھت پر یہاں کارہ اور حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ صرف ہم دو کھانے میں تھے اور

حضرت قدس سرہ خود بنفس نفس اندر سے کھانا لارہے تھے، جس کی بڑی شرم آرہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ ہاتھ میں دور کا میں لیے ہوئے اندر سے تشریف لارہے، مستورات بھی قریب ہی کمرہ میں تھیں اور ہم صحن میں کھانا کھانے پیشے تھے، حضرت اندر سے بہت ہی مبتے ہوئے تشریف لائے، وہ منظر بھی بہت آنکھوں میں کافیں میں اور دل میں گونج رہا ہے، حضرت نے فرمایا ”مولانا زکریا صاحب آج ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ آپ قاری بھی ہیں“، میں نے عرض کیا ”حضرت بالکل نہیں، میں تو فارسی میں قرآن پڑھوں“، حضرت نے فرمایا ”مجھے بھی یہی معلوم تھا کہ آپ قاری نہیں ہیں، مگر یہ عورتیں بہت ساری جمع ہیں اور متفق اللسان اس پر اصرار کر رہی ہیں کہ آپ قاری ہیں اور آپ سے قرآن سننے کی میرے واسطے سے باصرار درخواست کر رہی ہیں“۔ مجھے معلوم تھا کہ بھائی احمد علی اس سال مع اہمیت آئے ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ ”حضرت! بھائی احمد علی صاحب کی اہمیت تو ان میں نہیں؟“، حضرت نے فرمایا ”کیسے سمجھا؟ وہ تو ہیں“۔ میں نے عرض کیا کہ ”توروایت صحیح ہے“ اور پھر میں نے تجھے الاخوان اور شرح جزری کا سارا قصہ سنایا اور میں نے کہا کہ ”حضرت! میں مدینہ میں تو قاری ہوں، ہندوستان میں نہیں“۔

#### (۱۶) اوجز الممالک شرح موطا امام مالک ۶ جلد:..... (مطبوع)

تالیف کا سلسلہ اور چسکہ تو ۳۵۰ھ سے بڑھتا ہی گیا ۴۵۰ھ میں مدینہ پاک میں جب بذل الجہود قریب اکتم ہوئی اور یہ خیال تو طے شدہ تھا کہ حدیث پاک کا ہی مشغله رکھنا ہے، اگرچہ حدیث کے اس باق مدرسہ میں شروع ہو گئے تھے، پھر بھی تالیفی ذوق تو تھا ہی، مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ بذل کے بعد کوئی کتاب لکھنے کے لیے سوچنی چاہیے، میرے ذہن میں بہت مختصر موطا امام مالک آئی اور مدینہ پاک کی مناسبت سے موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح ”اوجز الممالک“ کے نام سے غرہ رقعیۃ الاول ۴۵۰ھ کو اقدم عالیہ میں بیٹھ کر بسم اللہ لکھی اور بذل کے ختم ہونے تک تو دو چار سطریں لکھی جاتی تھیں اور بذل کے ختم کے بعد ۲۱ شعبان ۴۵۰ھ سے مدینہ پاک سے روانگی تک تقریباً تقریباً ڈیڑھ جلد کا مسودہ ہو گیا، لیکن ہندوستان والی کے بعد مشاغل کا ایسا ہجوم رہا اور اس کے درمیان میں دوسری تصانیف کا بھی سلسلہ رہا جیسا کہ آئندہ سالوں سے معلوم ہو جائے گا۔ تدریس کے علاوہ مدرسے کے دوسرے مشاغل نے بھی بہت وقت لیا، اس لیے تمیں سال سے زائد اس کی تالیف میں لگ گئے۔

میری سفر جاز سے واپسی پر ۶۲ھ کے شروع میں میرے حضرت قدس سرہ کا ارشاد آیا کہ بذل الجہود کی طرح میں ترمذی کی شرح لکھوں اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک آدھ سال میں اوجز ختم ہو جائے گی اس لیے کہ ڈیڑھ جلد اس کی مدینہ پاک میں دو تین مہینے میں ختم ہو چکی تھی اور اس کے

بعد میری خواہش طحاوی کی شرح لکھنے کی تھی، اس لیے کہ مجھے طحاوی سے بہت بچپن سے محبت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے طحاوی شریف کی شرح اردو ہنی شروع کی تھی اور اس کا اشتہار بھی دے دیا تھا۔ بہر حال میں نے حضرت قدس سرہ کو لکھا کہ ”میرا خیال طحاوی پر کچھ لکھنے کا ہے، آیندہ جیسے ارشاد ہو۔“ حضرت قدس سرہ نے لکھا کہ ”طحاوی غیر متداول ہے اور ترمذی متداول ہے ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔“ اسی خط و کتاب میں میرے حضرت قدس سرہ کا وصال ۵ اربیع الثانی ۳۶ھ میں ہو گیا، پھر میں نے پچاجان نور اللہ مرقدہ سے مشورہ کیا کہ ترمذی میں شروع کروں یا او جز پوری کروں؟ پچاجان کی رائے بھی ہوئی کہ وہ درمیان میں ہے، پہلے اس کو پوری کر لی جائے۔ حضرت قدس سرہ کی حیات میں تو ارادہ کر لیا تھا کہ فوراً مدد میثہ منورہ حاضر ہو جاؤں اور حضرت ہی سے ابتداء کراؤں اور بذل کی طرح جب تک حضرت کی حیات رہے حضرت لکھواتے رہیں اور لکھتا رہوں، لیکن او جز نے جوانی کا سارا ترمانہ لے لیا، اس کے بعد ہمت بھی کچھ قاصر ہو گئی اور حضرت مدنی قدس سرہ کے شدید اصرار پر ”لامع“ شروع ہو گئی اور اس کے بعد ”عد نفسک فی الاموات“ میں داخل ہو گیا۔

#### (۷) فضائل قرآن:.....(مطبوع)

حضرت شاہ یلیں صاحب یکے از خلفاء قطب عالم گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ جو ہر سال مظاہر علوم کے جلسے میں آیا کرتے تھے اور ۲۷ ذی قعده ۳۸ھ کے جلسے کے موقع پر بہت زور سے اصرار فرمائے ان کے تعییل ارشاد میں اوائل ذی الحجه میں شروع ہوئی اور ۲۹ھ کو ختم ہوئی۔ فضائل کا یہ پہلا رسالہ ہے جو حضرت شاہ صاحب کی تعییل حکم میں لکھا گیا اور فضائل کا سب سے آخری رسالہ ”فضائل درود“ بھی شاہ صاحب کے ارشاد سے لکھا گیا۔

#### (۸) فضائل رمضان:.....(مطبوع)

رمضان ۳۹ھ میں پچاجان نور اللہ مرقدہ کے تعییل ارشاد میں نظام الدین میں لکھی گئی اور ۲۷ رمضان المبارک میں ختم ہوئی۔

#### (۹) قرآن عظیم اور جبریہ تعلیم:.....(مطبوع)

۳۹ھ میں جبریہ تعلیم کا بہت زور ہوا، جس کے خلاف حضرت حکیم الامت تھانوی اور میرے پچاجان نور اللہ مرقدہ ہمانے بہت زیادہ مسامی جیلہ فرمائیں۔ پچاجان نے اس ناکارہ کی وساطت سے حضرت مدنی قدس سرہ کی صدارت میں متعدد جلسے بھی کرائے۔ اس سلسلے میں بھی ایک لطیفہ ہے مگر طویل۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نمبرانِ اسیلی کے نام خطوط تحریر فرمایا کرتے تھے اسی سلسلے

میں اس ناکارہ نے یہ ایک خط جو تقریباً ۳۲ صفحات پر طبع ہوا ہے لکھ کر چھپوا کر ممبران اسمبلی اور دیگر سر برآورده مسلمانوں کے پاس بھیجا تھا۔ ۱۴ محرم ۵۰ھ میں لکھا گیا۔

#### (۲۰) فضائل تبلیغ: ..... (مطبوع)

یہ بھی چھپا جان نور اللہ مرقدہ کے قمیل ارشاد میں لکھی گئی اور چند روز میں ۵ صفر شب دو شنبہ ۵۰ھ میں پوری ہوئی۔

#### (۲۱) الکوب الدری: ..... (مطبوع)

یہ قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی ترمذی شریف کی تقریر ہے جس کو میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے زمانہ میں عربی میں لکھا تھا اور مشائخ درس بہت کثرت سے اس کی تقلیں بہت گراں قیمت سے طلبہ سے کراتے رہے۔ تقلیں تو اس کی بہت ہوئی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت میاں صاحب مولانا الحاج اصغر حسین صاحب دیوبندی نے پچھتر (۵۷) روپے میں نقل کرائی تھی۔ میں نے اس کی نقل دینے میں کبھی بخل نہیں کیا، اگرچہ بہت سے لوگوں نے مجھے بہت ہی منع کیا، بالخصوص منطقی علماء نے اور بہت سے احباب کاشدید اصرار اس کی طباعت پر رہا بالخصوص حضرت مدینی قدس سرہ کا، مگر میرے ذہن میں یوں تھا کہ وہ مسودہ ہے علماء میں سے جب تک کوئی نظر ثانی اور مختصر حواشی اس پر نہ لکھنے نہ طبع کرائی جائے۔ حضرت مدینی قدس سرہ اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کی، بالخصوص مولانا مرحوم سے اس وجہ سے کہ انہوں نے ترمذی کی شرح للہی شروع کی تھی۔ لیکن مشاغل کی وجہ سے کوئی بھی راضی نہ ہوا۔

مجھے ۵۰ھ میں یہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے اس کو بحالہ چھاپنا شروع کر دیا ہے اور کئی جزء چھاپ بھی لیے، جس پر مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ غلط چھپ جائے گی، اس لیے اوجز کی تالیف چند سال کے لیے روک کر اس کا کام شروع کرنا پڑا اور جلد اول کے حواشی اور نظر ثانی سے وسط ربع الاول ۵۲ھ میں فراغت ہوئی اور جلد ثانی سے ۱۶ ارجب ۵۳ھ میں فراغت ہوئی۔ ان ہی وجہ سے اوجز کی تالیف میں دیر ہوتی چلی گئی۔

#### (۲۲) دکایات صحابہ: ..... (مطبوع)

صفر ۷۵ھ میں اجرارے جاتے ہوئے میرٹھ میں نکیر کا شدید حملہ ہوا جو مغرب کے بعد سے شروع ہو کر صبح کو آٹھ بجے تک مسلسل رہا اور تقریباً دو گھنٹے کے قریب خون ساری رات نہ معلوم کہاں سے پیدا ہوا اور نکیر کی ابتداء بھی اپنی ایک حماقت سے جو حضرت مدینی قدس سرہ کی بے تکلفی کی بناء پر پیدا ہوئی تھی لمبا قصہ ہے۔

بہر حال علی الصباح یہ ناکارہ بجائے اجڑاۓ کے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ فرشت کلاس ڈاکٹروں اور حکیموں کی طرف سے چند ماہ تک دماغی کام سے روک دیا گیا۔ میرے حضرت میرے مرتبی میرے محسن حضرت مولانا شاہ عبدال قادر صاحب رائے پوری کا ارشاد تقریباً چار برس سے اس کی تالیف کا ہو رہا تھا۔ مگر اپنے مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے تعقیل کا وقت نہ ملا، اس بیماری کے زمانے کو ختم سمجھ کر تعقیل ارشاد میں پڑے پڑے کچھ لکھتا رہا اور ۱۲ شوال ۷۵ھ کو پوری ہو گئی کہ کچھ دنوں بعد سبق کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہو گئی تھی جو آگے آرہی ہے۔

### (۲۳) الاعتدال فی مراتب الرجال :..... (مطبوع)

۵۶ھ اور اوائل ۷۵ھ کا انگریز اور لیگ کے اختلافات نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اکابر کی شان میں بے حد گستاخیاں اور بے ادبیاں ہوئیں اور بعض لوگوں نے دوسرے خیال کے امام کو فرائض جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں مصلی سے بھی ہٹا دیا اور جس جگہ جس فریق کا غالبہ ہوا اس جگہ دوسرے خیال کے مُردوں کو قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔

اس سیہ کار کے پاس اس زمانے میں خطوط کی بڑی بھرما رہی۔ علیحدہ علیحدہ جواب دینا مشکل تھا، اس کے باوجود لکھنا پڑتا تھا۔ ایک عزیز نے میرے بہت سے خطوط جمع کر کے سب اشکالات کو ایک خط کی صورت میں لکھ کر اس کے جواب کا مطالبہ کیا۔ میں نے بھی علیحدہ علیحدہ جواب لکھنے سے اس کو آسان سمجھا کہ ایک کاپی پر اس کو مفصل نقل کرالیا اور ۲۹ شعبان ۷۵ھ کو یہ جواب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہر شخص کو مختصر جواب لکھنے کے بعد یہ لکھتا ”تفصیلی گفتگو زبانی ہو گی، یہاں آ جاؤ۔“ یہاں آنے پر اس کو کاپی دکھاو دیتا۔

اتفاق سے میرے چچا جان اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا اس کا علم ہو گیا، دونوں نے بہت اصرار اس کی اشاعت کا کیا، بلکہ حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے تو میرآل علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اور شاہ مسعود حسن صاحب مل کر اس کو طبع کر دیں، جس پر میں نے یہ کہہ کر شدت سے انکار کر دیا کہ ”حضرت کسی دوسرے کے طبع کرانے کی ضرورت نہیں میں اس کو عوام میں پھیلانا نہیں چاہتا، مخصوص کو دکھاتا ہوں“ اور پھر ان دونوں بزرگوں کی تعقیل ارشاد میں چند روز میں اس کو طبع کرالیا۔

حضرت مدینی قدس سرہ نے طبع کے بعد بہت پسند فرمایا اور ہمیشہ سفری بیگ میں اس کا نسخہ رکھا رہتا تھا۔ ان ہی بزرگوں کی برکت کا اثر تھا کہ یہ کتاب اندازہ سے زائد مقبول ہوئی، سنجیدہ طبقہ اور علماء نے بہت پسند کیا، میں بچپن مطابع میں ہندو پاک کے کئی کئی مرتبہ طبع ہوئی اور گزشتہ سال اس

کے نمبر ۲ کا ترجمہ عزیزم مولوی عبدالرحیم متالانے گجراتی میں کر کے ”ورداوردوا“ کے نام سے شائع کرایا اور اس سال بمبئی کے احباب کے تقاضوں پر اس نمبر کو ”مسلمانوں کی پریشانیوں کا بہترین علاج“ کے نام سے اردو میں ۲۵ ربیع الاول ۱۳۹۰ھ کو شائع کرایا گیا۔

### (۲۳) مقدمات کتب حدیث:.....(غیر مطبوع)

اس ناکارہ نے مختلف ایام میں ۵۶ھ سے ۵۶ھ تک کے دوران ”ایک مقدمہ علم الحدیث“ لکھا تھا۔ جو ”مقدمہ او جز“ میں طبع ہو گیا۔ اس کے علاوہ سب کتابوں کا ”مقدمۃ الکتاب“ بھی لکھا، جس میں اس کتاب کی خصوصیات، مصنف اور اس کے حالات اس کتاب کے مناسب جو چیزیں تھیں، ان میں سے ”مقدمۃ البخاری“ بہت سے اضافوں کے ساتھ ”مقدمۃ لامع“ میں چھپ چکا ہے۔ مقدمہ بذل الحجود وابوداؤ دبہت مفصل لکھا تھا اور بذل الحجود کے شروع میں اس کی طباعت کا بھی ارادہ تھا۔ مگر حضرت قدس سرہ نے خود اس کا مقدمہ مختصر لکھوا دیا۔ مجھے یہ عرض کرتے ہوئے شرم آئی کہ میں نے مفصل لکھ رکھا ہے، اس لیے طباعت کی نوبت نہ آئی۔ اسی طرح بقیہ کتب ستہ کی نیز شامل ترمذی و نیز طحاوی وغیرہ کے مقدمۃ الکتب لکھے ہوئے میری الماری میں موجود ہیں۔

### (۲۴) فضائل نماز:.....(مطبوعہ متعدد بار)

چچا جان کے تعیل ارشاد میں لکھا گیا اور محرم ۵۸ھ شب و شنبہ میں پورا ہوا۔

### (۲۵) فضائل ذکر:.....(مطبوعہ متعدد بار)

یہ بھی چچا جان قدس سرہ کے تعیل ارشاد میں لکھا گیا اور ۲۶ شوال ۵۸ھ شب جمعہ میں پورا ہوا۔

### (۲۶) فضائل حج:.....(مطبوعہ متعدد بار)

عزیزم مولانا یوسف مرحوم نے جب جاج کا کام شدت سے شروع کیا تو مجھ پر تقاضہ کیا کہ فضائل حج میں ایک رسالہ ضرور لکھ دوں۔

۳ شوال ۲۶ھ کو اس کی ابتداء ہوئی اور ۳ جمادی الاول ۷ھ بروز جمعرات فراغت ہوئی۔

نفس رسالہ سے تو فراغت شوال ہی میں ہو گئی تھی۔ پس کچھ حکایات کا اضافہ سہارنپور والپی پڑھوا۔

اس رسالہ کے متعلق ایک خواب۔ میرا توجیہ نہ چاہتا تھا کہ لکھواں مگر بعض دوستوں کا جو اس

وقت مسودہ لکھوانے کے وقت موجود تھے اصرار ہے کہ ضرور لکھواں۔

جب یہ رسالہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت شاہ عبدال قادر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک مخلص خادم

ذا کر و شاغل تہایت متقی بزرگ نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور یہ ناکارہ دونوں مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے خواب عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا ”شیخ کو لکھ دو“۔ انہوں نے مجھے لکھا۔ اس ناکارہ نے جواب میں لکھا کہ ”تعیر صاف ہے، اس ناکارہ نے ایک رسالہ فضائل حج میں لکھا ہے جو آج کل زیر طبع ہے، انشاء اللہ یہ رسالہ بیت اللہ شریف کی تعمیر روحانی میں معین ہوگا“۔ چنانچہ ہزاروں خطوط اس نوع کے پہنچے کہ اس رسالہ سے حج و زیارت میں بہت اطف آیا۔

### (۲۸) فضائل صدقات:..... (مطبوع)

چچا جان نور اللہ مرقدہ نے اپنی علاالت کے زمانہ میں بار بار رسالوں کی تاکید فرمائی تھی، ایک فضائل زکوٰۃ اور ایک فضائل تجارت تھی کہ ایک دن عصر کی نماز کی تکمیل ہو رہی تھی تو صرف میں سے آگے منہ نکال کر کہا ”دونوں رسالوں کو یاد رکھنا بھولنا نہیں“۔ مگر جیسا کہ فضائل حج اور فضائل صدقات کی تکمیل میں تفصیل سے لکھا گیا۔ شوال ۲۶ھ میں ۷۲ء کے ہنگامہ کی وجہ سے چار ماہ سے زائد نظام الدین میں محبوس رہنا پڑا۔ لہذا فضائل حج کے ختم ہونے کے بعد اسی قیامت کے یاد دلانے والے ہنگامے میں نظام الدین میں اس کی ابتداء ہوئی اور سہار پور واپسی کے بعد ۲۲ صفر ۲۸ھ کو ختم ہوئی۔

### (۲۹) لامع الدراري تین جلد:..... (مطبوع)

او جز کی فراغت کے بعد جیسا کہ لامع کے شروع اور خاتمه پر لکھا گیا ہے کہ ۷ محرم ۱۳۷۷ھ یوم چہارشنبہ کو اس کی ابتداء ہوئی اور اربع الاول ۸۸ھ کو کتاب مکمل ہوئی اور چونکہ اپنے ضعف اور امراض کی کثرت کی وجہ سے تالیف حدیث کے سلسلے کو ختم سمجھ رہا تھا اس لیے ۷ اربع الاول ۸۸ھ مطابق ۱۴ جون ۲۸ء کو اس کے اختتام کی ایک دعوت کی، جو شروع میں تو بہت مختصر مدرسہ کے مدرسین اور مخصوص احباب، سوڈیڑھ سوکا اندازہ تھا، مگر نہ معلوم کس طرح اس کی ایسی شہرت عام ہوئی کہ دبلی، لکھنؤ، کلکتہ، بمبئی تک خبریں پہنچ گئیں اور تقریباً ایک ہزار کا مجمع جمعہ کی شب اور صبح تک جمع ہو گیا۔ برادر دیکھیں بڑھتی ریس اور پالا وزردہ مولوی نصیر الدین، شیخ النعام اللہ، شیخ اظہار وغیرہ کی مسائی جمیلہ سے بہت جلد تیار ہوتا رہا اور اس غلط شہرت سے کہ آج عزیزان زیر و شاہد کا نکاح ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی تذکرہ یہاں نہیں تھا۔ مقامی و بیرونی عورتوں کا مجمع بھی گھر میں بہت ہو گیا تھا۔

### (۳۰) فضائل درود شریف:..... (مطبوع)

اس کی تالیف بھی حضرت شاہ لیسین صاحب نگینوی کی وصیت کے موافق ہے، حضرت شاہ

صاحب کا وصال ۳۰ شوال ۶۰ھ شب پنجشنبہ میں ہوا تھا اور انہوں نے وصال کے وقت اپنے مخلص خادم اور اجل خلفاء عبدالعزیز صاحب دہلوی کو یہ وصیت کی تھی کہ ”زکریا سے کہہ دیجیو کہ جس طرح تو نے فضائل قرآن لکھی ہے، میرے کہنے سے فضائل درود بھی لکھ دے۔“

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے وصال کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب مرحوم بار بار زبانی اور تحریری تقاضے شدت سے کرتے رہے۔ مگر بد اعمالیوں نے مهلت نہ دی، لیکن ۸۳ھ کے حج میں مدینہ پاک حاضری پر شدت سے اس کا تقاضا شروع ہوا، واپسی پر بھی آسابل ہوتا رہا اور رمضان ۸۴ھ کو بسم اللہ کربلہ دی اور ۶ ذی الحجه ۸۳ھ کو دفعۃ ختم کردی کہ عزیزی مولوی یوسف مرحوم کے انتقال کے تاریخ نے پر اپنی زندگی سے کچھ ایسی مایوسی ہوئی کہ جتنی لکھی تھی اسی پر ختم کردی۔

### (۳۱) رسالہ اسٹرائک:..... (مطبوعہ)

مدارس عربیہ میں اسٹرائک کی روز افزوں وبا سے جتنی نفرت اس سیہ کار کو ہے اتنی شایدی کسی کو ہو اور اس میں میرے دو بزرگ حضرت تھانوی اور حضرت مدینی نور اللہ مرقد ہما بھی بہت مخالف تھے۔ روز افزوں اسٹرائک کی مصیبت کی وجہ سے یہ رسالہ ۱۲ اربع الاول ۸۸ھ کو لکھا گیا، جس میں اکابر مذکورین کے ارشادات بھی نقل کیے گئے۔

### (۳۲) رسالہ آپ بیتی:..... (مطبوعہ)

عزیز مولوی محمد ثانی سلمہ نے عزیز مولا نا محمد یوسف مرحوم کی سوانح عمری لکھی اور اس میں ایک باب علی میاں نے عزیز یوسف کے مشائخ میں اس سیہ کار کا بھی اپنے قلم سے لکھ دیا۔ میں نے علی میاں کو لکھا کہ ”جو باتیں لکھنے کی تھیں وہ تو آپ نے لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں“۔ اس پر ایک مضمون ان کو لکھا اور احباب کے اصرار پر اس میں کچھ اضافہ کے ساتھ ۱۵ اربع الثاني ۸۸ھ کو آپ بیتی کے نام سے ایک رسالہ شائع کر دیا۔ یہ رسالہ جواب لکھوار ہا ہوں اسی کا دوسرا حصہ ہے، کل کچھ حصے طبع ہو چکے ہیں۔

### (۳۳) اصول حدیث علی مذهب الحنفیہ:..... (غیر مطبوعہ)

مسلک حنفیہ پر اصول حدیث کا ایک متن جو ۸ جمادی الاول ۳۲ھ کو شروع کیا تھا اور ۱۰ جمادی الاول کو ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس پر حواشی کا سلسلہ ۸۸ھ تک چلتا رہا، جو مضمون ذہن میں آتا اس کو لکھتا رہا۔

### (۳۴) الواقع والدھور:..... (غیر مطبوعہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد

سلطین بنی امیہ وغیرہم کے حالات۔ جلد اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جلد ثانی میں خلفاء راشدین کے اور جلد ثالث میں ان کے بعد والوں کے۔ ۲۵ محرم ۲۲ھ یوم جمعہ کو ابتداء کی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک جو نیا واقعہ متاثر ہا اس سال کی جلد میں نکال کر لکھتا رہا۔ اس کا سلسلہ ۸۸ھ تک چلتا رہا۔

### (۳۵) المؤلفات والمؤلفین:.....(غیر مطبوعہ)

معروف کتب حدیث و فقہ اور معروف مؤلفین کے حالات اور ان کے احوال کے مواضع جن جن کتابوں میں تھے، ان کے حوالے، اس کی ابتداء کیم جمادی الثاني ۲۷ھ کو ہوئی تھی۔ ۸۸ھ تک اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس ناکارہ کے علمی انہاک کا گویا خاتمه ہے کہ آنکھوں نے بھی بالکل جواب دے دیا اور دماغ اور قویٰ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اب تو

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم  
الا حدیث یار کہ تکرار می کنیم!

### (۳۶) تلخیص المؤلفات والمؤلفین:.....(غیر مطبوعہ)

یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس میں مؤلفین کے نام اور بہت مختصر سوالات جمع کیے گئے اور تفصیل کے لیے رسالہ بالا کا حوالہ لکھ دیا۔

### (۳۷) جزء المراج:.....(غیر مطبوعہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج شریف کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھنا شروع کیا تھا، جس کے کئی جزو تو ہو گئے مگر تکمیل کو نہیں پہنچا۔

### (۳۸) جزوفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم:.....(غیر مطبوعہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتداء، دن اور تاریخ، ازواج مطہرات کے بیہاں دورہ اور اخیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیہاں تشریف آوری اور مرض کی شدت وغیرہ احوال کی روایات جمع کی گئیں مگر افسوس مکمل نہ ہو سکا۔

### (۳۹) جزء افضل الاعمال:.....(غیر مطبوعہ)

فضل الاعمال کے بارے میں روایات بہت مختلف وارد ہیں اس لیے میں نے اس رسالہ میں ان سب روایات کو جمع کیا اور مشائخ نے ان میں جمع کے متعلق جو توجیہات کیں ان میں سے بھی اکثر نقل کی ہیں مگر رسالہ پورا نہ ہو سکا۔

## (۳۰) جزء روایت الاستحاضہ:.....(غیر مطبوعہ)

استحاضہ کی روایات میں جو تعارض ہے وہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے مخفی نہیں۔ میرے حضرت قدس سرہ اعلیٰ اللہ مرابتہ نے بذل الحجود کا باب الاستحاضہ لکھوانے کے بعد یوں ارشاد فرمایا تھا کہ استحاضہ کے ابواب میں ہمیشہ ہی اشکال رہا۔ خیال تھا کہ بذل الحجود میں سمجھ میں آجائیں گے مگر اس میں بھی سمجھ میں نہیں آئے اور حق فرمایا۔ کوب لکھی، او جز لکھی، لامع لکھی، لیکن پھر بھی حل نہ ہوئے۔ چنانچہ کوب کے حاشیہ پر حمنہ بنت جوش کے قصہ میں بندہ نے اپنی ایک خاص رائے لکھی ہے جو سارے مشائخ اور شراح کی رائے کے خلاف ہے۔ میرے حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ دیوبند سے صرف اس حدیث کی وجہ سے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ”صرف اس حدیث کی وجہ سے آیا ہوں، تم نے بات بہت معقول لکھی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو یہ الہام سارے مشائخ سارے شراح کے خلاف کہاں سے ہوا، آپ کے حضرت نے بذل الحجود میں وہی لکھا جو سارے شراح لکھا رہے ہیں، ملا علی قاری شراح ترمذی سب ایک مضمون پر متفق ہیں، مگر آپ نے یہاں مطلب کہاں سے نکالا، کوئی مستند اس کا آپ کے پاس ہے؟“ میں نے عرض کیا، مشکل الآثار طحاوی سے یہی مطلب مستبط ہوتا ہے۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا، پھر تو بڑا قوی مأخذ ہے اور مشکل الآثار نکلوا کر دیکھی۔ حضرت مدنی قدس سرہ کوب اور لامع کو قطب عالم حضرت گنگوہی کی وجہ سے اہتمام سے دیکھا کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ حضرت نے فرمایا: ”آپ نے کوب کا حاشیہ لکھا یا ہے، او جز کا اشتہار دیا ہے، ہر مسئلہ میں والبسط فی الاوجز لکھتے ہیں، ایک دفعہ یہاں دیکھو، ایک دفعہ وہاں۔“

حدیث پاک میں چونکہ اس ناکارہ کی مرغی کی ایک ناگ بہت سی جگہ الگ رہی، اس لیے میرے حضرت مدنی قدس سرہ ان پر اکثر مراجعت فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ اللہ مرابتہ۔

## (۳۱) جزء رفع الیدین:.....(غیر مطبوعہ)

رفع الیدین مشہور مسئلہ ہے، اس ناکارہ نے ان سب روایات کو ایک جگہ جمع کیا اور ان پر تفصیلی کام کا بھی ارادہ تھا، مگر مقدر سے پورا نہ ہو سکا۔

## (۳۲) جزء الاعمال بالذیات:.....(غیر مطبوعہ)

یہ تو بڑی جامع حدیث ہے اور بہت سے مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس رسالہ کی ابتداء بھی اسی حدیث سے کی گئی ہے۔ جس میں نہ ہے کے طور پر یکجذب کر کیا گیا ہے۔

اپنی زندگی کے زمانہ میں اس حدیث پر بھی بڑا تفصیلی کلام شروع کیا تھا، کچھ لکھا بھی مگر پورا نہ ہو سکا۔

### (۲۳) جزء اختلافات الصلوٰۃ:..... (غیر مطبوعہ)

مشکوٰۃ شریف پڑھانے کے زمانے میں میری تقریر کا خلاصہ یہ رہا کہ رفع یہ دین، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجھر، وغیرہ تین چار مسائل کی خصوصیت ہے کہ جس پر یہ معرب کے، مناظرے مجاوے، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ رفع یہ دین سنت ہے یا عدم رفع، اسی طرح سے آمین بالجھر وغیرہ میں اسی نوع کے اختلاف ہیں۔ اس کے لیے میں نے نماز کی چار رکعتوں کے اختلاف جمع کرنے شروع کیے تھے۔ اس وقت دوسو سے زائد ہو گئے تھے، بعد میں ان پر اور اضافے بھی ہوئے۔

میں حدیث کے اساق میں اولاً تو اجمالاً اسی فہرست سے یہ بیان کیا کرتا تھا کہ ان چار میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ اعتقادیات کے درجہ میں ہو گئے اور اس کے بعد اسی رسالہ کی مدد سے ہر باب میں اس باب کے اختلافی مسائل کی تفصیل بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سے اس میں کچھ اضافے بھی ہوتا رہا۔

### (۲۴) جزء اسباب اختلاف الائمه:..... (غیر مطبوعہ)

منظہر علوم سے ایک رسالہ "المظاہر" کے نام سے مفتی جمیل احمد صاحب کی زیر ادارت نکلنا شروع ہوا تھا، اس میں اس ناکارہ کا ایک مضمون اس سلسلے کا شروع ہوا تھا کہ "ائمه اربغہ میں اتنا وسیع اختلاف کیوں ہے جب کہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اقوال و افعال ہی سے استدلال کرتے ہیں"۔

اس رسالے کے مختلف پرچوں میں تقریباً اسی (۸۰) صفحے اس مضمون کے شائع ہو چکے تھے، اس کے بعد مضمون تو اور بھی لکھا ہوا تھا مگر رسالہ "المظاہر" بند ہو گیا اور وہ شائع نہ ہو سکا۔ بیوں احباب کے خطوط اس زمانہ میں آئے کہ ہم نے یہ رسالہ تیربے مضمون کی وجہ سے شروع کیا تھا، اگر یہ مضمون کسی اور رسالہ میں شروع ہو رہا ہو تو اس کا پتہ لکھ دیں، ورنہ اس کو ایک مستقل رسالہ میں شائع کروں۔

### (۲۵) جزء اُمہمات فی الاسانید والروايات:..... (غیر مطبوعہ)

احادیث کی اسانید میں بھی اور روایات میں بھی بہت سے نام بُہم آتے ہیں، اس ناکارہ نے ان سب کے نام دوسری احادیث سے تلاش کر کے لکھنے شروع کیے تھے اور اچھا خاصاً ذخیرہ ہو گیا تھا۔

ان میں ان مہمایات کو چھوڑ دیا گیا جو تہذیب، تقریب، تعجیل وغیرہ میں آگئے ہیں۔

### (۲۶) رسالہ التقدیر:.....(غیر مطبوعہ)

ایک زمانے میں یہ مضمون رات دن دماغ میں چکر کھاتا تھا کہ آدمی کے مقدر میں جتنا ہوتا ہے اس سے زائد نہیں ملتا اور نہ اس سے کم ملتا ہے، مثلاً اگر کسی کے مقدر میں مرغیاں کھانا ہے وہ بہر حال مرغی کھائے گا۔ یا حضرت بن کر کھائے یا کما کراپنے پیسوں کی کھائے یا لیڈر بن کر کھائے اور اگر کوئی ہنزہ بھی اس کے پاس نہیں تو وہ کسی رئیس یا اعلیٰ حاکم کا خاصاً مدد بنے گا۔ اس کی بہت سی جزئیات لکھی تھیں۔

جس کے مقدر میں جیل ہے وہ چوری یا ڈاکہ مار کر جیل میں جائے گا ورنہ سیاسی لیڈر بن کر جائے گا ہی، اکابر کے قصے بھی اس میں لکھے تھے اور تعویذوں کی بدولت ہر آنے والے کے گھر کے حالات بھی پوچھ لیتا تھا کہ کیا آمد ہے؟ کیا کھاتے ہو؟ اور وہ یہ سمجھ کر تعویز میں اسکی بھی ضرورت ہے سب بتا دیتا تھا۔ بڑی اونچی خنوں ہوں والے بیماری کی وجہ سے حکیم ڈاکٹروں نے سب کچھ منع کر رکھا ہے۔ ابی ہوئی دال یا بغیر کھی کا سالن وغیرہ وغیرہ۔ بغیر نام کے بہت سے قصے اس میں جمع کیے تھے۔

جس کے مقدر میں موڑ کی سواری لکھی ہے، وہ ہزار بارہ سو کما کراپی موڑ خریدے یا توفیق الہی سے حضرت جی بن جائے یا لیڈر یا پھر ڈرائیور۔ اس رسالہ کے پورا کرنے کا مجھے بھی ہمیشہ اشتیاق رہا، مگر مقدر نہ ہوا۔ اس میں واقعات بہت عبرت انگیز لکھے ہوئے ہیں جو اس زمانہ کے اخبارات سے بھی نقل کیے تھے۔

### (۲۷) سیرت صدیق:.....(غیر مطبوعہ)

یہ رسالہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سوانح میں رسالہ "الصدیق" والوں کے اصرار پر جو غالباً مظاہر علوم ہی سے نکلتا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، مسودہ تو بہت سا ہو گیا تھا، لیکن طباعت کی نوبت شاید ایک ہی آدھ پر چہ میں آئی، پھر وہ پرچہ ہی بند ہو گیا تھا۔ اس وقت تو نہ پرچہ یاد ہے نہ غالباً کہیں ملے گا۔ جتنا یاد تھا اتنا لکھوا دیا۔

### (۲۸) رسالہ فوائد حسینی:.....(غیر مطبوعہ)

حضرت اقدس سیدی و سندی شیخ الاسلام مدینی قدس سرہ کی تشریف آوری پر بسا اوقات علمی مذکورہ بھی ہوتا رہتا تھا، اس میں جو مضا میں عالیہ بنہ کے نزدیک قابل حفظ ہوتے تھے ان کو رسالہ میں جمع کرتا رہتا تھا، بڑے اچھے مضا میں ہیں، مگر پورا ہونے کی اور طباعت کی نوبت نہیں آئی۔

ان کے علاوہ اجزاء اور رسائل تو بہت سے ناقص و کامل لکھے ہوئے ہیں مگر علی گڑھ کے قیام میں جتنے ذہن میں آئے اور یاد رہے وہ تو لکھوا دیئے، تاریخیں البتہ ان کی علی گڑھ میں چھڑا دی تھیں۔ وہ سہار پورا پسی پر احباب نے اصل کتابوں سے دیکھ کر لکھ دیں، اس لیے کہ اس ناکارہ کو تو اب آنکھوں کی معدود ری کی وجہ سے تلاش کرنا اور لکھنا مشکل ہے اور اسی وجہ سے بہت سے مسودات جو اس وقت یاد نہیں آئے رہ بھی گئے۔

اس کے بعد کاغذات میں سے عزیز عاقل سلمان اور مولا نایوس صاحب کو سرسری طور پر میرے جنگل میں سے جو علی ان کو بھی نیچے درج کر رہا ہوں۔

#### (۴۹) حواشی کلام پاک:.....(غیر مطبوعہ)

اسی تحریر میں کسی دوسری جگہ پر یہ گزر چکا ہے کہ اس ناکارہ کا معمول ۳۸ھ سے لے کر ۸۵ھ تک ماہ مبارک کی راتوں میں سونے کا نہیں تھا بغیر رمضان المبارک کے تو کلام مجید دیکھ کر پڑھنے کا وقت بہت ہی کم ملتا رہا، لیکن رمضان المبارک میں دوچار رمضانوں کے علاوہ تمام علمی کام سب بند ہو جاتے تھے اور قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے کا معمول ماہ مبارک میں بہت اہتمام سے ہو جاتا تھا۔ تراویح کے بعد سے تہجد کے وقت ترجمہ کے مذہب و فکر کے ساتھ پڑھنے کی نوبت آتی تھی اور اس میں جواشکال پیش آتا تھا، اسی وقت تفاسیر سے مراجعت کر کے میں السطور کے حواشی پر لکھ لیتا۔ مگر افسوس کہ چار پانچ سال سے ان کے پڑھنے سے بھی معدود رہوں۔

#### (۵۰) حواشی الاشاعتہ:.....(غیر مطبوعہ)

الاشاعتہ فی اشرط الاشاعتہ طلب علم کے زمانہ سے میرے پاس تھی اور میں نے اس کے ہر دو (۲) ورق کے درمیان میں ایک سادہ ورق لگوا کر جلد بندھوار کھی تھی اور ۳۵ھ تک وقتاً فوقاً اس پر حواشی کا اندر ارج اس کی مندرجہ روایات کا حوالہ اور فتح الباری وغیرہ سے جو کلام صاحب اشاعتہ نے نقل کیا اس پر فتح الباری وغیرہ کے صفحات نیز اس کا کوئی مضمون کسی دوسری جگہ ملا تو اپنے حواشی پر لکھ دیا۔

#### (۵۱) حواشی و ذیل التہذیب:.....(غیر مطبوعہ)

حافظ ابن حجر کی تہذیب، تقریب، تجیل وغیرہ پر حواشی تو سب ہی پر لکھتا رہا، لیکن تہذیب التہذیب پر کثرت سے لکھے گئے اور ذیل التہذیب کے نام سے مستقل بارہ جلدیں مجلد کر کر تہذیب کے موافق اس پر صفحے ڈال دیئے تھے کہ اس پر تہذیب کا استدراک اور ذیل لکھا جائے، مگر تہذیب پر حواشی تو لکھنے کی زیادہ نوبت آئی مگر اس ذیل پر لکھنے کی نوبت کم آئی۔

## (۵۲) حواشی اصول الشاشی، حدایہ وغیرہ:..... (غیر مطبوعہ)

اصول الشاشی اس ناکارہ نے ابتداء ۳۵ھ میں پڑھائی، جیسا کہ مدرسیں کے نقشے میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ پڑھانے کی نوبت آئی اور ہدایہ ابتداء شوال ۲۷ھ میں پڑھایا تھا اور اس کے بعد بھی تین چار بار پڑھانے کی نوبت آئی۔ ہر دفعہ میں اس پر حواشی کا اضافہ ہوتا رہا۔ اس ناکارہ نے جتنی کتابیں بھی پڑھائیں وہ اپنی ذاتی کتابوں میں پڑھایا۔ مدرسہ کی کتاب میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی اور چونکہ لکھنے کا مرض شروع ہی سے ہے، اس لیے میری ہر کتاب پر جو میں نے پڑھائی قلیل و کثیر حواشی موجود ہیں۔

## (۵۳) حواشی مسلسلات:..... (غیر مطبوعہ)

مسلسلات کی ۲۲ھ سے تو مخصوص طلبہ دورہ حدیث کے بعد اجازت لیا کرتے تھے، لیکن ۵۳ھ سے وہ دورہ کے بعد ایک مستقل باضابطہ سبق بن گیا۔ اسی وقت سے بندہ نے اس کے حواشی بھی شروع کیے جو مسلسل بالصوفیہ میں آرہی تھیں۔ نقشہ بنا کر دوبارہ سے بارہ طبع کراہا۔ حواشی کے طبع ہونے کی نوبت نہیں آئی اور اس کے رجال پر مستقل کلام علیحدہ لکھا جس کو رجال امسلسلات کے نام سے موسم کیا۔

## (۵۴) جزء مکفرات الذنب:..... (غیر مطبوعہ)

احادیث شریفہ میں جن اعمال کو کفارہ ذنب بتایا ہے ان سب کا مجموع احادیث کو اختصاراً اجمالاً جمع کیا گیا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ملا۔

## (۵۵) جزء ملقط المرقاة:..... (غیر مطبوعہ)

شوال ۳۱ھ میں جب پہلی مرتبہ مکلوۃ المصانع مستقل پڑھانی شروع کی تو ۲۹ ذی الحجه یوم الاشین سے اس رسالہ کی ابتداء کی۔ اس میں مرقاة کو دیکھتے ہوئے جو خصوصی قابل حفظ مضمون ہوتے تھے، ان کوشدرات کے طور پر جو نمبر ۹ میں گزرے نوٹ کرتا رہتا تھا۔

## (۵۶) جزء ملقط الرواۃ عن المرقاة:..... (غیر مطبوعہ)

یہ رسالہ بھی اسی زمانہ میں ذی قعده ۳۱ھ کے آخری جمع کو شروع کیا تھا، اس میں ان روأۃ کو جمع کیا تھا، جن پر ملاعلیٰ قاری نے مرقاة میں کلام کیا ہے۔ پہلے جزء کا التقاط ۲۹ ذی الحجه ۳۱ھ بروز دوشنبہ کو پورا ہوا۔

## (۵۷) معجم المسند للام احمد:..... (غیر مطبوعہ)

منداد امام احمد کی روایات ترتیب صحابہ پر ہیں جس میں حدیث کا تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، اس

رسالہ میں حروف تجھی کے اعتبار سے ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات کی فہرست لکھی گئی ہے جس میں ہر صحابی کی احادیث مع جلد و صفحہ درج کی گئی ہے، بہت مفید رسالہ ہے، جس سے احادیث کا نکالنا بہت آسان ہے۔

#### (۵۸) جزء المناط:.....(غیر مطبوعہ)

احادیث میں مناط کا مسئلہ بہت اہم ہے اور انہے اربع کے اختلافات کا زیادہ مدار مناط ہی پر ہے، جس میں تنقیح المناط اور تحقیق المناط اور تخریج المناط کے ابحاث اور فروع ذکر کیے گئے ہیں۔

#### (۵۹) رسالہ مجدد دین ملت:.....(غیر مطبوعہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری امت میں ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا۔ جس کے متعلق ہر زمانہ کے محققین نے اپنی اپنی تحقیق کے موافق اکابر امت میں جو مجدد کہے گئے ہیں ان کی فہرست لکھی ہے۔ اس رسالہ میں ان سب اکابر کے اقوال جو مختلف زمانوں میں مختلف اکابر نے لکھے ہیں، چودھویں صدی تک کے جمع کیے گئے ہیں۔

#### (۶۰) جزء صلوٰۃ الاستقاء:.....(غیر مطبوعہ)

#### (۶۱) وجزوٰ صلوٰۃ الخوف:.....(غیر مطبوعہ)

#### (۶۲) وجزوٰ صلوٰۃ الکسوف:.....(غیر مطبوعہ)

ان تینوں مسلکوں میں روایت میں بھی اختلاف اور تواریخ میں بھی اختلاف ہے کہ ان تینوں نمازوں کی ابتداء کب ہوئی اور کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کہاں کہاں پڑھی؟ ان تینوں رسالوں میں تینوں نمازوں کی روایت بھی جمع کی گئی ہیں اور اپنی طرف سے بعض روایات کو ترجیح بھی دی گئی ہے جن کا خلاصہ اور جز میں بھی آگیا ہے۔

#### (۶۳) جزء ماقال الحمد ثون فی الامام الاعظم:.....(غیر مطبوعہ)

یہ کئی جز کا رسالہ ہے جس میں حضرات امام عظیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ائمہ محمد شین کے اقوال جرح و تعدیل اور ان پر کلام نقل کیا گیا ہے۔

#### (۶۴) جزء تخریج حدیث عائشہ فی قصہ بریرہ:.....(غیر مطبوعہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے قصہ میں مختلف وارد ہوئی ہیں۔ اس رسالہ میں ان سب کو جمع کیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو یک نظر سب اختلافات معلوم ہو جائیں۔

## (۶۵) تقریر نسائی شریف:..... (غیر مطبوعہ)

یہ بہت مفصل تقریر ہے جو اس ناکارہ نے ۲ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ میں لکھنی شروع کی تھی اور ساعتوں مبارکہ آخر ساعت من یوم الجمود جمادی الثانی ۱۴۲۱ھ میں ختم ہوئی۔ اس میں وہ تقریر بھی آگئی جو میں نے حضرت قدس سرہ سے پڑھنے کے زمانے میں نقل کی تھی اور میرے والد صاحب کی دو تقریریں جو نہیں ہوں نے اپنے حضرت گنگوہی قدس سرہ سے نقل کی تھیں، ان کے علاوہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قال ابو عبد الرحمن کی شرح مفصل آگئی ہے۔ نیز اس کے لیے زہر الریبی اور سندھی علی النسائی بالاستیعاب دیکھی اور مدرسہ میں احادیث کی کتابوں کے متعلق ہر کتاب کا ایک نسخہ برائے مدرس مخصوص ہوتا تھا، اسی میں حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نے پڑھایا اور ان ہی میں حضرت سہار پوری اور دیگر مدرسین نے پڑھایا۔ نسائی شریف کے اس نسخہ پر قلمی حواشی بھی بہت ہیں، ان میں سے ماتعلق بالکتاب کو بھی یہ نہ تھے اپنی اس تقریر میں جمع کر دیا ہے اور دیگر اکابر کی تقریریں جو مجھے ملیں ان سے بھی ماتعلق بالکتاب کو اس تقریر میں جمع کیا گیا ہے۔ اس تقریر کو اکثر مدرسین نے نسائی شریف پڑھانے کے زمانے میں نقل بھی کیا ہے۔

## (۶۶) جزء امراء المدینہ:..... (غیر مطبوعہ)

اکثر روایات میں امیر مدینہ کی عبارت سے واقعات نقل کیے گئے ہیں: قال امیر المدینہ کذا۔ فعل امیر المدینہ کذا۔ اس رسالہ میں امراء مدینہ کے ناموں کی تعین اور ان کے امارت کے زمانہ کی ابتداء و انتہا جمع کی گئی ہے تاکہ واقعات میں امیر کی تعین ہو سکے۔

## (۶۷) جزء طرق المدینہ:..... (غیر مطبوعہ)

مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آنے کے لیے چار راستے مشہور و معروف ہیں، سلطانی، فرعی، غازی اور شرقی۔ اس رسالہ میں ان چاروں راستوں کی تفصیل اور ان کے منازل ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے مختصر حالات بھی افسوس کہ رسالہ جنتۃ الوداع کی تایف کے وقت یہ رسالہ مل نہ کا بعد میں ملا ورنہ اس سے بہت مدد ملتی۔

## (۶۸) جزء ما یشكل علی الجاریین:..... (غیر مطبوعہ)

انہم جرح و تعدیل کے کلام میں بعض رجال کے متعلق جاریین کے کلام پر کچھ اشکالات پیش آتے ہیں اس رسالے میں ان اشکالات کو جمع کیا ہے۔

## (۶۹) جزء الجہاد:..... (غیر مطبوعہ)

جہاد کی تعریف، اس کے شرائط، امارت اور خلیفہ شرعی کی شرائط بیان کیے گئے ہیں۔

## (۲۰) جزءِ انکھتہ:.....(غیر مطبوعہ)

امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کے نکاحوں کی تفصیل اور ان کے احوال اور ان عورتوں کا ذکر جن کے نکاح میں اختلاف ہے اور جن عورتوں سے خطبہ ہوا مگر نکاح نہیں ہوا ان کی تفاصیل اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر ہے۔

## (۲۱) مشائخ تصور:.....(غیر مطبوعہ)

اکابر صوفیہ کے مختصر حالات۔ یہ رسالہ مشائخ چشتیہ کے علاوہ ہے۔ وہ تو مشائخ چشت کے ساتھ مخصوص تھا اور اس میں معروف صوفیاء کے حالات درج ہیں۔

## (۲۲) اولیات القيامتہ:.....(غیر مطبوعہ)

اس رسالہ میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اول ما یسئل یا اول ما یفعل) فرمایا جیسے ”اول ما یحساب العبد یوم القيامۃ الصلوۃ“ اور ”اول ما یقضی فی الدماء - اول الناس یقضی علیہ یوم القيامۃ رجل استشهد الحدیث“، وغیرہ وغیرہ۔

## (۲۳) مختصات المنشکوۃ:.....(غیر مطبوعہ)

مرقات میں یاد و سری شروح میں جو مضمایں مشکوۃ شریف کی کتاب کے حل سے تعلق رکھتے تھے وہ اس رسالہ میں جمع کیے گئے ہیں، یعنی جو مضمایں احادیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں نہیں لیے گئے، بلکہ خاص وہ مضمایں جو نفس کتاب سے متعلق ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔

## (۲۴) رسالہ رو مودودیت:

۲۷ھ میں مودودیت کی کتابیں بہت ہی کثرت سے پڑھنے کی نبوت آئی۔ تقریباً تین رسائل اور کتب مودودی صاحب اور ان کی جماعت کی شب و روز جاگ کر پڑھیں اور یادداشتیں ایک رسالہ کی صورت میں جمع کی تھیں اور یہی رسالہ حضرت مدینی قدس رہ کی اکثر تالیفات کا بھی مأخذ ہے اور قاری سعید صاحب کی تالیف ”کشف حقیقت“ کا بھی مأخذ ہے اور اس ناکارہ نے تقریباً پچاس بڑی تقطیع کے صفحات پر خوب بھی ایک رسالہ لکھا تھا، باوجود اکابر اور احباب کے شدید اصرار کے طباعت کی نوبت نہیں آئی۔ یہ رسالہ میرے مسودات میں موجود ہے۔ بھائی اکرام کے ہاتھ کا نقل کیا ہوا ہے۔

## (۲۵) مشرقی کا اسلام:.....(غیر مطبوعہ)

عنایت اللہ مشرقی کا تذکرہ اور اس کی کتابوں کو بھی ایک زمانے میں بہت کثرت سے دیکھا اور

اس کی کفریات کو ایک رسالہ میں جمع کیا۔ یہی رسالہ قاری سعید صاحب مفتی مظاہر علوم کے رسالہ مشرقی کا اسلام مطبوعہ کاماً خذ ہے۔

#### (۶۷) میری محسن کتابیں:

مولانا الحاج ابو الحسن علی ندوی نے ایک زمانہ میں اخبارات میں اس عنوان پر مضمایں لکھوانے کا تقاضا کیا تھا اور اس ناکارہ پر تحریر اور تقریر آئئی و فتحہ تقاضا کیا، اس پر اس ناکارہ نے زبانی تو یوں کہا تھا کہ ”میری محسن کتابیں تو ابا جان کا جوت تھا“، لیکن ان کے اصرار پر ایک رسالہ اس سلسلے میں بھی تصنیف کرنا شروع کیا تھا، جس میں ہر دو رکی اپنی پسندیدہ کتابیں لکھی تھیں، مضمون ناقص رہ گیا پورا نہ ہو سکا۔

#### (۶۸) نظام مظاہر علوم:

مولانا شبیر علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب مظاہر علوم کے ابتداء سر پرست بنے تو انہوں نے مدرسہ کے سابقہ نظام کے متعلق تحریر اور تقریر ابہت ہی معلومات دریافت کیں، اس کے جواب میں اس ناکارہ نے یہ بہت ہی اہم رسالہ لکھا تھا، جس میں میرے کئی ماہ تسع اور تلاش میں بھی خرچ ہوئے تھے۔ بہت بڑی تقطیع کے تقریباً سو صفحے سے زائد تھے لیکن افسوس کہ اس سال مولانا مرحوم اول انجاز اور وہیں سے پاکستان تشریف لے گئے۔

اس رسالہ کے متعلق پاکستان پہنچنے کے بعد میں نے استفسار کیا تو مولانا مرحوم نے لکھا ”مجھے یاد نہیں وہیں متروکات میں رہ گیا ہو گا“۔ مولانا ظہور الحسن صاحب مقیم خانقاہ اشرفیہ اور مولانا عبدالواہب صاحب مرحوم نائب مہتمم مظاہر علوم سے بھی دریافت کیا کہ شاید ان کے پاس ہو، نہ ملا۔ اس کی نقل میرے کاغذات میں بھی نہایت باریک میرے قلم کی لکھی ہوئی ہے، مگر وہ نبی کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ مظاہر علوم کی نہایت مستند بہترین ابتدائی تاریخ تھی جس کا مجھ بھی بے حد قلت ہے۔

مولانا شبیر علی صاحب ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ میں سر پرست مقرر ہوئے اور شوال ۱۴۲۹ھ میں حج کو گئے اور وہاں سے مستقل پاکستان چلے گئے اور شب سہ شنبہ ۲۸ ربیع المرجب ۱۴۸۸ھ کو انتقال ہو گیا رحمہ اللہ درجۃ واسعۃ۔

#### (۶۹) جامع الروایات والا جزاء:.... (غیر مطبوعہ)

اس ناکارہ نے اپنی ابتداء زندگی میں جس کو میں ۱۴۲۵ھ کے بعد سے شروع سمجھتا ہوں اور ۱۴۸۸ھ پر ختم سمجھتا ہوں۔ کتب احادیث کے اطراف لکھنے شروع کیے تھے جن کی روایات کو جامع الروایات کے نام سے جمع کرنا شروع کیا تھا اور ان کی تفاصیل کو اجزاء کے نام سے لکھنا شروع کیا

تحا اور اس میں صحابہ، موطین، طحاوی، حاکم، بیہقی وغیرہ کے اطراف لکھنا شروع کیے تھے، بہت بڑا ذخیرہ اس کا ہو چکا تھا جس کو مشکلہ کی ترتیب سے شروع کیا تھا، مشکلہ تو پوری ہو گئی تھی، خیال تھا کہ جملہ حدیث کی کتابوں کو بھی نقل کروں، لیکن پھر زندگی ختم ہو گئی اس لیے اس کی تایف ناقص رہ گئی۔ کاش کہ کوئی پوری کرنے والا ہوتا!

#### (۷۹) مجمع رجال تذكرة الحفاظ للذھبی:.....(غیر مطبوعہ)

تذكرة الحفاظ چار جلدیں میں طبع ہوئی ہے اور ہر جلد کی فہرست الگ ہے اور اس میں بھی مشہور انتب اور کنیت سے رواۃ کو ذکر کیا گیا ہے، اس ناکارہ نے اس رسالے میں چاروں جلدیں کی ایک فہرست مرتب کی تھی جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے ناموں کی فہرست لکھی تھی اور ہر نام کو اس کے نام کے اعتبار سے اسی کے حرف میں لکھا تھا۔

#### (۸۰) تبویت تاویل مختلف الاحادیث لابن قشیہ:.....(غیر مطبوعہ)

ابن قشیہ کی ”تاویل حدیث“ مشہور کتاب ہے مگر موبہب نہیں ہے کیف ماتفاق احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ اس ناکارہ نے ابواب فقہیہ کی ترتیب پر اس کی تبویب کی تھی جو ۵ جمادی الاول ۳۲۵ھ جمعہ میں لکھی گئی۔

#### (۸۱) تبویب مشکل الآثار:.....(غیر مطبوعہ)

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشکل الآثار چار جلدیں میں ہے اور اس کی فہرست بھی مسلسل مضمایں کے اعتبار سے غیر مرتب ہے۔ اس ناکارہ نے ان چار جلدیں کی فہرست کو ابواب فقہیہ کے اعتبار سے مرتب کیا تھا۔

#### (۸۲) مجمع الصحابة التي اخرج عنهم، ابو داؤ و الطیاسی فی مندہ:.....(غیر مطبوعہ)

امام ابو داؤ و طیاسی نے بھی مند احمد کی طرح سے صحابہ کی روایات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب کے اعتبار سے نقل کی تھیں جس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا تھا جو مراتب صحابہ سے واقف ہو۔ اس ناکارہ نے ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات کی فہرست حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کی۔

#### (۸۳) تبویب احکام القرآن للجصاص:

امام ابو بکر جصاص رازی قدس سرہ کی ”احکام القرآن“ کی فہرست قرآن پاک کی ترتیب کے موافق ہے، اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، اس لیے اس کے مضمایں کو علی

ترتیب ابواب الفقهیہ مرتب کیا گیا ہے۔

یہاں تک ختم کرنے کے بعد یہ باب تالیف کا ختم کرتا ہوں۔ اب تک ان ہی رسائل و اجزاء کا پتہ چلا ہے، میرے اندازے میں پچس تیس ابھی اور بھی ہیں، لیکن اپنی فضیلت کے اظہار کے واسطے اتنے بھی کافی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ریا کاری کو معاف فرمائے، آج ۱۵ اشعبان کو یہ نمبر ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہیں کہ آیندہ نمبر اور ابواب آج کے بعد لکھے جائیں گے، یہ تو شروع میں لکھوا چکا ہوں کہ علی گڑھ کے قیام میں آٹھ بابوں کا اجمالی خاکہ اور بہت سے مضامین تفصیل سے پورے ہو گئے تھے۔ چنانچہ باب سوم و چہارم بھی وہیں مکمل ہو چکے تھے اور بقیہ نمبروں کو بھی کچھ نہ کچھ لکھا جا چکا تھا، سہولت اور آپ بیتی نمبرا کی رعایت سے بقیہ نمبروں کو بھی مختصر کرنے کا خیال ہے۔



# آپ پریس

یا

# پالٹا پریس

## جس میں

عارف کبیر، شیخ الحدیث، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر  
مدنی قدس سرہ کی بعض مخصوص عاداتِ مبارکہ، حوادث  
وشادیوں میں آپ کا طرزِ عمل نیز اپنے بعض اکابر  
کے حوادثِ انتقال کا تفصیلی تذکرہ اور بعض عجائب  
قدرت کے مشاہدات نہایت مؤثر انداز میں  
مذکور ہیں۔

ناشر

مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی نمبر ۲ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ط

یہ رسالہ آپ بیتی نمبر ۳ یا ۴ یا ۵ میں نمبر ۲ سلسلہ کا دوسرا رسالہ ہے  
اس سے پہلے رسالہ کی تمہید میں لکھا جا چکا ہے کہ اس ناکارہ  
نے اپنے قیام علی گڑھ کے دوران آٹھ ابواب پر مشتمل مضامین  
کا ایک اجمانی خاکہ لکھوا یا تھا، یہاں آکر جب ان کو صاف  
نقل کرایا تو وہ ایک طویل مضمون ہو گیا۔ جس کی وجہ سے  
اس کو چار نمبروں پر تقسیم کرنا پڑا، ہر نمبر میں دو باب ہیں۔

باب اول: ”اعمال کا مدار نیتوں پر ہے“

باب ثانی: ”درس و تدریس اور تالیفات“

رسالہ نمبر ۱ میں گزر چکے ہیں۔ زیرِ نظر رسالہ نمبر ۲ میں بھی دو باب ہیں۔

باب سوم: ”میری چند بربادی عادتیں“

باب چہارم: ”حوادث اور شادیاں اور ان میں میرا اطرافِ عمل“

بقیہ ابواب انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد شائع ہو جائیں گے۔

فقط والسلام

محمد زکریا کاندھلوی

۵ صفر ۱۳۹۱ھ

## باب سوم

اس سیہ کار کی چند بُری عادتیں

میں ہی کرتا ہوں گلہ اپنا، نہ سن غیروں کی بات  
وہ یہی آخر کہیں گے اور کیا کہنے کو ہے

(۱).....مہمان بالخصوص خصوصی اور اہم یا محض اجنبی آنے والوں سے یہ سوال کہ کیا نظام سفر ہے یا کب تک قیام ہے؟ ایک مستقل معمول ۳۵ھ سے ہے اور یہ چیز میں نے میرٹھ کے اکابر سے سکھی تھی، عالی جناب الحاج فتح الدین صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی الحاج وجیہ الدین صاحب کے مخلص دوست میرے حضرت مرشدی نور اللہ مرقدہ کے بڑے مخلص خادم الحاج رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جن کے متعلق محسن و خوبیوں کا بہت بڑا ذفتر چاہیے، مختصر یہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد جب حضرت اقدس مولانا الحاج عبدال قادر صاحب نور اللہ مرقدہ چانگام تشریف لے گئے اور ان کے مزار پر پہنچ تو واپسی میں مجھ سے بلا واسط خصوصی تعلقات رہے، مگر مزار پر پہنچ کر اس قدر انوار و برکات دیکھے کہ میں حیرت میں رہ گیا۔ میرے اکابر اربعہ حضرت اقدس سہار نپوری، حضرت اقدس تھانوی، میرے والد صاحب، میرے پیچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ہم ہر ایک سے اس قدر محباً ہے اور محبوبانہ تعلق تھا کہ کہیں موقع ہوا تو وہ چار قصے ان کی اہم خصوصیات کے بھی کہیں آجائیں گے۔ اس وقت تو میں یہ لکھوار ہاتھا کہ ۳۵ھ سے میں نے اپنے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول دیکھا کہ جب بھی دہلی، خورجہ، امر وہہ، اجر اڑہ بلند شہر وغیرہ کسی بھی ایسی جگہ جانا ہوتا کہ جہاں میرٹھ راستے میں پڑے تو ناممکن تھا کہ میرٹھ آتے یا جاتے اترے بغیر حضرت کا سفر پورا ہو جائے اور یہ خادم بھی اکثر اسفار میں حضرت کا ہم رکاب رہتا تھا۔ ان میں سے حضرت کی تشریف بری کی اگر پہلے سے اطلاع ہوتی تو یہ سب چھاؤنی یا شہر کے اٹیشن پر ملتے اور بسا اوقات حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے غایت تعلق کی وجہ سے بغیر اطلاع دے دیئے بھی جانے کی نوبت آ جاتی۔ خان بہادر الحاج فتح الدین صاحب تاجر اسلامی ماں ک الہی بخش اینڈ کو چھاؤنی میرٹھ ان سب کے بڑے تھے، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سید ہے ان کی کوئی پر تشریف لے جاتے اور یہ سب خبر سنتے ہی دوڑے ہوئے آتے اور مصافحہ کے ساتھ ہر ایک کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ حضرت کیا نظام سفر ہے؟ مجھے اس وقت بہت غصہ آتا، بڑے مہمل لوگ ہیں، مصافحہ نہیں، خیریت نہیں، پہلا سوال کہ کب جاؤ گے؟ مگر ان دوستوں کا سوا بڑے ہی اخلاص پرمی تھا،

جیسا کہ اس کے انگلے نمبر پر آرہا ہے۔ میں نے اس کو اپنی بری عادت میں شمار کیا، اس لیے کہ میرا سوال تو اخلاص پر منی نہیں ہوتا، خود غرضی پر منی ہوتا ہے، مگر ان کا واقعی اخلاص پر جیسا آگے آرہا ہے۔

### مہمان سے سوال کہ قیام کب تک ہے اس کا مأخذ:

اس کے بعد میں نے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تحانوی قدس سرہ کے معمولات میں بھی یہ چیز پڑھی اور سنی ہے کہ حضرت خاص مہمان سے نظام سفر معلوم کر لیتے۔ اس میں بڑی مصلحت معلوم ہوئی کہ ہر آنے والے کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کب تک قیام ہے تو اپنی سہولت اور اس کی سہولت کے اعتبار سے بالخصوص مشغول لوگوں کے لیے وقت نکالنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ اس کے خلاف میں بسا اوقات دقتیں بھی اٹھائیں کہ لوگوں نے عین سبق کے وقت یا کسی ضروری کام کے درمیان میں کہا کہ اسی وقت جانا ہے اور ایک ضروری کام سے آئے تھے، اس وقت اپنے اوپر بہت غصہ آتا ہے کہ آتے ہی کیوں نہ پوچھ لیا۔ اگرچہ اس میں بعض دفعہ بعض لوگوں کی جہالت سے نامناسب چیزیں پیدا ہوئیں۔ ایک صاحب کا قریب دو (۲) برس ہوئے ایک خط آیا، اس قسم کے خطوط تو مختصر مفصل آتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ عجیب تھا اس نے لکھا کہ ”میں ایک ہفتہ قیام کے ارادے سے تیرے پاس آیا تھا، تو نے اجازت نہ دی، روتا ہوا واپس چلا آیا، جب سے طبیعت بے چین ہے۔“ میں نے لکھا کہ ”مجھے تو بالکل یاد نہیں آیا کیوں اجازت نہ دی، تم ہی لکھو تو یاد آئے کہ میں نے کس بات پر تم کو جانے کو کہ دیا؟“ اس کا جواب اس شخص نے لکھا کہ میرا ارادہ ایک ہفتہ قیام کا تھا، تو نے جاتے ہی، مصافحہ پر پوچھ لیا ”کب تک ختم ہو گے؟“ میرے من میں جلدی سے دو (۲) دن نکل گئے، پھر دو دن بعد روتا ہوا چلا آیا، میری ہمت نہ پڑی۔ میں نے اس کوڈاٹ کا خط لکھا کہ ”قصورا پنا الزام مجھے دیتے ہو، میں نے کب جانے کو کہا تھا؟“

اس نوع کے کئی لطیفے اور بھی پیش آئے، لیکن اس قسم کے لطائف کے مقابلے میں ہوتیں زیادہ ہیں۔ (۲)..... یہ نمبر حقیقت میں نمبر اکا تکملہ ہی ہے اور یہ بھی میں نے میرٹھ کے اکابر ثلاثہ ہی سے سیکھا ہے جس کا اوپر ذکر آیا اور یہی وہ بات تھی جس کو میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ ان کا یہ فعل اخلاص پر منی تھا۔ حضرت اقدس کا عام معمول یہ تھا کہ شام کی گاڑی سے پہنچتے تورات کے قیام کے بعد صبح کی گاڑی سے آگے روانہ ہو جاتے، چاہے سہاپور کی طرف یا دوسرا طرف جدھر جانا ہو۔ یہ احباب جب حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے نظام پوچھ لیتے تو اسی مجلس میں ذرا الگ ہو کر تینوں کہتے ”شام کا کھانا تمہارے یہاں، صبح کا ناشتہ فلاں کے ہاں اور روانگی کے وقت ناشتہ دن میں تو شہ فلام کے یہاں۔ اس میں ذرا بھی ایک منٹ کو بھی تاخیر نہ ہو۔“ فوراً تینوں کا مرحلہ طے ہو جاتا، بھی بھی آپس میں تغیر بھی ہو جاتا، اس وقت مجھے وقت ہے صبح کا ناشتہ میرا، دوسرا کہتا بہت اچھا، البتہ ریل کا ناشتہ

اس وقت میں ہوتا جب سہانپور کی طرف آمد ہوتی۔ اگر دوسری طرف جانا ہوتا تو راستے کا ناشتہ نہ ہوتا، مگر تیرے نمبر کی قضاۓ اس وقت متعین ہو جاتی کہ اگلی آمد میں پہلا وقت ان کا۔

مجھے کبھی یاد نہیں کہ ان اکابر میں سے کبھی کسی نے یوں کہا ہو کہ ”حضرت! ایک گاڑی مُوخر کر دیں“۔ یہ ادا مجھے ان لوگوں کی بہت پسند آئی۔ اللہ بہت ہی جزائے خیر دے اور اس حرکت نے مجھے بہت ہی بدنام کیا۔ میرے اکثر اکابر کے کئی کئی واقعات بہت ہی کثرت سے پیش آئے، صرف نمونہ کے واسطے تین بزرگوں کے تین واقعے لکھواتا ہوں۔

(۳) (الف) .... سب سے پہلے مولانا الحاج ابو الحسن علی میاں صاحبزادہ مجدد ہم جب ان کی آمد ہمارے نواح میں شروع ہوئی، جس کو یہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ پچا جان الحاج مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح میں بار بار لکھ چکے ہیں، رائے پور کی حاضری کے لیے سہار پور تو جتناشن تھا اور مولانا دام مجدد ہم اپے تعلق اور محبت کی وجہ سے ایک دو روز ٹھہر کر رائے پور جایا کرتے۔ چند مرتبہ کی آمد و رفت میں علی میاں نے حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا، جس کا تذکرہ علی میاں نے تو مجھ سے نہیں حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے خود علی میاں کا خط اور اپنا جواب مجھے سنایا۔ علی میاں نے حضرت اقدس کی خدمت میں یہ خط لکھا کہ ”جب سہار پور جانے پر زکریا سے ملاقات ہوتی ہے تو اس قدر محبت اور شفقت سے ملتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی اشتیاق و سرست ہو رہی ہے۔ لیکن جب بھی ذرا بر سبیل تذکرہ ہی جانے کا ذکر آیا ایسی جلدی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے جس سے معلوم ہو ہے کہ بہت ہی بوجھ ہو رہا تھا“۔ علی میاں نے حضرت کو لکھا کہ ”کئی مرتبہ صرف خیال کے درجے میں آنے کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ خیال یہ ہے کہ اس گاڑی سے چلا جاؤں اور انہوں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، تو اس کے مصافحے کی پیش قدمی پر ارادہ کر لینا پڑا“۔ یہ بھی لکھا کہ ”کئی مرتبہ ریل پر آنے کے بعد شدید تقاضا و اپسی کا پیدا ہوا، مگر اس خیال سے واپس نہ گیا کہ مصافحہ کر کے واپس آگیا ہوں اب کس منہ سے واپس جاؤں؟“۔ حضرت اقدس نے علی میاں کو جواب لکھا کہ ”آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں، اس کے شکار آپ تنہا ہی نہیں ہیں، ہم سب ہیں“۔

اس سے کار کے اس نوع کے واقعات میرے دو (۱) مخدوم (۲) آقا حضرت رائے پوری، حضرت مدینی نور اللہ مرقدہ ہما کے ساتھ بار بار پیش آئے، جیسا کہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علی میاں کو لکھا کہ ”ہم سب اس کے شکار ہیں“۔ بالکل صحیح تحریر فرمایا۔

(۳) (ب) .... حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مدینی کے ساتھ بار بار اس قسم کے واقعات مجھ گتاخ بے ادب کے پیش آئے، حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کا

معمول ۲۶ھ سے حضرت نور اللہ مرقدہ کی طویل یماری شوال ۲۷ھ جو منصوری پر ہوئی تھی، ہر ماہ تین دن کے لیے سہارنپور تشریف لانے کا رہا اور جب یہ طویل علاالت شروع ہو گئی تو حضرت قدس سرہ کا یہ پیام پہنچا کہ ”صحبت میں کوئی مہینہ تیرے پاس آنے میں نہیں چھوڑا، اب ملاقات تیرے اختیار کی چیز ہے“۔ اسی ارشاد نے اس سے کار کو مجبور کیا کہ جس زمانے میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام بہت میں شاہ مسعود کی کانگرو والی کوٹھی پر رہا میں شام کو ہمیشہ حدیث پاک کا سبق پڑھانے کے بعد بہت جاتا تھا، مغرب تک کوٹھی پر پہنچتا، شب وہاں گزار کر صبح کی نماز کے بعد سہارنپور آ جاتا۔ جس زمانے میں حضرت اقدس کی ماہانہ تشریف آوری کا دور تھا تیرے دن رات کو بہت سے کار آ جاتی اور علی الصباح چائے کے بعد حضرت تشریف لے جاتے تھے۔

(۱)..... ایک مرتبہ حبِ معمول حضرت اقدس تشریف لے جا رہے تھے سامان بند چکا تھا، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ مصافحوں سے فراغ پر تشریف بری کے لیے انہرے تھے، میرے پچھے طلحہ نے جب کہ اس کی عمر غالباً تین سے چار سال کے درمیان ہو گی، حضرت قدس سرہ کے کرتہ کاپلہ پکڑ کر اپنے بچپن کی وجہ سے کہا ”حضرت آج نہیں“۔ ”حضرت فوراً چبوترے پر بیٹھ گئے“، بھائی الطاف سے کہا ”سامان کھول دو، آج نہیں جانا ہے“۔ میں نے ہر چند اصرار و تقاضا کیا کہ ”حضرت یہ نا سمجھ بچہ ہے، اس کو خبر نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی الطاف! سامان ہرگز نہیں کھلے گا“، میرا تو بار بار یہ اصرار اور حضرت کا بار بار یہ ارشاد کہ ”سامان کھول دو میں نہیں جاؤں گا“۔ حضرت نے فرمایا کہ ”اس گھر میں آج تک کسی چھوٹے بڑے کی زبان سے ”آج نہیں“ کا الفاظ میں نے نہیں، آج پہلی دفعہ کان میں پڑ رہا ہے“۔

میرے دونوں حضرات رائے پوری اور مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کے واقعات میرے میسوں نکلیں گے۔

### سہارنپور کا تبلیغی اجتماع:

(۲)..... حضرت رائے پوری قدس سرہ کے ساتھ اس وقت ایک اور اہم واقعہ یاد آ گیا، جس کو عزیز محمد ثانی نے سوانح یوسفی صفحہ ۳۲۲ پر مختصر طور پر لکھا ہے۔ شوال ۲۷ھ میں سہارنپور کا تبلیغی اجتماع ہوا تھا۔ حضرت قدس سرہ بھی پاکستان سے دہلی ہوتے ہوئے ہوئے شوال ۲۶ھ کو سہارنپور میں پہنچے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ حضرات شب کے اجتماع کی تقریروں سے فراغ پر سب ریل پر پہنچ گئے، میل سے حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے مصافحہ کے ساتھ پوچھا ”حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نظام کیا ہے؟ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”کل پرسوں دو (۲) دن بعد سہارنپور طے کر کے آیا ہوں، تیرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو“۔ میں نے عرض کیا ”کل کے

قیام کی بھی اجازت نہیں، صبح کی اذان کے بعد اپنی جماعت کریں چاۓ تیار ملے گی، مدرسہ کی جماعت سے پہلے تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا ”تکان ہو رہی ہے ایک دن قیام کی تو ضرور اجازت دے دیں“۔ میں نے عرض کیا ”صبح کی اذان کے بعد آدھے گھنٹے کی بھی اجازت نہیں“، تبلیغی احباب کو جتنا غصہ آنا چاہیے تھا وہ قرین قیاس تھا، مجھے الاطاف بھائی کا غصہ ہمیشہ یاد رہے گا، بہت ہی غصہ آیا کہ دنیا تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے تھہر نے کی خوشامد کرے اور یہاں حضرت خود فرمادیں اور یہ یوں کہئے کہ نہیں۔ سب کی مخالفتوں کے باوجود صبح کی اذان کے بعد میں نے روانہ کر دیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا ”جون کا مہینہ، گرمی کی شدت، ہمارے یہاں راحت کی کوئی جگہ نہیں اور یہ تبلیغ دالے کل رات کو جلے میں تھوڑی دری کی خواہش و تمنا اور مجھے ہی سے درخواست کرائیں گے، پرسوں صبح کو ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا، ظہر کے وقت میں اور عزیز یوسف رائے پور حاضر ہوں گے، دو دن قیام کریں گے“، کار میں بیٹھنے کے بعد شاہ مسعود نے بہت قیام کی درخواست کی، حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ ”جب شیخ نے سہار پور نہ تھہر نے دیا، تو اب کہیں نہیں تھہرتا“۔ طلوع آفتاب تک رائے پور پہنچے۔ رائے پور کے پہنچنے کے بعد دو دن تک ہر آنے والے سے منتار ہا اور خوب سناؤ کہ حضرت قدس سرہ نے اتنی لا تعداد لا تحصی دعا کیں دی اور ہر آنے والے سے رائے پور کا ہو یاد یہاں کا فرماتے کہ ”میرا تو دو دن قیام کا ارادہ تھا مگر شیخ نے نہ مانا، محبت اس کا نام ہے، محبت کرنا بھی کوئی ان ہی لوگوں سے سکھے، کیا عقل میں آئے کہ حضرت شیخ کا دل نہ چاہتا ہوتا، مگر میری راحت کو اپنی خواہش پر غالب کر کے دکھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند درجے عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی ہی راحت دے، اللہ یوں کرے۔ اللہ یوں کرے“۔ دو دن تک وہ دعا کیں ملیں کہ اب تک بھی جب کبھی اپنی زبردستی کا خیال آ جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں اور عزیز مولا نا یوسف مرحوم جلسہ کے اختتام پر متغل کی دو پہر کو رائے پور حاضر ہوئے۔

حضرت مدینی کا بندہ کے ساتھ تعلق اور اثناء اسفار میں تشریف آوری کا اہتمام:

(ج) ..... پہلے دو قصے بلکہ تین، ایک علی میاں کا، دوسرا حضرت قدس سرہ پوری نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرابتہ کے لکھا چکا ہوں۔ میرے حضرت سیدی و سندی، ماوائی و طجائی، شیخ الاسلام حضرت مدینی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ اعلیٰ اللہ مرابتہ کو جو شفقت و محبت اس سے کار پر رہی اس کے دیکھنے والے سینکڑوں نہیں ابھی تک ہزاروں آنکھیں موجود ہیں، حضرت قدس سرہ کا ہمیشہ مستقل اور مستمر معمول یہ رہا کہ دیوبند سے رڑکی لائن پر جاتے ہوئے سہار پور کے قصبات میں کسی جگہ چاتے ہوئے اگر ایک گھنٹہ کا وقت بھی ملتا تھا تو واپسی کا تانگے لے کر ضرور کرم فرماتے تھے، ہر چند کہ میں بار بار تکلیف کے خیال سے گستاخانہ لبجھ میں نکیر بھی کرتا۔ سینکڑوں واقعات اس کے گزرے،

جو اصل واقعہ اس جگہ لکھوانا ہے وہ تو آگے آرہا ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سا فقرہ لکھوا تا ہوں۔

(۱) ایک مرتبہ دسمبر کا زمانہ، سردی زور پر، بارش اس سے بھی زیادہ، ساڑھے گیارہ بجے رات کے میں اپنے مکان کے دروازے پر کتاب دیکھ رہا تھا، دروازے ہی میں سویا کرتا تھا۔ زنجیر زور سے کھٹکی، پوچھا ”کون ہے؟“ ارشاد ہوا ”حسین احمد“۔ ننگے پاؤں انھ کر کوڑھو لے اور تعجب سے پوچھا ”حضرت اس وقت بارش میں؟“ ارشاد ہوا کہ لکھنوجانا ہے، گلکتہ میں دو گھنٹے لیٹ ہے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ تم جاگ رہے ہو گے، اس لیے خیال ہوا کہ تمہارے درشن کر آؤں۔ میں نے نہایت گستاخی سے کہا، ان مبارک ہونٹوں سے یہ لفظ بڑا ثقلی ہے، میں نے چائے کی درخواست کی، فرمایا ریل پر جا کر پیوں گا، چائے پی کر بارش میں جانا پڑے گا، تاگد بھی باہر بھیگتا رہا اور حضرت ایک گھنٹہ تشریف فرمائ کر کچھ خصوصی ارشادات فرمائ کر تشریف لے گئے۔

یہ بات تو بیچ میں آگئی تھی، سینکڑوں واقعات اس نوع کے پیش آئے، ان کے لیے ایک ”الف لیلہ ولیلہ“ چاہیے۔

### بندہ کے ساتھ حضرت مدینی کے ہمبر کابی میں اطراف سہارنپور کے اسفار:

اس وقت جو قصہ مقصود تھا، وہ بھی ایک عجیب ہے۔ دسمبر کی رات، حضرت قدس سرہ آئھہ ایک گاؤں نانوتے کے قریب تشریف لے گئے تھے، ویسے تو اس زمانے کا اکثر یہ معمول تھا کہ حضرت ضلع سہارنپور کے کسی قصبے یا گاؤں میں جاتے تو شیش سے کار میں سیدھے میرے گھر تشریف لاتے، مجھے کار میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے جاتے تھے، تین چار گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، واپسی میں مجھے مکان پر اتار کر اسی کار میں اشیش تشریف لے جاتے اور وہاں سے ریل میں، اکثر دیوبند سے سہارنپور کا سفر آمد و رفت کار ریل میں ہوتا اور سہارنپور کے اشیش سے اشیش پرو واپسی تک کار میں آئھہ، نانوتے، بیہت، رائے پور، گنگوہ کے سفر میں اکثر معیت رہی۔ ریڑھی تا چورہ کے سالانہ جلسے کا تو خاص مستمرہ دستور تھا کہ حضرت قدس سرہ شام کو چار بجے کی گاڑی سے دیوبند سے تشریف لاتے، چائے نوش فرماتے، عصر کی نماز مدرسہ کی مسجد میں پڑھ کر کار میں ریڑھی جاتے، مغرب وہاں پڑھ کر ایک گھنٹہ آرام فرماتے، اٹھنے کے بعد کھانا نوش فرماتے۔ یہ ناکارہ دستر خوان پر تو شریک ہوتا لیکن کھانے میں شریک نہ ہوتا، اس لیے کہ رات کو کھانے کا معمول نہیں تھا۔ عشاء کے بعد مدرسہ کے جلسہ میں پورے بارہ بجے تک وعظ فرماتے، پورے بارہ بجے وعظ ختم کر کے تقریباً آدھا گھنٹہ مصائف میں لگتا اور کار میں مجھے بٹھا کر میرے دروازے پر چھوڑ کر اسی کار میں شیش تشریف لے جاتے اور ڈرڑھ بجے کی گاڑی سے دیوبند اور علی الصباح مدرسہ کا سبق۔

### حضرت کے سفر آنھہ کا واقع سردی اور بارش:

(۲)..... اصل واقعہ دسمبر والا جو لکھنا شروع کیا تھا وہ موئخر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آنھہ کا میں تشریف لے گئے۔ معلوم نہیں کہ یہاں کا رہ ساتھ کیوں نہیں تھا؟ غالباً مدرسہ کی کوئی ضرورت تھی۔ دوسرے دن مغرب کے بعد حضرت قدس سرہ آنھہ سے واپس تشریف لائے، اس قدر زوردار طوفانی بارش کر کرہ سے باہر پاؤں رکھنا مشکل، اتنی ہی زوردار سردی اور حضرت قدس سرہ کو شدت سے بخار، آتے ہی فرمایا کہ مغرب نہیں پڑھی ہے، راستے میں دیر ہوتی چلی گئی، کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملی، مشکل وغیرہ سب بھیگ رہا ہے، میں نے جلدی سے لگنی پیش کی، کپڑے اتارے، لگنی اور چادر میں حضرت نے مغرب کی نماز پڑھی، دو تین خادم بھی ساتھ تھے، اتنے حضرت نے نہایت ہی اطمینان سے مغرب کی جماعت کرائی، میں نے دو انگلی ٹھیک بھرو کر منگوائیں اور عزیزم مولوی نصیر الدین کو اللہ بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے، دارین کی ترقیات سے نوازے اور ان چیزوں کے ثمرات وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ بغیر کہے چائے تیار کر کے لے آیا، چائے کی پیالی پیش کی گئی اور میں نے اپنی بڑی عادت کا مظاہرہ کیا۔ کارتو سہار پور تک ہی گئی تھی، وہ حضرت کو اتنا کر چلی گئی، میں نے عرض کیا "حضرت نظام سفر"؟ ارشاد فرمایا کہ "خیال یہ ہے کہ اسی وقت ساڑھے دس کی گاڑی سے چلا جاؤں"۔ میں نے عرض کیا "بہتر ہے"۔ مگر ایک منٹ سکوت کے بعد میں نے عرض کیا "حضرت بارش بڑی زور کی ہو رہی ہے، سردی بھی زوروں پر ہے، بخار بھی شدت سے ہے، معلوم نہیں دیوبند اس گاڑی کی اطلاع بھی ہے یا نہیں"؟ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ "اطلاع تو نہیں ہے، لیکن اگر سواری نہ ملی تو اسپشن کی مسجد میں لوگ رہتے ہیں"۔ میں نے عرض کیا جیسے ارشاد ہو مگر اس وقت میں اور صبح چھ بجے میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں۔ حضرت قدس سرہ نے نہایت تبسم سے جن کو اپنے یاد کر کے رونا آتا ہے (از کاتب الحروف: یہ لفظ لکھواتے وقت شیخ کی آنکھوں میں سے پانی نکل پڑا) یہ ارشاد فرمایا "فرق تو کچھ نہیں ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ان حالات میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟" میں نے عرض کیا "وہ تو حضرت نے ملاحظہ فرمایا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہتر ہے جیسی آپ کی رائے ہو"۔ اس پر حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ "نہیں صحیح ہی کو جاؤں گا، صرف تمہیں دیکھنا تھا"۔ بہت سے واقعات ہیں اس نوع کے۔

### حضرت مدینی کی لکھنؤ سے واپسی:

(۳)..... ایک مرتبہ حضرت لکھنؤ سے آرہے تھے، حضرت کا ہمیشہ معمول یہ رہا کہ اگر وقت میں ایک گھنٹہ کی بھی یا زائد کی گنجائش ہوتی تو خود مکان پر تشریف لائے ورنہ تار لکھنؤ یا مراد آباد سے

ضرور دیتے اور یہ ناکارہ اگر وقت پر تاریخی جاتا تو اسٹیشن پر ضرور جاتا، فسادات کے زمانے میں اسٹیشن پر سکھوں کی کار میں پندرہ روپے پر اسٹیشن گیا ہوں۔ البتہ جب تاریخی بعد میں پہنچتا تھا تو معذوری ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ لکھنؤ سے تشریف لارہے تھے، گیارہ بجے رات کو تار ملا، میں اسی وقت ریل پر حاضر ہوا، بارہ بجے گاڑی آئی، میں نے مصافحہ کے ساتھ پوچھا، ”حضرت! نظام؟ یوں فرمایا“ اسی وقت ڈریٹھ بجے کی گاڑی سے دیوبند جانے کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کیا ”وہاں کوئی اطلاع ہے؟“؟ فرمایا ”وہاں کوئی اطلاع نہیں دی ہے کہ تاریخی میں پہنچتا ہے“۔ میں نے پوچھا ”اس وقت دیوبند اسٹیشن پر سواری ملے گی؟“؟ ارشاد فرمایا ”نہیں“۔ میں نے کہا ”تو پھر مدرسہ تشریف لے چلیے“۔ ارشاد فرمایا کہ ”تم اپنے اصولوں کے خلاف کیوں کہتے ہو؟“ میں نے عرض کیا ”حضرت! حضرت! میرا اصول اکابر اور مہماںوں کے واسطے ہے کوئی مصیبت کے واسطے نہیں“۔ حضرت نے خوب تبسم فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے۔ اللہ میرے سارے ہی بزرگوں کو عالی مراتب نصیب فرمائے۔ جتنی جتنی میں نے بے ادبیاں، گستاخیاں اپنے اکابر کی شان میں کیں ہیں اتنی ہی ان کی شفقتیں، محبتیں، کرم فرمائیاں بردھیں۔

(۲)..... اوپر کے واقعات اس سیہ کار کے اپنے اکابر کے ساتھ رہے۔ اس کے بالمقابل میری بڑی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی ہے کہ جیسا کہ اس سیہ کار کو ہمیشہ اکابر کے ساتھ ان کی رائے کے خلاف قیام نہ کرنے پر اصرار رہا اسی طرح اپنے قیام پر بھی تجویز سے زائد قیام پر بہت ہی لڑائیاں بے ادبیاں، گستاخیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ سب ہی کو معاف فرمائے۔ اپنی انتہائی بے ادبی کا پہلے ایک قصہ لکھوا کر پھر اصل قصہ لکھواوں گا جو اس وقت مقصود ہے۔

### دیگر اکابر کی طرح چچا جان کی بندہ کے زیادہ سے زیادہ قیام کی خواہش:

(الف)..... میرے یچچا جان میرے مرشد و استاد حضرت اقدس علیہ و صנוہ علی کی بھی میرے دوسرے اکابر و احباب کی طرح سے ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ اس سیہ کار کا قیام جتنا بڑھ جائے چاہے صرف ایک گاڑی ہی کیوں نہ ہو بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ نظام الدین کے سہ روزہ قیام کے بعد چوتھے دن سہار پور کی واپسی تجویز ہوئی۔ اس زمانے میں جناب الحاج حافظ عبد الحمید صاحب چربی والے قصاب پورہ دہلی کا یچچا جان قدس سرہ اور ان سے زیادہ اس سیہ کار پر شفقوں کا زور تھا۔ دہلی کا کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں جاتے یا آتے میں ان کے یہاں ہو کر نہ آتا ہوں۔ قرار یہ پایا کہ علی الصباح نظام الدین سے چل کر ناشتہ حافظ صاحب کے یہاں کرنے کے بعد پونے نوکی ریل سے یہ سیہ کار سہار پور روانہ ہو جائے اور یچچا جان قدس سرہ اپنے معمول کے مطابق مجھے اسٹیشن پہنچانے کے واسطے ساتھ تشریف لائے۔

### چچا جان کے نماز میں طویل قیام کا قصہ:

ناشتہ سے فراغ پر پونے آٹھ بجے چچا جان نے نماز کی اتنی لمبی نیت باندھی کہ رکوع کرنا بھول گئے۔ تقریباً سوا آٹھ بجے تھے، میں نے جس بے چینی سے ان کے رکوع کا انتظار کیا وہ آج بھی یاد ہے اور سوا آٹھ بجے وہاں سے پاؤں پیدل چل کر راستے میں سے تانگے لے کر اٹیشن پہنچ گیا۔ ایک دوآدمی میرے ساتھ اٹیشن تک آئے اور ایک دوآدمی تانگے پر سوار ہونے کے بعد چچا جان کو اطلاع کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ چچا جان قدس سرہ، اللدان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے اور میری بے ادبی اور گستاخی کو معاف فرمایا کہ جو اذیت ان کو میری حماقتوں سے ہوتی ہوا پئی شایان شان ان کو بہتر سے بہتر بدلتے عطا فرمائے۔ آج تک جب یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے میرے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے بہت ہی تو بہ کرتا ہوں، اللہ ہی مجھے معاف فرمائے اور حضرت چچا جان رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی دعا میں کرتا ہوں، میری نالائقوں پر ان کی محبت بڑھتی گئی۔

### کاندھلہ کا سفر اور اعزہ کا لوئی جانا:

(ب) ..... جو اصل واقعہ اس جگہ لکھوانا ہے، وہ بھی ان ہی حماقت کے نمونوں کا نمونہ ہے، غالباً ۳۹۵۸ء کا قصہ ہے۔ ماہ مبارک میں رات کے نہ سونے کا معمول شروع ہو گیا تھا، جو پہلے سفرِ حج میں مکہ مکرمہ سے سیکھ کر آیا تھا۔ میرے چچا جان قدس سرہ کا ہمیشہ یہ معمول اخیر تک رہا کہ جب کاندھلہ کا ارادہ ہوتا تھا یا میرا ارادہ ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیتے تھے کہ فلاں وقت کاندھلہ جانا ہے، اس لیے کہ دونوں کی خواہش یہ رہتی تھی کہ ساتھ ہی جانا ہو۔ میں نے چچا جان نور اللہ مرقدہ کو اخیر رمضان میں لکھا کہ میرا عید سے اگلے دن کاندھلہ کا ارادہ ہے اور حضرت قدس سرہ کا بھی عید سے اگلے روز کسی جگہ کا سفر تھا اس لیے اور بھی اطمینان تھا چچا جان نے منظور فرمایا، عید سے اگلے دن بنده سہارنپور سے اور چچا جان ولی سے کاندھلہ پہنچ، گاڑی کا میل کاندھلہ اٹیشن پر ہوتا تھا، بیک وقت دونوں بارہ بجے کے قریب اٹیشن پر اترے۔ قبے میں پہنچنے تو معلوم ہوا کہ ہم عصر عزیز سب کاندھلہ کے قریب لوئی ایک قصبہ ہے غالباً دس میل ہے، بھائی اکرام الحسن، ماسٹر محمود الحسن، مد فیوضہما، عزیزم بھائی ظہیر الحسن مرحوم، حاجی محمد مرحوم، وغیرہ اعزہ سب لوئی گئے ہوئے ہیں، مستورات نے ہمارے جاتے ہی ایک آدمی بھیج دیا کہ دونوں چچا بھتیجے آئے ہوئے ہیں اس آدمی نے لاپرواہی بر تی، اس کو کیا اہمیت تھی، وہ شام کو لوئی پہنچ کر اپنے عزیزوں میں نٹھر گیا، صبح کو اس نے کنور اصغر علی خان مرحوم جن کی ملاقات کے لیے یہ کاندھلہ پاری گئی ہوئی تھی وہاں جا کر یہ پیام پہنچایا، یہ سب احباب و اعزہ چائے پی رہے تھے جس کے ہاتھ میں جتنی پیالی تھی

وہیں چھوڑ کر ایک دم اٹھ گئے۔ کنور اصغر علی خاں مرحوم نے بہت اصرار کیا کہ ”میں ابھی گاڑی منگواتا ہوں تم لوگ چائے پی لو“۔ ان عزیزوں نے اللدان کی محبت کا بہترین بدله عطا فرمائے ویر کے خیال سے ایک نہ سنبھالیاں تیج میں چھوڑ کر جلدی چل دیئے اور کہہ دیا ”گاڑی جلدی تیج دو جہاں ملے گی بیٹھ جائیں گے“۔ انہوں نے جلدی جلدی پیچھے پیچھے گاڑی تیجی اور جس جس کو جہاں گاڑی ملتی رہی بیٹھتا رہا اور یہ سب تو بیج کے قریب کا ندھلہ پیچھے اور میں اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ لوگ آ کر ٹھہر نے پا اصرار کریں گے تو بیج سے پہلے پچاچان کے ساتھ اشیش پر آ گیا، گاڑی وہی کل کی بارہ بیجے والی تیجی جس سے آمد ہوئی تھی اور اشیش پر ہی میل ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو جب قصبه میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ دونوں اشیش چاچکے ہیں تو یہ سب ان ہی گاڑیوں میں جن میں لوئی سے آئے تھے، اشیش پہنچ گئے گاڑی میں تین گھنٹے باقی تھے، انہوں نے اولاً پچاچان سے قیام کی درخواست کی، پچاچان نے نہایت تبسم سے یہ فرمایا کہ اس کو راضی کرو، اگر یہ ٹھہر گیا تو میں بھی بخوبی ٹھہروں گا اور اگر یہ چلا گیا تو مجھ پر تمہارا اصرار تم بھی جانو ظاہرداری ہی کا ہے، سب ہنس پڑے اور مجھ پر دھاوا بول دیا میں نے شدت سے انکار کیا کہ ”میں حضرت سے ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں، ہرگز نہیں ٹھہروں گا، اسی ڈر کے مارے اشیش آ گیا ہوں“۔ اس کا اس یہ کارو ہمیشہ ہی بہت اہتمام رہا کہ حضرت اقدس سے واپسی کا جو وقت عرض کر کے گیا اس میں بھی تناقض نہیں ہوا، میرے حضرت اقدس سرہ کو بھی میری یہ بات بہت پسند تھی، یہ سب معاصر تھے، عزیز واقارب تھے، بے تکلف دوست تھے، سب کی اصلاح یہ ہوئی کہ اس کو ایک چار پانی پر سب مل کر لشاد و اورسہ سے پاندھ کر نعش کی طرح چار پانی پر لے چلو، سارے گویا بچے تھے، کم و بیش عمروں کا تفاوت تھا، میں نے فشم کھالی کہ ”اگر سہار پور آج نہ گیا تو عمر بھر کا ندھلہ نہ آؤں گا“۔ میرے اس فقرے پر سب سے نازک ترین عزیز معاوی ظہیر الحسن مرحوم بی اے علیگ تو بغیر بولے، بغیر ملے، بغیر مصافی کیے، نہ مجھ سے ملا نہ پچاچان سے، لوئی کی ایک گاڑی میں بیٹھ کر قصبه میں چلا گیا، بھائی ماشر محمود الحسن صاحب جو آج کل پاکستان میں ہیں کئی سال سے مکمل مقیم تھے وہ گاڑیوں کے روانہ ہونے تک ساتھ رہے نہ بولے نہ بات کی۔ بھائی اکرام صاحب دامت مجدہم جو میرے بہت ہی مخلص محبوب ترین عزیز ساری عمر رہے، بہت کثرت سے ان کا ذکر کہیں کہیں آئے گا بہت خنده پیشانی سے نہایت محبت اور تعلق سے گاڑیوں کی روائی تک بولتے بات کرتے رہے۔ حاجی محسن مرحوم نے بار بار کہا کہ ”چونکہ رمضان میں ساری رات جانے کا دستور شروع کر دیا ہے، دماغ پر خشکی آگئی ہے، میاں صاحب تیل کی ماش کیا کر دیں تو جنون ہو جائے گا“، وغیرہ وغیرہ۔

کئی واقعات میری زندگی میں اس نوع کے پیش آئے، اس میں حضرت اقدس مدنی قدس سرہ کی

نا فرمانیاں مجھ سے بہت ہوئی، اللہ ہی معااف فرمائے کہ حضرت نے بخوبی واپسی کی اجازت دی مگر یہ ناکارہ خلاف طبع مصافحہ کر کے واپس چلا آیا۔ اب اپنے ان جرائم کی تلافی اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ بہت ہی زاری اور الحاح کے ساتھ مالک الملک سے اپنی تقاضی کی معافی چاہوں اور ان اکابر کے لیے ان کی شفقوں اور اذیتوں کا جواب سید کارے پیشیں، بہترین بدلہ کریم آقا سے مانگوں۔

### مہمل جواب مہمان کا یہ کہ جب تک ارشاد ہو قیام کروں گا:

(۴)..... میری ان ہی بری عادتوں میں سے جو اوپر گزریں ایک بری عادت یہ تھی کہ میرے اس سوال پر کہ ”کب تک قیام ہے؟“ بہت سے لوگ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ”جب تک حضرت کا ارشاد ہو؟“ یہ مہمل جواب مجھے ہمیشہ بہت برا لگا ہے، میں ان کے اس جواب پر ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ”واہ واہ! میرے چھوٹے بھائی یعنی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے تین چلے مانگا کرتے تھے میں تو ان کا بڑا بھائی ہوں اس لیے چار چلے تو آپ قیام کیجئے، اس کے بعد غور کریں گے“ اور جب وہ یوں کہتا ہے کہ اتنا تو میں نہیں ٹھہر سکتا تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ ”پھر جناب نے یوں کیوں فرمایا تھا کہ جب تک تو کہے، میں نے آپ کے جواب سے یہ سمجھا کہ آپ بھی میری طرح سے گھر سے فالتو ہیں مجھے تو آپ کی ضروریات کا حال معلوم نہیں، اب دوبارہ بتائیے کب تک ٹھہر سکتے ہیں؟“ اس پر دو چار دن یا زیادہ سے زیادہ ہفتہ عشرہ نکلا کرتا ہے۔

میرا مقصد اس سوال سے یہ ہوا کرتا ہے کہ آنے والے کی مدت قیام معلوم ہونے کے بعد اپنے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بات کروں، اگر ہم روزہ جلدی جانے والا ہے تو اسی وقت بات کرنے کی کوشش کروں اور اگر اس کے وقت میں گنجائش ہے تو اپنے اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے واسطے وقت تجویز کروں کہ اپنے طالب علمانہ مشاغل کی وجہ سے دن میں وقت بچنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے تخلیوں اور تفصیلی بات کے لیے وقت مغرب کے بعد سے لے کر سونے کے وقت تک نکل سکتا ہے اس لیے کہا پنے امراض اور اعذار کی وجہ سے اب رات کو علمی کام نہیں ہوتا۔

### ایک بری عادت دوبارہ دعوت مہمان اور اس کے تین قصے:

(۵)..... ان ہی بری عادتوں میں سے ایک بری عادت جس میں مجھے اپنے آقماوی و ملخا سیدی و سندی، حضرت شیخ الاسلام مدینی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ اعلیٰ اللہ مرابتہ کی طبع مبارک کے خلاف یہ بری عادت ہمیشہ رہی کہ میرے حضرت مدنی قدس سرہ کے مہمان کی کوئی دعوت کرتا تو حضرت کو از راہ محبت و شفقت داعی و مدعو دونوں پر غصہ آ جاتا، حضرت قدس سرہ داعی سے ڈائٹ کر فرماتے۔ ”تم میرے مہمان کو چھینتے ہو؟“ اور مہمان سے فرماتے ”آپ سے دال روٹی نہیں کھائی جاتی،

مال کھانے کو جی چاہتا ہے؟“

اس کے بالمقابل اس سید کارکا ہمیشہ معمول پر رہا کہ اگر میرے مهمان کی کوئی دعوت کرے اور مجھے اس کا بخوبی پسند کر لیتا معلوم ہو جائے تو میں کبھی مانع نہیں ہوتا بلکہ بڑی خوبی خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہوں بشرطیکہ مهمان اس کو خوبی سے پسند کرے بلکہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا مهمان داعی کی دعوت کو زیادہ پسند کرتا ہے اور حاضر میرے لحاظ سے میرے یہاں کھانا کھانا چاہتا ہے تو میں از خود داعی کی سفارش کرو دیتا ہوں۔

(الف) .... مولا نا جبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار، جن کا کچھ حال پہلے گزر چکا اور ان کے اس ناکارہ سے تعلقات روز افزود شروع ہو گئے تھے، ایک مرتبہ سہار پور آئے۔ سہار پور کے ایک صاحب نے ان کی دعوت کی، انہوں نے اس خیال سے کہ زکریا کونا گوار ہو گا، بختنی سے انکار کر دیا ان کے داعی میری اس برقی عادت سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے اصرار سے کہا کہ آپ منظور کر لجئے میں اس سے نہ لوں گا۔ رئیس الاحرار صاحب نے کہا کہ بہت بے ادبی ہے میں خود اجازت لے کر آتا ہوں۔ ان داعی نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس کا بالکل فکر نہ کریں میں اس سے خوب واقف ہوں، مگر رئیس الاحرار نے نہ مان کر دیا، ظہر کی تمہار کے بعد میں اپنے مکان کے دروازے پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا یاد نہیں رمضان تھا؟ غالباً رمضان ہی تھا اس لیے کہ رمضان ہی میں ظہر کے بعد تلاوت کا اکثر معمول رہا ہے۔ مولا نے آتے ہی سلام کیا، میں نے تلاوت بند کر کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا ”کچھ فرمانا ہے؟“ انہوں نے ایک طویل تمہید شروع کی۔ میں نے ایک منٹ میں اندازہ کر کے ان سے کہا کہ ”اگر کسی نے شام کی آپ کی دعوت کی ہے تو بخوبی منظور ہے بشرطیکہ آپ پسند فرمائیں“۔ میرے اس روکھے جواب پر وہ سکتے میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا میں نے کہہ دیا کہ ”اس کی بالکل فرصت نہیں، عشاء کے بعد بات ہوگی“۔ یاد آیا کہ رمضان ہی تھا اور رمضان میں ہمیشہ میرا چوٹیں گھنٹوں میں تراویح کے بعد کی چائے میں گھنٹے آدھ گھنٹہ دوستوں اور مهمانوں سے ملاقات کا معمول رہا۔ تراویح کے بعد میں نے ان سے اپنی اس برقی عادت کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ آپ کے داعی نے صحیح کہا کہ وہ میری اس عادت سے خوب واقف ہیں میرا دستور یہ ہے کہ میرے مهمان کی جب کوئی دعوت کرتا ہے اور مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ بخوبی پسند کرتا ہے تو میں کبھی مانع نہیں بنتا، اس لیے کہ جب کوئی شخص دعوت کرے گا وہ کچھ خاطر ضرور کرے گا، میں اپنے مهمان کا نقصان کیوں کروں کہ لئے باندھ کر حوض میں کو دجا۔ البتہ مهمان ہی اگر مال چھوڑ کر دال کھانا چاہے تو مجھے بھی زبردستی نہیں، سر آنکھوں پر۔ چنانچہ متعدد وزراء ہندو بیرون ہند کے جب اس ناکارہ کے مهمان ہوئے اور میں نے

ان کے اکرام میں کچھ اہتمام کیا تو انہوں نے شدت سے اس پر نکیر کی اور یہ کہا کہ ”یہ چیزیں تو ہمیں روز ملتی رہتی ہیں ہم تو آپ کے لئے کھانا کھانے آئے تھے وہ ہمیں نہیں ملتا“۔ ایک وزیر صاحب نے یہ کہا ”ہمیں تو آپ اپنے مدرسے کے مطبخ کا کھانا کھایے“۔ ان کے لیے بعض طالب علموں کا میں نے کھانا لے کر اپنے دسترخوان پر بلایا، ان کا کھانا وزیر صاحب نے کھایا اور وزیر صاحب کی مرغی بریانی ان طالب علموں نے کھائی اور بھی کئی واقعہ اس نوع کے گزرے۔ ایسون کے لیے میں بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان کی دعوت کرے۔

دعوت کے سلسلے میں میرے دو اکابر حضرت اقدس مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت اقدس رائپوری، کا خاص معمول رہا ہے، یہ دونوں حضرات اس سیرے کار کے یہاں کا کھانا چھوڑ کر کسی دوسرا جگہ کا کھانا بلا کسی خت مجبوری کے ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے لیکن دونوں اکابر کا معمول آپس میں ضد تھا۔

(ب) .... میرے حضرت اقدس مدینی قدس سرہ کی آمد پر جب کوئی دعوت کرتا تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ شدت سے فرمادیتے کہ ”کھانا ز کریا کے یہاں کھانا ہے“۔ بارہا اس کی نوبت آئی، ایک مرتبہ جمعیۃ علماء ضلع کی کانفرنس حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائی گئی، خواجہ اطہر صاحب ضلع کے صدر تھے، دو بجے سے عصر تک جمعیۃ کانفرنس ہوتی رہی۔ عصر کے بعد حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ مدرسہ تشریف لانے لگے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ”حضرت یہ کیا؟“ فرمایا کہ ”کھانا ز کریا کے یہاں کھانا ہے“۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ جمعیۃ آپ کی طرف سے طلب کی گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا ”جس کام کے واسطے طلب کی تھی وہ کام ہو گیا، میں نے کھانے کی دعوت نہیں کی تھی، آپ کھایے“۔ خواجہ صاحب نے بہت ہی اصرار فرمایا مگر حضرت نے قبول نہ فرمایا۔ مجھے خود بھی اس کا واحد تھا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ جمعیۃ کو چھوڑ کر تشریف لے آئیں گے۔

ای طرح سے مولانا منظور النبی مرحوم نے ایک دفعہ ایک کانفرنس حضرت کی طرف سے بلائی، مغرب تک کانفرنس رہی اور مغرب کے بعد حضرت اس سیرے کار کے گھر تشریف لے آئے، مولوی صاحب کو بہت ہی ناگوار بھی ہوا، میں نے چپکے سے خوشامد کی کہ ”اکابر کے منشاء پر عمل حقیقی تعلق اور محبت کی علامت ہے، میں نے تو کوئی درخواست نہیں کی، اگر میں درخواست کرتا تو آپ کا غصہ بجا تھا کہ آپ کے مہمان کو کیوں چھینا لیکن یہ تو حضرت کا خود منشاء ہے، اس پر آپ کو بھی ہتھیار ڈال دینا چاہیے“۔ میں یوں واقعات میرے حضرت مدینی قدس سرہ کے اس قسم کے پیش آئے۔

(ج) .... اسی مدکا اور اس کا بال مقابل معمول حضرت اقدس رائپوری قدس سرہ کا رہا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری پر کوئی دعوت کرتا، بہت خندہ پیشانی سے قبول کرتے، جان و مال میں برکت کی بہت دعا میں دیتے، بہت دل داری فرماتے اور جب دعوت کرنے والا خوشی سے

آسمان پر پہنچ جاتا تو آخر میں چپکے سے فرمادیتے کہ ”سائز ہے گیا رہ بجے کچھ گھر میں کھانا لے آئیں“۔ وہ بیچارہ یہ تو کیا کہہ سکتا تھا کہ ”مردی موقوف مقبرہ مساز“۔ حضرت بہت اچھا، حضرت ضرور۔ بعضی دفعہ مجھے بھی داعی سے ندامت ہوتی، مگر میں کیا کر سکتا تھا۔

(۵) ..... حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حالات میں بھی ایک عجیب واقعہ اس نوع کا آئے والا ہے جو اسی جگہ زیادہ مناسب ہے، اکابر کی عظمت کی وجہ سے یہ دو تین واقعات لکھ دیئے ہیں، ورنہ میری بری عادت کی وجہ سے بعض مہماں کو یہ خیال ہو جاتا کہ یہ مہماں کوٹا ناچا ہتا ہے، لیکن جن کی آمد و رفت کچھ بڑھ جاتی ہے تو وہ حالت سے واقف ہو جاتا ہے۔

(۶) ..... میری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ رہی کہ میٹھے سے ہمیشہ نفرت اور گوشت سے ہمیشہ عشق رہا، جن کے بہت ہی کثرت سے واقعات پیش آئے۔ نمونہ کے طور پر چند واقعات لکھواں گا۔ واقعات تو میری ستر سالہ زندگی میں نہ جانے کیا کیا گز رے اور حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کا فرمان جو اپنے بارے میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ ”میری قدر دانی جتنی میرے بڑوں نے کی میرے چھوٹوں نے نہیں کی“۔ مجھ پر واقعی یہ فقرہ حرف بہ حرف صادق آرہا ہے، میرے اکابر، میرے مشائخ بہت ہی میری خواہشات کا اہتمام فرماتے تھے، میری مٹھائی نہ کھانا چونکہ ابتداء میں ضرب المثل تھا، میرے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ نے کئی دفعہ فرمایا کہ مولوی زکریا اتنے نوں سے میرے پاس بیٹھتے ہیں ان کو تو میٹھے کا شوق نہیں ہوا مجھے نہیں کا ہو گیا، اپنی اپنی قوت کی بات ہے۔

ابتداء میں تو مجھے مٹھائی سے گویا نفرت تھی اب تو اچھی خاصی کھانے لگا۔ میرے حضرت راپوری قدس سرہ نے بھی ایک دفعہ یہی جملہ دہرا�ا تھا میرے ان دونوں بزرگوں کو میٹھے کا شوق تھا۔ ایک دفعہ میرے حضرت اقدس قدس سرہ کے یہاں کئی دور سے مٹھائی آئی وہ آتے آتے خراب ہو گئی نازک مٹھائی تھی میں اور میرے دور فیق مظہر و محفوظ، جن کا باب دوم میں ذکر آچکا مخصوص جماعت کھلاتی تھی، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”بچوں کو بلا کر کھلا دو“، ہم اوپر سے بلائے گئے، میں نے ذرا سی چکھ کر چھوڑ دی۔ میرے رفیق درس مظہر علی راج پوری مٹھائی کے شوقین ہونے میں ضرب المثل تھے، وہ زردہ بھی مصری یا بورہ مزید ڈال کر کھایا کرتے تھے اور ان کے یہاں کی رسائل بھی ہم کا نہ حلہ والوں میں سے کسی سے نہیں کھائی جاتی تھی، ان کے یہاں رسائل (رس کی کھیر) گھر میں نہیں پکتی تھی بلکہ ان کے کڑھاؤں میں پکتی تھی جن میں گڑبنا تھا اور جب رس پکتے پکتے آدھارہ جاتا تھا تب ان میں چاول پڑتے تھے۔ میرا اعزز تو حضرت کے یہاں اور جو اس وقت وہاں بیٹھتے ہوئے تھے متفق اللسان ہو کر سب نے قبول کر لیا اور کہا کہ یہ تو مٹھائی

نہیں کھاتا، میرے رفیق مظہر کے سب سر ہو گئے کہ تو تو شو قین ہے کھا۔ ان کو بہت غصہ آیا۔ حضرت کی ابلیس مختار مسے عزیزی داری تھی بچپن تھا، مجھ سے کہنے لگے ”سرمی ہوئی مٹھائی کی عادت نہیں ہے گرم گرم امرتیاں ہوں تو ایک بھی نہ چھوڑوں“۔ میں تو ساکت رہا، مگر سب اس کے سر ہو گئے اور متفق اللسان ہو گئے، اس کو اور محفوظ کو کھانی پڑی۔ اس کے بال مقابل گوشت کے بہت سے واقعات ہیں۔

مولانا منظور نعمانی نے پچا جان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں کسی جگہ بغیر نام کے لکھا ہے کہ ”پچا جان اپنے ایک عزیز کے لیے گوشت کا بہت اہتمام فرمائے تھے جس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی“۔

یہ انہوں نے تجھ لکھا، پچا جان اور حضرت اقدس رائپوری کے یہاں میرے گوشت کا بہت ہی اہتمام ہوتا تھا۔ جب میرے چائے کا دن ہوتا تو دونوں بزرگوں کے یہاں بلکہ حضرت میرٹھی نوراللہ مرقدہ کے یہاں بھی میرے لیے کبابوں کا بہت اہتمام ہوتا تھا، بازار اور گھر کے دونوں منگوائے جاتے تھے اور کئی طرح کے گوشت کا سالم بھی بناتے تھے، لیکن اس سے کارکا دستور حضرت میرٹھی اور حضرت تھانوی قدس سرہما کے یہاں بے اطلاع جانے پر ہمیشہ روٹی کھا کر جانے کا تھا۔ حضرت میرٹھی نوراللہ مرقدہ کئی مرتبہ ناراض بھی ہوئے کہ اتنا سویرے کیسے کھالیا؟ اور حضرت تھانوی اعلیٰ اللہ مرابتہ نے بھی کئی دفعہ دس بجے کی گاڑی سے پہنچنے پر دریافت فرمایا کہ ”کیا آپ صحیح ہی کھا لیتے ہیں؟“ اور میں ان دونوں اکابر کے یہاں حاضری پر اپنی عادت کے خلاف چائے کے ساتھ ایک دولقمہ روٹی کا ضرور کھا کر جاتا تھا۔ حضرت تھانوی کے ارشاد پر میں عرض کیا کرتا تھا کہ ”حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ! چونکہ رات نہیں کھائی تھی اس لیے صحیح ہی کھالی“، اور یہ صحیح تھا کیونکہ رات کونہ کھانے کا معمول بہت برس سے تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ حضرت میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ کھا کے جانے پر ناراض ہوتے تھے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ نے اس ناکارہ کے متعلق تحریر اور تقریر ابتدائی زمانہ میں یہ ارشاد فرمادیا تھا کہ تم میرے یہاں کے قواعد سے مستثنی ہو لیکن اس کے باوجود چونکہ ان دونوں اکابر کے یہاں قواعد کی پابندی بہت تھی اور میں دوسرے بے وقت آنے والوں پڑاٹ ستارہ تھا، اس لیے میں بھی ان کے قواعد کا احترام کرتے ہوئے کبھی بغیر کھائے نہ جاتا تھا اور اس کے بال مقابل جب حضرت رائپوری یا پچا جان نور اللہ مرقدہ کے یہاں جانے کا ارادہ ہوتا تو ایک دن پہلے کھانا کھانا چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں میرے حضرت قدس سرہ کے ساتھ تو بہت سے واقعات پیش آئے۔

(الف)..... ایک دفعہ پچا جان قدس سرہ عصر کے وقت دہلی سے تشریف لائے آتے ہی فرمایا کہ ”رائے پور چلنا ہے“۔ میں نے کہا کہ ”ضرور، چائے پی لیجئے“۔ چائے میں ذرا تا خیر ہو گئی، رائپور جانے والے اڈے پر پہنچ، موڑ میں اس وقت تک نہیں چلیں تھیں، گھوڑے تانگوں میں جانا

ہوتا تھا، تانگے کی تلاش میں دیر ہو گئی، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو گیا۔ پچا جان نے ارشاد فرمایا کہ مغرب پڑھ کر چلیں گے۔ میں نے تانگے والے کو راضی کر لیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کرتانگے میں بیٹھے گئے، عشاء کی اذان کے وقت بہت پہنچے، پچا جان نے ارشاد فرمایا کہ ”شاہ زاہد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے مل کر چلیں گے“۔ میں نے عرض کیا، ”اب تو دیر ہو گئی، وقت ہو گیا واپسی میں ملیں گے“۔ پچا جان نے فرمایا کہ ”معلوم نہیں کہ واپسی میں وقت ملے یا نہیں، اب تورات اپنی ہے ابھی ملتے چلو“۔ میں نے عرض کیا ”میں تو نہیں جاؤں گا آپ ہوا میں“، پچا جان نے کہی دفعہ ارشاد فرمایا۔ میں زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا کہ آپ ہوا میں میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تشریف لے آئیں گے تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پچا جان نے ارشاد فرمایا کہ آخر کیا ضد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ”وقت ہو گیا، وہ کھانے پر اصرار فرمائیں گے اور بہت اصرار فرمائیں گے اور رئیسوں کے یہاں کا کھانا ہم جیسے غریبوں کا نہیں ہوتا کہ دس منٹ میں ماحضر پیش کریں، وہ اہتمام فرمائیں گے دو گھنٹے اس میں لگ جائیں گے اور پھر وہ فرمائیں گے کہ اب تو دیر ہو گئی آرام فرمائیں، صحیح کو میں اپنی گاڑی میں بھیج دوں گا، بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا“۔ پچا جان نے فرمایا کہ ”ہم کھانے کو نہیں مانیں گے،“ میں نے عرض کیا کہ وہ بہت زیادہ اصرار کریں گے اور انکار مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات پچا جان نے بھی قبول فرمائی اور رائپور چل دیے۔ گرمی کا زمان تھا، گیارہ کے بعد رائپور پہنچے، سب سوچ کے تھے۔ حضرت قدس سرہ بھی اپنی چھپری میں آرام فرمائے تھے۔ حضرت کے جھرے کے آگے دالان میں کھونٹی پر ایک لاثین ہمیشہ جلتی رہتی تھی، وہاں پہنچ کر بہت آہستہ آہستہ بوریے نکالے، ان کو بچھایا اور وضو کیا۔ ہم آٹھ دس آدمی تھے اور نماز کے لیے آہستہ آہستہ میں نے تکبیر شروع کی اور پچا جان مصلی پر آگے تھے، ایک دم حضرت قدس سرہ لیئے ہوئے بیٹھے گئے، سب حضرت کو دیکھ کر چھپری کی طرف دوڑ پڑے، مصافی کیے، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میں دیر سے چلت پھرت تو دیکھ رہا تھا مگر میرا خیال تھا کہ یہ لوگ (یہاں کے مقیمین) میرے لئے کے بعد کچھ امر و دوغیرہ کھایا کرتے ہیں شاید یہ کچھ کرو ہے ہوں“، پھر فرمایا کہ ”حضرت کھانا؟“

میری عادت تورات کو کھانے کی نہیں تھی مگر مجھے خیال رہا کہ میرے انکار پر دوسرا لوگوں کو انکار کرنا پڑے گا، وہ رات کو بھوکے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ”ضرور کھائیں گے“ اور یہ کہہ کر میں نے زور سے حاجی ظفر کو آواز دی وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، میں نے کہا کہ ” حاجی جی آٹھ آدمی ہیں روٹی کھائیں گے“، اللہ تعالیٰ حاجی ظفر کو اور اس کی اہلیہ کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، دین دنیا کی راحیں عطا فرمائے، رائپوری دربار کے حاضرین جو وہاں سے ذرا بھی خصوصی تعلق رکھتے ہیں وہاں سے خوب واقف ہیں کہ ان دونوں میاں یوں نے ہمیشہ

پچاس سال تھے مہمانوں کا کھانا گھنٹہ ڈریٹھ گھنٹہ میں تیار کیا، پھر آٹھ آدمی ان کے بیہاں کے تھے، میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے لیے کوئی اہتمام اس وقت نہ کرنا، میں تو صبح کو کھاؤں گا، میرے لیے تو صرف دو تین انڈوں کی نکلیاں اور کیریوں کی خوب مرچیں ڈال کر چٹنی تیار کر دو، چٹانچہ ہم نے اتنے نماز پڑھی اتنے کھانا تیار تھا، میں نے چچا جان سے عرض کیا کہ اتنی جلدی وہاں ملتا۔

حضرت اقدس راپوری قدس سرہ کے بیہاں اور حضرت کی وجہ سے سارے ہی ہندوستان بلکہ عرب میں بھی مرغایہ میرے کھانے کا جزو بن گیا تھا۔ یہ حقیقت میں بڑا ہی لطیف قصہ ہے جو انشاء اللہ میرے حج کے بیان میں آئے گا۔ گوشت سے انتہائی رغبت اور بغیر گوشت کے کھانا نہ کھانکنے کے واقعات تو بہت کثرت سے ہیں، لیکن ایک عجیب واقعہ ۱۳ھ میں یہ پیش آیا کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے درس کی خصوصیات جو اس رسال میں بھی کہیں آئیں گی اور اکمال الشیم کی تمهید میں بھی تفصیل سے گزر چکی، وہ یہ تھا کہ اوپنے درجے کے طلبہ کے ذمے جو بکھردار اور ذی استعداد ہوں ان سے چھوٹے درجے کے طلبہ کے اسابق متعلق ہوتے تھے، وہ ابا اجان کے سامنے بیٹھ کر پڑھانے ہوتے تھے۔ ۱۳ھ میں میرے پاس مقامات ہوا کرتی تھی جس میں عزیزان حکیم ایوب، مولوی نصیر الدین، شیخ انوار احمد اور ایک اور لڑکا تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس سال میرے بہت زور دار خارش ہوئی اور اتنی سخت ہوئی کہ اس کی پھنسیاں چیچک کی پھنسیوں کی طرح انگروں کی مانند سارے بدن پر پھیل گئی، ان میں سے راد (پیپ) ہر وقت نکلا کرتی تھی، میرے بستر پر بہت سی راکھوں کے پتے پھجتے تھے اور وہ راد میں تر ہو جاتے تھے اور روزانہ بد لے جاتے تھے، گوشت، نمک مرچ سب بند تھا، بڑی ہی تدبیر سب اطباء نے کیس، ایک چیز کا رزا کھانا کھلانی سے، اس میں شاہزادہ، چراستہ نہیں کے پتے اور نہ معلوم وس بارہ چیزیں، وہ تین دن تک پکا اور اس کی نوبوت نہیں۔ ایک گلاس یعنی آدھی بوتل صبح اور آدھی شام میں پینی پڑتی تھی اور اس میں تعفن اس قدر تھا کہ بوتل کامن کھلتے ہی ناک سڑ جاتی تھی، ناک بند کر کے جس مصیبت سے پیتا تھا، اب تک یاد ہے، وہ بھی ختم ہو گیا اور میرے تقریباً روزانہ فانے ہی فانے رہتے تھے۔ یہ عزیزان نذکور مجھ سے مقامات پڑھا کرتے تھے۔ مدرسہ قدیم کی غربی جانب جو ایک چھونٹا سامکان ہے اور اس میں صرف دو کمرے تھے، ایک شرقي، اس میں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا سونا ہوتا تھا اور وہ ان کی قیام گاہ تھی اور غربی جانب میں میں اور میری والدہ، میری بہن وغیرہ سب رہتے تھے، اس میں شمال کی جانب ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں لوہے کی سخن لگی ہوئی تھیں اور میری چارپائی کے اوپر زنانہ طرف ایک لباس اپر وہ پڑا رہتا تھا اور اس جنگل کے پاس باہر کی طرف بیٹھ کر یہ لوگ ”مقامات“ پڑھا کرتے تھے اور بھی ایک دو سبق چھوٹے بچوں کے تھے۔ میری والدہ نور اللہ

مرقدھانے کچھ پیے بھی اکنیاں، دوئیاں میرے پلنگ کے سرہانے ڈال رکھی تھیں کہ صدقہ کے طور پر جنگلے کی طرف جانے والوں کو اپنے ہاتھ سے دیتا رہوں۔ سردی کا موسم تھا، میں نے مقامات کے سبق کے بعد عزیز نصیر اللہ میں سے کہا کہ ذرا تھبھر جاؤ، جب سب چلے گئے میں نے ان کو ایک دولی دی، اس زمانے میں ایک پیے کا ایک کتاب اتنا موتا اور لمبا چوڑا آتا تھا کہ آج کل دو آنے میں جتنا آتا ہے، وہ بھی اس کا آدھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کے کتاب لے کر آئے اور اس میں خوب مرچیں، ترشی اور پیاز ڈال لانا اور خوب کاغذ میں بند کر کے لانا اور اگر کسی سے کہا تو اتنے جو تے ماروں گا کہ سر گنجائے گا۔ انہوں نے لا کر جنگلے میں مجھے دے دیے اور میں نے پر دے کے پیچھے پڑے پڑے ان سب کو کھایے، کھانے کو تو کھالیا اور بہت ہی ہزار آیا، مگر کھانے کے بعد جو مجھ پر گزر گی وہ بھی خوب یاد ہے، سرتو چکرا گیا اور سارے بدن میں وہ مرچیں لگیں کہ رٹ پا دیا، لیکن:

خدا شرے بر انگلیز دوراں خیرے نہاں باشد

دو گھنٹے بعد پاخانہ کا اتنے زور کا تقاضا ہوا کہ بڑی مشکل سے بھاگ کر پاخانہ میں گیا، اس وقت پاخانہ میں جانے کے لیے بھی دو آدمیوں کو پکڑ کر لے جانا ہوتا تھا، انگلی بندھی ہوئی تھی، بیٹھنے سے پہلے ہی اسہال شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ پھنسیاں جن میں دو گھنٹے پہلے را دنکل رہی تھی ایسی خشک ہوئیں کہ میں نے پاخانہ ہی میں بیٹھے بیٹھے نانگوں کی، پیٹ کی، کمر کی سب پھنسیوں پر سے کھرڑا تارا تار کرو ہیں پھینک دیے، والدہ کو بہت فکر ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک دو دفعہ آواز بھی دی کہ پاخانہ میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ لیکن جب میں باہر آیا تو میری والدہ اور سب حریت میں رہ گئے کہ اس کی خارش کیا ہوئی۔ سب نے بہت ہی پوچھا کہ کون سی دواتونے کھائی اور کس کے کہنے سے کھائی؟ کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی عمل پڑھا غرض بہت ہی تحقیقات سب نے کیں۔ مگر میں نے بھی والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی تک تو کسی سے کہہ کر نہ دیا۔

لیکن براہ کرم کوئی دوسرا صاحب اس مجرب نسخہ پر عمل نہ کریں، میری ہی زندگی تھی جو میں اس دن نقی گیا۔ ہر شخص کی عادات، حالات اور مزاج الگ ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کا معاملہ بھی ہر شخص کے ساتھ الگ ہے۔ اس سلسلے میں جملہ مفترضہ کے طور پر ایک قصہ اور نقل کر اتا ہوں۔

اس سے کار کو ٹھنڈے پانی کا مرض جو بچپن سے شروع ہوا تھا اور بڑھا پے تک بھی نہ گیا، تقریباً پچیس سال کا واقعہ ہے، میرا ایک مخلص دوست مولوی عبدالجید مرحوم اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات عطا فرمائے، میری بڑی ہی خدمت کی، دبیر کے مینے میں میرے واسطے برف خریدنے گیا، برف والے نے ان کی مولویانہ صورت دیکھ کر ان کو خوب گھورا۔ مرحوم نے کہا کہ "حضرت شیخ کے واسطے چاہیے۔" برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شیخ ہو یا قاضی ہو

آج کل بجز شرایبی کے کوئی برف نہیں پی سکتا۔

میرے حضرت اقدس رائپوری قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کا دستور تھا کہ جب گتوں کی موسم میں رائپور حاضر ہوتا تو رات کو اپنے جھرہ شریفہ کی چھٹ پر دمپس اور جنوری کے مہینے میں میرے لیے رس منگا کر عشاء کے بعد رکھوا لیتے تھے اور آخر شب میں تہجد کے بعد صبح کی نماز سے پہلے اتر وا کر اس سیدہ کا رکو پلاتے تھے اور وہ برف جمنے کے قریب ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ اور کوئی اس میں حضرت شیخ کا ابیان ہرگز نہ کرے۔ کئی مرتبہ اس کی خاص طور سے ممانعت فرمائی۔ ایک بزرگ حضرت کے یہاں رہتے تھے۔ شاہ جی سکندر علی پنجاب کے، انہوں نے اس ناکارہ کا بجا ہوار س تھوڑا سا پی لیا، صبح کو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بہت ہی مزید ارتھا اور بہت ہی لذیذ تھا اور پنجابی زبان میں بھی دو ایک فقرے اس کی تعریف میں کہے۔ حضرت بہت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شاہ جی کی مغفرت فرمائے، اسی دن ان کو بخار ہو گیا اور وہی بخار مر جوم کے وصال کا سبب بن گیا۔ نور اللہ مرقدہ۔

ایک دفعہ میرے کاربنکل نکل آیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حضرت اقدس رائپوری قدس سرہ یہاں تشریف فرماتھے، حضرت کو میری صحبت اور بیماری کا بہت ہی اہتمام اور فکر رہا کرتا تھا، ذرا سی معمولی بیماری بھی معلوم ہو جاتی تو اتنا اہتمام فرماتے کہ حد نہیں اور یہ مرض تو سناء ہے کہ بڑا خطروناک ہوتا ہے، حضرت کو بڑا فکر ہو گیا، اوہر ادھر شہر میں کہرام مج گیا، ڈاکٹر صاحب اسی وقت بلائے گئے، انہوں نے بھی دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا اور بیک وقت میری کمر میں پارہ انجکشن بہت گہرنے لگائے جس نے اس سارے حصے کو جس میں کاربنکل کا اثر تھا اپنے اندر لے لیا، اس پر وہ ڈاکٹر صاحب تعجب بھی کرتے تھے کہ اتنے گہرے انجکشن لگے مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ اس ناکارہ کو ہمیشہ سے بہت بچپن سے ۶۹ ذی الحجہ کے روزہ کی عادت رہی اور اس میں افطار کے بعد ایک پیالی چائے کے علاوہ رات کو کچھ نہیں کھاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں کل کو دعوت ہے۔ میرے سب گھر میں روٹی نہ پکتی تھی، ن آتی تھی، اب تو آٹھ دس برس سے مہماںوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معمول چھوٹ گیا اور مہماںوں کی وجہ سے بہت اہتمام سے روٹی پکتی بھی ہے، مگر اس سے پہلے سالہا سال تک یہ دستور رہا کہ تین دن تک میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی اور میرا ایک تفریحی فقرہ بھی بہت مشہور تھا کہ اگر قربانی کے گوشت کے ساتھ روٹی بھی دعوت کا جزء ہوتی تو صدقہ قطر بھی ایامِ اضحی میں ہوتا۔ اس زمانے میں اگر کسی مہماں کے واسطے روٹی کی ضرورت پیش آتی تو بازار سے منگوانی پڑتی میرے کاربنکل کے انجکشن ۸۸ ذی الحجہ کو لگے، سب تیارداروں نے ممع حضرت قدس سرہ کے ڈاکٹر صاحب پر زور دیا کہ یہ پرہیز بالکل نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب نے جو میرے بہت ہی کرم فرماتھے اور بعد میں تو اور بھی زیادہ ہو گئے، پرہیز کی بہت ہی تاکید کی۔ ان بیچاروں کو میرے معمول

یادستور کچھ معلوم نہ تھا انہوں نے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ دیکھئے چار پانچ دن تک آپ گوشت کے سوا کوئی چیز نہ کھائیں۔ ایک دم مجلس میں قہقہہ شروع ہو گیا۔ میرے حضرت راچوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے گئے ”جس کو اللہ حلا وے اس کو کون رو کے؟“ آپ یہ سب چیزیں چھوٹ گئیں، میکھا نہیں سب ہر ابر ہو گیا، گوشت کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی لیکن ترجیح تو ہے ہی۔

آج کل ہمارے علی گڑھ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے لیے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا ملہ پریشگرا ہوا ہے جس کے بڑھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کڑھ کا گوشت تیرے لیے زیادہ مفید ہے، دوسرے درجے کے مرغے کا اور بھی میرے گوشت کے قصے بڑے عجیب ہیں۔

### سفر سے وحشت:

(۷)..... میری بڑی عادتوں میں جو ہمیشہ سے ہے۔ ”سفر سے وحشت ہے۔“ یہ ابتداء ہی سے میری عادت اور طبیعت ثانیہ بن گئی۔ اس کی ابتداء جیسا کہ میں اپنے متعدد رسالوں میں اور غالباً الاعتدال میں لکھ چکا ہوں، اپنے والد صاحب کے ابتدائی زمانہ میں کہیں نہ جانے پر جروہ پابندی تھی اور وہ میرے لیے ایسی عادت بن گئی کہ اب نہیں بلکہ ساری عمر سے سفر میرے لیے ایک مصیبت بنا رہا۔ جہاں کہیں سفر ہوتا تو سفر سے تین دن پہلے سے اس کی وحشت اور بلا مبالغا اس کی فکر سے بخار اور واپسی کے بعد کئی دن تک اس کا تکان اور خیازہ، بخار، سر میں درد۔ یہ چیزیں ہمیشہ سے بڑھتی ہی رہیں اور اپنے دوا کا بر مرشدی حضرت سہارنپوری قدس سرہ اور ان سے بھی بڑھ کر حضرت شیخ الاسلام مدظلی قدس سرہ۔ ان دونوں کو دیکھتا تھا تو ہزار شک کرتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کو دیکھنے والے ابھی تک کثرت سے موجود ہیں کہ ان کے یہاں جمعرات کی شام دیوبند سے دہلی جانا اور عشاء کے بعد دہلی کے ایک اجتماع میں صدارت کرتا اور پھر ایک جلسہ شوریٰ میں شرکت کرنا اور اس کے بعد راتوں رات ناونتہ آنا، صبح کی نماز کے بعد وہاں جلسہ میں تقریر کرنا اور اس کے بعد سنوار پور گیا رہ بیجے کے قریب ایک جلسہ میں تقریر کرنا اور جمعہ کی نماز کے بعد بہت میں تقریر کرنا اور اس کے بعد ساڑھے چار بیجے کے ایک پریس سے دیوبند جانا اور عشاء کے بعد سبق پڑھانا۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، اس قسم کے میسیوں و اقاعات ہمیشہ کا معمول تھا۔

میرے حضرت مرشدی قدس سرہ بذل نہایت اطمینان سے لکھواتے رہتے۔ حضرت منتظم خاص حاجی مقبول احمد صاحب بستر وغیرہ سب مکمل کر کے اس میں کپڑے وغیرہ رکھ کر باندھ کر گاڑی کے وقت تانگہ منگا لیتے اور جب تانگہ آ جاتا تب اوپر اطلاع کرتے کہ ”تانگا آ گیا“ اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نہایت اطمینان سے جو عبارت لکھوار ہے ہوتے اس کو پوری کرتا تے اور وہاں سے اٹھتے، کھڑے کھڑے مکان پر تشریف لے جاتے اور وہاں سے آ کر تانگہ میں بیٹھ کر جاتے اور میں سوچتا

رہتا کہ گاڑی کا وقت قریب آگیا، حضرت کو فکر نہیں اور مجھے دو دن پہلے سے "السفر قطعہ من العذاب" کا اتنا ہم ہوتا کہ کوئی کام اطمینان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احباب کے اصرار اس قار پر ہوتے رہتے ہیں اور واقعی میرا دل بھی دوستوں کی خواہش کو پورا کرنے کو چاہتا ہے مگر "خونے بدرابہانہ بسیار" سفر کی ہمت بالکل نہیں ہوتی، اس قدر طبیعت واقعی یمار ہو جاتی ہے کہ دوستوں کو اس کا یقین آنا بھی مشکل ہے۔

جب میرے اعزہ علی گڑھ میں پڑھتے تھے، غالباً پچاس برس پہلے، علی گڑھ کا ارادہ اور وعدہ ایک پارٹی سے ہوا، جب فارغ ہو کر آئی تو دوسری پارٹی سے ہوا، جب وہ بھی فارغ ہو کر آئی، تو تیسرا پارٹی سے ہوا اور واقعی ارادہ اور وعدہ پختہ ہوا۔ مگر مقدر، سب اعزہ انگریزی پڑھ کر اور ڈگریاں حاصل کر کے آگئے۔ ہم ارادے ہی میں رہے۔ مگر اس کا عمل اب آنکھوں کے علاج نے کرا دیا کہ دو (۲) ماہ تو علی گڑھ میں ایک ایک ماہ کا قیام ہو چکا، آئندہ کی خبر نہیں اور یہاں کے دوران قیام ہی میں یہ "آپ میتی" لکھوار ہا ہوں۔

تقریباً پچاس سال ہوئے، بعض دوستوں کے شدید اصرار پر مظفر نگر کا وعدہ کیا اور واقعی پختہ ارادہ تھا اور پختہ وعدہ تھا۔ لیکن اپنے سفر کی وحشت کی وجہ سے مٹا ہی رہا۔ اب تو وہ حضرات بھی ختم ہو گئے، جن سے وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین!

### حضرت مدّنی کے گھنٹوں کا علاج بھلی کے ذریعے:

حضرت قدس سرہ ایک مرتبہ ۱۵ اربیع الاول ۰۷ میں مظفر نگر گھنٹوں کا علاج بھلی سے کرانے کے لیے ایک عشرہ کے واسطے تشریف لے گئے، جن احباب سے وعدہ تھا اور وہ حیات تھے، انہوں نے اس ناکارہ کو بہت ہی زور سے لکھا کہ تمہارا اتنے دنوں سے وعدہ ہے اور اس وقت حضرت مدّنی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں مقیم ہیں بہت اچھا موقع ہے، عیادت بھی ہو جائے گی ہمارا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور انہوں نے حسن ظلن پر کہ حضرت قدس سرہ بھی پسند فرمائیں گے، حضرت سے ذکر کر دیا۔ حضرت کا گرامی نامہ اسی ڈاک سے فوراً آیا کہ میری طبیعت بحمد اللہ بہت اچھی ہے، تم مظفر نگر کا ہر گز ارادہ نہ کرنا میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو تین دن میں پہلے سہار پورا آؤں گا پھر دیوبند جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت قدس سرہ مظفر نگر سے مع سامان و حشمت و خدمت میں سوار ہو کر، ان سب کو تو دیوبند اتار دیا اور تہبا سہار پور تشریف لا کر اگلی گاڑی سے واپس ہوئے۔

علیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے نواسے یچایعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ کو اس ناکارہ سے محبت عشق کے درجے میں تھی اور ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی دو تین میئنے اس ناکارہ کو گنگوہ کی حاضری سے خالی گیا ہو، وہ اپنی والدہ حضرت صاحبزادی صاحبۃ نور اللہ مرقدہ کی طرف سے ہمیشہ

گنگوہ کے جانے پر اصرار کیا کرتے تھے، یا وجود یکہ ان کی حیات میں بہت کثرت سے حاضری ہوتی تھی، مگر ان کی محبت اس کو کافی نہ سمجھتی تھی اور میرا یہ عذر کہ حضرت قدس سرہ کا حرج ہوتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت قدس سرہ سے گنگوہ چلنے کی درخواست کی اور آجھے والوں کا بھی بہت اصرار ہو رہا تھا، حضرت نے دونوں جگہ کا قبول فرمایا۔ قرار یہ پایا کہ اسی وقت ریل سے نانوتہ اور ظہر کے بعد نانوتہ سے آجھہ اور شب کو آجھے قیام کے بعد علی الصباح گنگوہ اور دوسرے شام کو گنگوہ سے واپسی۔ حضرت قدس سرہ نے منظور کر لیا کہ دو دن میں تین جگہ نمٹ جائیں گی۔ میں حضرت کی خدمت میں ڈاک لکھ رہا تھا، پچھا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو آپ کے حرج کا عذر نہیں۔ حضرت خود تشریف لے جا رہے ہیں، میں چیز۔ واقعی کوئی عذر نہ تھا اور یہ ناکارہ بھی ہم رکاب ہو گیا۔ پچھا یعقوب کی ایک بہترین عادت یہ تھی کہ جب ریل کا سفر ہوتا، ہر اشیش پر اُترتے، کسی واقف سے ملاقات ہو جائے، کسی نے جانے والے کے ہاتھ کہیں پیام بھیج دیں، مجھے یہ عادت معلوم تھی، میں رامپور کے قریب حضرت کے قریب ہو گیا۔ جب رامپور کے اشیش پر اُترے، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ تمیل میں تو حاضر ہو گیا مگر میرے پاس تو بذل کی بہت سی کاپیاں مقابلہ کے لیے رکھی ہیں۔ یہ خیال تھا کہ حضرت کا کوئی سفر ہو گا تو مقابلہ کر لوں گا، حضرت نے نہایت تیزی سے فرمایا کہ وہاں کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ حضرت نے حکم نافذ فرمادیا، اس وجہ سے ہمت نہیں پڑی اور فرمایا کہ نانوتہ سے فوراً واپس ہو جاؤ۔ نانوتہ پہنچنے کے بعد جب آجھے جانے کے لیے سواریوں کی تنظیم شروع ہوئی اور حضرت قدس سرہ کی گاڑی میں اس سے کارکانا م بھی تجویز ہوا تو حضرت قدس سرہ نے فوراً فرمایا کہ نہیں یہ آگے نہیں جائے گا۔ اس کو واپس ہونا ضروری ہے۔ اس وقت کا پچھا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہمیشہ یاد رہے گا۔ فرمانے لگے کہ میں قصد اس وقت سے تیرے ساتھ ہوں کہ کہیں پچکے سے تو اڑنگانہ لگادے، میں نے تو تجھے حضرت سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، تو نے کس وقت بات کی بس اتنا بتا دے؟ میں تو چپ اور حضرت نہایت زور سے فرمائے ہیں، نہیں نہیں اس کا جانا ضروری ہے اور وہ مرحوم بار بار پوچھتے رہے مجھے بتا دے بات تو نے کہاں کی؟ جب میں یہاں پہنچا تو حضرت قدس سرہ کے ایک عزیز جو ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ ان کا ایک عزیز اس سے کارکی جگہ بذل میں لگ جائے، میری نانوتہ سے واپسی پر نہایت غصہ سے فرمانے لگے کی یہ باتیں ہوں دل میں گھر کرنے کی، اس کا دل بالکل سفر کو نہیں چاہتا تھا، میں اس کے چہرے کو خوب دیکھ رہا تھا، حضرت کے حکم کی تعیل میں چلا گیا تھا، راستے میں ایسی پڑھائی ہو گی جس سے حضرت بھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ میرے کام کی وجہ سے جا رہا ہے۔ پھر مجھے سے فرمانے لگے کیا پڑھایا تھا؟ میں نے کہا

کا پیار مقابلہ کی رہ گئی تھیں، فرمانے لگے ضرور رہ گئی تھیں، سفر کو دل نہ چاہ رہا تھا، میں بھی تو صبح کو دیکھ رہا تھا کہ کس مجبوری کو تو نے بیاں کی تھی

بہت سے واقعات ہیں جو یاد آتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ تو مجھے شیخ البندقدس سرہ کا بھی اتنا کرننا پڑا۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ البندقدس سرہ پر جب کسی ایسی جگہ جانے پر اصرار ہوتا جہاں جانے میں کوئی دینی امر مانع ہوتا، اول تو انکار فرماتے، لیکن جب زیادہ اصرار ہوتا اور طبیعت کے خلاف کوئی مجبور کرتا تو اسہال کی گولی نوش فرمائیتے۔ مجھے تو ایک آدھ دفعہ اس کا سابقہ پڑا، ورنہ میرے لیے تو سفر کا تصور ہی یہ کاری کے لیے ہمیشہ کافی سے زیادہ رہا۔

### بری عادت سفارشوں سے نفرت:

(۸)..... میری بری عادتوں میں سے ایک نہایت شدید اور بدترین عادت یہ ہے کہ ”مجھے سفارش سے ہمیشہ وحشت رہی۔“ میں نے سنا کہ میرے دادا صاحب نور اللہ مرقدہ جب نواب چھتاری کے یہاں جاتے تو اپنے ساتھ اتنی درخواست لاتُعُذُّ وَ لَا تَحصِّنَ لے جاتے کہ حد نہیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کو تو ہمیشہ خود بھی دیکھا کہ حضرت قدس سرہ سے جو شخص جہاں بھی سفارش چاہتا ہے مہتمم مدرس ہو چاہے وزیر اعلیٰ صوبہ ہو یا وزیر اعلیٰ مرکز فوراً اس کے نام کی سفارش کر دیتے۔ میں تو بعض دفعہ عرض کر دیتا تھا کہ آپ سے اگر کوئی یہ سفارش کرائے کہ پنچتھ صاحب وزیر اعلیٰ استغفاء دے کر مجھے اپنی جگہ وزیر اعلیٰ کر دیں تو آپ اس کی بھی سفارش فرمادیں، حضرت ہنس دیتے۔

مجھے سفارش ہمیشہ اسی واسطے گرانی رہی کہ اب سفارش، سفارش کے درجہ میں نہیں رہی، جس کے متعلق ”اشفعوا توجروا ولیقض اللہ علی لسان رسولہ ماشاء“ ارشاد فرمایا گیا ہے، اسی بناء پر مجھے سفارش سے ہمیشہ گھبراہٹ رہی کہ وہ اب سفارش کے درجہ میں نہیں بلکہ وہ اب بار اور حکم کے درجہ میں ہو گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہدیہ کے قبول کرنے کی ترغیب میں وارد ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بخاری شریف میں وارد ہے کہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ہدیہ تھا اب تو رشوت ہے اور رج فرمایا۔

ایک دفعہ میرے عزیز مولوی ظہیر الحسن مرحوم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص میری سفارش قبول نہ کرے تو میری ہمیشہ کے لیے اس سے لڑائی ہو جاتی ہے اس سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، جانا آنا بھی بند کر دیتا ہوں۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ جو میری سفارش رد کردے مجھے اس سے زیادہ

خوشی ہوتی ہے بہبیت اس سے کہ جو اس کو قبول کر لے۔ اس لیے کہ سفارش قبول کرنے والے کے متعلق مجھے یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں اس پر بوجھنہ پڑا ہو۔

اسی بناء پر تقسیم سے پہلے مسلمان حاکم جو بکثرت آتے تھے اور جو مسلمان حاکم آتا تھا وہ کہیں سے آنے سے پہلے اس سیے کارکانا نام سن لیتا تھا اور آنے کے بعد بہت جلد ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا اور میرا ہمیشہ دستور یہ رہا کہ جب کوئی مسلمان حاکم آتا تو ابتدائی ملاقات میں اس کا بہت اعزاز کر کے اس کو بہت اکرام سے درخواست کرتا کہ آئندہ کرم نہ فرمائیں اور جب وہ بہت تعجب سے پوچھتے کہ کیوں؟ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ بہت کثرت سے حاضر ہوں تو میں ان سے کہتا کہ آپ تو حاکم ہیں آپ تک تو لوگوں کی رسائی مشکل اور جاتے ہوئے ذریں گے اور اس غریب پر ہر شخص مسلط رہے گا کہ نجح صاحب، ڈپٹی صاحب، منصف صاحب تیرے یہاں آتے ہیں ہماری سفارش لکھ دے۔ یہاں کارہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔

ایک آدھ صاحب نے تو میری درخواست قبول کی اور دوڑ پیلوں کے متعلق جن کے نام کے اندر تردد ہے اور ان سے بے تکلفی بہت ہو گئی تھی انہوں نے کہا، آنا کبھی نہ چھوڑیں گے آپ جتنا منع کریں، اس کا اطمینان دلاتے ہیں کہ تھق میں آپ کی سفارش قبول نہ کریں گے میں نے ان سے بہت ہی کہا کہ قبول کرنا تو آپ کا کام ہے اور بعد کا کام ہے میں تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔

اس سلسلہ میں ایک عجیب طفیلہ یا واقعہ یا قصہ پیش آیا۔ میرے ایک عزیز الحاج مولوی محمود احسن کا ندھلوی اسلامیہ اسکول کے ہمیشہ مدرس دوم رہے، مگر بھی کبھی وہ پرنسپل کے نہ ہونے کی وجہ سے پرنسپل بھی بننے رہتے تھے۔ چونکہ کثرت سے میرے یہاں آمد و رفت تھی، اسکولوں کے بھی طلبہ کو میری عزیز داری کا حال معلوم تھا، صحیح سے لے کر شام تک سینکڑوں نہیں، ہزاروں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، لوگ مجھ پر مسلط ہو گئے کہ ماشر صاحب تمہارے عزیز ہیں، کل کوڑ کے کام امتحان ہے آپ سفارش کر دیں۔ اول اول تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امتحان میں سفارش ہرگز نہ چاہیے۔ میں تو خود ایک مدرسہ کا ذمہ دار ہوں اور امتحان میں سفارش کا سخت مخالف ہوں۔ مگر میں جتنا وجہ و دلائل بیان کرتا اتنے ہی زیادہ مجھ پر خوشامد و اصرار اور مدرسہ اور شہر کے اکابر صحیح سے شام تک میں عاجز آگیا، کوئی کام نہ کرسکا۔ دو پھر تک تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ سمجھانا بالکل بے کار ہے تو میں نے ظہر کے بعد سے کہنا شروع کیا اچھا کل صحیح کو آپ آئیے میں ضرور سفارش کروں گا اور مغرب کے بعد میں نے اپنے عزیز بھائی محمود احسن کو آدمی بھیج کر بلا یا اور میں نے اپنی مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انکار پر تو مجھے کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی، اس کی وجہ سے تم کو بلا یا کہ میں کل صحیح سے جو آئے اس

کی سفارش بغیر پڑھ لکھنی شروع کر دوں گا، میرے اور تمہارے دونوں کے امن اور خلاصی کی صورت ایک ہی ہے کہ جو میری سفارش لے کر جائے میرا نام دیکھ کر بغیر پڑھے پھاڑ کر اس کے منہ پر پھینک دینا کہ ان کا کام تو یہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سفارشیں لکھتے رہتے ہیں۔ اول تو بھائی محمود نے میری تجویز پر عمل کرنے سے شدت سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر جب میں نے ان کو سمجھایا کہ میری اور تمہاری دونوں کی خلاصی اسی میں ہے۔ اگر میری سفارش کے بعد اتفاقی کوئی شخص خود بھی پاس ہو گیا تو لوگ تمہیں متهم اور ملزم قرار دیں گے کہ سفارش پر پاس کر دیا۔ بڑی دیر میں ان کی بھی بات سمجھ میں آئی اور اگلے دن علی الصباح میں نے سفارشات زوردار لکھنا شروع کیں اور بھائی محمود نے اللدان کو جزاۓ خیر دے، میری تجویز پر عمل کرنا شروع کیا۔ دس بارہ ہی لکھی ہوں گی کہ اسکوں میں اس کی شہرت ہو گئی کہ ماسٹر صاحب اور ان کے خانگی تعلقات خراب ہیں اور اس کی جستجو شروع ہوئی کہ میری ان کی اڑائی ذاتی ہے یا خاتمدانی ہے اور اس کا منشا کیا ہے؟ مجھ سے اور ان سے تو کسی نے براہ راست نہ پوچھا مگر میں سنتا رہا کہ اس کی جستجو رہی ہے۔ لیکن دس بارہ کے بعد ان کو بھی امن ہو گیا اور مجھے بھی ہو گیا اور یہ بدنامی کہ ان کے آپس کے تعلقات خراب ہیں، میرے اور ان کے لیے بہت آسان تھی اس مصیبت کے مقابلہ میں جو سفارشات پر آتی۔

اپنے اکابر میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا اوسہ اس ناکارہ کے لیے اتباع کو کافی ہے کہ حضرت قدس سرہ بھی اس سے بہت پہلو تھی فرماتے تھے۔ اب بھی اس ناکارہ کو ایے لوگوں سے سفارش سے بہت بار ہوتا ہے جو سفارش کو حکم کا درجہ دیں۔ خود اس یہ کارنے اکابر کی سفارشوں کو بسا اوقات اپنی نااہلیت سے قبول نہیں کیا۔

دارالعلوم کی ایک اسٹرائک میں میرے ایک عزیز بہت قریبی، شریک تھے میں نے مظاہر علوم میں شدت سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی مظاہر علوم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ میرے اس عزیز کے والد مرحوم جو میرے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے بھی اخض الخواص، وہ مرحوم اپنے بچے کو لے کر آئے۔ ہمارے ناظم صاحب نوراللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرقدہ ایسے موقعوں پر بلکہ بسا اوقات اس کی نوبت آتی تھی یہ کہہ کر الگ ہو جاتے تھے کہ زکریا سے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم بزرگ یہ سن کر کہ زکریا سے بات کر لیجئے بہت خوش ہوئے کہ اب تو گھر کی بات ہو گئی۔ مرحوم نے مجھ سے فرمایا کہ اسے مظاہر میں داخلہ کے واسطے لاایا ہوں ناظم صاحب نے تیرے حوالے کر دیا، میں نے عرض کر دیا کہ مدرسہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی مظاہر میں داخل نہ ہوگا۔ اول تو مرحوم نے مجھ سے شفقت سے فرمایا پھر ذرا اذانت کر فرمایا۔ میں نے کہا یہ میری ذات کا قصہ نہیں ہے مدرسہ کا قصہ ہے اور

مدرسہ کی مصالح ہمیشہ ذاتی تعلقات پر مقدم ہونے چاہئیں۔ مرحوم نے فرمایا کہ اگر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سفارش لکھوا کر لاوں تو کیا کرے گا؟ اگرچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کا مسئلہ بہت مشکل تھا مگر مرحوم کے تعلقات پر مجھے یہ اندیشہ ضرور ہوا کہ اگر مرحوم نے درخواست کی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ قانونی اور آئینی الفاظ میں ضرور کچھ تحریر فرمادیں گے۔ میں نے مرحوم سے عرض کیا کہ اگر حضرت قدس سرہ نے سفارش فرمائی تب تو میں حضرت سے عرض کر دوں گا کہ حضرت مدرسہ کا قصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حضرت بریہ رضی اللہ عنہا نے قبول کرنے سے معدورت کر دی تھی اور اگر حضرت نے بحیثیت سرپرست حکم دیا اور یہ تحریر فرمایا کہ میں بحیثیت سرپرست حکم دیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی عذر نہ رہے گا اور نہ صرف عزیز موصوف کو بلکہ جتنوں کے لیے حضرت فرمائیں گے داخل کر لیا جائے گا۔ یہ خود میں بھی سمجھتا تھا اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تحریر فرماسکتے ہیں؟

### مدرسہ کے مصالح ذاتی مصالح پر مقدم ہیں

اور میرے حضرت مدینی کے یہاں سفارش کا تو صلائے عام تھا، روز مرہ کا یہی قصہ رہتا تھا، جہاں تک مدرسہ کے حدود میں گنجائش ہوتی، قیل ارشاد میرے لیے فخر تھا، لیکن جہاں میرے خیال میں مدرسہ کے قوانین کے خلاف ہوتا وہاں کسی موقعے پر معدورت کر دیتا۔

ایک صاحب ایک مرتبہ بڑی زوردار سفارش حضرت مدینی کی لائے خط میرے نام تھا، میں نے خط کو پڑھ کر بے ادبی کے ساتھ ایسے رکھ دیا کہ جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ صاحب کہنے لگے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ خط حضرت کا میرے نام ہے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ مجھ سے جواب طلب کریں، میں حضرت کے خط کا اپنے آپ جواب لکھ دیجئے کہ میں قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو جواب دینے کو اس میں لکھا نہیں۔ کہنے لگے پھر میری سفارش واپس کر دیجئے، میں نے کہا یہ حضرت کا والا نامہ میرے نام ہے، آپ قاصد ہیں، آپ نے خط پہنچا دیا، آپ دوبارہ حضرت سے لکھوا کر لایے کہ میں نے جو خط بھیجا تھا وہ انہی کے ہاتھ واپس کر دیا جائے، بہت دیر تک انہوں نے مجھے حق کیا، میں نے کہا آپ کا اس خط سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ کے ہاتھ حضرت نے ایک خط بھیجا ہے جیسا ڈاکیہ کے ہاتھ سمجھتے ہیں، کہنے لگے میرے متعلق ہے، میں نے کہا آپ کو کیا حق تھا اس خط کے پڑھنے کا جو پرے نام تھا؟ کہنے لگے میں نے ہی لکھوا یا تھا، میں نے کہا آپ نے حضرت سے اس کی اجازت لے لی تھی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے؟ بہر حال میں نے یہ خط واپس بھی نہیں کیا اور قیل بھی نہیں کی اور جب کئی روز کے بعد حضرت قدس سرہ تشریف لائے

تو میں نے زبانی معدودت کر دی حضرت نے فرمایا میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، سفارش ہی تو کی تھی، میں نے عرض کیا کہ بعضوں کی سفارش حکم کا درجہ رکھتی ہے، حضرت مدینی کے ساتھ تو اس نوع کے بہت سے واقعات پیش آئے مدرسے کے طلباء اور ملازمین کے سلسلہ میں بھی اور سیاسی مسائل میں بھی۔

(۹) ..... میری بڑی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ میں تعلیمی سلسلوں میں چند امور میں

اکثر علماء عصر کا شدید مخالف ہوں:

(الف) ..... میرا اور میرے اکابر کا جو دستور رہا وہ طلبہ کو اخبار بینی، جلسہ بازی اور مجلس سازی ان سب چیزوں کو طالب علم کے لیے میں مہلک سمجھتا ہوں ہماری طالب علمی کے زمانے میں بلکہ ابتداء درسی کے زمانے میں بھی طلبہ تو طلبہ مدرسین کے یہاں بھی اخبار بینی کا دستور نہ تھا، پہلے بھی اس سلسلہ میں لکھوا چکا ہوں، میرے خیال میں طلباء کی اسٹرائکوں میں اور ان فسادات اور ہنگاموں میں جو مدارس عربیہ میں کثرت سے ظہور پذیر ہیں اخبار بینی کو بہت دخل ہے، وہ اخبارات میں اسکو لوں کے، مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور یوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ وہ وارثان انبیاء علیہم السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام لیوا ہیں، وہ اس قابل تھے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقیداء بنتے اور وہ احمد دوسروں کا تھوکا چاٹ کر دوسروں کے مقیدی بنتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تورات کا نسخہ پڑھنے پر چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر! تجھے تیری میا روئے (یعنی تو مر جا) دیکھتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کے آثار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب چہرہ انور کو دیکھا تو خوف زده ہو کر دوز انو بیٹھ کر جلدی جلدی "أَغُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ"، "أَخْرُجْ هَنَا شَرُوعْ" کیا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے۔ ہم لوگ اللہ کو رب مانتے پر، اسلام کو اس کا دین مانتے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے پر راضی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو وہ خود میرا اتباع فرماتے۔ (کذا فی المشکون)

اور اسی نوع کے دوسرے قصے میں ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسرا قصہ نقل کیا گیا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم یہود سے بعض ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، آپ کی رائے اور اجازت ہو تو ہم بعض ان میں

سے لکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو اپنے دین کے بارے میں ایسا تردد ہے جیسا یہود و نصاریٰ مترد ہے، میں تمہارے پاس ایک صاف ستری شریعت لے کر آیا ہوں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میرے اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ (مشکوٰۃ)

اس نوع کے بہت سے مضامین احادیث میں آئے ہیں اور ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تو بعد کی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، ہم کو اخبارات چاہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ فرانس، امریکہ کیا کہتے ہیں، کافر لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کا تھوکا چانٹے میں وہ مزہ آتا ہے کہ شہد کھانے میں بھی وہ مزہ نہ آئے، اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ سن لو یا دیکھ لو تو اس کے لیے وقت نہیں ملتا اور اخبارات و رسائل کے لیے اس باقی تودر کنار نماز کی جماعت بھی فوت ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر نہیں، جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ جب میں طلبہ کے متعلق یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کی بجائے دوکان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکھ رہے ہیں تو میں ہی جانتا ہوں کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔

(ب)..... میں مدارس عربیہ کے درمیان میں ہندی، انگریزی کے داخل کرنے کا ہمیشہ سے شدید مخالف ہوں۔ ہمارے اکابر نے ان مدارس میں انگریزی کو داخل کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی، ہمیشہ مخالفت فرمائی۔ اسی طرح ہندی کا حال ہے، میں مدارس عربیہ میں اس کے داخلے کا بھی سخت مخالف ہوں۔

جب یہ ناکارہ دارالعلوم دیوبند کا گمپہر شوریٰ تھا، ایک صاحب نے ضروریاتِ زمانہ سے متاثر ہو کر بہت زور شور سے دارالعلوم کے نصاب میں ہندی داخل کرنے کی تحریک کی، میں نے نہایت شدت سے مخالفت کی، میں نے کہا کہ انگریزی اور ہندی کے لیے گاؤں درگاؤں اسکول کھلے ہوئے ہیں یہ لاکھوں میں دو چار بچے عربی پڑھنے کے لیے آگئے ہیں تم ان کو بھی اسی میں دھکیل رہے ہو۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب بھی اس وقت حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بلند درجات عطا فرمائے، میری تائید میں بہت زور دار تقریر انہوں نے فرمائی اور کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ میں ہندی کا کتنا حامی ہوں، مگر میں دارالعلوم کی چاروں یواری میں شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ ہوں، یقیناً اس کو اسلاف کے طرز پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو رکھنا چاہیے۔ اصل محرك صاحب نے ضرورتِ زمانہ پر زور دیا، مولانا مرحوم نے میری وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ان مدارس کی ابتدا میں انگریزی کی ضرورت اس سے زیادہ سخت تھی جتنی آج کل ہندی کی بتائی جاتی

ہے اور میں خود بھی اسی کا ہم خیال ہوں، مگر دارالعلوم کی حدود میں شیخ الحدیث کے ساتھ ساتھ ہوں، مجھ غریب کی آواز میں تو اتنا زور نہ ہوتا مگر مولانا حفظ الرحمن صاحب کے جوش و خروش کو دیکھنے والے اب تک بھی خوب ہیں۔

میں نے پہلے کسی جگہ پر یہ لکھوایا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ باوجود اپنے سیاسی زوروں کے اس ناکارہ کی رائے اپنی رائے کے خلاف قبول فرماتے تھے اور جہاں کہیں ان کی رائے کے بہت خلاف ہوتی وہاں بھی وہ اس سیرہ کار کی رائے کو بغیر نام کے ذکر ضرور کروئیتے تھے، دارالعلوم کے مسائل میں مولانا حفظ الرحمن صاحب کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ بسا اوقات اپنے سیاسی رجحان کی مخالفت کے باوجود دارالعلوم کے مسائل میں اس سیرہ کار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔

(ج)..... اسی طرح سے یہ ناکارہ مدارس عربیہ میں صنعت و حرفت کا بھی شدید مخالف رہا اور ہے، مظاہر علوم میں حضرت قدس سرہ کی حیات تک توجو کوئی اس کا محرك آتا اس سے حضرت قدس سرہ خود نہ لیتے، ہم لوگوں کو نوبت ہی نہیں آتی تھی، لیکن حضرت قدس سرہ کے وصال کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سے اہل خیر نے یہ پیشکش کی کہ آپ شعبہ صنعت و حرفت مدرسہ میں داخل کر لیں۔

حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص سے فرمادیتے کہ حضرت شیخ سے بات کرلو اور مجھ سے جو کوئی کہتا میں یہ جواب دیتا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو مدرسہ میں داخل کریں اور اس کے سارے اخراجات آپ برداشت کریں آپ اس کو شہر میں مستقل شعبہ کی حیثیت سے جاری کر دیں اور جو جو مدرسہ سے فارغ ہوتا رہے گا اور اپنے مستقبل کے لیے درس و تدریس کے نہ ہونے کی وجہ سے سوچ گا تو میں اس کو ضرور مشورہ دوں گا کہ وہ ضرور صنعت و حرفت لے کے، سائل یا فقیر نہ بنے۔

مجھے ان تین چیزوں میں زیادہ مخالفت تجربہ سے ہوئی ہے ابتداء تو اکابر کا طرز عمل ہے کہ تصوف میرے اکابر اور مظاہر علوم اور دارالعلوم کے اکابر کی جان رہی ہے، دونوں مدارس کے اکابر میں شاید ایسا کوئی بھی نہ ہو گا جو کسی سے بیعت نہ ہوا ہو اور ذکر و شغل میں کسی درجہ میں اشتعال نہ ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود طالب علموں کے بیعت کرنے میں حضرت اقدس قطب عالم گناہی نور اللہ مرقدہ کو جس قدر شدت رہی سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ طلب علم کے ساتھ دوسری چیز جوڑ بالکل نہیں کھاتی، اگرچہ طلبہ کی موجودہ بے راہ روی کو دیکھ کر کہ وہ فراغ سے پہلے ہی ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں، متاخرین نے صرف بیعت کو اختیار کر لیا تھا، لیکن ذکر و شغل کی اب بھی اجازت نہیں ہے، اس واسطے کہ علم کے ساتھ خواہ کوئی مشغله ہو وہ علم کے لیے نہایت مضر ہے۔ علم کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ”اتنے تو اپنے آپ سارے کے سارے کو مجھے نہیں دے دے گا،

اس وقت تک میں تھوڑا سا حصہ بھی تجھ کو نہیں دوں گا۔“

یہ اسلاف کے کارناتے کہ وہ علم کو اللہ کے واسطے پڑھاتے رہے اور صنعت و حرفت سے اپنی روزی کماتے رہے، گزر گئے۔ اب تو اس میں نہ مبالغہ ہے اور نہ تصنیع کہ بہت سے ذی استعداد لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے شوق سے یا بڑوں کے جرے سے انگریزی میں لگے اور پھر انگریزی نے ان کو اپنی طرف کھیچ لیا اور ان کے ذی استعداد ہونے کا اب تک قلق ہے، بہت سے دوستوں نے ہمارے ہی مدرسہ میں معین مدرسی کی درخواست دی، بہت حتمی وعدے کیے اور بہت سے وعدے کیے کہ مدرسہ کا ذرا حرج نہ ہوگا اور بقیہ وقت اپنی تجارت میں لگایا لیکن ایک ہی سال کے اندر تجارت نے ان کو اپنی طرف کھیچ لیا اور مدرسہ کو خیر با و کہنا شروع کیا، دنیا کی کشش اور مال و دولت کی کشش فطری چیز ہے، اللہ جل شانہ نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے، سورہ قیامت میں ارشاد ہے:

کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَدْرُوْنَ الْآخِرَةَ الْآيَة

خبردار! ”تم لوگ دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔“

عام حالت دنیا کی یہی ہے، اسی وجہ سے میں ان کا ہمیشہ مخالف رہا اور ہوں کہ یہ سب چیزیں دنیا ہیں جن کی محبت قطری ہے اور علم دین آخرت ہے، یہ کمیت دنیا ہم پر غالب آجائی ہے اور آخرت یعنی علم دین ہم سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو توفیق دے تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تجارت بھی کرتے رہے اور پڑھنے پڑھانے میں اخیر تک مشغول رہے، تجارت نے ان کے کسی کام میں ذرا بھی حرج نہیں کیا، مگر یہ سب شواذ میں سے ہے، دیکھنا عمومی حالت کا ہوتا ہے۔

(د)..... اسی طرح یہ ناکارہ تبدیل نصاب کا بھی سخت مخالف ہو گیا، میں اپنی طلب علم کی تفصیلات میں لکھوا چکا ہوں کہ میں نے درس نظامی کی پابندی سے نہیں پڑھا، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ تدریس میں خود مجتهد تھے، اس لیے اپنی ابتداء مدرسی میں تو تبدیل نصاب کا خط مجھ پر بھی خوب سوار تھا، ۳۵ھ سے ۳۸ھ تک ساری دنیا کے نصاب ڈھونڈ کر منگائے تھے ندوہ کا، اہل حدیث کے مدارس کا، حرمین کے مدارس کا اور دونصاب مرتب کیے، ایک مطول۔ ایک مختصر۔ اول نصاب آٹھ سالہ ان لوگوں کے لیے جن کو پڑھنے کے بعد پڑھانے کے اسباب میسر ہوں، مالی اور گھریلو حالات سے، مثلاً یہ کہ ان کے خاندان میں اوپر سے علم کا ذوق و شوق چلا آرہا ہو، دوسرا مختصر نصاب، سہ سالہ، ان لوگوں کے لحاظ سے جن کے متعلق یہ معلوم ہو کہ یہ پڑھنے پڑھانے کے کام کے نہیں بلکہ یہ پڑھنے پڑھانے کے بعد طبیب یا کاشتکار نہیں گے، شترنج کے کھلاڑیوں کی طرح سے میرا دماغ دن رات ان ہی میں گھومتا رہتا تھا اور بہت ہی غور و خوض سے میں نے یہ نصاب مرتب کیا تھا، اس وقت تو ایک مختصر سار سالہ لکھ کر شائع کرنے کا بھی ارادہ تھا لیکن جوں جوں


تدریس کا زمانہ یا تجربہ بڑھتا رہا، تبدیل نصاب کا خط میرے دماغ سے لکھتا رہا، ایک دو کتاب کا تغیر علوم آئیہ میں ہو جائے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، لیکن فقہ، اصول حدیث و تفسیر اور علوم آئیہ کی اہم کتب کافی، شرح جامی جیسی کتب میں تغیر کا بالکل قائل نہیں ہوں جس کی بہت سی وجہوں ہیں، بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انگریزی نصاب کے آئے دن کے تغیرات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ اگر مدارس عربیہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر دس بارہ برس کے بعد نئی نسل اپنی جوانیاں دکھانی شروع کرے گی اور کیوں نہ کرے گی تو یہ نصاب رفتہ رفتہ وہ شیر بن جائے گا جس کی تصویر اپنی کمر پر کھینچوں چاہی تھی لیکن دم، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک ہر ایک کے بنانے میں جب تکلیف ہوئی تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتا رہا کہ بغیر ذم کا بھی تو شیر ہوتا ہے اور بغیر ہاتھ کا بھی شیر ہوتا ہے۔

(۱)..... درسِ نظامی کی ابتدائی طرح سے ہر حقیق اور ہر بنا اثریہ چاہے گا کہ اس کی تصنیف ضرور داخل نصاب ہو، جس کی نظریہ اپنی ابتداء مدرسی سے لے کر اب تک بارہ خوب دیکھیں، لیکن درسِ نظامی کو اللہ نے وہ متقبولیت عطا فرمائکھی ہے کہ اس میں عمومی کھپت کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے لوگوں کی مساعی اس کے خلاف ناکام ہی ہوئی آ رہی ہیں۔

(۲)..... مروجہ نصاب کی اتنی خدمت ہو چکی ہے، شروع و حواشی ضرورت سے زیادہ لکھے جا چکے ہیں جن کا حال اہل علم کو خوب معلوم ہے، متبدل نصاب کی اتنی خدمت کرنے والے میرے خیال میں اب پیدا نہ ہوں گے اور اگرچہ ہمت والے آستینیں چڑھائیں گے بھی تو جتنی شروع و حواشی درسِ نظامی کی کتب پر سو برس میں لکھی گئی ہیں، ان سے آدمی کے لیے کم از کم پچاس برس چاہیں اور اتنی مدت میں اگر یہ سلسلہ جاری ہو گیا تو نہ معلوم کتنی تبدیلیاں اور پیدا ہوں گی۔

(۳)..... میں دوسروں کو تو نہیں کہوں گا مگر اپنے شاگردوں کو جرأت کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی استعداد جیسی ہے وہ موجودہ نصاب کی کتب کو تو شروع و حواشی کی مدد سے کسی نہ کسی درجہ میں پڑھالیں گے، لیکن کوئی نئی کتاب جس کی نہ شرح ہونہ حاشیہ، تو نوے (۹۰) فیصد ایسے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے، ایک شرح جامی کو لے لو کہ اس کی جگہ اگر ابن عقیل رکھ دی جائے جو مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے اپنے خط کے زمانے میں نصاب میں تجویز کی تھی، تو اس کا پڑھانے والا اگر علامہ زمانہ کی تو ہیں نہ ہو تو میرے خیال میں بہت دشواری سے ملے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی شرح نہیں ملے گی اور شرح جامی کی اردو، عربی، فارسی بے حد شروع ملیں گی، جو مدرسین حضرات سے دیکھی بھی نہیں جائیں گی، ابن ماجہ کی جگہ اگر تیسیر الوصول رکھ دی جائے تو ان دونوں کے شروع بکثرت موجود نہ ہونے کے باوجود مختلف مطالع، مختلف حواشی اس قدر کافی ہیں کہ شروع کی ضرورت نہیں اور تیسیر الوصول کا ایک بھی حاشیہ نہیں ملے گا، ابن ماجہ شریف کے لیے انجام الحاجہ کافی سے زیادہ ہے اور

ایک انجام الحجہ ہی ایسا متبرک حاشیہ ہے کہ اس جیسا تیسری الوصول کے لیے ملنا بھی مشکل ہے، یہ مدرسین کی نئی پوچھن میں سے بہت سے تو اپنی وجاہت اور سفارشوں سے مدرس ہو گئے اور ان کے پڑھنے کا زمانہ ہماری نگاہوں میں ہے۔ اردو کی شرح اور حواشی دیکھ کر کچھ دال دلیہ کر سکتے ہیں، مگر جن کی کوئی شرح نہ ہواں کو اپنی تقریر کے زور سے اڑا دی تو ممکن ہے جس کے متعلق میرا خود ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بعض نو مدرسین جن کی تقریر یخستہ ہو، آج کل جس کاررواج ہے وہ اپنے زور سے چلا تو دیتے ہیں مگر جب خونبیں سمجھے تو طالب علم کیا سمجھے گا۔



## باب چہارم

## حوادث و شادیاں

میری ان ہی بری عادات میں سے ایک بری عادت ساری عمر بچپن سے شادیوں میں شرکت سے نفرت ہے، لیکن اس کے بالمقابل جنازوں میں شرکت کی رغبت، اہمیت۔ دونوں کے چند واقعات آپ بیتی کے لکھواں گا۔

شادیوں میں جانے سے مجھے ہمیشہ بچپن سے وحشت سوار رہی، حالانکہ بچپن میں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو ”وَ نَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ“ پرمجھے عمل کرنا پڑتا تھا اور اس میں کچھ کذب یا تور نہیں تھا کہ امراض ظاہرہ سے زیادہ امراض باطنہ کاشکار رہا اور جوں جوں امراض باطنہ میں کمی ہوتی رہی امراض ظاہرہ اس کا بدل ہوتے رہے۔ اس لیے ”انی سَقِيمٌ“ سے کوئی دور بھی خالی نہیں تھا اور کبھی کبھی شیخ الہند قدس سرہ کے اُسوہ پر بھی عمل کرنا پڑا۔ اگرچہ یہ سیدہ کا برکاتاباع کسی جگہ بھی نہ کرسکا۔

میرے اکابر کے اس میں ہمیشہ دو نظر یئے رہے، ایک حضرت سہارنپوری اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقد ہما کا کہ اگر سفر سے کوئی عذر مانع ہوا تو صفائی سے کہہ دیا کہ وقت نہیں اور فرصت نہیں ہے۔ اس کے بال مقابل حضرت شیخ الہند اور حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ہر دو حضرات رائے پوری نور اللہ مرقد ہم کا یہ معمول رہا کہ یہ لوگ اصرار کرنے والوں کے سامنے بالکل عاجز ہو جاتے تھے اور ہتھیار ڈال دیتے تھے، خواہ کتنی ہی مشقت اٹھاتی پڑے۔ میں نے حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے علیحدہ علیحدہ دو موقعوں پر ایک ہی سوال کیا کہ جب مجبوری اور معدوری ظاہر ہے تو شدت سے آپ کیوں انکار نہیں کرتے؟ دونوں اکابر نے اللہ بلند درجات عطا فرمائے بڑا ہی مقابل اتباع و عبرت جواب دیا، اگرچہ دونوں نے مختلف عبارتوں سے جواب ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ اس کا ذر لگنے لگتا ہے کہ اگر یہ مطالبہ ہو کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو تیرے پاس بھیجا تیری کیا حقیقت تھی، ہم نے ہی تو اس کو بھیجا تھا، تو نے اس کو ٹھکرایا، تیری کیا حقیقت تھی، اس کا کیا جواب دوں گا۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے جس معمول کا اوپر ذکر کیا گیا، وہ یہ تھا کہ جب کوئی مجبور کرتا اور جانے میں کوئی معدوری ہوتی تو کوئی مسہل دوانوش فرمایا کرتے تھے، اسہال کو عذر فرمایا کرتے تھے، اسہال کا عذر رایا کہ ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے، صاف انکار کرنے سے اپنے کو مشقت میں ڈالنا ان اکابر کو آسان تھا۔

## فصل اول.....حوادث

(۱) ..... ۳۲ھ تک تو یہ ناکارہ اپنے والد صاحب کی حیات میں محبوس، قیدی، نظر بند، کہیں جا آ سکتا نہیں تھا۔ اذیقعدہ ۳۲ھ میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اتفاق کی بات ہے جس صبح کو میرے حضرت مرشد العرب والجم حضرت سہار پوری کا جہاز بمبی کی گودی پر لگا اسی صبح کو سہار پور میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ایک عجیب و اقداس وقت کا ہے، یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ بمبی جہاز سے اترتے ہی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ انگریزوں کی قید میں بینی تال حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی حریک کی تفییش میں لے جائے گئے۔ اس سے پہلے بڑی ہی مسٹریں جھوم رہی تھیں۔ کوئی دبی، کوئی بمبی کا سامان باندھ رہا تھا، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک مخلص دوست شیخ حبیب احمد صاحب مرحوم نے پوچھا حال انکہ اس وقت تک کسی بیماری کا اثر تک نہیں تھا کہ مولوی صاحب آپ بمبی جائیں گے یا وہی؟ تو میرے والد صاحب نے جواب دیا تھا کہ میں تو اپنی جگہ پڑا پڑا ملاقات کر لوں گا، وہی حال ہوا کہ حضرت کے تشریف لانے پر وہ حاجی شاہ میں لیئے ہوئے تھے، بہر حال میرے والد صاحب کے انتقال اور میری ابتدائی مدرسی کے بعد سے لے کر ۲۷ء کے ہنگامہ، تقیم ہند کے وقت تک کا کوئی مدرسہ کا طالب علم اور غربی جانب اسلامیہ اسکول کے مجازات میں جو مسجدیں ہوتی تھیں، کسی مسجد کا رہنے والا کوئی طالب علم ایسا نہیں رہا ہو گا جس کو شہلانے اور کفانا نے میں یہ ناکارہ مستقل اشریک نہ ہوا ہو، ابتداءً اکیلا ہوتا تھا اور میرے ساتھ دو چار طالب علم، لیکن ۲۷ھ سے تھی، صدقی، مخلصی مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی بے تعلقی اور تعلق کا قصہ بھی رئیس الاحرار کی طرح بڑا عجیب ہے، علی گڑھ کے قیام میں موقع ملا تو وہ بھی آجائے گا بڑا ہی عجیب قصہ ہے، میرے دست و بازو ہو گئے اور آخر میں تو میری معذوری کے بعد وہی اصل ہو گئے تھے، وہ میرے ساتھ اس مبارک کام میں شریک رہا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے غسل دینا، بالخصوص جن طلبہ کو چیچک نکل آئی ہوا اور اپنے ہاتھ سے کفن پہننا، قبرستان میں دُن تک شریک رہنا۔ البتہ اس سلسلہ میں ایک نہایت بُری عادت یہ بھی رہی کہ تعزیت میں آنے والے کبھی اچھے نہیں لگے، اگرچہ یہ ناکارہ دوسروں کی تعزیت میں اطلاع پاتے ہی پہنچتا۔ اس لیے کہ لوگوں کو بہت شدت سے میرے جانے کا اہتمام ہوتا، بہت شدت سے منتظر رہتے ہیں، لیکن مجھے میری تعزیت کے واسطے آنے والے کبھی اچھے نہ لگے، لا اما شاء اللہ، حضرت مدینی حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ ہماجیے تو مسٹری تھے کہ ان کی آمد سے واقعی تعزیت ہوتی تھی، لیکن عام آنے والوں کو نہایت شدت سے منع کر دیا تھا۔

### حوادث انتقال والد صاحب:

(۱)..... میری زندگی کا سب سے اہم اور ابتدائی واقعہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا حادثہ انتقال جو ۰۴ ذی القعده ۱۴۲۷ھ کو ہوا۔

میرے والد صاحب قدس سرہ کے ذمہ انتقال کے وقت آٹھ ہزار روپے قرض تھے۔ جس کا کچھ حال تذکرہ الحلیل میں حضرت میر بھی لکھے ہے۔ مجھ پر ان کے قرض کا بہت ہی بوجھ تھا کہ اللہ جل شانہ کے یہاں مطالبہ نہ ہو۔ میں نے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد پچا جان نور اللہ مرقدہ کے مشورہ سے دوستوں کو کارڈ لکھے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے ذمہ جو قرض تھا وہ میری طرف منتقل ہو گیا، یہاں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں، وہیں سے دعائے مغفرت و ایصال ثواب اپنی دست و سعیت کے مطابق کرتے رہیں۔ جن سے کچھ لین دین تھا ان کے خط میں یہ اضافہ بھی ہوتا تھا کہ والد صاحب کے ذمہ کچھ قرض ہو تو اس کی تفصیل سے مطلع کریں۔ میرے حضرت قدس سرہ نے تو نئی تال سے واپسی پر میری اور پچا جان کی اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ یوں لکھتا چاہیے تھا کہ ان کا ترک کرتا ہیں ہیں، اپنے قرضہ کے بقدر لے لو۔ میرا بڑا دل خوش ہوا کہ اگر میرے کارڈوں سے پہلے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف آوری ہو جاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف لکھتا تا ممکن تھا اور مجھے یہ لکھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کرتا ہیں لے جاؤ۔ اس موقع پر بھی تمیں عجیب واقعہ پیش آئے:

(الف) والد صاحب کے انتقال کی اس قدر شہرت آن کے آن میں ہوتی رہی کہ تقریباً ۸ بجے صبح کو انتقال ہوا، ۹ بجے تجویز و تکفین سے فراغت ہوئی۔ تکفین میں بہت معركہ رہا، حکیم اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حکیم یعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ جن سے میرے والد صاحب کے بہت ہی خصوصی مراسم تھے، ان کی تمنا خواہش یہ تھی کہ اپنے اپنے باغ میں تکفین عمل میں آئے۔ مگر ہمارے اہل محلہ بالخصوص جناب الحاج فضل حق صاحب جو بانیانِ مدرسہ میں ہیں ان کے صاحبزادے جناب شیخ حبیب احمد صاحب اور ان کے رفقاء اللہ لئے کرتشریف لائے کہ تکفین حاجی شاہ میں ہو گی ورنہ یہاں معركہ ہو جائے گا اور اہل محلہ بھی اس پر مصروف تھے اور چونکہ مولانا محمد مظہر صاحب بانی مظاہر علوم کا مزار مبارک بھی حاجی شاہ میں تھا۔ اس لیے اہل مدرسہ کی رائے بھی وہیں کی ہوئی۔

انتقال کے وقت گھر میں صرف میری والدہ مرحومہ تھیں، (جن کو اسی وقت سے بخار شروع ہو گیا اور دس ماہ بعد بڑھتے بڑھتے تپ دق تک پہنچا کر مورخہ ۲۵ رمضان المبارک لیلۃ القدر میں میرے والد صاحب کے پاس ہی پہنچا دیا۔) اس وقت گھر میں صرف میری چھوٹی بہن مرحومہ جس کی عمر اس وقت غالباً تیرا (۱۳) چودہ (۱۴) برس کی ہو گی اور اہلیہ مرحومہ تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ مجمع رات

تک لا تعد ولا تحصی لوث پڑا، کھانے کی مہماںوں کے لیے انتظام کرنے کی کوئی صورت نہ تھی بجز اس کے میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگردانِ رشید ان شام تک بازار جاتے آتے رہے، روئی کچوری اشیشن تک جہاں جس دکان پر ملی وہ بیچارے خرید کر لاتے رہے۔ جہاں تک یاد ہے تین چار سور و پے کی صرف کچوریاں منگوائی تھیں، جو دکاندار شام تک پھرتی سے پکاتے رہے، یوں یاد پڑتا ہے کہ ایک پیسے کی ایک اچھی کچوری آتی تھی۔ میں بھی خواص کے ساتھ شرکت کرتا تھا تا کہ اصرار سے ان کو کھلاوں۔ اتنی کچوریں اس سے پہلے نہ عمر بھر میں کھائیں بلکہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں، نہ آیندہ کو کوئی احتمال۔ میرالوگوں کے کھانے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھانے پر میں نے اپنے کاؤنٹ سے کئی فقرے سے۔ ایک یہ کہ اس کو اپنے باپ کے مرنے کی بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ دوسرے یہ کہ باپ کی زندگی میں بڑی قید میں رہتا تھا، آج آزادی ملی ہے۔ بعض ناواقف آپس میں یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہ اس کے باپ نہیں معلوم ہوتے، اس کی والدہ کے دوسرے خاوند ہوں گے۔

### تفصیل ادا بیگی قرض:

(ب) میرے والد کے ذمے آٹھ ہزار قرض تھا اور میری عمر تقریباً نیس (۱۹) سال تھی، قرض خواہوں کو یہ فکر ہو گیا تھا یہ رقم ماری گئی۔ ایسے خصوصی تعلق رکھنے والوں نے بھی ایسے شدید تقاضے کیے جس کا وابستہ بھی نہ تھا۔ اس سال مالی حیثیت سے مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی، شاید اس کی تفصیلات کہیں آجائیں۔ مالک الملک کے اس قدر احسانات لا تُعَدُّ ولا تحصى برے ہیں کہ ”وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُّوْهَا“ کا اعتقاد ہی نہیں عملی تجربہ ہے۔

(ج)..... میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تجارتی کتب خانہ اشتہاری قیمت سے تو قرض کی حیثیت سے کچھ زائد تھا، لیکن تجارتی اور نیلام کی صورت سے قرض سے بہت کم تھا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے مخلص دوست عالی جانب شاہزادہ حسن صاحب رئیس بیٹ مرحوم کا یہ اصرار تھا کہ میں کتب خانہ کو فوراً بچ دوں اور اس کے بعد قرض جتنا باقی رہ جائے اس کو مرحوم ازراہ کرم اپنے پاس سے ادا کریں گے اور میں مرحوم کے یہاں کسی دوسری جگہ ملازمت بچوں کے پڑھانے کی اختیار کروں۔ میں نے اس تجویز کا شدت سے انکار کر دیا۔ اس پر شدید ناراض ہو گئے۔

(د)..... میری ہمیشہ مرحومہ چونکہ نابالغ تھیں اور مجھ سے حساب کا رکھنا بہت مشکل تھا، قرض کا بھی بڑا مرحلہ تھا، اس لیے میں نے مرحومہ کی طرف سے اپنے چچا جان کو وکیل بنایا اور کانڈ حلہ کی نہیاں والی جائیداد مسکونہ اور صحرائی کا حساب لگا کر والدہ اور دادی اور ہمیشہ کی طرف لگا دیا جو بہت

تحوڑی تھوڑی مقدار میں آیا اور کتب خانہ جس کی مقدار بہت ہی کم تھی اپنی طرف لگالیا اور قرصہ بھی اپنی طرف لگالیا اللہ نے وہ احسان فرمایا ہے کہ آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کسی نواب یا باوشاہ کو یہ وسعت کہاں حاصل ہو گئی جو اس سے کار کو حاصل ہے۔ البتہ ابتدائی ایک سال لوگوں کے اس اندیشے سے کہ رقم ضائع ہو جائے گی مجاہدے کا ضرور گزر را۔ میرے والد صاحب تور اللہ مرقدہ سے چند مخلص دوست حکیم خلیل صاحب دیوبندی شہر پیوری مقیم کحالہ پار جو خود تو مال دار نہیں تھے مگر ان کے محلہ کے متعدد نور باف متمول بہت معتقد تھے اور محلہ پٹھانپورہ کے متعدد پیے والے اور مولانا منفعت علی صاحب سابق وکیل شہر پیور جو تقسیم کے بعد کراچی جا کر انتقال کر گئے اور سب سے آخر میں میرے مخلص، میرے محضِ اعظم جناب الحاج جبیب احمد صاحب جن کے صاحبزادے بہاولپور میں افسر الاطباء رہ کر انتقال فرمائے، ساکن محلہ منڈی کلاں یہ سب میرے والد صاحب قدس سرہ کی وجہ سے مجھ پر شفیق تھے، چونکہ لوگوں کے مطالبے تھے، میں ہر دن کے لوگوں سے وعدے کر لیا کرتا تھا کہ کل گوانشاء اللہ ادا کر دوں گا۔ چوتھے گھنٹے کا سبق پڑھا کر دارالطلبہ سے سیدھا کحالہ پار جاتا، حکیم خلیل صاحب سے کہتا کہ آج شام تک پانچ سو کے دینے کا وعدہ ہے، وہ مجھے اپنے مطب میں بٹھا کر ایک پنسل اور ایک کاغذ لے کر اپنے معتقد نور بافوں میں جاتے جوان کے گھر کے قریب رہتے تھے اور جا کر کہتے، بھائی ہمارے مولوی صاحب کو پیسے چاہئیں، یہ لوگوں کیا دے گا؟ کوئی دس دیتا، کوئی میں دیتا، کوئی کم و بیش، وہ پندرہ نیس منت میں ایک فہرست لکھ کر لاتے جس پر نام، رقم، وعدہ درج ہوتا تھا، اس فہرست کو اپنے قلم دان میں رکھتے اور میرے پاس تشریف لَا کر مجھے دوسرا پرچہ لکھواتے۔ فلاں تاریخ کو دس روپے، فلاں تاریخ کو بیس روپے، فلاں میں پندرہ، فلاں میں پچیس۔ میں یہاں سے نہ کرنو را پٹھانپور جاتا اور وہاں بھی اس دن کا مطالبہ پورا نہ ہوتا تو مولانا منفعت علی صاحب کے پاس جاتا جو اس زمانے میں محلہ مطربان میں رہتے تھے۔ جہاں میری غرض پوری ہو جاتی واپس آ جاتا اور آخری درجے میں جناب الحاج جبیب احمد صاحب کے پاس جاتا، وہ خود بھی پیسے والے تھے اور ان کے پڑوئی بھی۔ وہ صورت دیکھتے ہی پوچھتے کتنی سکر باقی ہے؟ میں کہتا کہ حاجی جی آج تو بہت باقی ہے، آٹھ سوا بھی باقی ہیں، وہ جاتے اور حصہ کسر ہوتی فوراً لادیتے۔ یہ روزانہ کا معمول اس وجہ سے بن گیا تھا کہ لمبے وعدے پر اور زیادہ مقدار میں اس وقت پیسے نہیں ملتے تھے۔ مرحوم کو پندرہ نیس ہی دن میں کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا جس کا میں نے تو اظہار نہیں کیا کہ یہ دارالطلبہ سے سیدھا بغیر کھانے کھائے چل دیتا ہے کھانا نہیں کھاتا۔ موصوف اچھے پیسے والے تھے مگر لباس اور نہذا بہت ہی معمولی، سرکاری نمبردار بھی تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں سیدھا آتا ہوں تو اللہ ان کو سہت ہی بلند درجات عطا فرمائے کہ مرحوم

کو آخر میں مجھ سے بہت ہی محبت ہو گئی تھی۔ میرالرکبین تھا، اس کے باوجود مرحوم نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل بھی زکریا ہی دے اور نماز بھی وہی پڑھائے۔ جب مرحوم کو یہ معلوم ہوا کہ میں بغیر کھانا کھائے جاتا ہوں تو جب میں جاتا اور وہ اس وقت میں میرے ملکے ملکے رہتے، صورت دیکھتے ہی پوچھتے کہ کتنی کسر ہے؟ میں کہتا پانچ سو کی، جب ہی اٹھتے زنانہ مکان میں جاتے، تین چار روٹی رکابی میں اس وقت کوئی سالن ابلا ہوا گوشت بھی وغیرہ رہی پر رکھ کر اٹھے میں پانی اور اس کی ٹوٹی میں گلاں لٹکا ہوا لکھ دیتے اور کہتے کہ اتنے توروں کھاء اتنے میں تیرے لیے پیے لاوں اور جب میں کہتا کہ حاجی جی واقعی بالکل بھوک نہیں، تو بہت بے تکلفی کے ساتھ بلا مذاق واقعیت کے ساتھ کہتے کہ بھاگ جا میرے پاس کوئی پیس نہیں ہے۔ جھک مار کر کھانا پڑتا اور اپنی غرض باولی بغیر بھوک کھاتا تھا۔ وہ واپس آ کر دیکھتے کہ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں اگر ایک دوروں کی حالتا تو پی دیتے ورنہ بے تکلف فرمادیتے تشریف لے جاؤ پیے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو بہت ہی جزاے خیر دے، میری بہت ہی مدد کی جیسا کہ اوپر معلوم ہو گیا کہ مجھے تروزانہ شام کو سینکڑوں کی ادائیگی کرنی پڑتی تھی اور روزات ہی تقاضے رہتے تھے، اس لیے ان مرحوم کا ایک دستور اور بھی تھا۔ وہ نمبردار تھے اور سرکاری روپیہ داخل کرنے کے واسطے نکوڑ جاتا پڑتا تھا، اُن کا زمانہ تھا، اپنی سائیکل پر اکثر بار کی صح کو روپے لے کر جاتے، شام کو اسی سائیکل پر نکوڑ سے سیدھے دارالطلبہ پہنچتے۔ درس گاہ میں میرے پاس جا کر کہتے کہ ڈیڑھ ہزار میری جیب میں ہیں آج فلاں وجہ سے وہ داخل نہ ہو سکے کل کو اتوار بے پرسوں تک کے واسطے چاہیں تو لے لے اور اگر وہ یوں کہدیتے کہ پرسوں کوچھی ہو گئی ہے دو (۲) دن کی گنجائش اور ہے تو پھر میری عین تھی۔ میں اس رقم کو لے کر شام کو کسی بڑے قرض خواہ کے پاس جاتا اور اس وقت تو میرے پاس روپے ہیں آپ کا جی چاہے تو مجھ سے لے لیجئے اور نوٹ ان کے سامنے کر دیتا اور اس کی وجہ سے مجھے ایک دو ماہ کی توسعی ضروری جاتی۔ ان مخلصین میں خاص طور عالی جناب میرے محسن الحاج حافظ زندہ حسین صاحب مرحوم بھی تھے۔ اللہ ان کو بہت ہی درجات عالیہ نصیب کرے۔ ان کے احسانات کا اپنی شایانِ شان بہترین بدله عطا فرمائے۔ ابتدائی زمانے میں بہت ہی قرض دیا، مگر مرحوم میں دو (۲) خاص ادا میں تھیں۔ ایک یہ کہ ابتداء میں پانچ سو اور ایک سال بعد سے ایک ہزار سے زائد نہیں دیتے تھے اور ”اللہ کے فضل سے“ ان کا تکلیف کلام تھا۔ میں جب بھی کچھ مانگتا وہ اس سے آدھے کافوراً وعدہ کرتے، میں کہتا کہ حافظ جی پانچ سو کی بڑی ضرورت ہے، وہ فرماتے کہ ”اللہ کے فضل سے ڈھائی سو تو میں دے دوں گا، ڈھائی سو کا کہیں اور سے انتظام کر لو۔“ میں نے بھی دو تین مرتبہ کے بعد کچھ لیا تھا کہ جتنے کی ضرورت ہوئی اس سے دو گنا مانگتا اور وہ اللہ کے فضل سے اس سے آدھے کا یعنی میری بقدر

ضرورت کا فوراً وعدہ کر لیتے اور فرماتے کہ اگلی نماز لیتا آؤں گا، مجھے بھی جانا نہ پڑا۔ وہ اگلی نماز میں مرحمت فرمادیتے۔ دوسری خاص ادا مرحوم میں یہ تھی کہ وہ وعدہ ایک دن پہلے پوچھتے کہ حضرت جی! آج کیا تاریخ ہے؟ اور اور میں کہتا حافظ جی خوب یاد ہے..... اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اور میرے سارے محسنوں کو جن جن کے بھی جس نوع کے احسان جانی، مالی، جاہی، علمی، سلوکی، اخلاقی مجھ پر ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم، انعام و احسان سے اپنی شایان شان ان کے احسانات سے بہت زیادہ بڑھا کر ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ میری یہ دعا اپنے سارے محسنوں کے لیے بیس برس کی عمر سے روزمرہ کی اہم دعاؤں میں شامل ہے۔ اس میں تخلف تو یاد نہیں کہ کبھی عمر بھر میں ہوا ہو، کئی کئی مرتبہ ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک اور سفرِ حجaz میں تو خوب یاد ہے کہ یہ سیہ کار، نایکار، بے کار و بدکار اپنے محسنوں کے احسانات کا بدلہ بجز دعاء کے اور کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔

البتہ دوستوں کو نہایت تجربہ کی وصیت اور تصحیح کرتا ہوں، بالخصوص جن کو قرض سے کوئی کام پڑتا ہو کہ قرض کے ملنے میں وعدہ پر ادا کرنے کو جتنا مجبوب اور حصول قرض کے لیے ہل نہیں میں نے پایا ایسا کوئی بڑے سے بڑا نہیں پایا مجھے ابتدائی چند ماہ میں بے شک وقت اٹھانی پڑی، لیکن چند ہی ماہ میں بعد لوگوں کو وعدے پر ادا گئی کا یقین ہو گیا تو پھر قرض میں اس اس قدر سہولت رہی کہ صرف پرچہ یا کسی معتمد کے ہاتھ زبانی پیام فرضہ لینے کے لیے کافی تھا۔

میرے محلے کے دوستوں کا مشہور مقول تھا کہ جسے کچھری میں کسی ضرورت سے روپیہ لے جانا ہو گھر کی الماری میں سے نکالنے میں تو دیر لگے گی کچھری جاتے ہوئے راستے میں اس سے لیتے جاؤ جیب میں ملیں گے۔ ایک دن پہلے اس سے کہہ دو کہ ”کل کو“ ابجے کے قریب کچھری جانا ہے، ۸ بجے اس کی جیب میں پہنچ جائیں گے۔ اسی کا شمرہ تھا کہ ایک زمانے میں مجھے بعض لوگوں سے سانحہ ہزار تک قرض لینا پڑ گیا۔ اس مالک کا احسان ہے اور مالک کے کس کس احسان کو شمار کروں۔

بچیوں کے حج کے قرضے کی کیفیت اور مالک کی قدرت کے کر شئے:

۲۷ میں مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچیوں کو حج کرانے کو جی چاہتا ہے، میں نے کہا بڑے شوق سے۔ اپنا اور مولوی انعام صاحب کا اور غالباً دو بچیوں کا انتظام تو آپ کے ذمے اور یقینہ میں کر دوں گا۔ انہوں نے بڑی خوشی سے قبول فرمایا اور شعبان میں کہہ دیا کہ جن صاحب نے ہمیں قرض دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے غذر کر دیا۔ ہمارا انتظام بھی اس وقت تمہیں ہی کرنا ہے اور میرے پاس قریبی رشتہ دار مستورات کا کئی سال کا قرضہ اسی نام سے جمع تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا دیتی رہتی تھیں کہ جب ہم حج کو جائیں تو لے لیں گے۔ میں نے اپنی بیوی بچیوں سے

اعلان کر دیا کہ پہلے اپنا اپنا زیور فروخت کرو اس کے بعد جس کے خرچ میں جتنی کمی ہو وہ بطور قرض میں دوں گا، جب تمہارے پاس آجائے دے دینا، نہ آئے تو اللہ معاف کرے۔ سب سے پہلے تو اپنے اللہ کا احسان، اس مالک کے کسی احسان اور انعام کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اپنی بیوی اور بچیوں کا ممتوں احسان کہ اس قدر خوشی اور سرت سے ہر ایک نے اپنی ایک ایک چیز لا کر مجھے نہ دی نہ بتائی، بعض اپنے اعزہ کے واسطے سے فوراً بازار فروختگی کے واسطے بھیج دی۔

میرے ایک مخلص دوست حاجی جان محمد پشاوری جو اس زمانے میں سہارنپور میں مستقل رہتے تھے اور وہیں کام کرتے تھے اور میرے بڑے مخلص جان شاہ تھے، سب نے اپنا اپنا زیور فروختگی کے واسطے ان ہی کو دیا کہ وہ ہم سب کی نگاہوں میں بہت معتمد تھے۔

انہوں نے رات کو مجھے مشورہ دیا کہ ایسا ہرگز نہ کجھے۔ زیور دو (۲) طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں مالیت تو ہوتی ہے مگر ان کی گھرائی صنعت زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسرا قسم وہ جن میں مالیت تو بہت کم ہوتی ہے، مثلاً تیس چالیس روپے کا سونا اور اس کی دلاؤزین، ول کش صنعت ستر (۷۰)، اسی (۸۰) روپے کی ہوتی ہے۔ فروختگی میں صنعت کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اور اصل مالیت میں ربع کے قریب خورده کے نام سے کٹوٹی ہوتی ہے۔ ایسے زیور جو بننے ہیں تقریباً ڈیڑھ دوسرے میں فروخت ہوتے ہیں چالیس پچاس میں، ان کو ہرگز نہ فروخت کرائیں۔ مجھے زیورات کی اس تفصیل سے کبھی پہلے کام نہیں پڑا تھا، میں نے ان حاجی جی سے کہہ کر اس قسم کے زیورات اڑکوں کو واپس کر دیے اور بچیوں سے کہہ دیا یہ میرے قرض میں رہن ہیں تم میں سے کسی کو اس میں تصرف کی اجازت نہیں جب تک میرا قرضہ ادا نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے سب کا حساب لگایا تو منع مولانا یوسف صاحب مولانا انعام صاحب کے تقریباً ستائیں ہزار روپے کی میزان ہوئی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نے شعبان ۷۰ھ میں اپنے دوستوں کو پرچ کھھے کہ مجھے ستائیں ہزار روپے کی ضرورت ہے اس میں سے تم کتنا اور کتنے زمانے کے واسطے دے سکتے ہو؟ اس وقت کچھ لینا نہیں ہے میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ۹ شوال کو یہ قابلہ سہارنپور سے روانہ ہو گا، ۸ شوال کو آپ کی موعودہ رقم لوں گا، مجھے صرف اس وقت حساب کے واسطے اتنا پختہ معلوم ہو جائے کہ آپ کتنی رقم کتنے دنوں کے واسطے دے سکتے ہیں؟ اللہم لا أُحصِّنَ ثَنَاءً عَلَيْكَ تین دن میں جو پرچوں کے جواب ملے ہیں ان کی میزان چھتیں ہزار ہی۔ میرے پرچے کا مضمون صرف وہ تھا جو اور پرکھا ہے اور اس میں بھی مالک کے عجائب کر شہ ہائے قدرت دیکھنے میرے ایک مخلص دوست کا ایک گاؤں بڑی دعاوں کے بعد تیس ہزار میں انہی ایام میں فروخت ہوا تھا جس کی فروختگی کی شیرینی بھی وہ مجھے کھلا چکے تھے۔ دوسرے صاحب کا دس ہزار میں ایک باغ فروخت ہوا تھا اس کی

بھی شیرینی میں کھاچکا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا اور اپنے تعلقات کی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا اور کوئی تردید بھی نہ تھا کہ سارا نہیں تو معظم حصہ ان دونوں سے وصول ہوگا۔ مگر دونوں نے اس زور کی معدودت کی کہ ایک پیسے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے واقعی ذرا بھی قلق نہ ہوا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ معاً مجھے یہ خیال ہوا کہ تو نے بندہ پرنگاہ رکھی کیوں؟ تیری سزا بھی ہے اور اس کے بال مقابل جو مالک کے کرشمہ ہائے قدرت دیکھے وہ بھی بڑی لمبی داستانیں ہیں۔ مولوی نصیر نے مجھ سے کہا کہ ایک پرچہ فلاں کو بھیج دے میں نے کہا تیری عقل ماری گئی، اس یچارے کے پاس کہاں پیسے؟ مولوی نصیر نے کئی دفعہ اصرار کیا۔ میں نے نہیں مانا، اس نے زبردستی میرے پر چوں میں سے ایک پرچہ اٹھا کر لڑ کے کے ہاتھ میرے اس دوست کے پاس بھیج دیا۔ وہ جواب لایا کہ کل کو جواب دوں گا۔ میں مولوی نصیر پر (اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے کہ میری بے جا ڈانٹیں ہمیشہ سنیں) بہت خفا ہوا کہ تو نے مجھے بھی شرمندہ کیا نہیں بھی شرمندہ کیا، میں نے پہلے سے کہا تھا کہ اس غریب کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے جواب دیتے ہوئے شرم آئی اور تو نے مجھے ذلیل کیا۔ دوسرے دن دوپہر کو وہ صاحب اپنا کھانا لے کر ساتھ کھانے کے واسطے آئے۔ کھانے کے بعد تخلیہ کیا اور ایک پرچہ لکھا ہوا مجھے دیا، جس میں لکھا تھا کہ ”پانچ ہزار روپے ایک سال کے لیے تو بڑی سہولت سے دے سکتا ہوں اور دس ہزار تک دو سال کے لیے معمولی سے وقت کے ساتھ اور پندرہ ہزار تین سال کے لیے ذرا زیادہ وقت ہے۔“ میں نے پہلی پیشکش قبول کر لی اور کہہ دیا کہ ۸ شوال کو پانچ ہزار لے لوں گا۔ میرا ایک اور دوست مخلص نو عمر لڑکا آیا اور یہ کہا کہ میرے پاس ایک ہزار کی رقم ہے جس کی نہ تو میرے ماں باپ کو خبر نہ میری یوں کو، آپ جب کہیں لا دوں گا، ادا کرنے کی بالکل فکر نہیں۔ میرے پاس ان کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں، پانچ سات ہر س میں جب میں با اختیار ہوں گا لے لوں گا، ابھی تو باپ کا دوست نہ ہوں، جہاں کہیں سے کچھ ملتا رہتا ہے اسے جمع کرتا رہتا ہوں، رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ میرے ایک اور مخلص دوست نے رمضان میں مجھ سے کہا کہ تو نے فلاں فلاں کو پرچہ لکھے مجھے تو کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس کھانے کو تو ہے ہی نہیں، بے تکلفی تھی محبت تھی، یہی فقرہ میں نے کہا کہ تیرے پاس کھانے کو تو ہے نہیں تیرے پاس سے کیسے قرض مانگوں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک ہزار روپے سب سے مخفی ہیں، میں کل صبح کو لاوں گا۔ میں نے کہا ہر گز نہیں، ۸ شوال کو لوں گا، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں۔ اس نے کہا کہ رمضان میں خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے، میرے سے تو تم اللہ کے واسطے اور پاؤں پکڑ لیے کل کو ہی لے لو کر رمضان ہے پر میرے ہی پاس امانت رکھوادیجو۔ میں نے کہا شوق سے لے آئے، چنانچہ وہ اگلے روز لایا اور پھر میرا قرض کر کے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔

اس سلسلے میں، میں اپنے محسنِ اعظم عالی جناب الحاج میر آں علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ممنون ہوں، انہوں نے فرمایا اتنی سی بات کے لیے کیا پرچہ بازی کی ضرورت تھی، میں پچیس ہزار تو میں اکیلا ہی دوں گا جب تجھے سہولت ہوا کرتے رہتا۔ میں نے بہت ہی ان کا شکر یہ بھی ادا کیا اور بہت ہی دعا میں بھی دیں اور ان سے کچھ نہیں لیا اور ان سے کہہ دیا کہ اب تو میری مطلوب رقم پوری ہو چکی اور میں ان سب کا احسان اٹھا چکا ہوں ان میں سے جس کی رقم کی ادیگی کا وقت آتا ہے گا آپ سے مانگتا رہوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایسے ہی اپنے محسن متولی ریاض الاسلام کا ندھلوی کا بھی اس میں شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، انہوں نے مجھے دس بارہ خط لکھے۔ میں نے سنائے کہ تیری بچیاں حج کو جاری ہی ہیں، میری انتہائی تمنا ہے کہ تھوڑی سی شرکت میری اس میں قبول کر لے۔ میں نے بہت مغدرت کی مگروہ تہ مانے اور ان کے کئی احسان ان کے خوابوں کی بدولت پہلے اٹھا چکا تھا، اس لیے غالباً دو ہزار کی رقم یا اس سے کچھ زائد مرحوم نے بلا قرض عطا فرمائی جو میں نے سب حج کو جانے والیوں پر مولا نا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ و انعام کے علاوہ تقسیم کر دی اور ان دونوں کے متعلق ان کو لکھ دیا کہ ان دونوں کا معاملہ آپ جانیں وہ جانتیں میں اس میں کچھ دخل اشانتا یا تفصیل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میر صاحب اور متولی صاحب اور میرے سارے ہی محسنوں کو ان کے احساناتِ جانی و مالی اور ہر نوع کے احسانات کا اپنی شایانِ شان بہترین بدله عطا فرمائے:

گفتگو آئین درویش نبوو

ورنه با تو ماجرا باد اشتتم

اب تو چونکہ وقت نکل گیا۔ اس قسم کے قصوں میں تفریح کے سوا کچھ نہ رہا، ورنہ اس قسم کے تذکرے بھی پہلے صورت سوال اور بہت گراں ہوتے تھے، شاید میری جوانی میں میری یہ کہانیاں کسی نے سنی بھی نہ ہوں گی۔ اب تو اکثر تذکروں میں اطائف تحدیث بالعمدة کے طور پر آتے رہتے ہیں۔ عزیزو!..... تم نے کیا کیا پرانے مردے اکھڑوانے شروع کر دیے اگر علی گڑھ کا قیام کچھ لمبا ہو گیا تو نہ معلوم کیا کیا عجائب قدرت لوگوں کے کان میں پڑیں گے۔ اس حج کے متعلق ایک المناک واقعہ یہ ہے کہ میرے حضرت اقدس سیدی و سندی مولا نا الحاج حسین احمد صاحب مدینی نور اللہ مرقدہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی جہاز میں تشریف لے گئے جس میں میری بچیاں اور مولا نا یوسف صاحب و مولا نا انعام صاحب تھے۔ حضرت قدس سرہ نے حج سے واپسی پر مجھ سے کئی بار قلق سے فرمایا کہ مجھے جہاز میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تیرا بھی خیال کچھ تھا، اگر مجھے واہمہ اور شبہ بھی ہو جاتا تو تجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا۔ حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلقق پر مجھے بھی بہت قلق

ہوا، میرے لیے عین سعادت تھی اور میرا یہ پختہ ارادہ بھی تھا اور نہیں الاحرار صاحب سے وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اس سال ہوائی جہاز سے جا رہے تھے میرا ارادہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ چپکے سے ہوائی جہاز سے چلا جاؤں گا، لیکن مقدرات اٹل ہوتے ہیں، حضرت اقدس رائپوری سے ایک شب کے لیے نظام الدین جانے کی اجازت چاہی کہ وہاں کے حالات دیکھتا آؤں۔ حضرت نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری حالت تو یہ ہو رہی ہے، میں رات کو اگر مر گیا تو میرے جہاز کی نماز کس طرح پڑھا سکے گا؟ یہی وہ زمانہ تھا جس کے متعلق اور لکھوا چکا ہوں کہ میں شام کے دوسرے گھنٹے میں حدیث پاک کا سبق پڑھا کر سیدھا بہت جاتا اور گانگرو والی کوٹھی میں عصر پڑھتا، جہاں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا مستقل قیام تھا چونکہ روز کا جانا ہوتا تھا اور علی الصباح آنا ہوتا تھا، اس زمانے کے لاری والے بھی ہندو مسلمان دونوں ہی رعایت کرتے تھے، بہت میں گاڑی نہیں روکتے تھے بعض مرتبہ سواریاں شور بھی مچاتیں مگر وہ بہت کے قریب جا کر اس تیزی سے نکلتے کہ مجھے گانگرو کے پل پر اتار کرو اپس بہت آ کر سواریاں اتارتے مجھے بہت ہی ندامت ہوتی اور میں خوشامد بھی کرتا مگر وہ نہیں مانتے تھے اور یہ کہتے کہ ان کا دو منٹ میں کیا حرج ہو گا آپ تو نماز پڑھیں گے۔ اللدان سب کو بہترین بدله عطا فرمائے۔ حضرت قدس سرہ کے اس فقرہ پر نہ صرف نظام الدین کا جانا ملتوی کیا بلکہ جہاز کے سفر کا ذکر زبان پر لانا بھی حضرت قدس سرہ کی گرانی کا سب سمجھا۔ حضرت قدس سرہ کے اس مرض نے اتنا طول پکڑا کہ ڈاکٹر برکت علی صاحب مرحوم کے اصرار پر حضرت قدس سرہ کو بجائے بہت کے سہار پور تشریف لانا پڑا اور کچھ زمانہ مدرسہ قدیم کے مہمان خانہ میں ڈاکٹر برکت علی صاحب کی تجویز سے قیام کیا۔ اس سال کی عید الاضحی بھی مدرسہ قدیم کی مسجد میں پڑھی اور اپنے اس چند روز قیام کے حضرت قدس سرہ نے مدرسہ کے چندہ کے نام سے بہت بڑا کرایہ ادا کیا، جو حضرت قدس سرہ کے خدام کے لیے خاص طور سے سبق آموز اور عبرت انگیز ہے۔ اس ناکارہ نے بہت عرض کیا کہ حضرت کا قیام مدرسہ کی ضرورت میں داخل ہے، مدرسہ کو حضرت کے قیام سے بہت زیادہ نفع ہے مگر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے منتظر نہیں فرمایا، خود بھی چندہ کے نام سے کرایہ ادا کیا اور آنے والے مہمانوں سے بھی خاص طور سے تاکید کر کے چندہ دلوایا کہ حضرت قدس سرہ کی وجہ سے ان لوگوں کا بھی مدرسہ میں قیام ہوتا تھا، خاص طور سے پاکستان سے آنے والے مہمان سے بھی چندہ دلوایا۔

بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، ابتداء میں تو یہ قصہ شادیوں میں شرکت سے نفرت اور جنازہ میں شرکت کے شوق سے چلا تھا۔

## شادیوں میں شرکت سے نفرت بالخصوص تالیف بذل کے زمانے میں:

(ھ) ..... مجھے شادیوں میں شرکت سے ہمیشہ نفرت رہی۔ کاندھلہ میں خاندان کا سب سے چھوٹا تھا، جب خاندانی بزرگوں میں سے کسی کا شادی میں شرکت کا خط آتا اس پر اظہار مسرت خوشی نہ معلوم کیا کیا لکھتا اور ظہر کے بعد وہ کارڈ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ میرے حضرت قدس سرہ کی عاونت مبارک ایسے موقعہ میں بڑی عجیب لطیف قابل اقتداء تھی جب خدام میں سے کوئی اس قسم کا خط پیش کر دیتا یا زبانی مذکورہ کرتا، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ خط پڑھ کر یا بات سن کر ارشاد فرماتے۔ کیا رائے ہے؟ اگر وہ شخص (اجازت مانگنے والا) خوشی یا ضرورت کا اظہار کرتا تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے، یاں ہاں مناسب ہے ہواؤ اور بخوبی اجازت دے دیتے اور اگر اس کی طرف سے بے اعتمانی دیکھتے تو حضرت بھی فرمادیتے کیا کرو گے؟ حرج ہو گا۔ مجھے بارہا اس قسم کے پر لطف قصے دیکھنے میں آئے۔ جب میں خط پیش کرتا تو حضرت نہایت تبسم خندہ پیشانی سے دریافت فرماتے، کیا رائے ہے؟ میں عرض کرتا، حضرت! بذل کا بہت حرج ہو جائے گا، لیکن میں تو انکار نہیں کر سکتا، میرے اکابر خغا ہو جائیں گے۔ تو حضرت فرماتے انکار تو میں لکھوادوں گا، چونکہ ذاک بھی میں ہی لکھتا تھا تو میں عرض کرتا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ انکار کا خط میں نہیں لکھوں گا، تو حضرت کسی دوسرے کو بلا کر جو اکثر حاجی مقبول صاحب ہوتے تھے لکھواتے تھے کہ عزیز موصوف کے آنے سے میرا بڑا حرج ہو گا، امید ہے کہ میری خاطر عزیز موصوف کی عدم حاضری کو معاف فرمادیں گے۔ پھر کس کی مجال تھی کہ لب کشانی کر سکتا اور ذاک میں ہر دو (۲) خط میرا اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ساتھ پہنچتا تھا۔

اس سلسلے میں ایک لطیفہ خوب یاد آیا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بھائی اکرام صاحب سے مجھے سارے خاندان میں انتہائی محبت رہی۔ اگرچہ اب مدرسے نے اس پر کچھ پردہ ڈال رکھا ہے۔ میری والدہ کے حقیقی پچازاد بھائی میرے مخلص دوست ماموں حکیم محمد یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکرمہ میں مقیم ہیں، ان کی شادی ۱۲ جمادی الاول ۵۵ھ مطابق ۲۳ ستمبر ۱۹۳۴ء بروز جمعہ کیرانہ میں ہوئی۔ بعد عصر پچاہیان نے نکاح پڑھایا۔ مہر کے سلسلے میں ایک لطیفہ پیش آیا کہ تائے سعید مرحوم مہتمم مدرسہ صولتیہ لڑکی کے باپ نے مہر فاطمی تجویز کیا اور جب قصبه کے شرافاء نے اصرار کیا کہ مہر دس ہزار اور پانچ ہزار سے کم ہرگز نہ ہو گا تو تائے سعید مرحوم نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر نہیں ہے مہر فاطمی ہو گا، چنانچہ اسی پر نکاح ہوا اور قصبه کے رو ساء مولا نا سعید سے ناراض ہو گئے اور کافی عرصہ تک کبیدہ خاطر رہے کہ لڑکی بوجھ رہی تھی جو ایک سو پچس (۱۲۵) کے عوض چلتی کر دی۔

بھائی اکرام نے مجھے کاندھلہ سے ایک کارڈ لکھا، جس میں شروع میں تین شعر تھے جن میں سے صرف پہلا یاد رہ گیا۔

میں نہیں چانتا قبلہ قبلی  
بات ہے صاف بھائی شبلی

اگلے دو شعروں میں اس قسم کا مضمون تھا کہ ہمارے ساتھ آؤ، پلا و قورمہ وغیرہ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اس کے بعد یہ مضمون تھا کہ عزیز یا مین کی شادی فلاں دن تجویز ہوتی ہے، علی الصباح کاندھلہ سے بارات جائے گی، میں اور فلاں، فلاں، ان پانچ چھ کے نام جن کا عید کے موقع پر لوئی کے سلسلہ میں نام گزر چکا، ایک جگہ بیٹھے ہیں، ہمارا متفرقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر اس میں شرکت کرنا چاہے گا تو بڑے سے بڑا عذر بھی تجھے مانع نہیں اور اگر تیرا جی نہیں چاہے گا تو ایک سے ایک بڑھ کر ایسا قوی عذر ہوگا جس کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ ہماری تمنا، خواہش، استدعا یہ ہے کہ ایک رات کا احسان سب پر کر دے۔ اگر تو منظور کرے تو آسان صورت یہ ہے کہ ساری بارات غالباً تیس چالیس بھلیاں نہیں، علی الصباح روایہ ہو جائیں گی اور ہماری دو گاڑیاں ریل کے وقت پر اشیش پہنچ جائیں گی اور اشیش سے تم کو لے کر سیدھے کیرانہ پلے جائیں گے۔ میں نے لکھا اور مجھے اپنا جواب بھی خوب یاد ہے کہ تم نے ایسا زور دار خط لکھ دیا کہ میرا بھی جی چاہ گیا۔ انشاء اللہ وقت مقرر پر کاندھلہ کے اشیش پر اتر کر سیدھا کیرانہ جاؤں گا۔ چنانچہ ساری بارات صحیح کو ناشت کے بعد سے لے کر ایک مملکتی ظہر کے قریب کیرانہ پہنچی اور مجلس طعام کے مشتمی پر ہم لوگ بھی پہنچ گئے۔ کھانے اور چائے اور بعد عصر تقریب نکاح میں شرکت کے بعد اگلے دن صحیح بارات رخصت ہو کر کاندھلہ آئی۔ میں ایک ہی رات کی نیت سے گپتا تھا۔ جب میں نے دو پہر کو واپسی کا ارادہ کیا تو میرے والد صاحب کے حقیقی ماموں مولانا روضہ احسن صاحب نے مجھے بہت بڑے طریقے سے ڈائٹ۔ مجھے ان کی ڈائٹ خوب یاد ہے اور فرمایا کہ آج ہر گز نہیں جا سکتا، کل کو ولیمہ سے فراغ پر جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت سے ایک ہی رات کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں، میں لکھ دوں گا، مجھے یہ جواب بالکل پسند نہیں آیا۔ اتفاق سے ماموں یا میں کے بڑے حقیقی بھائی پروفیسر حافظ محمد عثمان صاحب جو اس زمانے میں علی گڑھ میں غالباً بارہ سورہ پر تجوہ اور ملازم تھے، وہ نکاح میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس لیے کہ کسی مجبوری سے چھٹی نہ مل سکتی تھی۔ میں نے حضرت ماموں سے عرض کیا، ابھی ان کے حقیقی بھائی تو نکاح میں بھی شریک نہ ہوئے اس کو تو آپ نے کچھ فرمایا نہیں، فرمانے لگے اور بہت غصے میں فرمایا کہ اس کی تو مجبوری تھی چھٹی نہ ملی، مجھے بھی چونکہ ان کے عتاب پر گرانی ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ حضرت جی یہ تو کوئی

مجبوہ نہ تھی استغفاء دے کر چلے آتے، اصل مجبوری تو میری ہے کہ میں حضرت سے کیا عرض کر دیں گا۔ اس پر ماموں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو غصہ تو بہت آیا مگر کچھ فرمایا نہیں اور میں عین گاڑی کے وقت ریل پر بھاگ آیا۔ اپنے معمول کے مطابق پبلے سے اس واسطے نہیں آیا کہ کبھی ماموں صاحب کو خبر ہو جائے اور وہ آدمی بھیج کر بلا لیں۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ حقیقی ماموں اور میری اپلیہ مرحومہ کے والد، مجھ سے اس قدر محبت تھی کہ میں واقعی بیان سے عاجز ہوں، ان کی شفقتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ بات میں بات لٹکتی رہتی ہے ایک قصے پر دوسرا قصہ یاد آتا رہتا ہے۔ اگر علی گڑھ کے قیام میں کچھ وسیع وقت مل جائے تو ایک الف لیلة ولیلة میں بھی لکھوادوں۔

### بندہ کا سفر مظفر نگر اور آموں کا قصہ:

حضرت مولانا الحاج رووف الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے والد کے حقیقی ماموں اور ان کی پہلی اپلیہ مرحومہ جو میری خوش دامن تھی اور مرحوم کی دوسری اپلیہ، دونوں کا قیام مظفر نگر ہتا تھا اور ہمیشہ ہی دونوں کا شدید اصرار میری مظفر نگر حاضری کا رہا اور مجھے بھی توفیق نہ ہوئی اللہ ہی معاف فرمائے اور تینوں مرحومین کو بہت ہی زیادہ بلند درجے ان کی محبت کے عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میرے چچا جان قدس سرہ نے نظام الدین سے یہ لکھا کہ جنہیں جانے میں تبلیغی اجتماع ہے، فلاں گاڑی سے میں شاملی پہنچوں گا، تم بھی فلاں گاڑی سے شاملی پہنچ جاؤ، میں شاملی میں تمہارا انتظار کروں گا اور پھر جنہیں جانے کے تبلیغی اجتماع میں جانا ہے یہ جنہیں تو ہمارا جدیدی وطن ہے ہی، عالی جناب الحاج محمد شفیع صاحب قریشی امیر جماعت تبلیغ پاکستان کا بھی وطن ہے، انہیں کی تحریک اور اصرار پر یہ اجتماع ہو رہا تھا۔ جنہیں جانے سے واپسی پر سہار پور آنا تھا اور چچا جان نور اللہ مرقدہ کو دبلي جانا تھا، ان کی تشریف بری ظہر کے وقت قرار پائی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ماموں رووف الحسن صاحب ہمیشہ مظفر نگر کا اصرار فرماتے ہیں، بھی نوبت نہیں آتی، اگر کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ میں صبح کو مظفر نگر چلا جاؤں اور دو (۲) بجے کی گاڑی سے سہار پور۔ قریشی صاحب کو اللہ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے میرے دور فیقوں کے لیے مظفر نگر تک کار کا انتظام کر دیا اور ماموں صاحب نور اللہ مرقدہ اور ممانی صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ میری حاضری پر حد سے زیادہ مسروک کے نہ معلوم کیا نعمت آگئی۔ تین گھنٹے میں نہ اس میں مبالغہ ہے نہ تھصع، بازار کی اور گھر کی میٹھی، نمکین، پھیکی اور ترش پھل اور شیر میں اس شاید پچاس کے قریب جمع کر دی ہوں گی، مجھے دیکھ کر بہت ہی کلفت ہوئی، میں نے ممانی سے تیز لمحے میں کہا کہ ممانی اتنی چیزیں کوئی کھا بھی سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ساری عمر میں پہلی دفعہ تیری آمد ہوئی ہے وقت کم ملا میں تو اور بھی کچھ کرتی۔ میرے ساتھیوں کا کھانا باہر بھیج دیا گیا۔ میں اور ماموں صاحب، وہ سر ہانتے اور میں پائستی اور ایک ایک رکابی میں پائچ پائچ

سالن ذرا ذرا سا اور ایک ایک رکابی پر دو دور کابی رکھی ہوئی۔ کھانا شروع ہوا ماموں صاحب نے ایک لقمه منہ میں رکھا اور دوسرا ہاتھ میں لیا اور جوتا پہن کر باہر چلے گئے، رنج اور تلقق سے ستائے میں رہ گیا کہ میری کس بد تمیزی پر ماموں صاحب کو غصہ آیا۔ میرا لقمه بھی ہاتھ کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے مہانی سے پوچھا کہ ماموں کس بات پر خفا ہو گئے؟ مرحومہ نے بڑی شفقت سے یوں کہا، پیارے بچے روئی کھالے، ناراض نہیں ہیں، تیرے ماموں کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب آموں کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو آٹھویں دن ان کی بھی فاقوں کی حالت رہتی ہے۔ آٹھ دن سے مظفر نگر میں آم کی قیمت پر نہیں ملتا اور ان کے فاقے چل رہے ہیں اور یہ جو لقمه منہ میں رکھ لیا یہ بھی دروازے پر جا کر تھوک دیا ہوگا، مرغی وغیرہ کھالے گی، ان کے حلق سے نہیں اترتا ہوگا۔ یہ سن کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس لیے کہ میں اس زمانے کچھ آموں کا شو قین بھی نہیں تھا اور میرے نزدیک گوشت کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے بغیر روئی کھانا ناممکن ہو۔ میں ۳ بجے کی گاڑی سے سہار پور پہنچ گیا، اسٹینشن سے مدرسہ تک اس زمانے میں میں سواری کا تھا جنہیں تھا، کبھی سواری نہیں لیتا تھا۔ گھر تک پہنچا ہی تھا کہ مولوی نصیر نے یوں کہا کہ ملٹج آباد سے ایک بلڈنگ کے نواح کے طالب علم کئی پڑھتے تھے، میں نے سڑک ہی پر کھڑے کھڑے ایک آدمی دارالطلبہ بھیجا کہ کوئی طالب علم مظفر نگر جانے والا ہو تو آدھا کرایہ اور مدرسہ سے چھٹی میں ناظم صاحب سے خود لوادوں گا، فوراً چلا آئے، ایک دم پانچ چھ بھاگ آئے، میں نے ایک ہوشیار سے لڑکے کو آموں کی ٹوکری حوالے کر دی اور دونوں طرف کا کرایہ دے دیا، آوھے کا وعدہ تو اس مصلحت سے کیا تھا کہ مفت کرایہ پر بہت سے آجائیں گے۔ مگر آوھے پر کئی آگئے، میں نے ماموں صاحب کا پتہ بتلایا اور حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں ایک پرچہ لکھ دیا کہ فلاں طالب علم کو اپنی ایک ضرورت کے لیے میں مظفر نگر بھیج رہا ہوں، کل دو پہر تک کی رخصت اس کی میری درخواست پر قبول فرمائیں۔

مغرب سے پہلے وہ لڑکا وہاں پہنچ گیا۔ وہاں کاندھلہ کے میرے ایک عزیز جو باغوں کے اور آموں کے دھنی اور دلدادہ تھے، ان کا باغ آموں کا بہت مشہور و معروف تھا اور نہ معلوم کتنی انواع ان کے باغ میں تھیں۔ وہ شام کو اتفاق سے ماموں صاحب کے مہمان تھے۔ سن گیا ہے کہ وہ آم اس قدر لذیذ تھے کہ ماموں صاحب نے نہ کبھی اس جیسا آم کھایا تھا نہ ان کاندھلوی عزیز نے، دوسرے دن میرے ان عزیز مرحوم نے کاندھلہ جا کر اپنے ملازم کو تھج تعداد میں مجھے تردد ہے کہ تین سو سے تو کم نہیں تھے اور پانچ سو سے زائد تھے، روپے لے کر بھیجا کہ جس قسم کے آم تم نے کل مولانا روف الحسن صاحب کو بھیجی ہیں جس قیمت پر اور جتنے بھی مل سکتے ہوں میرے ملازم

کے ہاتھ بھیج دیں، میں نے اسی پرچہ کی پشت پر جب ہی جواب لکھ کر حوالہ کر دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیسے آم تھے مظفر نگر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہاں پہنچ کر مولوی نصیر نے ایک بلٹی کا ذکر کیا، میں نے بغیر کھولے وہ بلٹی مظفر نگر بھیج دی تھی، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کے آم تھے۔ میرے نزدیک اس واقعہ کو اہمیت بھی نہ تھی۔

### چچا جان کا یکشناہ قیام کا ندھلہ میں معمول:

میرا عموماً چھ مہینے، آٹھ مہینے میں ایک شب کے لیے کاندھلہ جانا ہوا کرتا تھا، کاندھلہ کے رو ساء میں جملہ قصباتی شرفاء کی طرح سے ہمیشہ پارٹی بازی زوروں پر رہتی، بالخصوص ایکشن کی مصیبت سے ہر موقع پر جا کر سن لیا کرتے تھے کہ آج کل فلاں فلاں میں چل رہی ہے، ہم بھی تفریح آپس کی لڑائیاں سن آیا کرتے، مگر میرا اور چچا جان نور اللہ مرقدہ کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ اپنی یک شبانہ حاضری میں جملہ اعزہ کے گھروں پر جا کر ان سے ایک ایک دو دو منٹ کے لیے ضرور ملتے تھے، اکثر اعزہ اس پر خفا بھی ہوتے تھے، زبان سے تو وہ یہ کہتے کہ ذرا سا وقت ہوتا ہے وہ بھی سب پھر نے میں خرچ ہو جاتا ہے اور اندرخانہ ان کو غصہ اس پر ہوتا کہ جب ہماری لڑائی ہے تو پھر یہ کیوں ملتے ہیں۔ مگر میرے اور چچا کے طرز معاشرت کو دیکھ کر اس عتاب کو علی الاعلان کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

غالباً آٹھ ماہ بعد میرا کاندھلہ جانا ہوا اور اپنی عادت کے موافق سب گھروں کو چکر لگایا۔ میرے محترم عزیز برادر معظم ماسٹر محمود الحسن کاندھلہ میں اس وقت کاندھلہ میں تھے، میرے ساتھ وہ بھی بادل ناخواستہ میری خاطر مڑ گشت میں چل دیے، جب میں اپنے ان عزیز کے پاس جن کے آموں کا قصہ اوپر آیا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، میں نے مصائق کے لیے ہاتھ بڑھایا مر جنم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بھائی محمود کا اس وقت غصہ کے مارے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، میں نے ایک موٹڈھا کھینچا اور ان عزیز کے قریب دو (۲) منت بیٹھ کر چلا آیا۔ انہوں نے میری طرف منہ نہیں کیا۔ جب وہاں سے واپس آ رہا تھا، بھائی محمود نے کہا بے غیرت بے حیا پھر بھی ان کے یہاں آئے گا، میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ یہ ان کا فعل تھا جو انہوں نے کیا، وہ میرا فعل ہو گا جو میں کروں گا۔ ہمیں حدیث پاک میں ”صل من قطعک“ کا حکم دیا گیا ہے، مگر میں اندر اندر سوچتا رہا اور خوب سوچتا رہا کہ ان کی لڑائیاں تو آپس کی ہمیشہ کی تھیں، میرے ساتھ تو یہ بر تاؤ کبھی نہیں ہوا۔ چند ہی منت میں سوچتے سوچتے مجھے وہ آموں والا قصہ یاد آ گیا تو میں نے بھائی محمود سے کہا کہ بھائی محمود خوب یاد آ گیا اور میں نے آموں والا قصہ سننا کریوں کہا کہ بھائی یہ معدود ہیں، ان کی عقل سے یہ بات اونچی ہے کہ آدمی آموں کی بلٹی کو بغیر دیکھے بغیر کھولے چلتا کر دے۔

### لڑائی کے بعد انہی اتفاقات کا ذریعہ:

ان مرحوم کے ساتھ قصے تو کئی پیش آئے مگر مالک کا ایک عجیب احسان یہ بھی رہا کہ جس جس سے ابتداء لڑائی اُسی سے وہ تعلقات بڑھے کہ باید وشا یہ۔ یہ مرحوم عمر میں مجھ سے بڑے تھے، اخیر میں ان کا یہ اصرار رہا کہ تجھ ہی سے بیعت ہوں گا اور تیرے ہی پاس پڑ کر مرؤں گا، اتنا بڑھا کہ حد و حساب نہیں، بار بار خطوط لکھتے، آدمی بھیجتے، میں نے ان کو کئی دفعہ لکھا کہ میرے دو (۲) بزرگ حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت رائے پوری حیات ہیں۔ سیاسی حیثیت سے حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے خصوصی تعلقات بھی ہیں، ان دونوں میں سے جوں سے کوآپ پسند کریں میں بیعت کے لیے خود لے کر چلوں گا، بیعت کراؤں گا، مگر موصوف نے ایک مان کرنے دی اور اسی پر اصرار کرتے رہے کہ بیعت تو تجھ ہی سے ہونا ہے۔

اس سیہ کار کے ساتھ جس جس کا تعلق ابتداء نفرت کا ہوا انہیاً عشق و محبت پر جا کر ختم ہوا۔ اسی وقت تیس چالیس نام دفعۃ ذہن میں آگئے جو ساٹھ بر س کی عمر میں اولاً مخالف اور انہیاً جانشناز رہے۔ خواخواہ ایک فضول مدد شروع ہو گئی، مگر میں بھی خالی نہیں ہوں، دوستوں کی یاد کم از کم ان کے لیے دعاۓ مغفرت اور ایصال ثواب کا ذریعہ تو ہے ہی۔ پڑھنے والوں سے بھی بہت اصرار سے میری درخواست ہے کہ میرے ان اکابر اور دوستوں کو جن کے قصے آپ اس رسالہ میں پڑھیں یا اسی دعاۓ مغفرت اور ایصال ثواب سے فراموش نہ کریں۔ مجھ پر احسان ہو گا۔

### دوسری حادثہ والدہ مرحومہ کا انتقال:

(۲)..... میری زندگی کا سب سے اہم اور پہلا واقعہ میرے والد صاحب کے انتقال کا تھا، جو نمبر ایں لکھا گیا اور میرے والد کے انتقال کے دن ہی سے میری والدہ مرحومہ نور اللہ مرقد ہا، اعلیٰ اللہ مر اجہا کو بخار شروع ہوا، تھوڑے ہی دنوں میں تپ دق کی طرف منتقل ہو گیا اور دس ماہ چند ایام بعد ۲۵ رمضان المبارک شپ قدر میں عین تراویح کے وقت ان کا وصال ہو گیا۔ اس رمضان میں یہاں کارہ حکیم محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ان کے شدید اصرار پر تراویح پڑھاتا تھا۔ حکیم صاحب مرحوم کو بھی شوق تھا کہ جلدی سے فراغت ہو جائے۔ وہ معدہ رو بیمار اور مجھے بھی شوق کے جلدی سے فارغ ہو کر دارالطلبہ میں حضرت قدس سرہ کے پیچھے جا کر پہنیت تو افل حضرت کا قرآن سنوں اور دارالطلبہ کی مسجد سے آدھ گھنٹہ قبل حکیم جی کی مسجد میں نماز شروع ہوتی تھی۔ میری جلد بازی اور حضرت قدس سرہ کا وقار و اطمینان۔ میں اپنی مسجد سے فارغ ہو کر حضرت کے یہاں دوسری یا تیسری رکعت میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ حادثہ کی رات میں میری والدہ مرحومہ پر کوئی

خاص تغیر نہ تھا، مگر جب انہوں نے افطار کے بعد شدید اصرار سب پر کیا کہ روٹی جلدی کھائیں۔ جب میں حکیم جی کی مسجد میں پہنچا تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ آج صرف آدھا پارہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے ڈانت دیا کہ چل چل جلدی پڑھا اور جلدی سے تراویح ختم کر اکر یوں کہا کہ سید ہے دارالطلبہ نہ جانا، والدہ کی خیر خبر لے کر جانا۔ مجھے اس وقت تک کوئی واہمہ بھی اس قسم کا نہ تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو میری والدہ مرحومہ کو نزع شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تو اللہ کے بیہاں پہنچ گئیں اور میں دارالطلبہ حاضر ہوا، حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ ”حضرت والدہ کا انتقال ہو گیا۔“ میرے حضرت قدس سرہ کو مجھ سے جتنی محبت تھی، اس کو دیکھنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ میری چھوٹی اولاد میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا اور میں حسب معمول بذل لکھنے بیٹھ جاتا۔ حضرت مجھے گھر جانے کا تقاضہ کرتے۔ میں عرض کرتا کہ حضرت میں جا کر کیا کروں گا، عزیزان، مولوی حکیم ایوب، مولوی نصیر میرے بیہاں کے ہر کام کے ذمہ دارتے۔ عرض کرتا کہ حضرت ایوب و نصیر فن کر آئیں گے، میرے جانے میں بذل کا حرج ہو گا، لیکن کئی مرتبہ یہ نوبت آئی کہ میری درخواست پر املاع شروع کرایا اور ایک دو سطر لکھوا کر یوں فرمایا تو ایک سنا تاسارہ گیا اور حضرت پر کمل سکوت۔ میں نے دو منٹ بعد عرض کیا کہ ”حضرت نماز جنازہ کی تمنا تھی، مگر حضرت تو اعتماد میں ہیں۔“ حضرت نے بے ساختہ فرمایا کہ پیشاب تو قبضہ کی چیز ہے۔ میرے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرابتہ کا دستور یہ تھا کہ تراویح کے بعد دس پندرہ منٹ خدام کے پاس بیٹھتے، پھر پیشاب کرتے پھر وضو فرماتے، پھر مسجد میں واپس جا کر آرام فرماتے۔ اس رات کو حضرت پیشاب کے لیے نہیں اٹھے اور جب میں گھر واپس آیا تو تقریباً غسل وغیرہ سے فراغت ہو چکی تھی، کفن میں بھی میں نے لمبا کام نہیں کیا، مختصر سا کفن تھا، جو گھر میں کپڑے موجود تھے پہنٹا کر اور اوپر وہی سیاہ چادر جو ہر وقت میں اوڑھا کرتا تھا لفڑی پر ڈال دی۔ حضرت باہر تشریف لائے پیشاب وضو کیا، نماز جنازہ پڑھائی اور واپس مسجد میں تشریف لے گئے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ میرے دوستوں نے جو مدرسہ کے طلبہ بھی تھے گورکن کو پرے ہٹا کر آدھ گھنٹے میں ایسی بہترین قبرتیار کی جو سنت کے بالکل موافق تھی اور جنازہ کی نماز سے لے کر مدد فین سے فراغ پر سوا گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ اگلے دن میں نے بہت مخصوص لوگوں کو خط لکھوائے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، رمضان میں ہرگز آنے کا ارادہ نہ کریں، دعائے مغفرت ایصال ثواب سے مجھے مسرور فرمائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا بہت جی خوش ہوا ہو گا کہ رمضان میں سفر بہت مشکل ہوتا ہے، میری قریبی رشتہ دار بھی رمضان کے بعد آئے۔

### پہلی اہلیہ کا انتقال اور بندہ کے نکاح ثانی کی تحریک:

(۳) ... اس کے بعد میرے خانگی واقعات میں میری پہلی اہلیہ مرحومہ کا انتقال ہے۔ یعنی عزیز اُن ہارون، زبیر، شاہد کی نانی۔ یہ میری پہلی اہلیہ مرحومہ ہے۔ اس کا انتقال زچلی کی حالت میں ہوا کہ آخری بچی صفائیہ ۲۳ ذی القعده ۵۵ھ کو مغرب کے قریب پیدا ہوئی اور اسی وقت کے اعتباً نفاس ہو گیا اور ۵ ذی الحجه ۵۵ھ بدھ کی شب میں مغرب عشاء کے درمیان میں انتقال ہوا۔ جس کی شادی کا قصہ آئندہ شادیوں کے ذیل میں آ رہا ہے۔ بچی پچپن دن زندہ رہی، جس کو اس کی بڑی بہنوں اور والدہ طلحہ جو اس وقت تک میرے نکاح میں نہیں تھی نے پروردش کیا۔ پھر وہ بھی ۲۱ محرم ۵۶ھ کو اپنی ماں سے جاتی اور اس کے قریب ہی دفن ہوئی اور میں نے اپنی عادت کے موافق اگلے دن اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ یہاں کی آمد و رفت میں جتنا کرایہ اور وقت خرچ ہواں کا صدقہ اور تلاوت کا ایصال ثواب کر کے اطلاع دیں۔

میری اسی اہلیہ کے انتقال کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ آخری بچی پیدا ہوئی تھی اور اعتباً نفاس شروع ہو گیا۔ مجھے اپنی بے خسی سے کچھ احساس نہ ہوا۔ عزیزم حکیم یعقوب صاحب علاج کرتے رہے، اپنے بڑوں کے مشورے سے۔ مگر وہی دن بعد میرے مکان کے متصل مکان جواب گاڑہ بورڈنگ کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک مسلمان ڈاکٹرنی عبایہ بہت ہی مشہور ڈاکٹرنی تھی، سہار پور کے مسلمانوں میں اس کا علاج بہت ہی مشہور و معروف تھا اور یہ مکان بھی ذاتی اس کا خرید تھا۔ ۲۷ء کے ہنگامے میں وہ پاکستان چل گئی تھی۔ روانگی کے وقت وہ اپنا یہ مکان بہت ہی کم قیمت یعنی پانچ ہزار روپے پر گویا مجھے مفت دینا چاہتی تھی، بہت ہی اصرار کیا، اللہ اے بہت ہی جزاے خیر عطا فرمائے۔ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں کشوؤین کے جھگڑے میں کہاں پھنسوں گا۔ ہر چند مجھے مولوی نصیر نے اللہ ان کو جزاۓ خیر دے انہوں نے اور دوسروں نے بہت اصرار کیا کہ مقدمہ سے تو ہم نہ لیں گے تو قبول کر لے۔ مگر اس زمانے میں تو ساری ہی دنیاز اہد الی اللہ منقطع عن الدنیا ہو رہی تھی، مجھے اپنا موجودہ ذاتی مکان ہی وہاں معلوم ہو رہا تھا، اس لیے شدت سے انکار کر دیا۔ اس ڈاکٹرنی کو میرے گھر والوں سے بھی خصوصی تعلق ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزاۓ خیر عطا فرمائے وہ ڈاکٹرنی بہت اہتمام سے کئی کئی بار آتی، خود اپنے ہاتھ سے عمل علاج کرتی، دوائیں پلاتی، شرمنگاہ میں دوار کھتی، انجلشن لگاتی، انتقال کے دن سورجہ ۳ ذی الحجه ۵۵ھ کی صبح کو اس نے یہ کہا کہ میری دوائیں تو کارگر نہیں ہو رہی ہیں، اسے سرکاری شفاخانے میں لے جانے کی یا تو مجھے اجازت دیں، ورنہ وہاں کی نرسوں کو بیلا گئیں، میں مرض سمجھا دوں گی اور وہ دوائیں لا دیں گے۔ دوسری صورت پر عمل کیا گیا دو نر میں آئیں، بہت غور خوض سے انہوں نے

دیکھا، عبایسہ ڈاکٹرنی سے بھی مشورہ ہوا اور مجھ سے مریضہ سے دور جا کر یہ کہا کہ مریضہ کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگے۔ اگر ان انجکشنوں کے بعد ۶ گھنٹے تک مریضہ زندہ رہی تو زندگی کی امید ہے ورنہ آخری وقت ہے۔ اس پر مجھے بھی فکر ہوا، میں مغرب کی نماز پڑھ کر خلافِ عادتِ مرحومہ کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے کہا تم اپنا حرج کیوں کرتے ہو؟ اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں حرج نہیں ہے، تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا۔ غالباً میری خلافِ عادت بیٹھنے سے مرحومہ کو شہر ہوا۔ تو اس نے کہا ”اچھا میری تجویز و تکفین کا سامان کر دو۔“ میں نے جبری تسمیہ پیدا کر کے بہت اہتمام سے کہا کہ وہ تو نہیں کے بعد ہوا کرے پہلے نہیں ہوا کرتا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات کہوں تم نے لڑکوں کا نکاح تو کھڑے کھڑے بے اطلاع کر دیا۔ اس کی مراد مولا نا یوسف مرحوم اور مولا نا انعام صاحب کی شادیاں تھیں جس کا عجیب قصہ انشاء اللہ ان اور اراق ہی میں آجائے گا۔ مرحومہ نے کہا کہ ان کی شادیاں تو تم نے کھڑے کھڑے بغیر کسی اطلاع کے کر دیں، رخصتی میں کوئی کپڑا زیور وغیرہ ضرور دے دیجیو، کبھی تنگی ہی چلتی کر دو۔ میں نے کہا لاحول ولا قوہ اور بہت زور سے میں دفعہ لاحول پڑھی اور اس سے کہا کہ اللہ کہ بندی یہاڑی میں اس قسم کے خیالات پاس نہیں آنے دیا کرتے تو بہ تو بہ۔ اس نے کہا کہ اچھا تو پھر کچھ پڑھ کر سناؤ، میں نے کہا یہ کام کی بات کہی۔ چونکہ جنات کا بھی ارش سمجھا جا رہا تھا اس لیے سورہ لیم تو ابتداء نہیں پڑھی، پہلے سورہ جن پڑھی پھر منزل پڑھی، پھر لیم پڑھی اور لیم پڑھتے پڑھتے اس کا سانس آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ میری لیم سے قبل وہ ختم ہو گئی۔ شب ہی میں نے تجویز و تکفین ہو گئی تھی، صح کی نماز پڑھتے ہی گھنٹہ بھر میں تدفین ہو گئی، میرے حضرت رائپوری قبرستان تشریف لے گئے۔ قبرستان سے واپسی پر مجھے خوب یاد ہے اور میرے حضرتِ القدس رائپوری قدس سرہ تو اس فقرہ کو شاید پچاسوں دفعے سے زائد دوہرائی کے ہوں گے۔ میں نے مولوی نصیر صاحب سے کہا (مہمان زیادہ جمع ہو چکے تھے) نصیر پیارے مرنے جینے کے قصے تو ہر وقت کے ہیں دیکھ حضرت نے چائے نہیں پی۔ چھپیں تھیں آدمیوں کی تو جلدی بنا ل۔ پھر پانی کو کہتا آکر رکھتے ہیں، جب تک بھی سلسلہ چلے اور مطبخ میں دود گیک پلاو کے واسطے جب ہی میں نے پرچہ بھیجا۔ حضرتِ القدس رائپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ”حضرت کے یہاں رنج و غم کا توز و روازہ کھلتا ہی نہیں۔ یہ حادثہ بھی جشن ہی بن گیا۔“ مرحومہ کے انتقال کے بعد فوراً رات ہی ارجمند تاریخ فنگر مرحومہ کے والد، اپنے باپ کے حقیقی ماموں مولا نارواف الحسن صاحب کو دے دیا کہ فوراً آؤ۔ وہ گھبرا گئے۔ صح کی نماز سے پہلے ہی ریل سے پہنچ گئے۔ مجھے خوب یاد ہے۔ بڑا ہی ان پر رشک بھی آیا، بڑی دعا میں بھی میں نے ان کو اس وقت دیں اور بعد میں بھی دیں کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی پیچی کو پردھاک کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو

میرے پچا جان سے راستے میں کہا کہ ”عزیز القدر زکریا بھی بچہ ہی ہے اس کی دوسری شادی میں دیرہ کرنا۔ جلد کسی جگہ سوچ کر مجھے اطلاع کرو میں وہاں اس کے نکاح کی تحریک کروں گا۔“

مرحومہ کے انتقال کے بعد میں اپنے مشاغل علمیہ کی وجہ سے بالکل ہی یہ طے کر چکا تھا کہ دوسرا نکاح نہیں کروں گا کہ بڑا حرج ہوگا۔ اس مرحومہ کے انتقال کے بعد بلا مبالغہ پہنچ پیش میں اہم جگہوں سے اس سیہ کار کی شادی پر اصرار آئے اور بہت ہی دینی اور دنیوی جگہوں سے مطالبے ہوئے۔ میرے دو شخ، حضرت اقدس مدینی قدس سرہ اور حضرت اقدس رائپوری قدس سرہ کو بھی لوگوں نے سفارشی بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس رائپوری عین صبح کے وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت بہت ہی مجبور کیا گیا ہوں۔ ہر چند میں نے ان صاحب سے معدurat بھی کی شیخ کا ارادہ تو نکاح کا ہے نہیں۔ مگر انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے، مجھے مجبور کر دیا۔ یہ اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کرتا چاہتے ہیں، بڑی جائیداد کے مالک اور ساری جائیداد اگر آپ قبول کریں تب تو آپ کے نام کر دیں، ورنہ لڑکی کے نام۔ میں نے عرض کیا آپ کو معلوم ہے کہ میر اتوارا وہ شادی کا نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تو معلوم تھا، میں نے ان صاحب سے بہت انکار کیا مگر انہوں نے بہت اصرار کیا اس لیے حاضر ہوا۔

میری پچازادہ، والدہ طلحہ سلمہ کی ملنگی دوسری جگہ ہو چکی تھی، وہاں شادی کی تیاریاں بھی تھیں۔ حافظ محمد حسین صاحب اجراء وی حضرت گنگوہی قدس سرہ کے خادم، میرے حضرت قدس سرہ کے رمضان کے سامنے، میرے پچا جان نور اللہ مرقدہ کے خاص دوستوں میں، اکثر نظام الدین جاتے ایک ایک دو دو ماہ قیام کرتے، کسی وقت میں پچا جان نے ان سے درخواست کی ہوگی کہ همیشہ یوسف کے لیے صالح خاوند چاہیے۔ ابلیس مرحومہ کے حادثہ انتقال کے بعد حافظ محمد حسین نے اجراء سے پچا جان کو پیام بھیجا کہ ”همیشہ یوسف کے لیے صالح خالی ہو گیا ہے جا کر اس سے نکاح کر دو۔“ میرے پچا جان کے ذہن میں پہلے سے نہیں تھا اس لیے کہ اس کی ملنگی دوسری جگہ طے شدہ تھی تیاری بھی مکمل تھی۔ میرے پچا جان قدس سرہ نور اللہ مرقدہ اس پیام پر وہی سے سید ہے اول کا تدخل تشریف لائے اور والدہ طلحہ کے سابقہ مجوزہ شوہر کے والد کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کیا کہ ”لڑکی تو میں آپ کو دے چکا مگر میرے بھتیجے کا جو حادثہ پیش آیا اس کے بعد میری عاجزانہ درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی اس بھی کو بجائے اپنے صاحبزادے کے عزیز زکریا کو دے دیں تو مجھ پر احسان ہے کہ وہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے۔“ ماموں صاحب پچا جان کی گفتگوں کو دے دیں تو مجھ پر احسان ہے کہ وہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے۔ میرے دادا صاحب نور اللہ مرقدہ کی اولاد میں میری اولاد کا بھی کہیں پیونڈ لگ جاتا، مگر تم نے جو مجبووی اور ضرورت بتلائی وہ تو یقیناً میری بھی ضرورت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔“ اس کے بعد پچا جان سہارپور

تشریف لائے اور اس سے کار سے اپنی خواہش اور ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ”جواب کو تو معلوم ہے کہ میرا بائکل نکاح کا ارادہ نہیں، لیکن جواب کا اگر حکم ہے تو میں کیا انکار کر سکتا ہوں؟“ نکاح پڑھ دیجئے۔ پچاجان نے فرمایا کہ ابھی نہیں مجھے مشغولیتے دو چار دن بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا۔ ”نکاح پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے تین چار منٹ لگیں گے، لڑکے موجود ہیں پڑھ دیجئے۔“ پچاجان نے فرمایا ابھی لڑکی سے استیمار نہیں ہوا، تغیر زوج کا اس کو علم نہیں ہوا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ پہلے لڑکی کے خسر اور تم سے نہت لوں اور پھر یوسف کی والدہ ہمیشہ سے ذکر کروں گا۔ میں نے عرض کیا ”بہت اچھا۔“ اس شادی کی دلچسپ داستان تو شادیوں کے سلسلے میں آئے گی۔ اس وقت تو تعریت چل رہی تھی۔

### عزیز طلحہ کے بڑے بھائی کے انتقال پر پچاجان کے علمی مراسلم:

میری اس الہیہ سے ایک لڑکا عزیز طلحہ کا بڑا بھائی سب سے پہلے پیدا ہوا، نظام الدین ہی میں پیدا ہوا، چند ماہ بعد وہیں انتقال ہو گیا، مجھے اس معصوم کے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ اس وقت تو اس کے انتقال کا قصہ لکھنا تھا۔ اس کے انتقال کی اطلاع پچاجان کے کارڈ سے ہوئی۔ بچہ ڈاک آتی تھی، میں بدل لکھ رہا تھا، حضرت اماء کرار ہے تھے، اتنے حضرت قدس سرہ اپنی ڈاک اجھا اچند منٹ میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی ضروری خط تو نہیں، اتنے میں بھی جلدی جلدی اپنی ڈاک کا ضروری خط دیکھ لیتا۔ پچاجان کے اس کارڈ کو میں نے الگ رکھ لیا، جب حضرت اپنی ڈاک ملاحظہ فرمائے تو یہ کارڈ میں نے حضرت کی تپائی پر رکھ دیا اور قلم دوات لے کر لکھنے میں مشغول ہو گیا۔ حضرت نے خط ملاحظہ فرمانے کے بعد نہایت لڑکھڑائی ہوئی آواز میں ایک جملہ لکھوانا شروع کیا جو پورا نہ ہو سکا اور یہ فرمائی کہ اس کا تشریف لے گئے کہ ”مجھ سے تو نہیں لکھوایا جاتا۔“ میں اس زمانے میں مدرسہ کے کتب خانہ ہی میں حضرت کی تشریف بری کے بعد اپنا کام کیا کرتا تھا اور وہی شذرات لکھا کرتا تھا جس کا ذکر پہلے گزر چکا۔ ظہر کے وقت اٹھتا، بھاگتے دوڑتے بھی ظہر کے بعد روئی کھاتا، پھر مدرسہ کے سبق میں چلا جاتا یا حضرت کی ڈاک میں۔ ظہر کے وقت کارڈ گھر بھیج دیا، معلوم نہیں کوئی سی بچی روئی یا نہیں روئی۔ اگلے دن ڈاک میں عزیز مولا تا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی رنج و غم اور قلق و اضطراب سے لبریز خط پہنچا، جس میں اپنی بہت زیادہ بے چینی اور رنج کا اظہار تھا۔ میں نے اس کا نہایت تفسیحانہ جواب دیا۔ اس زمانے میں میرا خطوط لکھنے کا وقت رات کے بارہ بجے کے بعد شروع ہوتا تھا تاکہ چتنا وقت اس میں خرچ ہو وہ سونے کے اوقات میں سے کٹوئی ہو جائے، کام کے اوقات میں سے ضائع نہ ہو۔ میں نے رات بارہ بجے سے خوب چنیجی تفسیحانہ بھی خط عزیز یوسف مرحوم کو لکھا۔ یاد پڑتا ہے کہ اس کی

ابتداء اس شعر سے تھی:

عشق با مردہ نباشد پائیدار عشق را باجی و با قیوم دار  
 ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا  
 دوسرے شعر کا پہلا مسئلہ اس وقت اچھی طرح یاد نہیں کیا ہے؟ میرے پچا جان نے یہ خط پڑھ  
 لیا۔ مجھے نہایت عتاب کا خط لکھا، حوادث پر ایسے خطوط ہرگز نہیں لکھا کرتے جن سے جرأت،  
 بیبا کی، حوادث سے عدم تاثر معلوم ہوتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ خوب ڈانتا۔ میں تو اپنے سارے اکابر کی  
 شان میں ہمیشہ ہی گستاخ رہا۔ میں نے پچا جان کی خدمت میں یہ لکھا کہ ”امام بخاری رحمہ اللہ  
 تعالیٰ نے دو ترجمہ الباب باندھے ہیں: اول ”باب من جلس عند المصيبة“ یعنی فیہ  
 الحزن“ اور دوسرہ ”باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة“۔ جس میں حضرت انس رضی  
 اللہ عنہ کی والدہ کا قصہ لکھا کہ ان کا چھوٹا بچہ سخت علیل تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا، باپ نے پوچھا،  
 بچہ کیسا ہے؟، ماں نے کہا آج تو بالکل راحت سے ہے۔ کپڑے پہنے، کھانا وغیرہ تیار کیا، خوشبو  
 لگائی، جو مختلف روایات میں وارد ہوا ہے۔ خاوند نے ان کو سچا سمجھا۔ کھانا بھی کھایا، پھر صحبت بھی  
 کی۔ جب خاوند تماز کو جانے لگے تو یوں نے کہا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے نماز کے بعد اس کو دفن کر  
 دیں۔ خاوند نے صبح کو یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 صحبت بھی کی تھی، انہوں نے اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس رات میں اللہ  
 برکت فرمائیں گے اور برکت کی دعا دی۔ چنانچہ اس رات کی صحبت سے ایک صاحبزادے عبد اللہ  
 پیدا ہوئے اور ان کے نواز کے پیدا ہوئے جو سب حافظ قرآن ہوئے۔ پچا جان نور اللہ مرقدہ نے  
 لکھا کہ پہلا باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہے اور دوسرا صاحبیہ کا۔ میں نے لکھا حضور صلی اللہ  
 علیہ وسلم کا فعل رافت و شفقت علی الامۃ ہے، اس کو میرے شیخ نے پورا کر دیا کیونکہ وہ یہ کہہ کر اٹھ  
 گئے تھے کہ مجھ سے نہیں لکھوا یا جاتا اور دوسرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔  
 پچا جان نے پھر مجھے ایک ڈانت کا خط لکھ دیا۔ اللہ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے، والد  
 صاحب کے بعد وہ میری تربیت کا اپنے آپ کو مستقل ذمہ دار سمجھتے تھے۔ میرا دل تو چاہا کہ ان کے  
 کارڈ کا بھی جواب لکھوں مگر ذر کے مارے نہیں لکھا کہ وہ مزید ناراض نہ ہوں۔ میرے پچا جان  
 قدس سرہ میری اصلاح و تربیت کے لیے بعض مرتبہ معمولی سی بات پر زیادہ ناراض ہو جایا کرتے  
 تھے اور تو کسی کی پوچھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی مگر ایک دو مرتبہ حضرت رائپوری قدس سرہ کے سامنے  
 جب اس قسم کا واقعہ پیش آیا اور حضرت نے تمہائی میں پچا جان سے پوچھا کہ حضرت یہ تو کوئی اتنی  
 ناراضی کی بات نہ تھی تو حضرت پچا جان یہ فرماتے کہ حضرت! آخر میں پچا بھی تو ہوں۔

میری ابليٰ مرحومہ سے پارہ اولادیں ہوئیں، چار لڑکے جو شیرخواری میں چل دیے آئھ لڑکیاں جن میں تین تو شیرخواری میں گئیں اور دو عروی کے بعد۔

### چوتھا حادثہ میرے چچا کا انتقال:

(۴)..... میرے اکابر کے حوادث کا سلسلہ تو بہت وسیع ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ اور ان کے اجل خلفاء۔ مگر میں یہاں اس وقت چند نمونے خانگی کے لکھوار ہا ہوں۔

جب میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ کا ۲۱ ربیعہ ۱۳ جولائی ۱۹۷۳ء بروز پنجشنبہ بوقت اذا ان صح وصال ہوا تو میں نظام الدین میں تھا۔ میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ کے وصال پر ایک مشترک کارڈ حضرت ناظم صاحب، مولانا عبدالرحمٰن صاحب، مولانا اسعد اللہ صاحب کے نام لکھا کہ آپ حضرات میں سے کوئی نظام الدین تکلیف فرمانے کا ارادہ نہ کریں۔ میں خود ہی کل یا پرسوں حاضری کا ارادہ کر رہا ہوں اور جب میں نے یہ لکھ دیا کہ میں خود ہی حاضری کا ارادہ کر رہا ہوں تب کون ارادہ کرتا؟ اور یہ لفظ میں نے قصد آجات کر لکھا تھا کہ جب ان حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک دو دن میں آنے کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایک تحریر اپنے مشہور و معروف مضمون کی لکھوا کر مدرسہ کے بورڈ پر لکھا دی۔ نیز میرے نظریے اور مضمون کی روشنی میں نظام الدین کے حضرات کی طرف سے آفاقی عالم میں مختصر اور مفصل خطوط بھیجے گئے کہ نظام الدین میں آنا محض رسمی تعزیت ہے۔ اصل تعزیت وہ کام ہے اور اس میں ہم لوگوں کا ہاتھ بٹاتا ہے جس میں چچا جان تشریف لے گئے۔ اس کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اثر ہوا کہ اتنی کثرت سے جماعتیں لفہیں کہ حضرت چچا جان کی حیات میں بیک وقت اتنی نکلی تھیں۔

### حادثہ بڑی لڑکی کا انتقال:

(۵)..... جن دو (۲) لڑکیوں کی عروی کے بعد انتقال ہوا، ان میں سے پہلی اور سب سے بڑی لڑکی والدہ مرحومہ عزیزہ ہارون سلمہ ہے۔ اس کی موت کا قصہ میں اپنے کسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ کئی سال تپ دق میں بیمار رہ کر ۲۹ شوال ۱۴۷۶ھ مطابق ۱۵ ستمبر ۱۹۵۷ء کو مغرب کی نماز کے بعد میں انتقال ہو گیا، جب کہ وہ اشارے سے سجدہ کر رہی تھیں۔

### حادثہ انتقال دوسری لڑکی شاکرہ:

(۶)..... اس کے علاوہ دوسری لڑکی شاکرہ مرحومہ کا انتقال ۱۲ ربیعہ ۲۹ دشنبہ ۱۹۷۵ء کو ہوا۔ وہ بھی مرحومہ ایک بڑے رنج اور اور صدمہ کا شکار ہو کر تپ دق میں بیٹا ہو گئی تھی۔ مگر اللہ نے صبر و شکر اتنا عطا فرمایا تھا کہ اس نے اپنی کسی بہن پر بھی کبھی رنج و قلق کا اظہار نہ کیا۔ اللہ

تعالیٰ کا شکر ہر وقت ادا کرتی تھی اور اپنے نام کا حق ادا کر گئی۔ جس حادثہ میں اس کی موت ہوئی اس حادثہ کے بعد اس نے بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا اور سارے دن اسی میں مشغول رہتی۔ چپ دل کی حالت میں بھی پڑے پڑے بچیوں کو بڑے اہتمام سے محنت اور محبت کے ساتھ پڑھایا کرتی تھی۔ اتفاق سے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سہار پور آئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر گیا تو مرحومہ نے میں پڑھنے کی فرمائش کی۔ مولانا یوسف صاحب نے پڑھی اور جب "سلام، قُوْلَا مِنْ رَبِّ رَّحِيمٍ" پڑھنے کے معلوم مولانا یوسف صاحب مرحوم پر ایک جذب اور جوش آیا اور اس آیت شریفہ کوئین بار پڑھا۔ تیسری کے درمیان میں میری مرحومہ بھی کی رُوح پرواز کر گئی۔ میں نے اس مرحومہ کے انتقال کو کچھ زیادہ اہمیت نہ دی، نو عمر بچی تھی۔ کوئی خاص امتیازی شهرت نہ تھی۔ مگر میری حیرت کی انتہائی رہی کہ جب دو ہفتے کے اندر اندر میرے پاس دو سو سے کہیں زیادہ کارڈ پہنچ، مضمون مشترک سب کا مختلف الفاظ کے ساتھ ایک تھا۔ "حضرت! صاحبزادی صاحبہ کے انتقال کا حال فلاں سے معلوم ہوا۔ حاضری کو طبیعت بے چین ہے۔ مگر چونکہ حضرت والا کا اصول پہلے سے معلوم تھا اس لیے سہار پور آمد و رفت کا اتنا کرایہ اور آمد و رفت کے دو دن میں اتنی تلاوت ہو سکتی تھی، پسیوں کا صدقہ اور تلاوت کا ایصال ثواب کر کے جناب کی خدمت میں اطلاعی کارڈ ارسال ہے۔" میرے اللہ کا کتنا احسان ہے، مجھے اس مرحومہ کی تعزیت کرنے والوں سے اس قدر سرست پہنچی کہ اس کے حادثہ انتقال کا قلق اس کثرت سے جانی و مالی ایصال میں دب گیا۔ میرا یہ معمول اس وقت تک مشہور ہو چکا تھا، کہ سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے انتقال پر، پھر اپنی والدہ کے، پھر اہلیہ مرحومہ اور پھر بیچا جان کے انتقال پر ایک ہی مضمون سب دوستوں کو لکھا گیا تھا، اس لیے یہ چیز مشہور ہو گئی۔

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب نور اللہ مرقدہ دیوبند سے شاہجہانپور کسی اجتماع میں جا رہے تھے، سہار پور کے اٹیشن پر ان کو مرحومہ بھی کے حادثہ کا حال معلوم ہوا، ملکت روئی کر دیا اور اٹیشن سے اجتماع میں تار دیا کہ "میں آنہیں سکتا خطا کا انتظار کریں۔" اور میرے پاس تشریف لے آئے۔ دو پھر کا وقت تھا۔ میں چھوڑتے پڑو یہی ہی بغیر کچھ بچھائے پڑا ہوا تھا۔ مولانا مرحوم سے بہت ہی بے تکلفی ہو گئی تھی اتنی زیادہ کہ اس کے واقعات بھی بہت عجیب ہیں اور آخر میں تو مولانا کا یہ تعلق اتنا بڑھ گیا کہ تقریباً ہر جمعہ کو ۹ بجے کی گاڑی سے آتے، جمعہ کے بعد کھانے میں شرکت کرتے اور ۲ بجے کی گاڑی سے دیوبند والپس چلتے جاتے۔ میں نے آتے ہی مولانا مرحوم سے مطالبہ کیا آپ کہاں؟ فرمایا کہ شاہجہان پور جا رہا تھا، اٹیشن پر حادثہ کی اطلاع ہوئی، تار دے کے آگیا۔ میں نے کہا آپ نے پڑا تیر مارا۔ جلسہ میں تشریف لے جاتے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے

کرتے اور اس جلسہ کی شرکت کا اجر و ثواب مرحومہ کو بخش دیتے تو میرا کتنا دل خوش ہوتا۔ یہ کہہ کر میں نے کہا کہ لیٹ جاؤ، اب تک کی گفتگو میں میں پڑا ہوا تھا اور وہ بیٹھنے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔ اس کے بعد میں نے مولانا مرحوم سے اپنا قانون تعزیت جو والد صاحب قدس سرہ کے زمانے سے چل رہا تھا، مفصل سُتا یا۔ فرمایا کہ حضرت قانون تو بہت ہی قیمتی ہے، کاش لوگ اس پر عمل کر لیں تو جانے والوں کے لیے بھی بڑا سرما یہ اور رہنے والوں کے لیے بھی بڑا ذخیرہ ہے مگر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کم از کم تم جیسوں کو تو اس کی تبلیغ کرنی چاہیے اور براہ کرم آئینہ میرے کسی حادثہ میں ہرگز تکلیف نہ فرمائیں اور پھر میں نے زبردستی ۱۲ بجے کی گاڑی سے ان کو شاہجهان پور روانہ کر دیا۔

اس مرحومہ کے انتقال پر مجھے قلق بھی بہت ہوا، اس واسطے کہ اس نے ناگہانی مصیبت اٹھائی اور سرت بھی اس معنی میں بہت ہوئی کہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید اللہ ہی کی طرف سے یہ بات ہو کہ اس مرحومہ کے لیے ایصالِ ثواب کے جتنے خطوط میرے پاس آئے ہیں، اکابر کو چھوڑ کر اعزہ میں سے کہیں کسی کے متعلق اتنے ایصالِ ثواب اور صدقہ کے خطوط نہیں پہنچ ہوں گے۔ تیرے دن حضرت اقدس مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ اعلیٰ اللہ مرابتہ، مع اہمیت محترم علی الصباح پہنچ گئے اور میں نے نہایت تجھاں عارفانہ کے ساتھ عرض کیا حضرت! کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضرت نے ڈاٹ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر بھی نہیں کی۔ میں نے عرض کیا حضرت کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی، یہ قصے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تورات ۱۲ بجے معلوم ہوا، میں تو اسی گاڑی سے آرہا تھا مگر گھر میں سے اصرار کیا کہ میں بھی چلوں گی، بے وقت ان کے لانے میں وقت تھی، اس لیے علی الصباح آیا۔ میں نے عرض کیا کہ "حضرت وہیں سے دعائے مغفرت، ایصالِ ثواب فرمادیتے تو وہ مرحومہ کے لیے زیادہ قیمتی ہوتا، آج کے بخاری کے سبق کا ایصالِ ثواب فرمادیتے۔" اچھی طرح تو الفاظ یاد نہیں مگر یہ یاد پڑتا ہے کہ حضرت نے اس قسم کے الفاظ فرمائے تھے کہ آنے سے وہ حذف تھوڑے ہو گئے، یہ بھی سہی وہ بھی سہی۔ اس مرحومہ کی شادی کا بھی عجیب قصہ ہے، یاد رہا تو اپنی جگہ آئے گا۔

### حاووہ انتقال عزیز یوسف مرحوم:

(۷) ان حاووہ کی آخری کڑی عزیز گرامی قدر منزالت مولانا الحاج محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرابتہ کا حاوہ جا نکاہ ہے جس کی تفاصیل اخبارات و رسائل میں شائع ہو چکی ہیں اور خوب ہوئی ہیں، چند واقعات جن کا تعلق میری ذات سے ہے مختصرًا لکھوار ہا ہوں۔

مورخہ ۲۹ ذی قعده ۸۴ھ مطابق ۲۵ اپریل ۱۹۶۴ء بروز جمعہ عزیز مرحوم کی سہار پور آمد کی اطلاع

تھی، جمعہ کی صبح کو عزیز مرحوم کی بیماری کا تار آیا۔ مجھے پاکستانی احباب پر بہت ہی غصہ آیا، اس واسطے کہ ان سب احباب کی مستقل اور مستمر عادت عزیز یوسف مرحوم کے سلسلے میں اور اس سے کہیں زیادہ حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے معاملے میں ہمیشہ یہ رہی کہ عین وقت پر بیماری کے تاریخ مادم آئے شروع ہو جاتے اور اس کے بعد مولانا یوسف مرحوم کا تو ہفتہ عشرہ موخر کر دینا اور حضرت رائے پوری قدس سرہ کو آٹھ دس ماہ موخر کر دینا ایک معمولی بات تھی۔ مجھے بیماری کا یقین ذرا نہ آیا، میں جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھا کر سونے کے ارادہ سے لیٹا تھا کہ ۲ بجے کے قریب عزیز طلحہ نے مجھے آ کر اٹھایا اور کہا کہ ”صابری صاحب کا آدمی کھڑا ہے، لا ہور سے فون آیا ہے کہ مامول حضرت کا انتقال ہو گیا۔“ موت کے لیے نہ تو کوئی وقت ہے نہ اس میں کوئی استبعاد، میں آٹھ کروضوکر کے مدرسہ کی مسجد میں جا بیٹھا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اس لیے کہ طلحہ کی اس روایت کے ساتھ ساتھ چاروں طرف بجوم نے گھیرنا شروع کر دیا اور مجھے ایسے وقت میں لغو باتیں کہ ”کیا ہو گیا؟ کیا بیمار تھے؟ کب ہوا؟ کون خبر لایا؟“ اقویات سے بہت ہی وحشت ہوا کرتی ہے کہ یہ اہم اور قسمی وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے، جس میں طبیعت ”منقطع عن الدنیا متبل الى الآخرة“ ہوتی ہے، اس وقت کی تلاوت بھی قسمی، ذکر و فکر بھی قسمی۔ جمع بڑھتا ہی چلا گیا۔ مدرسہ، سڑک سب بھر گیا اور میں نے تکمیر تک سلام پھیر کر ہی نہ دیا، عصر کی تکمیر پر سلام پھیرا اور گھر جا کر۔ وہاں خبر پہنچ چکی تھی، مگر میرے گھر کی سب بچیوں کو اللہ بہت ہی جزاے خیر عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، نامرضیات سے حفاظت فرمائے، وہ اس کی خوبی عادی ہو چکی ہیں کہ وہ ایسے موقع پر تلاوت یا تسبیح لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور ہر آنے والی کو زائد تسبیح رکھی ہو تو وہ ورنہ اپنے ہاتھ کی تسبیح دے دیا کرتی ہیں اور خود بغیر تسبیح کے شروع کر دیتی ہیں کہ اس کی عادی ہیں۔ میں نے زنانہ دروازہ پر آ کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ ”وہ حادثہ تو تم نے سن ہی لیا، بہت مشغول رہنا، تمہارے پاس عشاء کے بعد آؤں گا، اس سے پہلے پڑھنے پڑھانے میں لگی رہو۔“

دروازے سے نکلا تو گھر سے مدرسہ تک بجوم ہی بجوم تھا۔ میں ترشیز روئی کیسا تھا ان دوستوں سے یہ کہتے ہوئے کہ ”مجھے تو اس وقت کچھ ضروری پڑھنا ہے، آپ لوگ یہاں تشریف رکھیں، مدرسہ میں تشریف رکھیں اور خوب باتیں کریں، ایسی فراغت کا وقت پھر کب ملے گا۔“ اس گفتگو کے بعد جمع منتشر ہو گیا اور میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، البتہ وہاں بولنے کی آواز کان میں پڑتی رہیں۔ عصر سے آؤ ہے گھنٹے بعد عزیز طلحہ، صابری صاحب کے دوسرے آدمی کو ساتھ لے کر آیا کہ دوسرائیلیقون آیا ہے۔ ”حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دُن کے مسئلے پر ہنگامہ ہو گیا ہے۔ حافظ

صدیق صاحب وغیرہ ہندی اہل میوات دہلی جانے پر اصرار کر رہے ہیں اور مقامی حضرات یہاں تدفین پر اور فیصلہ تیری رائے پر۔

مجھے اس کا وہمہ بھی نہ تھا کہ دہلی تابوت کی طرح آسکتا ہے، اس لیے کہ اس سے قبل مرشد العالم حضرت اقدس مولانا الحاج شاہ عبدالقدوس صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال پر مجھے یہ باور کرایا گیا تھا کہ رائے پور منتقل ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ حالانکہ حضرت نور اللہ مرقدہ کی خواہش و تمنا اور جملہ خدام خاص طور سے اپنے بھتیجے عبدالجلیل سے یہ وعدہ لینا میرے اور سب کے سامنے کا تھا کہ لغش کے روکنے کی کوشش نہ کیجیو اور جب میں نے ڈہلیاں تدفین پر مطالبہ کیا کہ یہ کیوں ہوئی؟ تو مجھے بہت زور سے متعدد احباب کے خطوط میں بتایا گیا تھا کہ رائے پور لانے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی: (۱) حکام سے اجازت۔ (۲) ڈاکٹروں کی اجازت۔ (۳) دماغ میں، دونوں موندھوں پر، گردن کی دونوں طرف، سینے پر، ٹانگوں پر شکاف آکر سب جگہ دوائیں بھری جائیں گی۔ (۴) ان سب کے باوجود بھی لغش کا بغیر تعفن کے پہنچنا ممکن۔ میں نے ان راویوں کو سچا سمجھا اور چونکہ حضرت قدس سرہ کے خدام بڑے بڑے اعلیٰ مدبرین، وزراء، ڈاکٹر سارے ہی شامل تھے اور سب ہی کو حضرت کی تمنا کا حال معلوم تھا اور پھر حضرت کا تابوت منتقل نہ ہو سکا، مجھے تو اس کا وہمہ بھی نہ تھا، بلکہ کسی درجے میں بھی خیال نہ تھا کہ عزیز مرحوم کا تابوت منتقل ہو سکتا ہے۔ میں نے حافظ صدیق صاحب وغیرہ کی دلداری میں اپنی رائے کے خلاف یوں سمجھ کر مفت کرم داشتن ہے یہ کہلا دیا کہ ”اگر نظام الدین آمد کی کوئی صورت ہو سکتی ہو تو مقدم ہے ورنہ رائے وندھ کے مدرسہ میں۔“ مگر میری حیرت کی انتہاء نہ رہی، جب آٹھ بجے تیسرا شیلیفون آیا کہ ”تابوت تیار ہے۔“ اب بچ لاهور سے چل کر اب بچ دہلی پہنچ جائے گا۔“ میں بڑی دیر تک عزیز یوسف مرحوم کے مسئلے کو چھوڑ کر حضرت رائے پوری قدس سرہ کے منسلک میں کھو گیا کہ حضرت کی تمنا کے باوجود، اصرار و خواہش کے باوجود، محبت کے دعویداروں نے کس طرح یہ اقدام کیا؟

عشاء کی نماز پڑھ کر حسب وعدہ گھر میں گیا تھا کہ عزیز ہارون، بایوایا ز وغیرہ کار لے کر سہار پور پہنچے، اس لیے کہ نظام الدین میں بہت محل خبر عصر کے قریب کسی کی روایت سے حادثہ کی صرف پہنچی تھی، میں نے ہارون سے کہا کہ ”تم یہاں کہاں؟ تمہارے یہاں تو تابوت پہنچ رہا ہے۔“ اور سمجھایا کہ اللہ جمل شانہ نے اس سے کار کے واسطے کا رستہ جیسی ورنہ میرے جانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں نے ہارون سے کھانے کا تقاضا کیا۔ اس نے کہا کہ جمعہ کے بعد کھایا ہے، تو میں نے کہا تم لوگ عشاء کی نماز پڑھ آؤ اتنے چائے تیار ہو جائے گی۔ انہوں نے نہایت عجلت میں نماز پڑھی اور عجلت میں چائے پکائی گئی۔ اب بچ سہار پور سے کار میں چل کر ۳ بجے نظام الدین پہنچتا ہوا۔ راستہ خوب

صاف ملا اور ستائے میں خوب لطف آیا۔ لیکن تین جگہ قسمت سے پھاٹک بند ملے، پہلا ہی پھاٹک روڑ کی والا بہت پہلے سے بند کر دیا تھا۔ بڑی خوشامدگی کہ گاڑی قریب نہیں ہے مگر ایک نہ مانی اور آدھا گھنٹہ لے ہی لیا۔ وہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ لعش کے آنے میں بھی تاخیر ہوئی اور ہم سے ذرا پہلے نظام الدین پہنچی۔ اس کی تفاصیل تومذ زائد ہی ہیں اور سائل، اخبارات سوانحوں میں آجھی چکی ہیں۔ یہاں میرا مقصد تو یہ ہے کہ اس حادثہ میں بجائے تعزیت کے لیے آنے کی شدید ممانعت کے دلیل اہل مرکز کی طرف سے اور ان ہی کے ساتھ میری طرف سے بھی تعزیت کرنے والوں کو بلا نے کا وہ زور رہا کہ ساری عمر کی کسر نکل گئی۔ مگر یہ بلا نا بھی حقیقت میں اس نہ بلانے سے زیادہ قیمتی تھا جواب تک پیش آیا، اس لیے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں آدمی روزانہ آتے اور آتے ہی ان کی تشکیل کر کے کسی جانب جماعت میں برائے ایصال ثواب مولانا یوسف مرحوم چلتا کر دیا جاتا۔ اس دن تو ہنگامہ بہت ہی زیادہ رہا، بات کرنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ دوسرے دن مولوی انعام سلمہ نے مجھ سے فرمایا کہ تیربے حکم کی تعییل میں جنازہ یہاں تک آگیا، ورنہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت رائے پوری قدس سرہ کے تابوت کے نزاع میں ہمیشہ مجھ سے یہ کہا اور کئی دفعہ کہا کہ ”میری لعش کہیں منتقل نہ کی جائے، اگر ریل میں انتقال ہو جائے تو قریب کے اشیش پر اتار کرو ہیں جنگل میں دفن کر دینا، جس جگہ کا نکٹ ہو وہاں بھی نہ لے جاتا۔“ میں نے ان سے کہا کہ ”اللہ کے بندوجب مرحوم کی تمہارے پاس ایک وصیت تھی تو تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔“ تو عزیزم مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا کہ ”وہاں ہنگامے کی ایسی صورت پیدا ہو رہی تھی کہ جس میں نزاع کا اندر یشہ تھا، تیرانام آتے ہی ہر فریق چپ ہو گیا، ورنہ اہل لاہور کا شدید اصرار تھا کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب نور اللہ مرقدہ کے مقبرہ میں دفن کیا جائے اور اسلامی احباب کا رائیونڈ میں اور ہندی میواتیوں کا زور تھا کہ دلیل لیا جانا ہو گا ورنہ یہیں ہنگامہ ہو جائے گا۔ تیرے نام پر تینوں فریق چکے ہو گئے اور حافظ صدیق نے کہہ دیا کہ اس کے حکم کے خلاف تو ہم نہیں بول سکتے۔“ میں نے کہا کہ پھر کم از کم مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصیت شیلیفون پر لقل کرانی چاہیے تھی، مجھے تو پہلے سے اس کا حال معلوم پڑتا، میں تو کبھی دلیل نہ منگوටا، البتہ رائے وند کو ضرور پسند کرتا۔“ کیا کیا قصے لکھے جائیں اور لکھوائے جائیں۔ ورنہ ان چوبہتر (۷۳) برس میں کیا کیا دیکھا، کیا کیا سناء، کیا کیا گزری، بہت طویل قصے ہیں اور عبرت کے لیے تو میں اس قسم کے بعض واقعات میں بڑا فکر میں پڑ جاتا ہوں کہ مالک کی قدرت کے عجیب کر شئے ہیں۔

گزشت واقعات، خاندانی اہم اموات کا تذکرہ تھا، جن کی تعزیت سے میرا خصوصی تعلق رہا۔

اکابر کے سلسلہ کے حوادث میں بھی بعض عجیب قدرت کے کر شئے دیکھنے پڑے۔

### اکابر میں پہلے حادثہ انتقال حضرت گنگوہی:

(۱)..... اس سلسلے میں سب سے اول قطب الارشاد سید الطائف حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ اعلیٰ اللہ مراجعہ کا حادثہ وصال دیکھا، جو ۸۹ یا ۹۰ جمادی الثانی علی اختلاف روایتیہ الہمال ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۵ء جمعہ کے دن چاشت کے وقت ہوا، وہ منظر اب تک آنکھوں کے سامنے ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد تدقین عمل میں آئی۔ صبح کے بعد سے اور جنازہ کے اٹھنے تک اس قدر ستارہا کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آدمی کی آواز نہیں جانور کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی، لب ہر شخص کے خوبیل رہے تھے اور اس قدر تکمیل کہ قرآن پڑھنے کی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حفاظ بھی قرآن پڑھ رہے تھے اور ناظرہ خواں بھی مسجد میں بیٹھ کر قرآن خوب کثرت سے پڑھ رہے تھے، مگر زبان پر ایسا سکوت کہ آواز کا نام نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی سے بات پوچھتا بھی تھا تو ایک دو منٹ بعد اشارے سے جواب ملتا۔ جمعہ کی نماز تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حضرت قدس سرہ کی علالت سے امامت کر رہے تھے پڑھائی بہت بھر اُنی آواز میں، جنازہ کی نماز حضرت شیخ الہند نے حضرت صاحبزادہ صاحب کے حکم سے پڑھائی۔ اس لیے کہ سارے ہی اجل خلفاء موجود تھے۔ حضرت صاحبزادے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ”مولوی محمود پڑھائیں گے۔“ میں تو بہت ہی پچھتا۔ چھپ چھپ کر قبرستان جا رہا تھا اور جگہ جگہ سے ہٹایا جا رہا تھا، راستے میں مخلص کہتے کہ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ قبر شریف تک تو پہنچ ہی نہ سکا، اس لیے کہ تقریباً چاروں طرف سے ایک میل زائد جگہ کا لوگوں نے احاطہ کر رکھا تھا۔ منظر خوب یاد ہے۔

### دوسری سانحہ ارتھائی بڑے حضرت رائے پوری:

(۲)..... اس کے بعد ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۲۷ھ میں پیلوں میں حضرت اقدس قطب الالقیاء رائے التواضع والصفا حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کا منظر دیکھا، میرے حضرت قدس سرہ نے سہارپور میں ایک شب پہلے خواب دیکھا کہ چاند گرہن ہو گیا۔ خواب دیکھتے ہی بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں جی مرحومہ یعنی اہلبیہ محترمہ حضرت قدس سرہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ حضرت قدس سرہ نے فرمایا یہ خواب دیکھا ہے۔ مولانا محمود الحسن مالٹا میں ہیں اور مولانا عبدالرحیم صاحب عرصہ سے بیمار ہیں۔ اللہ ہی خیر فرمائے۔ علی الصباح حضرت پیلوں کا ارادہ فرمایا۔ مجھے یہ خواب اسی طرح یاد ہے۔ تذکرۃ التکلیل صفحہ ۲۶ میں کچھ معمولی تغیر خواب کے نقل میں ہے۔ یہ گاؤں شاہزادہ حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ریس بہت کا خریدا ہوا تھا، آب و ہوا اس کی بہت اچھی تھی اور انگریزوں کی چند کوٹھیاں اس میں تھیں جن سے خریدا گیا تھا۔ بہت ہی

ہوا در بہت ہی پُر فضا جگہ تھی۔ شاہ صاحب کی درخواست پر حضرت قدس سرہ زندگی کے آخری ایام میں تبدیل آب و ہوا کی وجہ سے یہاں تشریف لے آئے تھے۔ یہیں وصال ہوا۔ وصال کے بعد جنازہ رائے پور گیا۔ حضرت سہار پوری قدس سرہ کی تشریف آوری تو صحیح کو ہو گئی تھی۔ وصال اگلی شب میں ہوا۔ دوسرے دن اخیر شب میں ہی سہار پور میں خبر گونج گئی تھی۔ ہمارے یہاں مدرسہ میں شش ماہی امتحان ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں امتحان اتنی شدید چیز تھی کہ مدرسہ کے کسی ملازم کو مدرس ہو، اہل دفتر، محصل چندہ ہو، ناظم کتب خانہ ہو، کسی کو کسی حال میں بھی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ محصلین چندہ بھی اس زمانے میں اگر دو دراز نہ ہوں تو واپس بلائے جاتے تھے۔ کتب خانہ صحیح کو اور مالیات کا دفتر بھی صحیح کو بند رہتا تھا۔

### مولانا ثابت علی صاحب کا انتقال:

ہمارے مدرسہ کے مدرس دوم حضرت مولانا ثابت علی صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا عبدالطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم کے حقیقی چچا ۱۲۸۳ھ یعنی جب سے مدرسہ کی ابتداء ہوئی اس وقت سے مدرسہ کے طالب علم ابتداء فارسی سے لے کر آخر دورہ تک مدرسہ ہی میں تعلیم پائی اور ۹۶ھ میں دورو پے وظیفہ طلبہ جو پہلے سے تھا وہ بدستورہ کرد و روپے معین المدرسی کی تھنواہ مقرر ہو کر چار روپے پر تقریب ہوا اور معین المدرسی کے ساتھ ۱۲۹۸ھ میں تکمیل حدیث اور ۹۹ھ میں صرف بیضاوی پڑھی اور ترقی کرتے کرتے مدرسی حدیث تک پہنچ اور چودہ (۱۴) دن مرض احتیاطیں الیوال میں بیمار رہ کر شہزادہ جمعہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۹۲ھ میں ب عمر پنیسھ (۶۵) سال سہار پور ہی میں انتقال فرمایا اور حاجی شاہ قبرستان میں جہاں مدرسہ کے اکثر اکابر اور میرے والدین، اپلیہ مرحومہ اور بعض لڑکیاں مدفن ہیں وہیں حضرت مولانا دفن ہوئے۔ مولانا نامرحوم حضرت قدس سرہ کی روائی پر مدرس اول ہی ہوتے۔ مگر ۳۳ھ میں جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ معرکۃ الآراء سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی نیابت کے لیے میرے والد صاحب قدس سرہ کی تحریک اور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کی تائید سے مولانا ثابت علی صاحب کے سمجھتے ہیں مولانا عبدالطیف صاحب کو مدرس اول بنادیا تھا۔

### مولانا عبدالطیف کی صدر مدرسی:

میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک کا مطلب یہ کہ چونکہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے قائم مقام صدر مدرس تھے، اس لیے حضرت کے طویل سفر میں ان ہی کو مدرس اول ہونا چاہیے تھا مگر والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ صدر مدرسی کے واسطے جس ممتاز،

انتظامی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مولوی عبدالطیف میں زیادہ ہے میرے حضرت نبھی اس تجویز کو پسند کیا اور بڑے حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی۔ حضرت مولانا ثابت علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رخ و قلق طبعی چیز تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مولانا مرحوم کئی دن تک ”الرجل و قدمہ و الرجل و بلاؤہ“ یہ مشہور حدیث ابو داؤ شریف میں ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے جس کا مطلب یہ ہے آدمی اور اس کی قدامت و مشقت یعنی خدمات کی رعایت ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کو گنگنا یا کرتے۔ مگر چونکہ اصل و استحقاق سب کی نگاہوں میں میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا

### مولانا ثابت علی صاحب کی نگرانی امتحان:

مولانا ثابت علی صاحب کے درجے میں دوسرے مدرس مولانا عبدالوحید صاحب سنبحی بھی تھے۔ اس لیے کچھ مولانا ثابت علی کی حق تلقی نمایاں نہ ہوئی، لیکن اپنی علوٰ شان، قدامت، جلالت کی وجہ سے امتحان کی روح روای خاص طور سے وہی تھے اور بہت ہی اہتمام سے محققین کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ طلبہ کی نگرانی تو مدرسین حضرات کرتے اور مولانا مرحوم سب سے زیادہ مدرسین کی نگرانی فرماتے۔ ان کی نگرانی کا منظر بھی کاغذ پر لانے کا نہیں، بلکہ کر کے دکھانے کا ہے۔ بڑے غور سے دائیں طرف دیکھ رہے ہیں ایک دم بائیں طرف منہ پھیر لیا۔ لیکن زیادہ نگرانی مولانا مرحوم کی محافظوں پر ہوتی۔ دو (۲) محافظ مدرسین اکابر میں سے بھی اگر اس موقع پر ایک دوسرے سے مختصری بات کرتے تو مولانا مرحوم جن کے کلام میں بہت عجلت تھی اور بہت جلدی بولا کرتے تھے، وہیں ذات دیتے تھے اور مولانا عبدالوحید صاحب کے علاوہ سارے ہی مدرسین مولانا کے شاگرد تھے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو امتحان گاہ میں ہوتے تھے۔ مولانا مرحوم جلدی جلدی فرماتے ”میاں صاحب، میاں صاحب، میاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیں گے۔“ مجھے تو ان کا زور و کھلا نا تھا ورنہ یہ جگہ اس مضمون کی تھی نہیں۔

میں نے حضرت مولانا عنایت الہی صاحب مہتمم مدرسہ نور اللہ مرقدہ سے پیلوں جانے کی اجازت مانگی۔ مہتمم صاحب کو اللہ بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے، مجھ پر بچپن ہی سے شفیق تھے، چپکے سے اجازت دے دی اور یہ کہا کہ ”چپکے سے چلا جا، مولوی ثابت نہ دیکھیں۔“ میں بہت ہی آہستگی سے اٹھا، مگر مولانا ثابت علی صاحب نے نہ جانے کہاں سے دیکھ لیا، حادثہ کی خبر ان کو بھی ہو چکی تھی۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنابر ان کو شہر ہوا کہ یہ جاتو نہیں رہا، ایک دم شور مجاویا ”یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟“ اور میں دارالطلبہ قدیم کے زینے تک تو ذرا تیز قدموں سے چلا اور زینے پر سے اس زور سے بھاگ ہوں کہ کچھ انہیاں رہیں کبھی کوئی

آدمی پکڑ کر واپس نہ لے جائے۔ مہتمم صاحب نے شروع میں تو ادھر سے منہ پھیر لیا، امتحان کا بالکل افتتاح ہو رہا تھا، سوالات کے پرچے بٹ رہے تھے، مہتمم صاحب عمدًا اس طرف مشغول ہو گئے اور مولا نا مر حوم شور چاٹتے رہے اور میرے ساتھ کوئی پیسہ نہیں تھا، مگر پھر بھی گھر اس واسطے نہ گیا کہ کبھی مولا نا ثابت علی صاحب کا قاصد پکڑنہ لے جائے۔ اس نیت سے چلا تھا کہ کہیں تو کوئی واقف ملے گا، چار پانچ آنے کی سواری بہت تک تانگے کی تھی، مسٹر میں نہیں چلی تھیں، تانگے بھی صرف بہت تک آتے تھے۔ اُو پرچینج کر ایک صاحب مل گئے ان سے چار آنے ادھار لیے اور مولا نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے بارے سلیم سلیم کہتا ہوا حدود سہارنپور سے نکل گیا، جب جان میں جان آئی۔ بہت سے پیلوں آرہا تھا کہ ادھر سے جنازہ آتا ہو اظراً یا راستے ہی سے جنازہ کے ہمراہ را پور پہنچ گیا، نماز میرے حضرت قدس سرہ نے پڑھائی تھی۔ تدفین کے بعد مولا نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے اسی وقت ائمہ پاؤں بہت آیا، وہاں تو واقف بہت مل گئے تھے، پیسے بہت سے ادھار لے لیے تھے، نہ معلوم سواری پوری ملے یا ناقص، رات میں سہارنپور پہنچ گیا۔ حضرت اگلے دن تشریف لائے۔

### تیسرا حادثہ انتقال حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ:

(۳)..... اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کا حادثہ وصال دیکھا اور مالک کی قدرت کا عجیب کر شد دیکھا۔ یہ سید کارکی جس کو حاضری کی بہت ہی کم توفیق ہوتی تھی تجویز و تکفین میں شریک اور میرے آقا میرے سردار حضرت شیخ الاسلام مولا نامد فی رحمہ اللہ تعالیٰ جو سفر و حضر کے رفیق، مالتا میں بھی ساتھ نہ چھوڑ ایک دن پہلے جدا ہو گئے اور تجویز و تکفین اور تدفین میں بھی شریک نہ ہو سکے، بڑی عبرت کا قصد ہے:

امروہ میں شیعہ سنی مناظرہ طے ہو چکا تھا، کئی مہینے پہلے سے اعلان اشہار و غیرہ شائع ہو رہے تھے، اخبارات میں زور و شور تھا۔ سہارنپور سے میرے حضرت قدس سرہ پہنچ گئے اور لکھنؤ سے مولا نا عبد الشکور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں اس نوع کے مناظرہ کے امام، شہر آفاق، اہل تشیع جواب تو بہت ہی زوروں پر تھے۔ ان دونوں حضرات کے پہنچنے پر اس کوشش میں لگ گئے کہ مناظرہ ہرگز نہ ہو اور ان تواہ بھی سُنیوں کی طرف سے ہواں لیے انہوں نے مولوی محمد علی جو مر حوم کو آدمی پہنچ کر دہلی سے بلا یا اور مر حوم نے مناظرہ کے خلاف آپس کے اتحاد پر مجامع میں اور مجالس میں ۲۲۴ گھنٹے تک وہ زور باندھ کر حدبیں۔ میں نے مر حوم کو عمر بھر میں اسی وقت دیکھا نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا یاد ہے۔ میں نے مر حوم سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا عرصہ سے اشتیاق تھا، میرا

خیال یہ تھا کہ وہ شاید ایک دو منٹ میرے استیاق پر دیں اگرچہ مجھ سے واقفیت نہیں تھی۔ مگر وہ میرے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا عبدالشکور صاحب کے اقدام پر بہت ہی ناراض ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے سخت ناراض ہو کر یہ کہا کہ اس سے منٹ لوں پھر ملوں گا۔ سارے دن یہ ہنگامہ رہا۔ دوسرے دن کے اربع الاول ۱۳۳۹ھ کو علی الصباح میرے حضرت قدس سرہ نے حضرت شیخ البند رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت مختصر پرچہ اس مضمون کا لکھوا یا صورت حال یہ ہے اور سنتیوں کی طرف سے اس وقت التواء ہرگز مناسب نہیں آپ میرے نام ایک خط جلدی بھیج دیں کہ ”مناظرہ جاری رکھا جائے“ یا ”مناظرہ ملتوی نہ کیا جائے۔“ بہت مختصر پرچہ میں لے کر امر وہ سے دہلی روائہ ہوا۔ جب میں اشیش پر پہنچا تو دو چار آدمی ملے مصافحہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کون؟ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدینی قدس سرہ جو اس گاڑی سے کلکتہ جا رہے ہیں، ان کی زیارت کے واسطے آئے ہیں۔ میرے پاس نہ کاغذ نہ پنسل۔ ایک کاغذ ردی اشیش سے ڈھونڈا اور ایک کوئلہ اٹھایا اور جو مجھے اشیش پر پہنچانے کے واسطے گیا تھا اس کے ہاتھ کوئلے سے حضرت قدس سرہ کے نام پرچہ لکھا کہ ”حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کو دیں اتار لیں۔“ میں یہ کہہ کر دہلی روائہ ہو گیا۔ میرے حضرت نے گاڑی پر آدمی بھیجا اور حضرت سے اترنے کو فرمایا۔ باوجود اس کے کہ حضرت کا کلکتہ کا ٹکٹ تھا اور سامان سفر ساتھ تھا، میرے حضرت کے حکم پر حضرت مدینی دیں اتر گئے۔ انقیاد اکابر میں نے جتنا حضرت مدینی قدس سرہ میں دیکھا اتنا کم کی دوسرے میں دیکھا اپنی طبیعت کے جتنے بھی خلاف ہو مگر اپنے بڑوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینا ان ہی کا حصہ تھا اور سارے دن مناظرے کے متعلق زور دار تقریریں فرمائیں، جس میں فرقیین کو یہ تصحیح کے یہ زمانہ آپس میں اشتغال کا نہیں ہے، اس وقت میں تو غیر مسلموں سے بھی صلح کرنے کی شدید ضرورت ہے چہ جائیکہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ میں حضرت قدس سرہ کا گرامی نامہ حضرت شیخ البند رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر مغرب کے قریب حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیام گاہ پر پہنچا تو حضرت شیخ البند قدس سرہ پر مرض کا شدید حملہ تھا، پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی، دوسرے دن صحیح کو وصال ہو گیا اور دنیا بھر میں تاریخیں دوڑنے لگے۔ حضرت مدینی قدس سرہ کے نام کلکتہ اور اس کے قرب و جوار کے چند اشیشنوں پر تارویے گئے، جہاں تک اہل الرائے کی یہ رائے ہوئی کہ صحیح کی جس گاڑی میں حضرت مدینی گئے ہیں وہ اس وقت تک کہاں پہنچ گی اس جگہ سے لے کر کلکتہ تک ہر مشہور اشیشن پر تار دیا گیا میں نے کہا ایک تار حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کو امر وہ بھی دے دو۔ سب نے مجھے بے وقوف بتلایا اور بعضوں نے یہ سمجھا کہ یہ حضرت سہار پوری کوتار دلوانا چاہتا ہے، حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ ہر شخص نے کہا آخر

امر وہ کا کیا جوڑ؟ میں نے کہا "احتیاطا۔" جناب الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمیع العلما نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مراسیۃ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے باوجود یہ کہ میں سیاسی حیثیت سے ان کے ساتھ نہیں تھا، ممکن ہے کسی جگہ مولانا مرحوم کا تذکرہ ذرا تفصیل سے آسکے۔ لیکن مفتی صاحب مرحوم کو شفقت بہت تھی اور بہت وقت سے میری بات قبول فرمایا کرتے تھے، بہت سے سیاسی اور مذہبی مسائل میں اپنی رائے کے خلاف میری رائے کو ان الفاظ سے شائع کیا ہے کہ "بعض مخلص اہل علم کی رائے یہ ہے گوئی رائے نہیں۔" اس قسم کی کوئی عبارت اس وقت کے وقف بل میں بھی شائع ہوتی ہے جو مفتی صاحب نے لکھا تھا۔ بہت سے وقائع اس قسم کے مفتی صاحب کے ساتھ پیش آئے کہ میری رائے کو انہوں نے اپنی رائے کے خلاف انتہائی تبسم اور خوشی کے لمحے میں بہت اہتمام سے قبول کیا۔ اس موقع پر بھی میرے بار بار اصرار اور لوگوں کے انکار پر تیز لمحے میں فرمایا کہ "جب یہ بار بار فرمائے ہیں تو آپ کو ایک تار امر وہ دینے میں کیا مانع ہے؟" چنانچہ تار دیا گیا، شاید ارجمند نہ دیا ہو کہ دینے والوں کی رائے کے خلاف ہو۔ دوسرے دن امر وہ تار پہنچا اور تیسرے دن علی الصباح حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچے۔ یہ تارہ اس وقت تک امر وہ روانہ نہیں ہوا تھا بلکہ جانتی رہا تھا، وہ منظر ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی ساکت قدم بالکل نہیں اٹھتا تھا۔ ہر قدم ایسا اٹھ رہا تھا جیسے ابھی گر پڑیں گے۔ مصافحوں بھی ایک آدھ ہی نے کیا، میں نے تو کیا نہیں، ہر شخص اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ مولانا مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کے مردانہ مکان کے سامنے کی سہ دری میں جا کر دوز انو بیٹھ گئے اور چپ۔ دو چار اور حاضرین بھی گھر میں موجود تھے وہ بھی جمع ہو کر مولانا کے پاس بیٹھ گئے اور میں قدرت کا کرشمہ سوچتا رہا کہ جو شخص سفر و حضر میں کسی وقت بھی جدا نہ ہوا ہو، وہ انتقال سے ایک دن بعد قبر پر حاضر ہوا اور جس کو حاضری کی نوبت کبھی نہ آئی ہو وہ دہلی سے لے کر تدبیفین تک جنازہ کے ساتھ ساتھ رہے۔

### عجب نقش قدرت نمودار تیرا:

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کی نماز جنازہ دہلی میں میرے چچا جان رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بھائی مولانا محمد حسین صاحب نے شرکت نہیں کی تاکہ ولی کو اعادہ کا حق رہے، انہوں نے دیوبند آئے کے بعد پڑھائی۔

ان ہی عجائب قدرت میں اس سیدہ کارگی حضرت رائپوری کے جنازہ میں عدم شرکت ہے جس کا ذکر آگے آئے گا اور مشی رحمت علی صاحب جالندھری کے جنازہ میں شرکت، جن کے یہاں زندگی

میں کبھی جانا تھا ہوا اور بھی کئی نظائر اس کے ہیں جن میں اس ناکارہ کی اپنے حضرت قدس سرہ کے جنازہ میں عدم شرکت کہ یہ ناکارہ چند ماہ پہلے مدینہ پاک سے مظاہر علوم کی وجہ سے واپس کر دیا گیا تھا، جیسا کہ تفصیل سے نمبر ۳ میں آرہا ہے اور حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب کے جنازے میں عزیز مولانا یوسف سہار پور کے اجتماع کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، حالانکہ حضرت حافظ صاحب نظام الدین کے ہمیشہ کے حاضر باشون میں سے تھے اور حضرت مولانا عبدال قادر صاحب راپوری پاکستان سے ہمیشہ سید ہے سہار پور آنے والے اس مرتبہ دبلی کے راستے سے آئے اور وہاں جنازہ کے اندر ۲۵ شوال کی صبح کو فتح پوری میں شرکت فرمائی۔

### چوتھا حادثہ انتقال حضرت کا وصال:

(۴)..... اس کے بعد اپنے حضرت مرشدی سیدی مولائی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا حادثہ انتقال بھی نمبر ۳ ہی کا نمونہ ہے کہ یہ ناکارہ ۳۵ھ سے سفر احضرا ہر وقت کا حاضر باش، لیکن وصال کے وقت دور کر دیا گیا کہ ذی قعده ۲۵ھ میں مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی اور ربیع الثانی ۲۶ھ ہر روز چہار شنبہ جب کہ عرب کی ۱۱۶ اور ہندوستان کی ۱۵۵ اتاریخ تھی میرے حضرت قدس سرہ نے مدینہ پاک میں وصال فرمایا۔ مولانا طیب مغربی صدر مدرس مدرسہ شرعیہ مدینہ منورہ نے مصلی الجنازہ میں نماز پڑھائی۔

### پانچواں حادثہ انتقال حضرت تھانویؒ:

(۵)..... حضرت تھانویؒ قدس سرہ کا وصال۔ حضرت کی عالات میں حاضری تو اکثر اور بار بار ہوتی رہی۔ ۱۳۲۲ھ سہ شنبہ علی الصباح میں اپنے کمرہ میں تھا، بھائی اکرام نے اوپر پہنچ کر حادثہ کی اطلاع کی اور میں اسی حال میں اٹھ کر سب طرف کے کواٹ لگا کر سیدھا اٹیشن دوڑ گیا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ گاڑی کا وقت بہت ہی قریب ہے بلکہ چھوٹ رہی تھی، تکٹ لے کر چلتی گاڑی میں بیٹھ گیا، مدرسہ کے دوسرے احباب اس گاڑی تک نہ پہنچ سکے، معلوم ہوا اہل شہر کی کوشش پر چھوٹی لائن کے افراد نے دو اپنی تھانے بھون کے لیے چند ڈبوں کے منظور کر لیے، پہلا اپنی تو تقریباً دو گھنٹے کے بعد پہنچ گیا۔ دوسرا اپنی تدفین کے بعد پہنچا۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے عید گاہ میں جنازہ کی نماز پڑھائی۔ لیکن سکوت کا جو منظر گنگوہ میں دیکھا تھا اور پھر کچھ حصہ اس کا راپور میں، وہ پھر کہیں نصیب نہ ہوا۔ طبائع کے اضطراب اور بے چینی پر مکمل غلبہ تو گنگوہ میں دیکھا کہ جانور تک بھی نہیں بول رہے تھے، ”لَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى“۔

حضرت تھانویؒ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عالات میں بار بار جانا ہوا۔ وصال سے چند روز قبل چھوٹی الہیہ

مرحومہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ پیر و منگل کی درمیانی شب میں ۰۶:۰۰ صبح کر ۲۰ مئی پر وصال ہوا۔ نور اللہ مرقدہ واعلیٰ اللہ مراتبہ وصال سے چند روز پہلے اس دارالحزن والمحن سے طبیعت اکتا گئی تھی، کئی مرتبہ فرمایا: ”یا اللہ! میں اس سند اس میں کب تک پڑا رہوں گا۔“

### چھٹا حادثہ انتقال حضرت میر بھی:

(۶)..... ان ہی حادث میں حضرت میر بھی نور اللہ مرقدہ کا حادثہ انتقال بھی ہے جس کو میں ارشاد الملوك کی تمهید میں لکھ بھی چکا ہوں کہ مکم شعبان ۱۴۲۰ھ مطابق ۱۹۰۸ء دو شنبہ کی صبح کو ۶ بجے وصال ہوا۔ ۶ بجے شام کو مکان کے قریب ہی اپنے خاندانی قبرستان میں تدقین عمل میں آئی۔ حادثہ کے وقت بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائپوری نور اللہ مرقدہ ایک سفر سے سہار پور واپس تشریف لائے اور اس ناکارہ زکریا سے ارشاد فرمایا کہ حضرت میر بھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شدت عالات کی خبریں کی جا رہی ہیں خیال یہ ہے کہ رائپور جانے سے پہلے حضرت میر بھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کرتا جاؤں بشرطیکہ تو بھی ساتھ ہو۔ میں نے قبول کر لیا اور قرار یہ پایا کہ اتوار کو دیوبند چلیں، شب کو وہاں قیام رہے، پیر کو صبح میر بھ چلے جاؤں، شام کو واپسی ہو جائے منگل کو حضرت رائپور تشریف لے جاؤں۔ چنانچہ اتوار کے دن ظہر کے وقت دیوبند حاضری ہوئی اور پیر کی صبح کو حضرت مدینی سے میر بھ جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اپنی عادتِ شریفہ کے موافق اجازت میں تأمل فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آج عقیدہ ہے، میں ابھی بکرے کٹو اتا ہوں، اس کا گوشت کھا کر دس بجے کی گاڑی سے چلے جانا، یہ عقیدہ عزیزم مولوی ارشد سلمہ، کاتھا، مگر نہ معلوم علی الصباح میر بھ جانے کا فوری تقاضا میری طبیعت پر اور مجھ سے زیادہ حضرت کی طبیعت پر کیوں ہوا؟ اور بہت ہی گرانی اور طبیعت کے تکذیر سے حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ یہے جانے کی اجازت لی جس کا طبیعت پر دو پھر تک بہت ہی فرق رہا۔ حضرت قدس سرہ نے بھی بڑی گرانی سے اجازت دی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ۶ بجے صبح کو مولانا میر بھ کا انتقال ہو چکا ہے اور ووتار سہار پور پہلا حادثہ کی اطلاع کا اور دوسرا جنازہ کی نماز میں انتظار کا سہار پور جا چکے ہیں اور حادثہ کی اطلاع کا تاریخ دیوبند حضرت مدینی کی خدمت میں روانہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے جو گرانی، نہادست، کلفت صبح تھی کہ حضرت کی نشاء کے خلاف آنا ہوا وہ جاتی رہی۔ جنازہ اس ناکارہ کے انتظار میں رکھا ہوا تھا، تجھیں و تکفین کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی۔ ظہر سے چلے ہی تدقین ہو گئی اور شام کو حضرت اقدس رائپوری نور اللہ مرقدہ کی ہمراکابی میں سہار پور واپسی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت میر بھی نے اس سے کارکے لیے نماز جنازہ کی وصیت فرمائی تھی۔

### مشی رحمت علی کے انتقال میں بندہ کی شرکت:

(۷) ..... عجائب قدرت میں اس ناکارہ کا مشی رحمت علی صاحب (جو علی حضرت بڑے حضرت رائپوری قدس سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے) کے انتقال میں شرکت ہے حالانکہ مشی صاحب کی زندگی میں باوجود اپنی اور ان کی خواہش کے بھی حاضری نہ ہوئی۔ ان کی شدت عالات کی خبر پر حضرت اقدس مولانا الشیخ الحاج عبدالقدیر صاحب نور اللہ مرقدہ نے تشریف لے جانے کا ارادہ کیا اور اس سے کارکوبھی ہم رکاب چلنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ دس پندرہ روز پہلے حاضری ہوئی گئی۔ مشی صاحب رموز و اسرار پر بہت کلام فرماتے تھے، تعبیر خواب میں خاص ملکہ تھا۔ شب یک شنبہ ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۵۱ھ میں جالندھر میں بمرض فانج وصال فرمایا۔

### آٹھویں حادثہ انتقال حضرت مدینی قدس سرہ اور حضرت کی طویل بیماری:

(۸) ..... میرے اکابر میں جن حوادث سے اس ناکارہ کو سابقہ پڑا انہی اہم ترین حوادث میں حضرت اقدس مدینی نور اللہ مرقدہ کا حادثہ وصال ہے، حضرت کی طبیعت ناساز تو آخری رمضان ۲۷ھ میں بانسکنڈی (کچھاڑ) ہی میں ہو گئی تھی کہ حضرت نے یہ رمضان اور اس سے پہلا رمضان بانسکنڈی ہی میں گزارا تھا۔ ۲۰، رمضان کی شب میں شدت سے بخار ہوا، اس کے باوجود افطار نہیں فرمایا۔ ۲۶ شوال کو واپسی کی اطلاع تھی، عالالت کا سلسلہ چلتار ۲۲ شوال کو بیس مرتبہ اسہال ہوا، اس واسطے عین وقت پر التواع ہوا۔ دیوبند کے حضرات بھی استقبال کے لیے سہارنپور تک تشریف لائے اور واپس ہوئے ۲۴ ذیقعدہ شنبہ کو حضرت قدس سرہ تشریف لائے، بندہ اپنی عادت کے موافق اشیش پر حاضر ہوا اور چونکہ حضرت کی طبیعت ناساز تھی اور اس کی اطلاعات سنی جا رہی تھیں۔ اس لیے بندہ اپنی عادت کے موافق جو حضرت اقدس رائپوری کے ہر سفر میں پیش آتی تھی لکڑی لے کر اشیش کی مسجد کے اندر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، مسجد مجمع سے لبریز تھی۔ بندہ نے اعلان کیا کہ جو مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے گا لکڑی ہاتھ پر ماروں گا۔ حضرت قدس سرہ ضعف کی وجہ سے نہایت ہی آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے حضرت کی تشریف آوری کے بعد زکریا سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زکریا نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے کہ میں ان لوگوں پر تشدد کر رہا ہوں یہ کیا کہیں گے۔ حضرت نے اس ناکارہ کا ہاتھ ٹھیک کر مصافحہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج کل کے مولویوں کا یہی کام ہے کہ دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد لاری سے دیوبند تشریف لے گئے اور باوجود عالالت کے طویل و عریض اسفار اپنی عالی ہمتی سے فرماتے رہے۔ میری پچی (حکیم الیاس کی اہلیہ) کی عالالت کی اطلاع سنی تو دفعہ بلا اطلاع بڑی

صاجزاوی سلمہ کے ساتھ ۲۸ ذی قعده پنجشنبہ کو بعد مغرب تشریف لائے اور جمعہ کی شام کو واپس تشریف لے گئے۔ اسی حالت میں مدراس، بنگور، میسور کا طویل دورہ۔ ۱۵ اذی الحجہ کو دیوبند سے بذریعہ کارڈنلی اور اگلے دن صبح کو بذریعہ طیارہ دبلی سے شروع ہوا اور مقدمہ لامع و کوب و اوجز کی تمہید بقلم حضرت مدینی:

۲۷ محرم ۱۳۷۰ھ کو دبلی بذریعہ طیارہ اور اگلے دن دیوبند پہنچے۔ دورہ تو یہ بہت طویل تھا لیکن عالیت کی شدت کی وجہ سے مختصر کرنا پڑا کہ چند قدم چلنے سے اور معمولی تقریر سے تنفس کی شدت ہو جاتی تھی۔ حکیم اسماعیل دہلوی نے مدراس سے واپسی پر بلغم تجویز کیا تھا اور اس کا نسخہ استعمال کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ دیوبند کے ڈاکٹر نے قلب کا پھیلاو تجویز کیا اور ضروری قرار دیا کہ سہارنپور کے سول سرجن کو جلد دکھلایا جائے۔ جمعرات ۱۱ محرم ۱۳۷۰ھ کو رانپور کا سفر تجویز تھا تو تکرار سفر سے بچنے کے لیے معاشرہ بھی اس سفر میں طے ہوا چنانچہ جمعرات کی شام کو ۲۷ بجے سہارنپور پہنچے اور ہسپتال میں سول سرجن نے ایکسرے اور معاشرہ کیا اور دیوبند کے ڈاکٹر کی موافقت کی۔ اس کے بعد رانپور تشریف لے گئے، رات کو سازھے دس بجے رانپور پہنچے۔ حضرت رانپوری سوچکے تھے مگر کسی نے اطلاع کر دی، صبح کو عین واپسی کے وقت بھائی الطاف کے معمولی اصرار پر قیام فرمایا اور ذکر یا سے فرمایا کہ مجھے ”مقدمہ لامع“ کی تاخیر سے بہت ندامت ہو رہی ہے۔ اس ناکارہ کی ”اوجز“ اور ”لامع“ اور ”کوب“ کے مقدمہ کی تمہید تینوں حضرت اقدس سرہ کے دست مبارک سے لکھی ہوئی ہے یہ مقدمہ حضرت کے پاس چند ماہ سے رکھا ہوا تھا، مگر لکھنے کا موقع نہیں مل سکا، اس پر حضرت نے فرمایا تھا اور فرمایا کہ دیوبند سے طے کر کے آیا تھا کہ بہت یا سہارنپور میں لکھوں گا۔ آزاد صاحب کے کمرے میں ۱۱ بجے تک لکھا اور پھر جمعہ کی نماز مسجد باغ میں پڑھ کر عصر تک پھر لکھا۔ مگر ضعف کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ بعد مغرب چل کر شب بہت میں گزاری۔ صبح شنبہ کو وہاں سے چل کر سہارنپور ڈاکٹر برکت علی کو کچھ گھر میں دکھایا گیا اور شام کو ۵ بجے دیوبند تشریف لے گئے۔ اس دوران میں یاد ہے دورے پڑتے رہے اور ڈاکٹر برکت علی صاحب دوسرے تیرے دن جاتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت اہتمام تھا کہ وہ جب جاویں اس ناکارہ کو بھی ساتھ لیتے جاویں اور عزیز مولانا اسعد سلمہ کے قاصد بھی اکثر ناکارہ کے پاس آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آ جاؤ۔ ۱۹ صفر سے حضرت پر نظر کا اثر زیادہ محسوس ہوا کہ ہر کھانے پینے کی چیز سے احتلاط سحر کا اثر تو تقریباً سال بھر سے محسوس کیا جا رہا تھا اور اس کے ازالے کی مداری بھی ہو رہی تھیں۔ قلبی دورے کے پار پار احادیث کی وجہ سے کم ربع الاول پنجشنبہ کو ڈاکٹر برکت علی مرحوم کے اصرار پر یہ تجویز ہوا کہ دبلی میں قلبی امراض کے مابہر ڈاکٹر کے شفا خانے میں داخلہ کیا جائے۔ مولانا اسعد سلمہ نے دبلی شیلیقوں

کے ذریعے سے جمعیت کے وساطت سے سارے انتظامات مکمل کر لیے اور اتوار کی صبح کو بذریعہ کار جانا بھی طے ہو گیا۔ لیکن جمعہ کی شام کو حکیم عبدالجلیل صاحب نے آکر عزیز مولوی اسعد سلمہ سے با اصرار و بیلی کا سفر ملتوی کرایا کہ حضرت میں سفر کا تحلیل بالکل نہیں ڈاکٹر برکت علی نے سفر سے پہلے اور سفر کے دوران کی دوا میں بھی دے دی تھیں لیکن عدم تحلیل کی وجہ سے اور سب لوگوں کے مشورہ کی وجہ سے ۲ ربع الاول سے پھر حکیم عبدالجلیل کا علاج شروع ہو گیا اور بیلی سے عبدالحمید صاحب اور بیلی سے حکیم محمد صدیق صاحب کو بلانے کے تاریخے گئے مگر حکیم عبدالحمید صاحب پاکستان جا رہے تھے، البتہ حکیم محمد صدیق صاحب پہنچ گئے۔ ربع الثانی کے آخری ہفتے میں تنفس کی شکایت شدت سے بڑھ گئی۔ باوجود نینڈ کے غلبہ کے جس کروٹ بھی لیٹنے تنفس کا غلبہ بہت شدت سے ہو جاتا۔ کیم جمادی الاول سے استقرار غ کا غلبہ ہو گیا۔ ہر دو، غذاۓ میں نکل جاتی۔ ۲ جمادی الاول دوشنبہ کو پھر ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کر زکریا حاضر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے مایوسی کا اظہار زکریا سے کیا اور نسخہ بھی تجویز کیا۔ حضرت قدس سرہ سے زکریا نے تخلیہ میں کہا کہ مولوی حمید الدین صاحب کا لکھتہ سے خط آیا ہے کہ پہلا اثر سحر کا تو زائل ہو گیا، لیکن ساحر نے دوبارہ شدید ترین سحر کیا ہے۔ ۷ جمادی الاول شنبہ کو صبح کی نماز کی ایک رکعت پڑھنے کے بعد زمانہ مکان میں چوکی سے چکر آنے کی وجہ سے گر گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ عمر بھر میں بھی دوران سرنہیں ہوا۔ اتوار کی صبح کو زکریا ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کر گیا اور اتوار کے دن سے صحت کی خبریں جمعرات تک آتی رہیں حضرت قدس سرہ نے یہ بھی فرمایا کہ محمود کا خط شدید تقاضے کا آیا تھا کہ اگر تو منظور کرے تو میں ہوائی جہاز لے کر دبیلی پہنچ جاؤں اور آپ کو میں مع اہل و عیال لے آؤں، دونوں حکومتوں سے میں خود نہ لوں گا۔ حضرت نے زکریا سے فرمایا کہ ایک دن تیر ان ظاہر بھی کیا کہ مشورہ سے جواب لکھوں، مگر محمود کے انتظار کی وجہ سے میں نے لکھ دیا کہ جودی تی و علمی خدمت یہاں کر سکتا ہوں وہاں نہیں ہو سکتی۔ زکریا نے عرض کیا "حضرت بالکل صحیح فرمایا۔"

جمعرات تک روزانہ صحت کے اضافے کی خبریں آتی رہیں۔ ۱۲ جمادی الاول ۷ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۴۶ء جمعرات کے دن زکریا دارالحدیث میں بخاری کا سبق پڑھارہا تھا کہ عبداللہ ماؤذن نے جا کر کہا کہ حضرت مدینی کا انتقال ہو گیا۔ محمود علی خاں کے ہاں شیلیفون آیا ہے۔ زکریا وہاں سے اٹھ کر سیدھاریل پر پہنچ گیا کہ گاڑی کا وقت قریب تھا۔ بعد میں مولا نا اسعد سلمہ کی تھیجی ہوئی کا رجھی پہنچ گر زکریا جا چکا تھا۔

جمعرات کی صبح کو عزیزان مولوی اسعد و ارشد سلمہ کو آپس کے اتحاد و محبت کی تصحیح بھی فرمائیں اور دو پہر کو بلا سہارا کمرہ سے گن میں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اپنے کو

صبر علی المصائب کی تلقین فرماتے رہے، پون بجے سوئے کے لیے لیئے تھے، ڈھانی بجے تک خلاف معمول نماز کے لیے نہ اٹھنے پر الہیہ مختار مد نکھنے لگئیں تو برد اطراف پایا، جس پر مولوی اسعد کو آدمی بھیج کر بلایا کہ آج سب بے فکر تھے کہ طبیعت بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹر نے آکر کہا کہ تشریف لے گئے۔ ۹ بجے شب کے جنازہ کی نماز کا اعلان ہوا، لیکن مولا نا حفظ الرحمن صاحب کا تار مراد آباد سے پہنچا کہ ”ہم روانہ ہو چکے۔“ ان کے لینے کے لیے روز کی کاربھیگی گئی کہ سید ہے آجوئیں۔ ساڑھے بارہ تک انتظار کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی وہ حضرات نماز کے بعد پہنچ۔ ۳ بجے مدفین عمل میں آئی۔ تقریباً تیس ہزار کا مجمع بتلا یا جاتا ہے، اعلیٰ اللہ مرابتہ نور اللہ مرقدہ۔

### نوال حادثہ انتقال حضرت رائپوری مع تفصیل شدید یماری:

(۹)..... میرے اکابر نور اللہ مرقدہ ہم کے حادث میں میرے لیے آخری حادثہ سخت ترین حادثہ میرے حضرت شاہ عبدال قادر صاحب قدس سرہ کا حادثہ وصال ہے۔ تقیم ہند کے بعد جس کا بیان کسی دوسری جگہ آرہا ہے۔ حضرت قدس سرہ کا معمول بار بار پاکستان تشریف لے جانے کا ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ حضرت قدس سرہ اور ان کے شیخ اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرہ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر پاکستان ہی میں تھے۔ خود حضرت قدس سرہ کا وطن بھی پاکستان ہے، اس لیے کئی مرتبہ تشریف برئی ہوئی، جس کو علی میاں حضرت قدس سرہ کی سوانح میں مفصل لکھ چکے ہیں۔

آخری تشریف بری معرکتہ الاراء تھی، اس لیے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ کو گویا مرض الوصال شروع ہو گیا تھا، جس کی ابتداء ۱۸۱۷ء شوال ۲۷ھ مطابق ۱۰ جون ۱۹۵۵ء بروز جمعہ منصوری پر ہو چکی تھی۔ دقاعدہ بہت طبیعت ناساز ہوئی، صبح کے کھانے میں مجھلی کھائی تھی، جس سے بخار اور سینے میں درد ہوا۔ شنبہ کو زکریا کو بلانے کے لیے آدمی آیا، مگر مجبوری کی وجہ سے اس دن جانا نہ ہوا۔ پیر کی صبح کو اولہ عزیز جلیل کا منصوری سے تقاضے کا خط اور پھر شام تک دو تار بلانے کے آئے۔ منگل کی صبح کو زکریا، قاری سعید مرحوم، میر صاحب، خان صاحب منصوری گئے۔ ۳ بجے شام پہنچ طبیعت اچھی پائی۔

ابتداء سال ہونے کی وجہ سے حضرت کے ارشاد پر بدھ کو واپسی ہو گئی اور ۲ ذی قعده کو حافظ عبد العزیز صاحب و عزیز جلیل منصوری سے واپس آکر لامہور چلے گئے۔ ۱۲ ذی قعده یک شنبہ کی صبح کو صوفی عبد الجید صاحب اپنی کار میں حضرت کو منصوری سے لے کر یہث پہنچ اور دو شنبہ کی صبح کو صوفی صاحب تو اپنی کار میں لا ہو روانہ ہو گئے اور حضرت کا قیام یہث میں گانگروں والی نہر کی کوئی پر اس وجہ سے ہوا کہ ڈاکٹر کو وہاں آنے جانے میں سہولت رہے۔ ۱۹ ذی قعده یک شنبہ کی صبح کو حضرت کا ایکمرے کے لیے سہار پیور آنائے تھا۔ لیکن اذان سے پہلے یہث سے زکریا کے پاس کار پہنچی کہ اب بجے شب شدید دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر برکت علی کو لے کر فوراً آؤ۔ فوراً اذان کے بعد اپنی صبح کی

جماعت کر کے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کر روانگی ہوئی اور مریضوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی صبح ۸ بجے کی لاری سے واپسی ہوئی اور دشنبہ سے زکریا کارروزائی کا معمول ابو داؤد شریف کا سبق پڑھا کر سید ہے لاری سے بہت جانا اور علی الصباح چائے کے بعد تالیقی مشاغل اور سبق کی وجہ سے واپس آنا۔ ۲۶ ذی قعده یک شنبہ کو حضرت ایکسرے کے لیے تشریف لائے اور مدرسہ قدیم میں قاری سعید صاحب کے دارالافتاء میں جودروازے کے اوپر تھا ب مہمان خانہ بن گیا، ڈاکٹر برکت علی کی رائے سے قیام ہوا کہ ہوا دارجگہ ہے۔ منگل کی صبح سے زکریا نے آیات شفا لکھ کر پلانا شروع کی۔ ۵ ذی الحجه کو ڈاکٹر صاحب نے دوا بالکل بند کر دی کہ مرض کا کوئی اثر نہیں ہے۔ البتہ احتیاط بہت ضروری ہے، حرکت بالکل نہ ہو۔

عید الاضحیٰ کی نماز حضرت قدس سرہ نے مدرسہ قدیم کی مسجد میں ساڑھے چھ بجے ادا کی اور دارالطلبہ میں ساڑھے آٹھ بجے ہوئی، مہمانوں کا جھوم حضرت کی عیادت کے سلسلے میں روزافزوں رہا۔ ۲۷ ذی الحجه یک شنبہ کی صبح کو حضرت قدس سرہ شاہ صاحب کی کار میں سہارنپور تشریف لے گئے اور گویا مرض کا اثر نہیں رہا اور تند رستی ہو گئی، لیکن معمولی عوارض کا سلسلہ چلتا رہا، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے وقتاً فوقاً مراجعت کی نوبت آتی رہتی تھی، لیکن اصل مرض قلبی دورے کا اثر ڈاکٹر صاحب کے قول کے موافق بالکل نہیں رہا۔ بدھ کیم شعبان ۱۷ھ کی شب میں صوفی عبدالجید، ڈاکٹر محمد امیر صاحب، بھائی افضل، حافظ عبدالعزیز صاحب وغیرہ آٹھ نفر ۳ بجے شب کے سہارنپور پہنچے اور صبح کو چائے کے بعد رائے پور حضرت قدس سرہ کار مesan پاکستان گزارنے کی درخواست و اصرار لے کر پہنچے اور جمعہ کی شام واپس آ کر لا ہو ر چلے گئے۔ تین دن تک حضرت کار مesan پاکستان گزارنے پر اصرار رہا، مگر حضرت نے پختہ ارادہ نہیں کیا اور سارے شعبان میں کئی بار پاکستانی و فوڈ آئے اور پاکستان رمضان کرنے پر شدید اصرار کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نے اسال ماہ مبارک رائے پور گزارنا طے فرمایا۔ اس سے قبل کئی رمضان پاکستان میں گھوڑا گلی متصل راولپنڈی میں گزارے تھے۔ اس سال حضرت اقدس رائے پوری نے رائے پور میں اور حضرت اقدس مدینی نے ماہ مبارک بanskendri میں گزارا۔

۱۲ صفر ۱۷ھ میں صوفی عبدالجید صاحب و ڈاکٹر محمد امیر صاحب وغیرہ حضرت قدس سرہ کو لینے کے لیے دوبارہ تشریف لائے، مگر ضعف و عالمات کی وجہ سے اس مرتبہ بھی حضرت تشریف نہیں لے گئے۔

شب یکشنبہ ۲۱ ربیع الاول ۱۷ھ کو صوفی جی، بھائی اسلم صاحب، اکرم افضل اپنی اپنی کاروں میں لا ہو ر سے چل کر سہارنپور پہنچے اور دوسرے دن صبح کو مع زکریا، علی میاں، عزیزان یوسف و انعام رائے پور روانہ ہوئے اور دشنبہ کی صبح کو مع حضرت قدس سرہ اپنی نماز پڑھ کر ایسے وقت

سہار پور پہنچ کے مدرسہ میں جماعت ہو رہی تھی اور اسی وقت کارروں سے لدھیانہ روائت ہو گئے اور اور ۱۰ بجے بخیریت لدھیانہ پہنچ گئے۔ شام کو ۸ بجے مولوی عبدالمنان کا تار لدھیانہ بخیری کا پہنچ گیا۔ وہاں نے منگل کو چل کر ۱۰ بجے لا ہور پہنچ گئے۔ جلیل کا تار بخیری کا آیا۔ ۳ ماہ لا ہور کے قیام کے بعد ۲ فروری ۲۵ھ کو لائل پور تشریف لے گئے۔ ۳ شوال ۶ھ کا دیا ہوا تار صوفی جی کا پہنچا کہ حضرت خیریت سے ہیں۔ آج لائل پور سے لا ہور واپس آگئے اور روزانہ تار، شیلیفون سے حضرت کی سہار پور کی ناخ و منسوخی کی خبریں آتی رہیں۔ ۱۱ شوال کو بذریعہ کار لدھیانہ پہنچ۔ وہاں سے شیلیفون ملانے پر جواب ملا کہ ”کل صبح کو واپسی ہے اور زکریا کو ساتھ لے کر سیدھے رائے پور جانا ہے۔“ چنانچہ ۱۲ شوال کی صبح کو ۵ بجے لدھیانہ سے چل کر ۱۰ بجے سہار پور اور زکریا کو ساتھ لے کر ۱۲ بجے رائے پور پہنچ گئے۔ عالیت کا سلسلہ تو کم و بیش چل ہی رہا تھا، عزیزان مولوی یوسف وغیرہ کو عالمت کی خبر پہنچی تو وہ یکشنبہ کیم ذی الحجه کی شب میں دلی سے آ کر علی الصباح مع زکریا رائے پور حاضر ہوئے اور بدھ کی صبح کو رائے پور سے واپس آ کر دہلوی حضرات واپس گئے۔

۲۰ ذی الحجه کی شب میں حضرت پر پھر قلبی دورہ پڑا، ایک گھنٹہ تنفس بھی خراب رہا۔ ۳ محرم کو علی میاں بھی حضرت کے دورے کی خبر سن کر لکھنؤ سے آئے اور علی الصباح رائے پور جا کر پانچ دن میں واپس ہوئے۔

۱۳ ربیع الاول ۷ھ کو حضرت رائے پوری کا پیام پہنچا کہ ”تمہاری برکت سے بتیں (۳۲) سال کے بعد آج سے مرچ کھانی شروع کر دیں، مرچ کی طرف خود بخود رغبت پیدا ہو گئی۔“ یہ غالباً کسی مرض ہی کا اثر ہو گا اور نہ حضرت قدس سرہ تو مرچ بالکل نہیں کھا سکتے تھے اور یہ اثر بھی کچھ ہی دنوں رہا پھر جاتا رہا۔

۸ ربیع الثانی ۷ھ یوم جمعہ کو چودھری عبد الجید صاحب اور بھائی کے برادر بزرگ بھائی اسلام صاحب پہنچ، تاکہ حضرت قدس سرہ کو پاکستان لے جانے پر اصرار بھی کر دیں اور تاریخ کی تعینیں بھی کرائیں۔ دوسرے دن بھائی اکرام رائے پور گئے تو حضرت قدس سرہ نے ان سے فرمایا کہ ”سفر کی بالکل ہمت نہیں مگر یہ بے حد اصرار کر رہے ہیں، یہ جرأت اللہ جل شانہ نے شیخ الحدیث ہی کو دی ہے کہختی سے انکار کر کے اس پر جنم جائیں، ان دونوں کو راضی کر لو کہ اس وقت تو معاف کر دو۔“ چنانچہ سب کے زور دینے سے چند ماہ کا التواء ہو گیا اور ایک صاحب سے فرمایا کہ ”جنہی محبت یہ پاکستان والے کرتے ہیں اگر تم ان سے آدمی بھی کراوتے تو میں کیوں مارا مارا پھراؤ۔“ پھر کو التواء کا تار لا ہور دے دیا گیا، لیکن منگل کو مولوی عبدالمنان کا پاسپورٹ تیار ہو کر دہلی سے آگیا۔ بدھ کو پھر سفر طے ہو گیا۔ یہ مراحل ہمیشہ حضرت قدس سرہ کے ہر سفر میں پیش آتے، چاہے ہند سے پاک کا

ہو یا پاک سے ہند کا۔ تاریخیں چلتے رہتے تھے۔

۲۸ ربیع الاول پنجشنبہ کی صبح کو صوفی جی کا رسے لے کر پہنچ گئے۔ زکریا بھی رائے پور ساتھ گیا۔ بعد نماز جمعہ حضرت قدس سرہ کی ہمراہ کابی میں رائے پور سے چل کر آدھ گھنٹے میں سہارنپور اور تقریباً آدھ گھنٹے میں دیوبند حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ دیوبند تھام کے بعد شام، ہی کو واپسی ہو گئی اور شنبہ کے دن دوپہر کو اپنی ظہر پڑھ کر لدھیانہ کے لیے روانہ ہو گئے اور دوسرے دن علی الصباح ۳ ربیع الثانی ۷۷ھ مطابق ۲۲ نومبر ۱۸۵۵ء کو لاہور پہنچ گئے ۲۳ فروری تک لاہور میں قیام رہا۔ ۲۳ فروری کی صبح کو لاہور پر تشریف لے گئے اور یکم مارچ کو پھر لاہور تشریف لے آئے، تاکہ فوراً ہی ہندوستان روانہ ہو جائیں۔ مگر وہاں آنے کے بعد پھر اصرار شروع ہوئے۔ ناخ منسوج کی تاریخیں روز نامچہ ہیں، حالانکہ تو میر میں روانگی کے وقت نہایت موکد موافق اور مواعید اہل پاکستان سے طے ہو گئے تھے کہ اس سال کا رمضان رائے پور گزارنا ہے، مگر ناخ منسوج ہوتے ہوتے رمضان ۷۷ھ بھی پاکستان صوفی جی (صوفی عبدالجید صاحب مرحوم) کی کوئی پر گزارا۔ شوال کو دو دن کی لگاتار کوشش کے بعد شیلیقوں ملا۔ جس پر بھائی عبدالواہاب متحلوی نے جواب دیا کہ جلیل لاہور گیا ہوا ہے، ڈاکٹر یوسف علی صاحب ماہر قلب نے بہت غور سے حضرت کا معافہ کرنے کے بعد چھ ہفتہ مکمل آرام اور سفرتہ کرنے پر اصرار کیا کہ قلبی حالت قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ اذیقعدہ کی شب میں ہمارے مدرسہ کے نائب مہتمم تعلیمات مولانا عبدالجید صاحب جو بکار مدرسہ لاہل پور گئے ہوئے تھے حضرت قدس سرہ کا شدید تقاضا بنام زکریا کے عطاۓ الرحمن اور شاہ مسعود کو میرے لینے کے لیے جلدی بھیج دو۔ شاہ مسعود صاحب چند روز کے بعد چلے گئے۔ ۲۵ ذیقعدہ کو برادران اکرام، محمود لاہور سے واپس آئے، معلوم ہوا کہ حضرت نے شاہ صاحب کو یہ کہہ کر باصرار روک لیا کہ تم چلے گئے تو میری واپسی میں بڑی تاخیر ہو جائے گی۔ اذی الجہ مطابق ۲ جولائی کو بہت مشکل سے میرآل علی صاحب نے شیلیقوں ملایا۔ جواب ملا کہ حضرت کی طبیعت آہستہ آہستہ صحبت کی طرف ترقی کر رہی ہے، ابھی روانگی کچھ طنیں ہے۔ اس کے بعد کئی دفعہ تاریخیں تجویز ہوئیں اور تخلیوں کے بعد انواع ہوتا رہا۔

بالآخر ۲۳ ربیع الاول ۷۷ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۸۵۸ء کو حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ مع صوفی جی وغیرہ فرئیں میل سے چل کر رات کو ۳ بجے سہارنپور پہنچے، شاہ صاحب کے مکان پر قیام فرمایا اور مسلسل قیام بیٹھ ہاؤس رہا۔ زکریا کا معمول حدیث کا سبق پڑھا کر سیدھا بیٹھ ہاؤس جا کر عشاء کے ایک گھنٹے بعد واپسی کا رہا اور چونکہ حضرت قدس سرہ کا رمضان بھی اس سال بیٹھ ہاؤس ہوا۔ اس لیے زکریا کا بعد عصر کا اسماع بھی نہیں ہو سکا۔ قبل عصر جا کر عصر بھی حضرت کے ساتھ پڑھتا اور

تروتھ شاہ مسعود کے پیچھے پڑھ کر دس بجے واپسی ہوتی۔

حضرت قدس سرہ شروع کے دو ایک دن بیٹھ کر پھر ڈاکٹر کے منع کرنے پر لیٹ کر اور اس کے کچھ دنوں بعد بغیر تروتھ کے لیئے لیئے سنتے رہے۔ ڈاکٹر برکت علی صاحب کا علاج اہتمام سے ہوتا رہا۔ روزوں کی ممانعت تھی، اس سال عید الاضحیٰ کی نماز بھی حضرت قدس سرہ نے بہت ہاؤس ہی میں پڑھی۔ پاکستانی احباب کی بہت کثرت سے آمد اور تقاضے ہوتے رہے۔ بالآخر ابراہیم پبلوان لاکپوری نے حضرت سے بات کر کے نکٹ خرید لیے اور حضرت قدس سرہ منع خدام ۲۸ ربیع الاول ۹۷ھ مطابق ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۶ء فرنشیر میل سے شب میں ۲ بجے روانہ ہو گئے اور اگلے دن شام کو صوفی جی کا تار لا ہو رخیری پہنچ گیا۔ اس دوران میں لا ہو را اور لاکپور والوں میں خوب رسہ کشی ہوئی اور دنوں میں سخت کلامیاں بھی ہوئیں جن کی تفصیل تو غالباً حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح میں علی میاں لکھے چکے ہوں گے، اس وقت تو کچھ یاد نہیں، لیکن یہ رمضان حضرت قدس سرہ کا لاکپور میں ہوا۔ ۴ شوال کو حسب قرارداد صوفی جی وغیرہ لا ہو رے کاریں لے کر گئے، سامان بھی رکھا گیا۔ پانچ سو (۵۰۰) کے قریب حضرات نے مصافی بھی کر لیا۔ لیکن لاکپور والے سول سرجن کی تحریر لے آئے کہ تین ماہ ہر گز سفر مناسب نہیں، اندر راج کٹوادیا گیا، سفر متواتر ہوا اور چونکہ یہ حربہ پاکستانی احباب ہمیشہ حضرت قدس سرہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کی تجاویز کو خوب سمجھتا تھا۔ لا ہو رکی واپسی ملتوي ہوئی، بالآخر ایک سال سترہ یوم کے بعد ۲۵ ربیع الثاني ۸۰ھ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۹۶۰ء کو شب دوشنبہ میں فرنشیر سے حضرت واپس تشریف لائے اور بیٹ ہاؤس، میں قیام رہا۔ حضرت قدس سرہ کا رائے پور تشریف لے جانے کا بہت ہی تقاضا رہا، مگر مولوی عبد المنان صاحب شدت سے علاج کی سہولت کی وجہ سے مخالفت کرتے رہے، لیکن افسوس کہ ڈاکٹر برکت علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت کا بہت ہی اہتمام سے علاج کرتے تھے اور باوجود خود قلبی مرض ہونے کے روزانہ حضرت کو دیکھنے آتے تھے، ان پر ۹ شعبان ۸۰ھ شب جمعہ میں قلبی دورہ پڑا اور فوراً سماڑھے گیارہ بجے انتقال فرمائے اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ حضرت قدس سرہ کی وجہ سے بہت ہاؤس میں نماز جنازہ ہوئی اور حاجی شاہ میں مدفین ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد سے ان کے جانشین ڈاکٹر فرحت علی صاحب نے بھی حضرت کے علاج میں بہت ہی اہتمام فرمایا۔ جزاهم اللہ اور جب ڈاکٹر برکت علی صاحب کا انتقال ہو گیا اور یہ غدر بھی نہ رہا تو بالآخر ۲۵ شعبان ۸۰ھ دوشنبہ کو رائے پور کو روائی ہوئی۔ زکریا بھی ہم رکاب تھا۔ یہ رمضان رائے پور میں گزر رہا۔

ربیع الثاني ۸۱ھ میں صوفی صاحب کے تاریخ حضرت کو لے جانے کے لیے بار بار آتے رہے اور حضرت قدس سرہ کی طرف سے سفر کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے التواء کے تاریکشترت جاتے رہے،

جن کو ان حضرات نے خدام کی طرف سے سمجھا، اس لیے ۹ جمادی الاول جمعہ کو صوفی جی مع جہائی اکرام صاحب بذریعہ کا رسہار پورا اور شنبہ کو رائے پور پہنچے، زکریا بھی ساتھ تھا، ان حضرات نے بار بار حضرت قدس سرہ سے تشریف لے چلنے کی درخواست کی، حضرت معدہ رت فرماتے رہے۔ ان حضرات نے مشورہ میں یہ طے کیا کہ جب زکریا واپس ہو جائے پھر اصرار کیا جائے۔ زکریا نے بدھ کے روز واپسی کی اجازت چاہی۔ حضرت قدس سرہ نے یہ فرمایا کہ اتنے مشکلوں اور تقاضوں سے تو تم کو بلا بیا ہے، اجازت سے انکار کر دیا۔ لیکن جمعرات کے دن بخاری شریف کے زیادہ باقی رہنے کے عذر کی وجہ سے اجازت ملی، مگر گرانی سے۔ اس لیے کہ زکریا ہر ہفتہ، جمعہ کی نماز کے بعد جا کر اتوار کی صبح کو واپس آتا رہا اور بخاری شریف کے ختم پر ۱۳ ارجب شنبہ کی صبح کو ایک ہفتہ کی نیت سے حاضر ہوا۔ حضرت قدس سرہ بہت ہی خوش ہوئے، لیکن جب پنجشنبہ کو واپسی کی اجازت چاہی تو تکمڈر سے فرمایا کہ ”شیخ الحدیث ہو کر دھوکہ دیتے ہو ایک ہفتہ کہاں ہوا؟“ لیکن جمعہ اور بعض مجبوریوں کی وجہ سے جمعہ کی صبح کو واپسی ہو گئی اور حسب سابق جمعہ کو جا کر اتوار کی صبح کو واپسی ہوتی رہی۔ ماہ مبارک کے متعلق یہ تجویز کیا کہ نصف سہار پور گزرے اور نصف رائے پور۔ چنانچہ ۱۵ رمضان کو رائے پور کا ارادہ تھا مگر مولانا یوسف صاحب کی آمد کے انتظار میں یہ کو قبل عصران کی آمد ہوئی اور اسی وقت ان کی گاڑی میں روانہ ہو کر افطار حضرت قدس سرہ کے ساتھ ہوا۔ مولانا یوسف صاحب تو دوسرے دن واپس آگئے اور زکریا مستقل ٹھہر گیا۔ البتہ ایک دو دن کے لیے درمیان میں بعض ضرورتوں کی وجہ سے آنا ہوا۔ اس کے بعد یکم شوال ۸۱ھ پنجشنبہ ساڑھے سات بجے عید کی نماز حضرت کی معیت میں باغ کی مسجد میں آزاد صاحب کی افتاء میں پڑھ کر فوراً سہار پور واپسی ہو گئی، یہاں عید کی نماز اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔

چونکہ حضرت کا سفر پاکستان طے شدہ تھا، اس لیے زکریا کی بار بار آمد ہوتی تھی اور ہر مرتبہ جا کر آنا بہت مشکل ہوتا تھا کہ حضرت کو گرانی ہوتی تھی۔ ۵ شوال کو رائے پور کی حاضری پر حضرت قدس سرہ کی غیبت میں حافظ عبدالعزیز صاحب سے طویل گفتگو کے بعد زکریا نے حضرت قدس سرہ کی غیبت میں حافظ صاحب کے مسئلہ رائے پور میں قیام کا اعلان کیا۔ علی میاں نے حضرت رائے پوری قدس سرہ کی سوانح میں بھی صفحہ ۲۰۳ پر مختصرًا اس قصہ کو لکھا ہے۔ ۳۰ شوال کو واپسی کی درخواست پر مصافحہ کرتے وقت حضرت قدس سرہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس لیے واپسی ملتوي کر دیا۔ ۳۱ ذی قعده کو واپسی ہوئی، چونکہ مدرسہ کا ابتدائی سال تھا، تقسیم اس باق وغیرہ امور میں مدرسہ کو بھی زکریا کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔

اس کے بعد چونکہ حضرت کا سفر طے ہو چکا تھا اور جزل شاہ نواز نے اپنے ائمہ میں لے جاتا

ٹے کیا تھا اور ہر جگہ تاریخی روانہ ہو گئے تھے کہ وزیر صاحب کا اسٹول فلاں وقت پہنچ گا، لیکن چار پانچ دن پہلے مردوں اور عورتوں کا اتنا جووم ہوا کہ حد نہیں۔ جس کی وجہ سے حضرت قدس سرہ کا بلڈ پریش رائیک دو (۲) دن قبل دوسو دس (۲۱۰) تک پہنچ گیا، ڈاکٹر فرحت علی صاحب نے بہت شدت سے سفر کے خلاف فیصلہ دیا اور سب جگہ التواء کے تاروے دیے گئے۔ جزل شاہ نواز نے جواہر لال کی ایک ضروری تجویز کو بھی یہ کہہ کر تعمیل سے معدود تک دی تھی کہ اس تاریخ میں مجھے حضرت کو یورڈ پر پہنچانا ہے۔ التواء کے بعد جزل صاحب رائے پور پہنچے اور یہ درخواست کی کہ "آنندہ جب ارادہ ہو دو تین دن پہلے تاریخ اطلاع کر دیں۔" مگر حضرت قدس سرہ کا سفر روزانہ ناخ منسون ہوتا رہا اور ۲۵ ذی قعده ۸۱ھ مطابق یکم مئی ۶۲ء شب منگل میں فرنیر سے روانگی ہوئی اور یہ حضرت قدس سرہ کی پاکستان کو آخری روانگی ہے کہ پھر واپسی نہ ہو سکی۔

روانگی سے پہلے حضرت تور اللہ مرقدہ نے بہت لجاجت، خوشامد، منت و سماجت سے ایک مجلس میں جس میں یہ ناکارہ بھی حاضر تھا، صوفی عبدالجید صاحب اور بعض خصوصی احباب پاکستان جتاب الحاج مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب، حضرت کے برادرزادے مولوی عبدالجلیل اور ان کے دوسرے عزیز مولوی عبدالوحید وغیرہ موجود تھے، یہ درخواست پیش کی کہ "مجھے پاکستان میں نہ روکا جائے اور میری رائے پور واپسی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے کہ میری تمنا اپنے حضرت کے قدموں میں دفن ہونے کی ہے۔ اس سے جانے کو دل نہیں چاہتا، مگر تم دوستوں کے اصرار پر جارہا ہوں۔" میرے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا کہ "زندگی بھر تو ساتھ ہی رہے تمنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ساتھ ہی رہیں، مگر ہوتا ہے وہ جو اللہ چاہے۔"

### حضرت کی وصیت خواہش دفن کے بارے میں:

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا یہ مقولہ پہلے بھی حضرت نے بار بار ڈھرایا، صحبت کے زمانے میں بھی کئی دفعہ ڈھرایا۔ صحبت کے زمانے میں اس ناکارہ نے ایک وفعہ اس "مگر" پر اشکال بھی کیا تھا اور حضرت بالکل ساکت و صامت رہے اور جب بھی حضرت کا مقولہ نقل کرتے، میں اس مگر میں گم ہو جاتا۔

بہر حال آخری پاکستان روانگی سے دو دن پہلے حضرات بالا کو اہتمام سے جمع کر کے اپنی تمنا اور خواہش ظاہر کی اور خاص طور سے عبدالجلیل کو مخاطب کر کے وعدہ لیا کہ مانع نہیں بنے گا اور حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب لانے کے ذمے دار بنائے گئے اور صوفی عبدالجید صاحب بھیجنے کے ذمے دار اور کئی کئی مرتبہ قول و قرار ہوئے اور جب وہاں پہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بار بار ہندوستان راؤ عطا الرحمن اور شاہ صاحب کو تقاضے کے خطوط بھی لکھوائے، جن میں سے تمیں (۳۰)

چالیس (۲۰) تو میرے واسطے سے ہوں گے کہ ”اگر مجھے لے جانا چاہتے ہو تو جلد آ کر لے جاؤ آخری وقت ہے۔“ میں ہر خط کی شاہ صاحب کو اطلاع دیتا رہا کہ ان کا قیام سہار پورہ ہی میں تھا اور راؤ عطا الرحمن کو رائے پور پیام بھیجا تھا۔ مگر یہ لوگ کچھ حضرت کی زندگی کی طرف سے ایسے مطمئن تھے کہ ان کو اس کا وادہ بھی نہ تھا کہ وقت موعد جلدی آتا جا رہا ہے۔ عالی جناب الحاج نجم الدین صاحب مدرس بوث ہاؤس والے حضرت قدس سرہ کو لینے کے واسطے پاکستان تشریف لے گئے۔ حضرت نے فرمایا مجی تو میرا بھی چاہ رہا ہے، مگر شاہ مسعود اور راؤ عطا الرحمن کی آمد پر جانے کا ارادہ ہے۔ یہ لاہور سے سید ہے سہار پور اور پھر رائے پور حاضر ہوئے۔ لیکن بقول اعلیٰ حضرت کے ”مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔“ شاہ مسعود صاحب تو ارادہ ہی فرماتے رہے، راؤ عطا الرحمن اس ناکارہ کے شدید اصرار پر شدتِ عالت نے مایوسی کی حالت تک پہنچا دیا تھا اور ایک ایک دن میں مختلف احباب کے تین چار تاریخ کے نام صحیح سے شام تک آتے کہ افاق ہے، خطرناک ہے، افاق ہے، خطرناک ہے، پہنچتے رہتے تھے۔ اس وقت غفلت ہے، اس وقت صحت ہے، بالآخر مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس اربعین الاول ۸۲ مطابق ۱۱۶ اگست ۲۰۱۶ء پنجشیر کو لاہور سے شیلیفون پہنچا کر رات ۹ بجے وصال ہو گیا۔ اس وقت ۹ بجے جنازہ کی نماز ہوگی۔ مولوی یوسف صاحب نے اسی وقت زکریا کے پاس ایک آدمی اجازت کے لیے بھیجا کر ہم لوگ لاہور روانہ ہو جائیں گے؟ زکریا نے انکار کر دیا کہ ”جب ۹ بجے نماز ہو گئی تو تجھیں و ملکفیں اگر وہاں ہوئی تو شرکت نہیں ہو سکتی اور اگر جنازہ یہاں آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور جنازہ یہاں آ جائے۔“ زکریا کے پاس رات سے کوئی بر قیہ نہیں آیا تھا، تاروں کی تحقیق کی گئی، شیلیفون ملائے گئے، صابری صاحب کے صاحبزادے الحاج افضل صاحب آئے کہ لاہور کے شیلیفون سے حادثہ کی اطلاع ملی ہے اور ساتھ ہی پاکستان ریڈ یوکی خبر سے یہ سنا کہ جنازہ براہ لامپور، سہار پور جائے گا۔ زکریا نے سہار پور کی تردید کر دی کہ براہ لامپور کے ساتھ سہار پور کا کوئی جوڑ نہیں، ان میں سے ایک خبر غلط ہے۔“ شام کے چھ بجے بھائی افضل کا بہت مفصل تاریخ پہنچا کر صحیح انج کر ۲۰ منٹ پر وصال ہو گیا۔ اس کے بعد متعدد تاریس کی تائید میں پہنچے۔ حافظ عبدالعزیز صاحب ایک دن قبل سرگودھا اپنا پاسپورٹ وغیرہ لینے جا چکے تھے حادثہ کی اطلاع پر جمعرات کو عصر کے وقت ایسی حالت میں پہنچے کہ عصر کی نماز کے بعد فوراً جنازہ ٹرک پر رکھ کر ڈھڈیاں کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ حافظ صاحب بہت پیتا بی سے کہتے رہے کہ مجھے زیارت تو کرنے دو، مگر ہجوم کی کثرت اور ڈھڈیاں لے جانے کی عجلت میں کسی نے التفات نہیں کیا۔

چونکہ جنازہ سہار پورلانے کی امیدیں پہلے سے تھیں اور پاکستانی ریڈ یو سے اشتباہ بھی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے شدت سے انتظار تھا، لیکن کوئی اطلاع مدعین کے متعلق شنبہ کی صبح تک نہ مل سکی۔ شنبہ کی شب میں میرآل علی صاحب راوی یعقوب علی خاں صاحب جو ڈھنڈیاں نہیں گئے تھے لا ہور ہی سے واپس آگئے۔ ان سے جنازہ کے ڈھنڈیاں جانے کا حال معلوم ہوا۔ زکریا نے عزیز مولوی جلیل کو بہت سخت خط لکھا کہ حضرت کی تمنا کا احترام بہت ضروری تھا، لیکن اس نے اتنی طویل معدود ریاں، مجبوریاں، قانونی مشکلات اور غش مبارک کے خراب ہونے کا خطرہ وغیرہ لکھے جن کی تکمذیب کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن جب ۲۹ ذی قعده ۸۲ھ کو مولانا یوسف صاحب کی غش کے متعلق کوئی بھی اشکال قانونی نہ پیش آیا نہ کوئی وقت، تو پھر اور بھی زیادہ رنج ہوا۔ سعادت کی بات حضرت قدس سرہ کی تمنا کو اپنے جذبات پر مقدم رکھنا تھا۔ حافظ عبدالعزیز صاحب نے تو بہت ہی کوشش کی، اللہ ان کو بہت ہی جزاً خیر دے، مگر ان کی کوشش بجوم میں بالخصوص آخری وقت ہو جانے پر مشتمر نہ ہو سکی، البتہ سہار پوری جواہب انتقال کے وقت موجود تھے، ان پر ہمیشہ تعجب رہا اور رہے گا کہ اتنے اونچے مدرس، وسیع التعلقات ہونے کے باوجود حافظ صدیق نوح والوں کے برابر بھی نہ پہنچ سکے۔ جن لوگوں نے حضرت قدس سرہ کی تمنا کا خون کیا ہے، چاہے وہ پاکی ہوں یا ہندی۔ معلوم نہیں کل کوکس طرح سے حضرت قدس سرہ کے سامنے ہوں گے اور جن لوگوں نے غش مبارک کے لانے کی انتہائی کوشش کی چاہے وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں وہ حضرت کے سامنے سُرخ و ضرور ہوں گے۔ تمنا میں تو یہ ناکارہ بھی دوسرے فریق کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ لیکن دفن کے بعد قبر شریف کو دوبارہ اکھاڑنے میں مجبور تھا کہ مسئلہ تو وہ ہے جو مفتیانِ عظام فرمادیں۔ اہل فتاویٰ سے میں نے براو راست حاصل کیے، بالخصوص ان لوگوں کے جو معروف بالفقوی ہیں، ہندی تھے یا پاکی۔ ان سب نے نہیں کو ناجائز بتایا، اس لیے میں نہیں کے مسئلہ میں ان حضرات کا قیع رہا اور جس نے میری ذاتی رائے پوچھی میں نے دونوں مسئلتوں میں احباب اور مخلصین کے تعلق کی رعایت نہ کرتے ہوئے صفائی سے اپنی رائے ظاہر کر دی اور اس کا بھی ہمیشہ قلق رہا کہ حضرت نور اللہ مرقدہ نے ۲۷ھ میں میری بچیوں کے حج کے وقت مجھے توج سے یہ کہہ کر روک دیا کہ میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ مگر ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے، یہ ظاہری بعد ہم لوگوں کی نگاہ میں بعد ہے، عالم برزخ میں تو سب ایک ہیں، نہ معلوم کون کون کہاں کہاں تشریف فرمائیں۔

ہمارے اہل محلہ کا ہمیشہ ایک دستور رہا کہ ہمارے اکابر میں سے جس کسی کا وصال ہوتا، ایسا زور اس کی مدفن پر ہوتا کہ جھگڑے کا اندر یہشہ ہو جاتا۔ چنانچہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے متعلق حکیم صاحبان کی رائے تھی کہ ان کے باغ میں مدفن ہو، مگر اہل محلہ نے وہ زور

باندھا کہ کچھ انتہا نہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ لیکن ہمارے متعلقین طلبہ یادوسرے بعض اعزہ میں سے کسی کا پہلے انتقال ہوتا تو وہ گور غریبیاں میں جاتا، اب تک بھی یہی دستور ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے آقا اپنے مرشد حضرت سہار پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تو میرے حضرت نے یہ فرمایا۔ ”یہ بعد سارا زمین کے اوپر کا ہے زمین کے اندر عالمِ برزخ میں بعد نہیں ہے، بہر حال مقدرات اپنی جگہ اٹل ہیں۔“ حضرت رائے پوری قدس سرہ کی خواہش و تمنا پوری نہ ہونے کا قلق جتنا ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا اور حضرت قدس سرہ کے وصال کے بعد میں نے دوستوں کو جو خط لکھے، اس میں بھی میں نے اپنے تلقن کا بہت ہی اظہار کیا۔ لیکن دفن کے بعد بیش قبر تو ہمارے اختیار سے باہر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ مسائل میں جذبات کو تو دخل نہیں، اس میں تو درختار اور شامی ہی کو امام ماننا پڑتا ہے اور ان حضرات کی آراء مقدم ہوتی ہیں جو ہر وقت قاتاوی میں رہتے ہیں۔

### عالمِ برزخ میں بعد نہیں:

بات میں بات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اکابر کے حالات بھی وصال کے بہت کثرت سے دیکھئے اور گھر کی مستورات اور اقارب کے بھی، دفعۃٰ تین واقعات جن میں سے دو (۲) تو گزر بھی چکے، ایک اپنی سب سے بڑی لڑکی والدہ ہارون کا انتقال، جو اس تحریر میں بھی مختصر گزر چکا، کسی دوسری تحریر میں بھی گزر چکا۔ مرحومہ نے بہت ہی تکلیفیں اٹھائیں، اس کو بھی سپ دق ہو گئی تھی، عین مغرب کی نماز کے دوران جب کہ وہ دوسری رکعت کے سجدہ میں تھی، اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی قبلہ کی طرف منہ تھا، ایسی قابلِ رشک ہیئت سے گئی ہے کہ اس کے چہرے کے انور ارب تک یاد ہیں۔ میری دوسری لڑکی شاکرہ مرحومہ کے متعلق بھی لکھ چکا ہوں کہ مولانا یوسف صاحب تک یاد ہیں۔ تیرہ سو سال پہلے میری دوسری لڑکی شاکرہ مرحومہ کے متعلق بھی لکھ چکا ہوں کہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ یسین پڑھ رہے تھے ”سَلَمَ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَّحْمَةٍ“ پر ایسا جذبہ مولانا مرحوم کو آیا کہ تین دفعہ اس لفظ کو پڑھا اور تیرہ سو سال پہلے میری دوسری لڑکی روح بھی ساتھ چل دی۔ اس میں کوئی تصنیع یا توریہ نہیں کہ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ عروی بنتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی، اس سے زیادہ خوبصورت انوار میں لبریز سفید کفن میں سر کے بال سینے پر پڑے ہوئے، اب تک اس کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے اور رہے گا۔ میسیوں اعزہ مستورات کو انتقال کے بعد دیکھا، مگر ایسی حسین صورت مجھے یاد نہیں۔

تیرہ سو سال پہلے مجھے اپنی پھوپھی صاحبہ نور اللہ مرقدھا کے ساتھ پیش آیا۔ مجھے کاندھلہ بلاخت مجوروں کے، جو دو چار دفعہ پیش آئیں، ان میں پھوپھی صاحبہ رحمہہ اللہ تعالیٰ کے حادثہ انتقال کے

وقت دو تین شب قیام کی نوبت آئی۔ آثار اس کے کئی دن پہلے سے شروع ہو گئے تھے، ساری رات میں، بھائی اکرام، حاجی محسن مرحوم میری پھوپھی کے داماد تھے، نمبر وار جاگا کرتے تھے، انتقال کی شب میں صحیح صادق سے ذرا پہلے وہ لیٹی ہوئی تھیں، ایک دم گھبرا کر بیٹھنے کی کوشش کی اور دروازے کی طرف دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ ”جلدی اٹھا کر مجھے سہارے سے بھاولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔“ چونکہ صحیح کی اذان بالکل قریب تھی مجھے یہ خیال ہوا کہ نہ معلوم کتنی دیر لگ جائے جماعت فوت نہ ہو، حاجی محسن سے کہا کہ ”جلدی بیٹھو۔“ میری پھوپھی مرحومہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ”تو بیٹھو۔“

رَحْمَهُمُ اللَّهُ كُلُّهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ



## فصل ثانی..... تقریبات اور شادیاں

اللہ جل شانہ کے انعامات، احسانات اس ناکار، بدکار، سیہ کار پر اپنی ناپاکی اور گندگی کے باوجود بارش کی طرح ہمیشہ بر سے۔

میں جب سہار پورا بتداء میں آیا تھا، یعنی ۲۸ھ میں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ”درست کے مہتمم حضرت مولانا عنایت الہی صاحب نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرابتہ“ اس سیہ کار سے لپٹ گئے اور مجھے خوب بھینچا۔ میں نے اپنے حضرت اقدس مرشدی قدس سرہ سے اس خواب کا ذکر کیا تھا تو حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”عنایت الہی تمہارے شامل حال ہے۔“ یہ تعبیر ہر چیز پر اور ہر ہر وقت میرے ساتھ رہی اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ہر موقع پر اپنی عنایت کو اس سیہ کار پر بارش کی طرح بر سایا۔ ہر جزو زندگی میں جتنی میں نے نافرمانیاں کیں اتنی ہی مالک کی طرف سے عنایت میں اضافہ ہوتا رہا۔ خدا کرے کہ استدرج تھا ہو۔ ان میں سے ایک معمولی مسئلہ تقریبات اور شادیوں کا بھی ہے۔

میں نے دو (۲) اپنی اور ہمیشہ زادی اور بنات اور ولد و اسbat کی تقریباً سولہ (۱۶) سترہ (۱) شادی کیں اور ہر شادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ کرم فرمایا کہ بھی یہ پتہ نہ چلا کہ نکاح کیا یا دور کعت پڑھی۔

### نکاح کی مر وجہ رسم کی مذمت:

نکاح ایک عبادت ہے، جس کو لوگوں نے ایک مصیبت بنالیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو (۲) عبادتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہو کر قیامت تک بلکہ جنت میں بھی باقی رہیں گی، ایک ایمان، دوسرا نکاح۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور ارشاد فرمایا ”نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔“ مگر ہم لوگوں نے اس بارکت سنت کو بے حد لغویات اس میں شامل کر کے اس کو ایک مصیبت عظیٰ بنالیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہؓ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں یہ سنت ہی کا درجہ رکھتا تھا۔ لغویات جو ہم نے شامل کر لی ہیں، ان کا شائستہ بھی اُس زمانے میں نہیں تھا۔

صحابہؓ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس کے کچھ نہوں نے اپنے رسائلے دکایات صحابہؓ میں لکھ پکا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک

مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضور کے جانشیروں میں ہیں، مگر اپنی شادی میں حضور کو بلا تا تو درکنار خبر بھی نہ کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کچھ ”صفہ“ کا اثر دیکھا، یہ ایک قسم کی خوبی ہے جو اس زمانے میں شادیوں کے موقع پر استعمال کی جاتی تھی اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، جی حضور!

اس ناکارہ نے ایک رسالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے نکاح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفاصیل جس کا ذکر تایفات میں گزر چکا ہے، تفصیل سے لکھا ہے، مگر طبع نہ ہوسکا۔

### بندہ کا پہلا نکاح:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ”جو نکاح بہت ہاکا چھاکا ہو وہ بہت مبارک ہے۔“ مگر افسوس ہے کہ ہم نے اس مبارک سنت کو اپنی رسم کی بدولت مشکل ترین بنادیا ہے۔ نہ معلوم کتنی نمازیں اس کی نذر ہو جاتی ہیں، بعض جگہ تو مصیبت یہ ہے کہ عین نماز کے وقت بارات رخصت ہوتی ہے کہ جس سے دولہا، دہن اور سارے باراتیوں کی جماعت فوت ہوتی ہے، جس کی ابتداء اس نحوست سے ہوتی ہواں کی منتها پر آپس میں لڑائیاں، فتنہ، فساد جتنا ہو وہ کم ہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو حمل اس صحبت سے ٹھہرے جو نماز کے وقت میں کی گئی ہو یعنی اس سے نماز فوت ہوئی ہو تو اس سے جو بچہ پیدا ہو گا وہ ”عاق باللّٰهِ الدّین“ ہوتا ہے یعنی والدین کا نافرمان اور ان کو تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم کو بدایت سے نوازے اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ ان ہی نفویات کی وجہ سے لڑکیاں ایک لمبی عمر تک بیٹھی رہتی ہیں، شادی کا انتظام نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ بعض جگہ اس مصیبت کے لیے سو دپروپیہ لینا پڑتا ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی اور اعلان جنگ بتایا گیا ہے۔ اللہ سے لڑائی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے بعد کون پنپ سکتا ہے اور ان کی ساری مصیبتوں کا اغذرا اور مجبوری یہ بتائی جاتی ہے کہ ”ناک کٹ جاتی ہے۔“ میں نے سینکڑوں اکابر و احباب کو ان خرافات کے بغیر سادگی کے ساتھ نکاح کرتے دیکھا مگر کسی ایک کی بھی ناک کٹی ہوئی نہ دیکھی،

### آپ بیتی کے چند واقعات اس جگہ لکھوانے ہیں:

(۱).....سب سے پہلے اس ناکارہ کی پہلی شادی ۲۹، صفر یروز دوشنبہ ۲۵ھ میں ہوئی۔ جس کا

ذکر میری والدہ صاحبہ کے انتقال کے سلسلہ میں آجھی چکا ہے میرے والد صاحب قدس سرہ کے حادثہ انتقال کے دن ہی سے میری والدہ مرحومہ کو بخار شروع ہوا تھا، جس نے اخیر میں ان کو والد صاحب سے جا کر ملا ہی دیا۔ میری والدہ مرحومہ نے میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال جو ۰۴ فروری ۱۹۴۵ کو ہوا، اس سے کچھ دنوں بعد میرے حضرت قدس سرہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ ”طبیعت خراب ہے، زندگی کا اختیار نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ زکریا کا نکاح جلد ہو جائے تاکہ گھر کھلا رہے۔“ اس وقت میری ہمیشہ بھی بہت چھوٹی اور ایکلی تھی۔ حضرت قدس سرہ نے اسی وقت کاندھلہ خط لکھا وادیا۔ میرے حضرت قدس سرہ کا طرز کاندھلہ کے جملہ اکابر کے ساتھ اور جملہ کاندھلہ کے اکابر کا طرز میرے حضرت کے ساتھ ایسے گھر کے چھوٹے بڑوں کا ساتھا کہ حضرت قدس سرہ بھی بے تکلف احکامِ جاری فرماتے تھے، جیسے گھر کا بڑا کیا کرتا ہے اور کاندھلہ کے سارے اکابر حضرت قدس سرہ کے ارشاد کو ایسا اہم قابل وقعت سمجھتے تھے کہ ذرا کچھ چوں و چرائی کرتے۔ سینکڑوں واقعات اس قسم کے پیش آئے۔ میرے حضرت کا خط جاتے ہی وہاں سے جواب آیا کہ ”جیسا ارشاد ہو، جب چاہیں تشریف لے آئیں۔“

تاریخ مقرر فرمادی اور میرے ہم زلف عزیز ظہیر الحسن مرحوم کا بھی میرے ساتھ ہی نکاح تجویز کرویا کہ حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ حضرت تشریف لے گئے، یہ تاکارہ اور پچاچان اور حضرت کے دو خادم، یہ جملہ بارات کاندھلہ پہنچی، میرے حضرت نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت تک ہمارے خاندان کا مہر ” مثل“ اسی ہزار ملکے دو (۲) دینار زر سُرخ“ تھا۔ یہی عام طور سے ہر نکاح میں ہوتا تھا۔ حضرت نے نکاح کی ابتداء میں مہر دریافت فرمایا تو یہی بتایا گیا۔ حضرت نے لا جوں پڑھی اور فرمایا کہ اس کے روپے بناؤ۔ خاندان کے سب اعزہ محاصلین موجود تھے۔ اتنے حضرت نے خطبہ پڑھا، کسی نے جلدی سے ڈیڑھ ہزار کہہ دیا اور حضرت نے میرا نکاح ڈیڑھ ہزار پر پڑھا دیا، میرے بعد جب عزیز ظہیر الحسن مرحوم کا نیسرا آیا تو سب نے کہا حضرت ڈیڑھ نہیں ڈھانی ہزار ہوتے ہیں، اس وقت سے ہمارے خاندان کا مہر مثل ڈھانی ہزار قرار پا گیا۔ جو میری بچیوں کے دور تک رہا۔ خاندان میں اب بھی یہی ہے مگر میری بچیوں کا حضرت مدینی قدس سرہ مہر فاطمی تجویز کر گئے، جس کا قصہ آگے آئے گا۔

شادی ہو گئی اور میں نے یوں کہلوایا کہ ”کاندھلہ تو میرا وطن اصلی ہے۔ اہمیت کو لے جانے کا جھگڑا میرے بس کا نہیں، میں دو تین دن کاندھلہ تھہر کر سہار پور آ جاؤں گا۔“ حضرت نے فرمایا ”وہ کون انکار کرنے والا، یا پس بن کر تو میں آیا ہوں، لڑکی کل کو میرے ساتھ جائے گی، البتہ جلدی جلدی آنے جانے میں تو واقعی وقت ہو گی، دس پندرہ دن وہاں قیام کے بعد مولوی شمس الحسن صاحب جا

کر لے آئیں گے۔“ یہ میری اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا اور ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ غصہ والے اور نازک مزاج تھے۔ ان کا ذکر ”آپ بیتی نمبر ۳“ میں میری علی گڑھ کی ملازamt کے سلسلہ میں آچکا ہے، مگر چونکہ حضرت قدس سرہ سے بیعت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزاۓ خیر عطا فرمائے اور میرے حضرت کو بھی کہ مجھے کبھی اہلیہ مرحومہ کو یا موجودہ لاڑکیوں میں سے کسی کو بھی بھی کاندھلے لے جانے اور لانے کی دقت نہیں ہوئی۔

دو تین سال تک تو مولا نائب الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ بیگار ہی کہ ایک دو ماہ بعد میرے حضرت کا خط پہنچ جاتا کہ ”عزیزہ کو پہنچا دو“ یا ”عزیزہ کو لے جاؤ“ کئی سال تک یہ قصہ رہا۔ اس کے بعد سے کاندھلے کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ مظاہر میں شروع ہو گیا، اولًا مولوی احتشام، پھر مولوی قمر الحسن مرحوم، پھر مولوی مصباح، مسلسل کئی سال تک یہی بچلاتے لے جاتے رہے، اللہ ان کو بہت ہی جزاۓ خیر دے۔ اس کے بعد تو عزیز ان مولوی یوسف مرحوم اور مولوی انعام الحسن صاحب کا سلسلہ شروع ہو گیا جواب تک جاری ہے۔

### ہمشیرہ مرحومہ کی شادی:

(۲)..... میری ہمشیرہ مرحومہ کی شادی ہے لعینی عزیز مولوی سلمان سلمہ کی نانی، میری والدہ کے انتقال کے وقت ہمشیرہ مرحومہ کی منگنی تو کاندھلے کے ضابطہ کے موافق بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ لیکن عزیز سلمان کے نانا ہمیشہ باہر ہے، اپنے والد رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس منتظری قیام رہا کہ ان کے والد صاحب ہمیشہ وہیں ملازم رہے، آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا۔ حکیم ایوب صاحب کے والد حکیم یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب سے اس کی خواہش اور تمثنا ظاہر کی کہ میری ہمشیرہ مرحومہ کا نکاح حکیم ایوب سے ہو۔ حکیم ایوب میرے والد صاحب قدس سرہ کے بہت ہی لاڈ لے شاگردوں میں سے تھے۔ والد صاحب نے کہا کہ میری تو عین تمثنا ہے مگر یہ قصہ انفرادی نہیں بلکہ خاندانی ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کے توڑنے میں خاندان میں اختلاف پیدا ہوں گے، رنجشیں پیدا ہوں گی، اس لیے معدود ری ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد حکیم یعقوب صاحب نے مجھ سے بھی فرمایا۔ میں نے بھی وہی جواب دیا کہ حکیم ایوب صاحب تو میرے لیے سب سے بہتر ہیں مگر آپ خود خیال کریں جس چیز کو میرے باپ نہیں کر سکے میں کیسے کر سکوں گا۔ حالانکہ حکیم ایوب صاحب اس وقت میں میرے لیے ابتداءً محبت اور انتہا محبوب تھے۔ یہ دونوں فقرے معنی وار ہیں۔

”ابتداءً محبت“ کا مطلب تو یہ ہے کہ جب میں رب جب ۲۸ھ میں سہار پور آیا تھا تو حکیم ایوب

صاحب نے مجھ سے ظہر کی نماز سے فراغ پر مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے سجدہ سہو کا ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حکیم جی نے کہا ”مسئلہ تو مجھے معلوم ہے، میرا کئی مہینوں سے تجھے سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس لیے مسئلہ پوچھا۔“ میں نہیں پڑا اور ایک دو بات کھڑے کھڑے کی، تم کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔

اور دوسرا فقرہ ”انہاءِ محبوب“ کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال تک تو حکیم جی کا ہر وقت کارہنا سہنا کچھ گھر ہی کا تھا، صرف رات کو عشاء کے بعد اپنے گھر جاتے، صبح آجایا کرتے میرے والد صاحب سے بھی ان کو عشق کے درجہ کی محبت تھی۔ چنانچہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو یہ زنانہ مکان کے دروازے میں غش کھا کر گئے تھے، بڑی مشکل سے ان کو چار پائی پر لٹا کر گھر پہنچایا تھا اور میرے والد صاحب کے انتقال کی پریشانی کے ساتھ حکیم جی کے والد اور تایا کوان کی فکر پڑ گئی تھی۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد یہ مجھ سے منہ موڑ کر حضرت مولانا ثابت علی صاحب کے خصوصی تلمذ میں پہنچ گئے تھے، جس کا مجھے اس وقت بہت قلق ہوا۔ مگر میں ابتدائی مدرس بھی نہیں ہوا تھا اور یہ حدیث تک پہنچ گئے تھے، اگرچہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال تک زیادہ تر مجھ سے ہی پڑھتے تھے، اس لیے اور بھی قلق ہوا مگراب تو پھر ان کی محبوبیت مدرسہ کی وجہ سے عود کر آئی۔ یہ میرے رسالہ میں بار بار طاہر ہو گا کہ مدرسہ کا جو شخص جتنا لحاظ رکھتا ہے مجھے اس سے بہت ہی زیادہ محبت بڑھتی ہے اور جو ملازم ہو کر مدرسہ کے امور میں تساؤں تاسع کرتا ہے مجھے اس سے چاہے کتنی ہی محبت ہو نفرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ حکیم جی باوجود یہکہ ملازم نہیں ہیں مگر جب سے سر پرست مدرسہ ہوئے ہیں مدرسہ کے ہر کام کو میرے ذوق کے موافق اپنا کام سمجھتے ہیں، بالخصوص تعمیر کو، تو سعی چندہ کی کوشش کو، نظم امت کے امور میں مشورہ کو۔ غرض کسی کام کو نہیں سمجھتے کہ یہ میرا فرض منصبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیر، صحت و قوت عطا فرمائے کہ اب تو ان کی صحت نے بہت جواب دے رکھا ہے۔

خواخواہ بات میں بات آجائی ہے، بہر حال حکیم جی سے میری ہمسیرہ کی شادی مقدرنہ تھی نہ ہوئی۔ لیکن چونکہ اس کے مجوزہ شوہر یعنی عزیز سلمان کے نانا باہر رہتے تھے، مستقل قیام منتگمری پنجاب میں رہتا ہی تھا، لیکن دو سال سے بصرہ مجاز جنگ پر گئے ہوئے تھے وہاں سے واپسی ۳۰ محرم ۱۸۷۲ھ مطابق کاندھل آئے کی توبت نہیں آئی تھی۔ اس لیے خاندان کے دوسرے لوگوں نے میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد مجھ پر بہت ہی زور ڈالے کہ میں خاندان کے دوسرے افراد فلاں فلاں میں سے کسی سے نکاح کروں اور عزیز سلمان

کے نانا کی اس قدر رخت تر شکایتیں کاندھلہ اور پنجاب سے پہنچیں کہ ان کی وجہ سے میں ڈر گیا۔ میں اعلیٰ حضرت قطب الاقطاب حضرت شاہ عبدالرحمٰن صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارے حالات پیش کیے۔ حضرت قدس سرہ نے تقریباً دس منٹ تک بلکہ شاید اس سے زائد مراقب فرمایا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ ”اللہ کا نام لے کر دو، اللہ خیر کرے۔“ میں نے رائے پورے واپس آتے ہی کاندھلہ خط لکھ دیا کہ یہ اس وقت کاندھلہ چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ میرے خط پر میرے حقیقی نانا حافظ محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی حافظ محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کے والدان کو اپنے ساتھ لے کر سہار پور پہنچ گئے۔ نہ کوئی بارات ساتھی نہ کوئی اور آدمی۔

میرے آقا میرے مرشد حضرت سہارپوری قدس سرہ کی نانگ میں اُس زمانہ میں تکلیف تھی، مدرسہ تشریف نہیں لاتے تھے، یہ ناکارہ جماعت کرانے حضرت کی خدمت میں جایا کرتا تھا، مغرب کی نماز کے وقت جب میں پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ ”حضرت ہمیشہ کا بجوزہ شوہر عصر کے بعد آگیا ہے، اس وقت حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھ دیں تو صبح کو کاندھلہ بہن کو لے جائے۔“ حضرت نور اللہ مرقدہ نے اس وقت کوئی نہیں لیئے لیئے نکاح پڑھا دیا، میں اور پچھا جان، حضرت قدس سرہ کے ایک دو خادم چار پانچ آدمی تھے۔ نکاح کے بعد صبح کو ہمیشہ مرحومہ کو ان کے خادم کے ساتھ بھیج دیا۔ پچھا جان نور اللہ مرقدہ ساتھ تشریف لے گئے تھے، نہ کچھ ساتھ سامان تھا، نہ کپڑے، نہ برتن، چونکہ سب کو اندازہ تھا کہ پچھی ہے پتیم ہے کسی نے ان چیزوں کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ البتہ میری والدہ نے کچھ برتن پہلے سے رکھے تھے اور کچھ کپڑے بھی، اس وقت تو کچھ نہیں دیا گیا۔ البتہ حب ضرورت وہ لے جاتی رہی۔ لیکن جب وہ سرال والوں سے علیحدہ ہو کر اپنے مستقل مکان میں مقیم ہوئی، اس وقت میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ گھر کے سامان میں سے کھانے پکانے کا ہو، استعمال کا ہو جو تیرا جی چاہے لے جا۔ نیز میں نے اپنی والدہ نور اللہ مرقدہ کے انتقال پر عام گھروں کے دستور کے موافق کہنیں اپنی رضا و خوشی سے اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیا کرتی ہیں، اس کا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ مرحومہ نے بہت خوشامد کی، بہت روئی بھی کہ میں تو آخر تمہارے ہی ذمے رہوں گی، کہاں جاؤں گی، ماں نہیں، باپ نہیں۔ میں نے کہا ضرور رہے گی انشاء اللہ اور ماں اور باپ دونوں کا بدل کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن حصہ تیراضرور الگ کروں گا۔ میں نے اپنے منتظم جائیداد حاجی محسن صاحب مرحوم سے کہہ دیا تھا کہ دو (۲) حصے میرے اور ایک حصہ ہمیشہ کا جو تقسیم کے خواہ بٹے تمہارے ہوتے ہوں اس کے موافق کر دو۔ انہوں نے کئی دن بعد مجھ سے از راہ شفقت فرمایا کہ کنویں والا حصہ تیرے قریب میں لگا دیا ہے۔ میں جانتا بھی نہ تھا کنویں والا

کیا بلایہ اور کیا اہمیت اس کو ہے۔ میں نے کہہ دیا ”نمیں وہ تو ہمیشہ کی طرف لگے گا۔“ ان بے چاروں نے تو مجھ پر بڑا احسان رکھا تھا، میرے شدت انکار پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ”پھر آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں، میرا زمین کی آمدنی سے کیا سہارا ہو سکتا ہے، سارا ہی ہمیشہ کے نام لکھوادو۔“ اول تو مرحوم اس کو تفریح سمجھے، لیکن جب میں نے بڑوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ دس (۱۰) بارہ (۱۲) من غلہ مجھے کیا لفایت کرے گا؟ وہ بچی ہے، اس کو کام دے گا، آپ اسی کے نام لکھوادیں، تب مرحوم نے میری مرضی کے موافق اس کو کر دیا۔

(۳)، (۴)..... مجھے اپنی بچیوں میں سب سے پہلا سابقہ اور معرکہ الاراء سابقہ سب سے بڑی دو (۲) بچیوں والدہ ہارون، والدہ زبیر کا مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، و مولا نا انعام الحق صاحب کے نکاح سے پڑا۔

### عزیزان مولوی یوسف مولوی انعام کی شادی:

(الف)..... ہمارے خاندان کا قدیم دستور اصول موضوع کے طور پر یہ طے شدہ تھا کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہو تو اس کا اقرب ترین نام مرگ گویا شادی کے لیے معین تھا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض مؤرخین نے گز بڑ کر کے نقل کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہارون کی والدہ پیدا ہوئی تو دایے نے اس بات کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس عنوان سے اعلان کیا تھا میری بچی کو مخاطب کر کے کہ آپ تمہیں مبارک بادوں کہ اللہ نے تمہارے یوسف کے بہو دی۔ یہ منگنا ہو گیا تھا۔

والدہ زبیر کے متعلق ذہنوں میں تو سب کے مندرجہ بالا قاعدہ کے موافق طے شدہ تھا، لیکن دو ایک سال بعد بھائی اکرام صاحب کا ایک کارڈ آیا کہ ”والد صاحب کے تعییل حکم میں لکھ رہا ہوں، تمہاری دوسری بچی سے عزیزانعام کے نکاح کی تجویز کو فرمایا ہے۔“ میں نے اس کے جواب میں لکھ دیا تھا کہ پھوپھا میرے بھی بڑے ہیں، میرے سے کیا پوچھنا؟ یہ ہوا منگنا مولا نا انعام الحسن صاحب کا۔

چچا جان نور اللہ مرقدہ ہر سال مظاہر علوم کے سالانہ جلسے میں شنبہ کی شام کو تشریف لا یا کرتے تھے، حسب معمول مورخہ ۲۵ محرم ۵۳ هجری کے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ ”ہمارے یہاں میوات میں جلوں میں نکاحوں کا دستور پڑ گیا۔ کل کے جلسے میں حضرت مدینی سے یوسف و انعام کا نکاح پڑھوادوں؟“ میں نے کہا شوق سے پڑھوادیجے مجھ سے کیا پوچھنا۔ عشاء کی نماز کے کچھ دری بعد میں نے اہلیہ مرحومہ اور دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ چچا جان کا ارادہ یہ ہے کہ کل کے

جلے میں دونوں بچیوں کا نکاح پڑھوا دیں میری الہیہ مرحوم نے اس کے لفظ مجھے خوب یاد ہیں یہ کہا کہ ”تم دو چار دن پہلے کہتے تو میں ایک جوڑا تو ان کے لیے سلوادیتی۔“ مجھے اپنا جواب بھی خوب یاد ہے اور میرے جواب پر مرحومہ کا سکوت بھی ”اچھا مجھے خبر نہیں تھی یعنی پھر رہی ہیں، میں تو میں مجھے رہا تھا کہ یہ کپڑے پہنے پھرتی ہیں۔“ میرے جواب پر مرحومہ بالکل ہی ساکت ہو گئی۔

جامع مسجد آتے ہوئے حضرت مدینی سے میں نے عرض کر دیا کہ یوسف و انعام کا نکاح پڑھنے کے لیے پچا جان فرمائے ہیں۔ حضرت نے بہت ہی اظہار مسرت فرمایا۔ کہا ”ضرور پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا۔“ اور جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد بیٹھتے ہی فرمایا کہ ”مہر کیا ہو گا؟“ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں مہر مثل ڈھانی ہزار ہے۔ حضرت جی کو غصہ آگیا، فرمایا کہ میں مہر فالٹی سے زیادہ ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو شرعی چیز ہے۔ فقہاء کے نزد دیکھ مہر مثل سے کم پر سکوت کافی نہیں بالصریح اجازت کی ضرورت ہے تھوڑی دیر میرا اور حضرت کا جامع مسجد کے درمیں بیٹھے بیٹھے مناظرہ ہوا میرے پچا جان نور اللہ مرقدہ اندر سے تو میرے ساتھ مگر حضرت جی کے غصے کی وجہ سے چپ تھے اور میں خوب ڈائیں سن رہا تھا۔ میری الہیہ مرحومہ کے والد مولانا راؤف الحسن صاحب جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا۔ ”جیسے حضرت فرمائے ہیں مان لو۔“ میں نے کہا ”یہ تو شرعی چیز ہے۔“ میرے پچا جان نے فرمایا ”بچیوں میں سے کون سی انکار کر دے گی اور یہ نکاح نکاح موقوف بن جائے گا؟ اور جب تم گھر جا کر اظہار کر دو گے تو تنکیل ہو جائے گی۔“

حضرت قدس سرہ ممبر پر تشریف لے گئے اور سادہ نکاحوں کی فضیلت برکت پر لمبا چوڑا وعظ شروع کیا اور حضرت کی محبوب ترین گورنمنٹ برطانیہ کا ذکر تو کسی جگہ چھوٹا ہی نہیں تھا، اس نکاح کے وعظ میں بھی وہ بار بار آتا رہا۔ حضرت مولانا حکیم جمیل الدین نگینوی ثم الدہلوی جو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور ہمارے سارے اکابر کے محبوب تھے، اس جلے میں تشریف فرماتھے، مجھ سے فرمایا کہ ”میں ساڑھے دس بجے کی گاڑی سے جانا ضروری سمجھتا ہوں اور مولانا کی طبیعت خوب زوروں پر چل رہی ہے اگر نکاح مولانا پہلے پڑھ دیں تو میری اور ساتھیوں کی تمنا یہ ہے کہ اس میں شرکت کرتے جاویں۔“ میں نے حضرت کی خدمت میں ممبر پر پرچہ بحث دیا کہ بعض مہماں کو اس گاڑی سے جانے کی ضرورت ہے، ان کی درخواست ہے کہ نکاح پہلے پڑھ دیں۔ حضرت قدس سرہ کو خیال ہو گیا کہ بعض لیکی حضرات میری تقریر سننا پسند نہیں کرتے اس لیے اول تو خوب ممبر پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ”اصل غلطی تو مجھے ممبر پر کھڑا کرنا ہے اور اس بے ایمان حکومت کو کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا، جس کو سننا ہو وہ نہ اور جس کو میری تقریر سننا گوارا نہ ہو وہ چلا

جائے۔“ لیکن معادنوں لڑکوں یوسف و انعام کو مبرکے پاس کھڑے کر کے خطبہ پڑھ کر نکاح پڑھ دیا اور پھر اپنے وعظ میں مشغول ہو گئے۔

جلے کے بعد فرمائے گے ” فلاں لیگی صاحب کو میری تقریر سے گرانی ہو رہی ہو گی۔“ میں نے کہا ” نہیں حضور، جناب کے الحاج حکیم جمیل الدین صاحب کو جانے کا تقاضا ہو رہا تھا اور انہی کے تقاضے پر میں نے پرچہ بھیجا تھا، مگر آپ تو رستے چلتے یاگیوں کے سر ہوتے پھرتے ہیں۔“ حضرت نے فرمایا کہ پھر پرچے میں یوں کیوں نہ لکھا کہ حکیم جمیل الدین صاحب جانا چاہتے ہیں۔“

نکاح تو ہو گیا مگر وہ گالیاں مجھ پر پڑیں کہ یاد رہیں گی۔ لڑکوں سے تو لوگ واقف نہیں تھے اور میری لڑکیاں ہونے کا اعلان آہی گیا تھا، لڑکے دونوں حسین جمیل امرداد اور مدینی رومال دونوں کے سروں پر، جو میں نے ہی رکھے تھے، جلے میں جاتے ہوئے دے دیے تھے۔ دو تین فقرے نقل کرتا ہوں فقرے تو بہت سے:

(۱)..... ان مولویوں کا بھی کچھ تگ نہیں، دو خوبصورت لوندے دیکھتے تھے تو لوندیاں ہی حوالے کر دیں۔

(۲)..... بسمیل کے سیٹھوں کے لوندے جلے میں آئے تھے، پیے والا دیکھ کر لڑکیاں ہی دے دیں۔

(۳)..... پہلے سے جانتے ہوں گے دیے رستے چلتے کیا حوالہ کر دیتے۔ ارے نہیں ان مولویوں کا کچھ تگ نہیں۔

(۴)..... ہمارے محلہ کے ایک بڑے متول، رئیسِ اعظم، دیندار، مترشح بزرگ نے اپنے گھر جا کر بڑی ہی خوشی اور سرست سے میری بچیوں کے نکاح کا مذکورہ کیا، ان کی اہلیہ مرحومہ خوب خفا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہی کی مغفرت فرمائے کہنے لگیں ” گھر میں تو چوہے فلا بازیاں کھاویں، کھانے کے واسطے کچھ ہے نہیں، ہر وقت ہمارے دروازے پر قرض کے واسطے آدمی کھڑا رہتا ہے وہ یوں نہ کرتا تو اور گیا کرتا؟ تم مجھے سناؤ اللہ کے فضل سے اللہ میاں نے بہت کچھ دے رکھا ہے، مال و دولت دے رکھی ہے، خدا شکرے کہ میں اپنے بچے کا نکاح فقیروں کی طرح کروں۔“

اس کے بعد چونکہ خاندان کی ساری روایات کے خلاف تھا اور اب تک کوئی نکاح اس طرح نہیں ہوا تھا، اس لیے کاندھلہ میں بھی اس نکاح پرچہ گویاں تو بہت ہوئیں، ایک صاحب کا فقرہ مجھے پہنچا کہ ” ذکریا نے اپنی بھی ناک کٹوادی اور ہم سب کی بھی۔ بھلانکاح یوں ہوا کرتے ہیں۔“ میں نے اس کا جواب اہتمام سے بھیجا کہ ” میری تو کئی نہیں اور میں نے قاصد سے کہا کہ تو بھی ہاتھ لگا کر دیکھ لے اور کہہ دیجئے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کی تو کئی نہیں اور کسی کی مجھے خبر نہیں۔“

تایا سعید مرحوم کیرانوی سابق ناظم مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ جن کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات بھی قدیم، حکیم یا مین صاحب مہاجر کی کے نکاح کے سلسلہ میں بھی ان کا ذکر خیرگز رچکا ہے۔ جب ان کو ان دونوں کا حوالہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے کاندھلہ میں فرمایا کہ ”اس نے بہت بُری رسم جاری کر دی۔ بھلا شادیاں اس طرح ہوا کرتی ہیں، خیر نہ خیر، یہ تو اعزہ کی سروتوں کا زمانہ ہوتا ہے، مسرت انگلیز خبروں کا پہلے سے ذکر تذکرہ ہونا چاہیے، خوشی کی لہر دوڑے زکر یا کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔“ میں نے بڑے اہتمام سے تایا مرحوم کے پاس اس کا جواب بھیجا کہ ”جتناب کی تجویز بہت مناسب ہے، ضرور اس سیہ کار کو سزا ملنی چاہیے اور سزا جرم کے مناسب ہوا کرتی ہے چونکہ اس سیہ کا رنے اعزہ میں سے کسی کو اپنی بچیوں کے نکاح میں نہیں بلا یا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اعزہ میں سے کوئی بھی کبھی مجھے اپنی تقریب میں نہ بلائے۔“ تایا سعید مرحوم نے پیام بھیجا ”اس کو تو سزا نہیں کہتے، یہ تو تیری عین منشأ کے مطابق ہو گیا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ ہر شخص تجھے اپنی ہر تقریب میں دو مرتبہ بلائے۔ ایک مرتبہ اپنی تقریب میں اور دوسری دفعہ سزا میں۔“ گھر کے مردوں پر تو گرانی خوب سنی، لیکن عتاب تایا سعید مرحوم کے علاوہ کسی کا نہیں پہنچا۔

البتہ گھر کی مستورات کی طرف سے خوشیوں کے، سروتوں کے، دعاوں کے پیامات پہنچے۔ اللہ تمہیں بہت ہی جزائے خیر دے، بہت ہی اچھا راستہ نکال دیا، اللہ کرے یہ چل پڑے۔ شادیاں تو مصیبت بن گئیں۔ سُودی قرض تک سے بھی اب تو پرہیز نہیں رہا جس کی عام طور سے لوگوں کو خیر بھی نہیں ہوتی۔ مگر بھائی زکر یا بھی بات ہے کہ بعض بعض گھروں میں تو شادی کی لعنت سے سود تک بھی گھر میں گھس گیا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ یوں کرے، اللہ یوں کرے، فلاں فلاں کے نکاح بھی اسی طرح جلد کرا دو۔

(ب)..... اس زمانے میں عزیز مولویان یوسف و انعام سہار پور ہی میں پڑھتے تھے اور میرے پچا جان نور اللہ مرقدہ ہمارے مدرسہ کے سر پرستان میں تھے اور حضرت اقدس راپورمی قدس سرہ بھی سر پرست تھے، مدرسہ کے اجتماع سر پرستان میں دونوں حضرات کی اکثر تشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔

ریج الاول ۱۹۵۵ء میں حضرات سر پرستان کا اجتماع تھا۔ حضرت اقدس راپورمی پچا جان و دیگر سر پرستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ پچا جان نے ارشاد فرمایا: ”خیال یہ ہے کہ کل کو جاتے وقت یوسف و انعام کی بیویوں کو لے جاؤں۔“ میں نے کہا ”جیسے رائے عالی ہو، مگر بڑے دونوں یہاں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بناء تو انہی کے گھر میں ہوئی تھی، میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں لوٹڈوں کی بناء یہاں ہی کرا دیں۔“ پچا جان نور اللہ مرقدہ کا ایک مقولہ میرے متعلق

بہت معروف و مشہور، نے معلوم بیسوں دفعہ فرمایا ہوگا کہ ”تجھے نہ معلوم اپنے کام کی حد تشریش بہت یاد رہتی ہیں۔“ پچا جان نے فرمایا ”بہت اچھا۔“

میں نے ۱۲ اریج الاول ۵۵ مطابق ۳ جون ۳۶ء کو عصر کے وقت بچیوں سے کہہ دیا کہ ”اپنی بہنوں کو کپڑے پہناؤ، رات کوان کی بیسیں رخصتی ہے۔“ مولانا یوسف مرحوم کو اپنے کمرے میں اور مولانا انعام الحسن صاحب کو کچے گھر میں تجویز کیا۔ مقدار کی بات کہ خوب بارش ہوئی اور اوپر مولانا یوسف صاحب خوب بھیکے کہ وہ بچھے کے نیچے تھے۔

حضرات سر پرستان کی آمد پر اور مہماں کی آمد پر کھانے کا دستور تو ہمیشہ سے ہے، مہماں کی کثرت رہتی ہی ہے۔ میں نے عشاء کے بعد، عزیزم مولوی عامر انصاری را مپوری جو اس وقت مظاہر علوم میں پڑھتے تھے اور مجھ سے ہمیشہ خصوصی محبت رہی اور وہ بڑھتی ہی رہی اس میں روز افزول اضافہ اب تک بھی ہے۔ میں نے عشاء کے بعد، اس کو بلا کر یوں کہا کہ پلاو ڈج گئی، کاندھلہ کے دس بارہ عزیزم اس زمانہ میں مظاہر علوم میں پڑھتے تھے میں نے عامر سے کہا کہ سب بچوں کو بلا لو، آج بچیوں کی رخصتی ہو رہی ہے تمہاری دعوت ہے۔ سب عصر کے بعد کھاچکے تھے۔ مگر عزیزم عامر کے پیام پر ایک عزیزم نے غصہ میں یوں کہا کہ ”شادیوں کی دعوت یوں ہوا کرتی ہے کھا چکا میں، میں نہیں جاتا۔“ اس عزیزم کے علاوہ کسی نے کوئی تامل نہیں کیا، پیام سنتے ہی ایسے خوشی سے آئے کہ جیسا بہت ہی میں نے کچھ کرم کیا ہو۔ عزیزم عامر نے میرے اس عزیزم کو جواب بھی حیات ہے اور پاکستان میں ہے۔ یہ جواب دیا کہ ”تیری عقل ماری گئی، بھائی زکریا نہیں بالا رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب بالا رہے ہیں، یہ خرے جب تکجھے جب بھائی زکریا کاندھلہ میں تجھے بلا کمیں اور وہاں وہ کبھی تجھے بلانے کے نہیں۔“ وہ بیچارہ شرما کر ساتھ آگیا عزیزم عامر سلمہ کا یہ فقرہ میں ہمیشہ بہت مزے لے کر دورہ کے اس باقی میں سناتا رہا ہوں:

محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھا دے گی !

چونکہ عزیزان مولویان یوسف و انعام بیسیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے لڑکیوں کے نظام الدین جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ میرے گھر ہی میں شپ جمعہ کو دونوں کی چار پائیاں علیحدہ علیحدہ بچھوادی جاتیں، جب سال کے ختم پر وہ حضرات نظام الدین گئے اپنی اپنی بیویوں کو بھی پچا جان کی معیت میں ساتھ لے گئے۔

نکاح والدہ سلمان:

(۵)..... میری ہمیشہ زادی والدہ سلمان کا نکاح بھی ایک معزکت الاراء نکاح بن گیا۔ خاندان

کے دستور کے موافق خاندان میں ایک جگہ اس کی منگنی ہو چکی تھی، مگر قرابت کے اعتبار سے دو تین جگہ زیادہ قریب تھیں، مگر ان کا قیام پنجاب میں تھا، اس کے والد ماموں شعیب صاحب جو پنجاب ہی میں رہتے تھے ان کا نہایت زوردار خط میرے پاس آیا کہ ”میں تو حالات سے واقف نہیں، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیندار جگہ جو ہو وہاں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے مدرسہ کے طالب علموں میں کوئی دیندار ملے تو اس سے کر دو۔“ میں نے لکھا کہ ”دیندار تو بہترین موجود ہے یعنی مفتی یحییٰ، مگر خاندان میں منگنی ہو چکی ہے، قرابت کا قصہ ہے، تعلقات کشیدہ ہوں گے اور بے دینی وہاں بھی نہیں ہے۔“ انہوں نے پھر زوردار الفاظ میں لکھا کہ ””مجوزہ شخص داڑھی منڈاتا ہے آپ کو خبر نہیں۔“ مجھے تو واقعی خبر نہ تھی، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ نہیں نکلی ہوگی۔ میں نے پچا جان سے مشورہ کیا۔ پچا جان نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی شعیب کی بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔“ چنانچہ جب پچا جان نور اللہ مرقدہ نے میری بھائی کا مدرسہ قدیم کی مسجد میں عصر کے بعد نکاح پڑھایا تو تمہید میں یہ فرمایا کہ ”بھائی شعیب صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ عطا فرمائے کہ انہوں نے تو وہ کہا کہ جو مجھے اور شیخ الحدیث کو کہنا چاہیے تھا، یعنی ”دیندار کے مقابلے میں کسی کی رعایت نہیں۔“ اور ہم دونوں نے وہ کہا جوانہیں کہنا چاہیے تھا کہ قرابت کی رعایت زیادہ ضروری ہے۔“

ماموں شعیب صاحب کو اللہ تعالیٰ جزاۓ خیر دے، ان کے دین پسند رجحان سے نکاح تو ہو گیا، لیکن خاندان والوں کی جو یورش اس ناکارہ پر ہوئی، ہر ایک کے ذہن میں یوں تھا کہ بھائی شعیب تو کسی کو جانتے نہیں اور پچا جان نور اللہ مرقدہ کی رائے میری رائے کے تابع ہے۔ خاندان سے باہر نکاح کی بدععت زکریا کا کارنامہ ہے۔ اس میں ایسے عزیز قریب رشتہ دار تک خفا ہوئے کہ جن سے اس قسم کی ناراضی کا وہم بھی نہیں تھا اور میرے ایک عزیز ماموں شعیب کے بھائی تو مجھ سے اتنے ناراض ہوئے کہ دو برس تک ملاقات پر بات بھی نہیں کی اور اتنے سخت ناراضی کے خط لکھنے کے کچھ حد و حساب نہیں۔ میں نے دبے لفظوں میں ایک دو دفعہ ان کو لکھا بھی کہ یہ چیز ماموں شعیب صاحب کی دین پسندی کا ثمرہ ہے۔ مگر ان کو اس کا بالکل یقین نہیں آیا کہ میں نے زبردستی ایسا نہیں کرایا۔

اس قصہ کے تو بڑے واقعات ہیں مگر اس کے اکثر افراد انتقال کر چکے ہیں، اب تو اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ جل شانہ ان عتاب کرنے والوں کو، ناراض ہونے والوں اور انتہائی سب و شتم کرنے والوں کو معاف فرمادے اور ہمارے گھر میں خاندان سے باہر شادی کا یہ پہلا واقعہ ہے، پھر تو ان حکیموں نے مجھے ایسا گھیرا کہ میری ساری لڑکیاں چین چن کر لے لیں۔

### تیسرا چوتھی بچیوں کا نکاح:

(۶) ، (۷) ..... ان کے بعد میری دو (۲) لڑکیاں شاکرہ مرحومہ جس کا تذکرہ حادث اور اموات میں گزر چکا اور اس کی چھوٹی بہن، جواب مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیوہ ہے، کا نکاح ساتھ ہوا۔ شاکرہ مرحومہ کا جس سے نکاح ہوا تھا، حسن دیوبند پڑھتا تھا اور اس سے چھوٹی بہن کا مجوزہ شوہر سعید الرحمن سہارنپور پڑھتا تھا، بڑا ہی سعید بچہ تھا۔ اسم باسمی تھا، اس کی خوبیوں کے واسطے ایک دفتر چاہیے، چونکہ اس کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے وہ مع اپنی بہن کے میرے ہی پاس رہا کرتا تھا۔ بچپن میں شرارت کرتے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا فرمائے اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ۱۸، ۱۹ اشوال ۲۶ھ مطابق ۳، ۵، ۵۔

اگست ۲۷ء کی درمیانی شب، شب جمعہ میں مرحوم کا انتقال ہوا۔ ہنگاموں کا زمانہ تھا کہ ڈاک بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی۔ کئی ماہ بعد مرحوم کے حادثہ انتقال کی خبر نظام الدین میں پہنچی جب کہ میں اپنی سب بچیوں سمیت ۲۷ء کے ہنگاموں میں نظام الدین میں محبوس تھا۔

حسن کے والد نے مجھ سے کہا کہ ”میں اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس نکاح میں شرکت نہیں کر سکتا۔ میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ مجھے خبر ہو اور میں شریک نہ ہوں، تیرے لیے بہت آسان ہے کہ تو مجھے خبر بھی نہ ہونے دے۔ اگر بغیر اطلاع کے نکاح کر دے تو مجھ پر بہت احسان ہو گا۔“ میں نے مرحوم سے کہا کہ ”تمہاری ذاتی مجبوریاں تو نہایت لغو ہیں، تمہاری مصلحت کا تقاضا ہے تو مجھے بھی انکار نہیں۔“ میں نے حسن کے ہاتھ ایک دستی پرچہ حضرت مدینی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں لکھا کہ ”دو (۲) بچیوں کے نکاح کا خیال ہو رہا ہے، جس دن سہارنپور کی طرف تشریف لانا ہو حامل عریضہ حسن کو ساتھ لیتے آئیں۔“ حضرت قدس سرہ نے اپنی ڈائری میں فوراً نوٹ کر لیا، زبانی اسی وقت اس کا جواب دے دیا کہ ”میں پرسوں لکھنؤ جا رہا ہوں، پہلے سے رات کی گاڑی آنے کا خیال تھا، اب خیال ہے کہ ۲۷ بجے کی گاڑی سے آجائوں گا، عصر کے بعد نکاح ہو جائے گا۔“ چنانچہ ۱۹ اربع الاول ۲۵ھ مطابق ۲۲ اپریل ۳۶ء دو شنبہ کو حضرت تشریف لانے، حسن بھی ساتھ تھا۔ سعید الرحمن تو پہلے سے یہیں تھا۔ عصر کے بعد نکاح ہو گیا اور مغرب کے بعد ماشاء اللہ شادی کی دعوت بھی ہو گئی۔ کسی کو بلا تا تو یاد نہیں، ویسے بھی حضرت مدینی قدس سرہ کی وجہ سے ادھر ادھر کے احباب جمع ہو ہی گئے تھے۔ سعید الرحمن مرحوم تو سہارنپور میں پڑھتا تھا اور میرے ہی گھر میں قیام تھا اس لیے اسی دن عشاء کے بعد اس کی بناء تو میرے ہی گھر میں ہو گئی اور دوسرے دن حسن کے ساتھ اس کی بیوی کو کاندھلہ بھیج دیا گیا۔ بھائی اکرام ساتھ گئے۔ اس سے کہہ دیا تھا کہ جمعہ تک کاندھلہ میں قیام کرے، جمعہ کے دن شاکرہ کو یہاں چھوڑتا جائے۔ خود دیوبند چلا

جائے۔ اس کے بعد ہر شب جمعہ میں دیوبند سے آتار ہتا تھا۔

(۸).....اس ناکارہ کی دوسری شادی کا مسئلہ بھی بہت معرب کتاب اللاء ہے، حادث کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ میں نے اپنی پہلی اہلیہ مر جوہ کے انقال کے بعد دوسری شادی سے بہت ہی شدت سے انکار کر دیا تھا اور بلا مبالغہ میں پچیس جگہوں سے بہت ہی تقاضے ہوئے اور جن میں بعض کے متعلق حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی۔ ایک کے متعلق تو حضرت رائے سوری قدس سرہ بہت اہتمام سے تشریف لائے، مگر میں اپنی معدود ریوں اور اس وجہ سے کہ ادای حقوق نہیں کر سکتا، شدت سے انکار کرتا رہا۔ لیکن پچاچان نور اللہ مرقدہ نے ہمیشہ مولوی یوسف مر جوہ کے متعلق فرمایا تو مجھے انکار کی گنجائش نہیں رہی اور میں نے عرض کی کہ ”پھر نکاح پڑھتے جائیے۔“ انہوں نے کہا کہ تغیر زوج کے واسطے استیمار کی ضرورت ہے۔ میں دو تین دن میں خط لکھ دوں گا اس پر چلے آنا۔ حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری تو بار بار ہوتی رہتی تھی، مجھے تو اپنا ذکر کرتا بالکل یاد نہیں۔ لیکن معلوم نہیں حضرت کو کس طرح سے علم ہو گیا۔ حضرت کے متعدد اعزہ اس زمانہ میں یہاں پڑھتے تھے حضرت قدس سرہ کو پچاچان کی ابتدائی گفتگو کا علم ہو چکا تھا، انہوں نے مجھ سے بہت اصرار سے ارشاد فرمایا کہ ”میں ضرور چلوں گا۔“ میں نے عرض کیا کہ ”میں لے کر نہیں جاؤں گا۔“ حضرت نے بار بار اصرار فرمایا میں نے عرض کیا حضرت ہم لوگوں کو بارات وغیرہ کے قصے سے اور زیادہ احتیاط بر تھی چاہیے کہ بہت ہی تو غل بحد سے زیادہ اسراف ہونے لگا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”میں باراتی بن کر تھوڑا ہی جاؤں گا حضرت کا خادم بن کر جاؤں گا۔“ میں نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ مگر حضرت قدس سرہ کے بھانجے مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری بھی یہاں پڑھتے تھے۔ میرے یہاں رہتے تھے۔ حضرت نے ان کو تاکید فرمائی اور کرایہ بھی دیا کہ بہت اہتمام سے خبر رکھیں اور جس دن حضرت دہلوی کا خط بلانے کا آجائے فوراً، اگر سواری نہ ملے تو مستقل تاگلہ بہت کا کر کے مجھے اطلاع کریں۔ مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ پچاچان کا والا نام آنے پر میں نے تجویز کیا کہ کل کوہا بجے کی گاڑی سے چلا جاؤں، کسی کو لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، نہ کسی باراتی کو نہ کسی خادم کو۔ مگر علی الصباحؑ ربیع الثانی ۱۴۵۶ھ مطابق ۷ جون ۱۹۳۷ء پیش نہیں کو حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ قدس سرہ اعلیٰ اللہ مراتبہ اللہ بہت ہی بلند درجہ عطا فرمائے تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ ”میں اس گاڑی سے روانگی ملتے کر دوں۔“ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ ”مجھے بھی واپسی کا تقاضا نہیں، دو چار دن تھہر نے میں اشکال نہیں۔“ لیکن پچاچان یہ تحریر فرمائچکے تھے کہ ابجے کی گاڑی سے آ جانا، اسیشن پر سواری مل جائے گی۔ یہ ناکارہ، حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ اور ان کے چند خدام حافظ عبدالعزیز صاحب، بھائی الطاف

وغیرہ کے ساتھ ریل پر پہنچا اور اسی گاڑی سے جس سے ہم لوگ سوار ہونے کا ارادہ کر رہے تھے یعنی ۰۱ بجے کی گاڑی سے حضرت اقدس مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ ناندہ سے تشریف لارہے تھے، اشیش پر ملاقات ہوئی۔ حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ یہ سمجھے کہ حضرت کی آمد کی اطلاع مجھے ہو گئی اور میرا مستقل معمول تھا کہ جب حضرت کی آمد کی اطلاع ہوتی تو اشیش پر ضرور حاضر ہوتا اور اگر حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سہار پور میں قیام ہوتا تو حضرت بھی اشیش پر ضرور تشریف لے جاتے۔ حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اشیش پر دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ”اچھا، میری اطلاع کس طرح ہوئی؟ میں نے تو تاریخیں دیا تھا، اس لیے کہ وقت تک رہ گیا تھا۔“ حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کا اپنی آمد پر تاریخیں کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت کے ارشاد پر قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، حضرت رائے پوری نے ارشاد فرمایا کہ ”حضرت کی آمد کی اطلاع تو نہیں تھی ان حضرت کا نکاح ہو رہا ہے۔“ حضرت مدینی قدس سرہ نے عتاب آمیز لہجہ میں فرمایا ”اور ہمیں خبر بھی نہیں کی؟“ حضرت رائے پوری قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ ”حضرت میں بھی زبردستی ساتھ ہوں، انہوں نے مجھے بھی خبر نہیں کی اور ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں لے جاتا، میں نے تو جاسوس مقرر کر کھاتھا کہ جب حضرت دہلوی کا خط آئے تو مجھے فوراً اطلاع ہو جائے۔ کل شام مجھے اطلاع ہوئی، صبح ہی حاضر ہو گیا۔“

حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ نے حضرت رائے پوری کے ہاتھ پہنچا جان کے پاس پیام بھیجا کہ مولوی الیاس سے کہہ دیں کہ ”نکاح میں پڑھاؤں گا، میرے بغیر نکاح نہ ہوگا، میں تو اسی گاڑی سے چلتا مگر مستورات بھی ساتھ ہیں سامان بھی ساتھ ہے ان کو اتار کر اگلی گاڑی سے آجائوں گا۔“ میں نے اول تور دیکھا کہ ”حضرت تکلیف نہ فرمائیں۔“ ایک ڈاٹ اور پڑی۔ ”میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں مولوی الیاس کے پاس پیام بھیج رہا ہوں کہ نکاح میں پڑھاؤں گا۔“ اس پر میں نے عرض کیا کہ ”حضرت پھر حرج نہ فرمائیں جب حضرت کو ہولت ہو تشریف لے آئیں۔“ حضرت رائے پوری کو بھی دو چار دن نظام الدین کے قیام میں وقت نہ ہو گی اور یہتا کارہ بھی حضرت کا انتظار کرے گا۔“ حضرت نے فرمایا: ”اس کی ضرورت نہیں میں شام کو آجائوں گا۔“ یہ قصہ مجھے اسی طرح بہت ہی خوب یاد ہے، کوئی اس میں تردید کی قسم کا نہیں۔ حضرت رائے پوری کو مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری کا جا کر اطلاع کرنا اور حضرت اقدس مدینی کا دس بجے کی گاڑی سے اشیش پر ملتا اور مجھے ڈاٹ۔ یہ سب یادیں خوب یاد ہیں۔

مگر میرے روز ناچے میں تھوڑا ساتغیر ملا، جس کا کوئی جوڑ سمجھے میں نہیں آتا اور مجھے نظر نہیں آتا جس سے انداز تحریر سے کچھ جوڑ پیدا ہوتا، میرے رجسٹر میں حضرت مدینی کا شب پنجشنبہ میں

سہار پور آنکھا ہے اور صبح کو ۵ بجے سے دیوبند تشریف لے جانا اور حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے متعلق لاہور سے کلکتہ میں سے آنا اور اسی ۵ بجے کی گاڑی سے بندہ کے ساتھ جانا لکھا ہے۔ حضرت رائے پوری کا ۳ بجے آ کر ۵ بجے جانا عقل میں نہیں آتا، معلوم نہیں کہ لکھنے میں کیا اشتباہ ہوا۔ اس بات میں رجسٹر اور یاد و نوٹس برابر ہیں کہ دیوبند تک حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ تشریف لے گئے اور دیوبند اُتر کر شام کی گاڑی سے دہلی تشریف لے گئے اور یہ ناکارہ اور حضرت رائے پوری دنوں اس گاڑی سے سید ہے دہلی چلے گئے۔ رجسٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ مظفر نگر سے اسی گاڑی سے میرٹھ تشریف لے گئے اور شام کو وہ بھی دہلی پہنچ گئے۔ سہار پور سے دیوبند تک حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ بہت ہی مسٹر کے ساتھ تفریخ فرماتے رہے اور اپنی اپنی کھوں کر عطر اگر کی بندشیشی نکالی اور تیل کی طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر سارا ٹکڑا کر اس سے کار کے میلے کھدر کے کرتے پرمل دی۔ میں حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کی حیات تک ان کے خوف کے مارے ہمیشہ کھدر کا کرتا پہنتا تھا، اس لیے کہ سے کار پر حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شفقت و کرم بھی تھا کہ بغیر کھدر کا کردا اگر میرے بدن پر دیکھتے تو فوراً بلا تکلف پھاڑ دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کھدر کے میلے کرتے پر یہ بڑھیا عطر کیوں ضائع فرمائے۔ میں نے عرض کیا ہے۔ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ کھدر پر عطر خوب مہکتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے۔

### ”کَمَا أَضَاعَ عِقْدَ عَلَىٰ خَالِصِهِ“

حضرت بنس پڑے۔ حضرت اپنے دنوں مبارک ہاتھوں سے عطر ملتے جاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ نائی دو لہما کے عطر ملا کرتا ہے، ساری شبیشی ختم کر دی اور شام کی گاڑی سے دہلی پہنچ گئے، ایک غلط فہمی سے شب کو مسجد عبدالرب میں قیام ہوا اور اگلے روز جمعہ کو علی الصباح نظام الدین تشریف لے گئے اور بعد نماز جمعہ اس سے کار کا نکاح بھر فاطمی پڑھا۔ زکریا نے عرض کیا کہ مہرفاطمی مجمل ہے اور مختلف فیہ بھی ہے، سکر راجح الوقت سے اس کی تعین فرمائی جائے۔ حضرت نے نہایت تمسم سے اور زور سے فرمایا کہ ”دو لہما شرما یا کرتے ہیں چپ رہو۔“ میں نے عرض کیا کہ دین میں حیاء جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پانچ سو درہم۔ میں نے کہا کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے۔ سکر راجح الوقت بتائیے، فرمایا کہ تقریباً ایک سو تین تیس (۱۳۳) روپے ہوتے ہیں۔ زکریا کے اس مناظرہ کو خواجہ حسن نظامی مرحوم نے اپنے کسی رسالہ میں جو اس وقت لکھتا تھا تفصیل سے لکھا ہے۔

حضرت مدنی قدس سرہ تو اسی وقت شام کو ۵ بجے واپس تشریف لے آئے اور ان ہی کے ساتھ حضرت میرٹھی بھی واپس تشریف لے آئے۔ حضرت مدنی قدس سرہ کو دہلی کے اٹیشیش پر چھ ماہ تک

دہلی میں عدم داخلہ کا نوٹس دیا گیا اور زکریا مع اہلیہ یعنی والدہ طلحہ اور حضرت رائے پوری مع خدام و عزیزان یوسف و انعام بارہ فرات اتوار کی صحیح کوہ بجے کی گاڑی سے چل کر سماڑھ آٹھ بجے سہار پنور پہنچے اور ہم سب کا کراچی حضرت اقدس رائے پوری نے دیا اور حضرت نے اپنی طرف سے زکریا کے ولیمہ کا اعلان فرمایا، جس کو راوی یعقوب علی خاں نے عملی جامہ پہنایا اور حضرت میرٹھی بلا طلب ۹ بجے کی گاڑی سے ولیمہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ زکریا نے درخواست کی تھی کہ ولیمہ میں شرکت نہ فرمائیں۔

### مولوی یوسف کا عقد ثانی اور حکیم الیاس کا نکاح:

(۹)، (۱۰)..... عزیزم مولانا یوسف مرحوم نور اللہ مرقدہ کا عقد ثانی ہے۔ جب مولا نا مرحوم کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہوا یعنی والدہ ہارون کا، تو میں نے مرحوم کو شدت سے انکار کر دیا تھا کہ تم دوسرے نکاح کا ہرگز ارادہ نہ کرو، مشاغل کا بیجوم ہے تمہیں فرصت بالکل نہیں، نیز میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے باوجود اگر تمہارا ارادہ ہو تو تم جہاں تجویز کرو دہلی یا کانندھلہ میں اس کے لیے تکمیل و تحریک کے لیے تیار ہوں۔ عزیزم مرحوم نے یوں کہا کہ ”آپ کا مشورہ تو مناسب ہے لیکن اگر کسی وقت نکاح کا خیال ہوا تو کروں گا آپ ہی کی لڑکیوں میں سے کسی سے اور کسی جگہ کرنے کا ارادہ نہیں۔“ میں نے خاندان کی کئی لڑکیوں کا نام لیا، جن کے متعلق والدہ ہارون کے انتقال کے بعد عزیزم مولانا یوسف مرحوم کے لیے میرے پاس بہت سی جگہ سے سفارشات اور تقاضے آئے تھے۔ عزیزم مرحوم نے کہہ دیا کہ اگر کرتا ہے تو آپ کے یہاں اور کہیں کرنا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عزیزم مرحوم نے کہا کہ نکاح کی ضرورت ہے اور کرتا آپ ہی کے یہاں ہے۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ میرے پاس اس وقت دو لڑکیاں ہیں۔ ایک بیوہ اور ایک کنوواری۔ بیوہ عزیزم مولوی سعید الرحمن کی بیوی تھی جس کا اوپر ذکر آیا۔ عزیزم مرحوم نے کہا۔ میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ میں نے پھر اصرار سے کہا نہیں جس میں تمہیں ذرا بھی ترجیح ہو میں اس کے لیے تیار ہوں اور اگر واقعی تمہارے نزدیک دونوں برابر ہیں تو میرے نزدیک بیوہ کو ترجیح ہے، اس لیے کہ وہ غزدہ ہے، شادی کے بعد جلدی ہی اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم نے یوں کہا کہ بہت مناسب ہے۔

نیز حکیم ایوب صاحب کے صاحبزادے حکیم الیاس کے متعلق حکیم ایوب صاحب مجھ سے کئی دفعہ کہہ چکے تھے، میں ہر دفعہ میں یہ کہتا تھا کہ تمہارے سب بچوں میں حکیم الیاس سے جتنی مجھے محبت ہے اتنی کسی سے نہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکیم الیاس کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزاً خیر دے ان کو بچپن سے مجھ سے بہت محبت تھی۔ جب شادی کا ذکر مذکورہ بھی نہیں تھا اور میری دہلی کی آمد و

رفت بہت کثرت سے تھی تو حکیم الیاس اللہ بہت ان کو جزاۓ خیر عطا فرمائے دن اور رات میں محض اطلاع پر اشیش جاتا تھا، حالانکہ میں نے کئی بار منع بھی کیا کہ محض اطلاع پر نہ آیا کرو۔ مولانا یوسف صاحب کا تو طے ہو ہی چکا تھا، ان کی نظام الدین سے آمد کا میں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، مگر اتفاق سے حضرت القدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سہار پور تشریف فرماتھے اور اسی وقت لکھنؤ تشریف لے جا رہے تھے، مولوی یوسف کی آمد پر حضرت قدس سرہ نے نکاح میں شرکت کی خواہش بھی طاہر کی اور یہ بھی کہا کہ لکھنؤ اطلاع کر چکا ہوں اسی وقت جانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بیباں کی تقریبات کوئی ایسی موقعت نہیں ہوتیں، آپ کی واپسی پر دیکھا جائے گا۔ عزیز یوسف چلا گیا۔ حضرت رائے پوری قدس سرہ کی لکھنؤ سے واپسی پر جس کی اطلاع عزیز مولوی یوسف کو نظام الدین میں ہو گئی تھی وہ بھی آگئے۔ میں نے حکیم ایوب صاحب سے دو پھر کے کھانے کے بعد کہلوایا کہ عزیز یوسف کا نکاح عصر کے بعد پڑھوانے کا خیال ہے اور حکیم الیاس کے متعلق تم بہت دفعہ کہہ چکے ہو، اب تو میں نے بھی ارادہ کر ہی لیا۔ عزیز الیاس سے کہہ دیں کہ عصر کی تماز مدرس قدیم میں پڑھے۔ تمہیں اپنا اختیار ہے اور کسی کو اطلاع نہ کریں۔ مگر نہیں معلوم حکیم ایوب کے بڑے بھائی حکیم یا میں صاحب کو کسی طرح خبر ہو گئی کہ وہ مجھے سے مخفی اس وقت ایک کار لے کر دیوبند پہنچ گئے اور حضرت مدینی قدس سرہ سے کہا کہ شیخ الحدیث صاحب کی دو لڑکوں کا نکاح عصر کے بعد ہو رہا ہے، اس نے تو نہیں بھیجا لیکن ان میں سے ایک کا میرے بھیجے کے ساتھ ہے، میری درخواست ہے کہ حضرت تشریف لے چلیں۔ حضرت قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ الحدیث صاحب کی لڑکوں کے نکاح کے لیے طلب کی ضرورت نہیں اور حضرت قدس سرہ کو اس وقت بخار بھی بڑا شدید تھا اور قاری اصغر صاحب مر جوم نے حکیم یا میں صاحب پر بہت عتاب بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنے جذبات میں حضرت کی راحت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے مگر حضرت قدس سرہ نے فرمایا "میں ضرور جاؤں گا۔" شدید بخار میں ۱۹ اربیع الثاني ۲۹ھ چہار شنبہ کو تشریف لائے اور نکاح دونوں کا پڑھا کر اسی وقت اسی کار میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں کے ساتھ مولوی نصیر الدین کی سب سے بڑی لڑکی زبیدہ مرحومہ کا بھی حضرت نے نکاح پڑھایا۔ مولوی نصیر الدین نے سو (۱۰۰) روپے کا نوٹ بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ حضرت نے گھور اور شدت سے انکار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور لے لیجئے۔ میں نے نصیر کے ہاتھ میں سے لے کر حضرت کی جیب میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ بڑے موزی کامال ہے ضرور قبول فرمائیں۔ اس پر حضرت نہیں پڑے۔

عزیز مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو دوسرے ہی دن اپنی اہلیہ کو نظام الدین لے کر

چلے گئے، والدہ طلحہ، والدہ سلیمان بھی ساتھ گئیں اور عزیز مولوی نصیر الدین کی لڑکی زبیدہ مرحومہ کی رخصتی ۲۷ شعبان ہوتی۔

عزیز حکیم الیاس کے نکاح سے ایک ماہ بعد ۸ جمادی الاول یکشنبہ کو میں نے عشاء کے بعد جب سب سونے کے واسطے لیٹ گئے، اپنی بچیوں سے کہا کہ ”الیاس کی گھر والی کو چائے والے پا دینا۔“ میرا خیال یہ ہے کہ اذان پر میں خود پہنچا دوں گا۔ اور حکیم ایوب صاحب کے پاس آدمی بھیجا، وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، اس لیے کہ سردی کا زمانہ تھا، گیارہ نجح چکے تھے، میں نے مولوی عبدالجید مرحوم کے ہاتھ کھلا بھیجا کہ ”اذان کے وقت میں مولوی الیاس کی گھر والی کو لے کر آؤں گا گھر والوں سے کہہ دو کہ اذان کے وقت کوئی زنجیر کھٹکھٹائے تو نام پوچھ کر دروازہ کھول دیں، کبھی مجھے دق ہونا پڑے۔“ حکیم جی کا جواب آیا کہ مجھے تو انکار نہیں مگر تجھے اس وقت وقت ہو گی اگر اجازت دے تو میں اور الیاس ایک رکشہ لے کر اس کو لے آئیں اور کسی کو خبر نہ ہو گی۔“ چنانچہ دو شنبہ کی صبح کو اذان کے بعد حکیم جی اور الیاس ایک رکشہ لے کر آگئے اور عزیزہ کو مع ایک دو عزیزوں کے جو یہاں موجود تھے لے کر چلے گئے۔ خود ان کے گھر والوں کو بھی صبح کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ یہاں گھر میں آگئی۔ میرے ایک مخلص دوست حاجی نور الہی عرف شیخ بدھو پندرہ میں دن سے روزانہ دریافت کرتے تھے کہ میرے گھر والے بہت اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے گھر والوں کو ضرور خبر کر دیں کسی کو کریں یا نہ کریں۔ مرحوم اس زمانے میں صبح کی چائے میرے ساتھ پیا کرتے تھے۔ میں نے صبح کی چائے میں ان سے کہہ دیا کہ ”وہ تو چلی گئی، پہلے سے کہنے کا موقع نہ ہوا۔“ مرحوم کو بڑا اتفاق ہوا، اپنے گھر جا کر کہا کہ وہ جالی اب تم شور مچاتی رہو۔

(۱۱).....اب تک ساری شادیاں میری پہلی اہلیہ مرحومہ کی اولاد کی ہوئیں دوسری اہلیہ کی دو لڑکیاں اور ایک لڑکا عزیز طلحہ ہے۔ دونوں بچیوں میں سے بڑی کے متعلق حکیم ایوب صاحب نے عزیز مولوی عاقل کے متعلق کئی دفعہ تحریک کی اور میں نے وہی جواب دیا جو پہچا جان نے عزیز یوسف کی ہمشیرہ کے متعلق مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہارے قابل نہیں ہیں، یہی میں نے حکیم ایوب سے دہرا�ا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے سفارش اور میرے ذریعہ سے اپنی بہن کا پیام عاقل کے لیے دیا، میں نے حکیم ایوب صاحب سے پیام بھی پہنچایا اور سفارش بھی زور سے کی۔ حکیم ایوب صاحب نے کہا کہ جب تک آپ کی اس بچی کا کہیں نکاح نہ ہو گا میں عزیز عاقل کا کہیں نکاح نہیں کروں گا، جب آپ کی بچی کا کہیں ہو جائے گا تو میں اس کے لیے بھی تلاش کرلوں گا۔

### عزیزانہارون طلحہ و عاقل کا نکاح:

عزیز مولوی یوسف مرحوم کا عمرہ پر جانے کا خیال ہوا، انہوں نے مجھے لکھا کہ ”عمرہ پر جانا ہے، خیال یہ ہے کہ جانے سے پہلے عزیزانہارون طلحہ کا نکاح ہو جائے۔“ میں نے لکھ دیا جب چاہو آجائو اور چونکہ حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی طبیعت ناساز تھی اس لیے یہ تجویز ہوا کہ عزیز یوسف مرحوم کی گاڑی میں ہم سب رائے پور چلے جائیں، وہیں ان دونوں کا نکاح پڑھادیا جائے۔ ظہر کی نماز میں حکیم جی کی مسجد میں میں نے حکیم ایوب صاحب سے کہا کہ عزیزانہارون و طلحہ کے نکاح کی تجویز ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اس وقت رائے پور جا رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ عزیز عاقل کو بھی ساتھ لیتے جائیں۔ جب آپ کا اصرار ہے تو اس کو بھی پڑھوادیں۔ ہم لوگ تو اسی وقت عصر سے پہلے جا رہے ہیں، خیال یہ ہے کہ عزیز عاقل کو بھی ساتھ لیتے جائیں، تمہیں تورات کے قیام میں وہاں وقت ہو گی، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تم تکلیف کر کے کیا کرو گے، تاہم اگر تمہارا آنے کا ارادہ ہو تو صبح کو میر صاحب کی گاڑی سے آجانا اور عزیزی عاقل کو تم اپنے ساتھ لے آنا اور بجائے شام کے صبح ۹ بجے نکاح پڑھادیں گے۔ چنانچہ حکیم جی صبح کو مع عزیز عاقل، عزیز اسرائیل پہنچ گئے اور ۹ بجے حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی موجودگی میں حضرت ہی کے جھرہ میں عزیز مولوی یوسف مرحوم نے تینوں کا نکاح پڑھ دیا، لیکن عزیزانہارون کے خر مولوی اظہار صاحب نے اصرار کیا کہ ان کی خوشداں وغیرہ سب کا مہر پانچ ہزار ہے اور عزیز طلحہ کے خر صوفی افتخار صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کا مہر مثل ڈھائی ہزار ہے، میں نے کہا کہ بھائی میری بچیوں کا مہر مثل تو حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ ”مہر فاطمی“ تجویز کر گئے ہیں، لہذا یہک مجلس تین نکاح مہروں پر ہوئے۔ حکیم ایوب صاحب تو اسی وقت واپس آگئے۔ عزیز عاقل کو میں نے اپنے ساتھ آنے کے لیے روک لیا۔ اگلے دن ہم سب ساتھ واپس ہوئے۔

۱۸ ذی الحجه ۸۰ھ کو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ عبد العزیز دہلوی کی کار میں بارون گی اہلیہ کو خصتی کر کے نظام الدین لے گئے اور عزیز طلحہ کی خصتی ۸۳ھ میں ہوئی، جب کہ ہم لوگوں کا سفر ج ٹے ہو گیا تھا، اس ناکارہ نے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھ دیا کہ ”جب تم سہار پور آؤ تو راستے سے اہلیہ عزیز طلحہ کو لیتے آنا۔“ عزیزانہارون یوسف و انعام ۸ شوال بروز شنبہ حاجی شقیع کی کار میں عزیز طلحہ کی اہلیہ کو لانے کے واسطے کا نہ حلہ اترے۔ حاجی غلام رسول صاحب کلکتہ کے پندرہ بیس نفر پنڈوہ کے تبلیغی اجتماع کی تاریخ لینے کے واسطے اسی دن دہلی پہنچنے والے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ مولانا یوسف صاحب اس تاریخ میں سہار پور ہوں گے تو سیدھے

سہار پور پہنچ گئے اور جب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ مولانا یوسف صاحب کا ندھلہ میں ہیں تو صابری صاحب کی کار میں کا ندھلہ چلے گئے۔

چند ماہ بعد ۱۸۸۷ء بروز چہارشنبہ عزیز مولوی یوسف مرحوم سہار پور کے قریب سیکری کے تبلیغی اجتماع میں جانے کے لیے رائے پور ہوتے ہوئے سہار پور پہنچ۔ حکیم ایوب صاحب نے کہا کہ اگر آپ عاقل کی اہلیہ کو آج بھیج دیں تو مولوی یوسف صاحب کو کل عاقل کے ولیمہ میں شرکت کر کے جائیں گے۔ میں نے کہا کچھ مصالحتہ نہیں۔ میں نے موادی یوسف مرحوم سے کہا کہ حکیم جی کل کو سیکری سے واپسی پر تمہیں عزیز عاقل کے ولیمہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے کسی کام کا حرج کرنا نہیں، البتہ وہاں والوں سے یہ ضرور کہہ دیں کہ کل کو ایک ولیمہ کی شرکت کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اطمینان سے جب تمہیں فراغت ہو آ جانا، میں تو تمہارا انتظار کروں گا اور جس کا بھی چاہے تمہارا انتظار کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ مولانا یوسف صاحب مرحوم دوسرے دن پنجشنبہ ۱۲ ارجب کو عصر کی اذان کے قریب آئے، اسی وقت ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔

اس سے پہلے چہارشنبہ کے دن عصر کے بعد حکیم ایوب صاحب آئے، ان کا ہمیشہ کا معمول عصر کے بعد آنے کا تھا، مگر وہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے لیکن اس دن وہ بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ ورنہ اڑ جاؤ، وہ تو چلے گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد عزیز عاقل آیا، اس سے میں نے اور بھی زیادہ تفریح کا فقرہ کہا جو شائع کرنے کے قابل نہیں، زبانی تو کہہ دیا۔

جب میں مغرب کی نماز کو جارہا تھا میں نے عزیزان ہارون، طلحہ سے کہا کہ مجھے تو مغرب کے بعد دیگتی ہے تم مغرب کی نماز پڑھتے ہی ڈولی میں اپنی بہن کو حکیم جی کے یہاں پہنچا دینا۔ مغرب کے بعد محلہ کے ایک مخلص دوست نے یہ کہا بھی کہ میں چپکے سے ڈولہ اٹھالا تو محلہ میں موجود ہے مگر عزیزان ہارون و طلحہ وغیرہ نے کہا کہ شیخ ابا کو گرانی ہو گی، اس لیے یہ دونوں عزیز عاقل کی اہلیہ کو میرے مسجد سے آنے سے پہلے وہاں پہنچا کر آئے۔ اگلے دن ۱۲ ارجب ۱۸۸۷ء بروز جمعرات حکیم جی نے مختصر ولیمہ کر دیا، مگر میں نے اور حکیم جی نے عزیز یوسف مرحوم کے انتظار میں عزیز موصوف کی واپسی پر عصر کے وقت کھانا کھایا۔

### عزیز سلمان کا نکاح:

(۱۲)..... میری سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح، جو دوسری اہلیہ کی دوسری بیٹی ہے، میری ہمیشہ مرحومہ کے نواسے عزیز مولوی سلمان سلمہ سے ہوا۔ خاندانی حیثیت سے اس کی منگنی تو بہت ابتداء ہی میں ہو چکی تھی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ شاید بیٹی کے پیدا ہونے پر ہو چکی تھی اور مجھے یہ بھی یاد نہیں

کہ مجھ سے کسی نے پوچھا بھی ہے، اس لیے کہ یہ تو خاندان کے قانون "افرب ذکر غیر محرم" میں داخل تھا۔ مولوی انعام الحسن کی آمد پر ۲۷ یقuded ۸۶ھ مطابق ۱۳ فروری ۱۹۶۷ء بعد عصر مسجد قدیم میں زکریا نے اعلان کر دیا کہ ایک نکاح ہے، سب حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اب تو اس ناکارہ کے لیے یہ کوئی چیز قابلِ اتفاق نہ رہی تھی۔ مولوی انعام الحسن سلمہ نے مہر فاطمی پر عصر کے بعد نکاح پڑھ دیا اور مغرب کی نماز کے بعد جب کہ یہ ناکارہ مسجد میں تھا، عزیز طلحہ و ہارون بابو جی کی کار میں حکیم جی کے ہاں پہنچا بھی آئے۔ عزیز مولوی انعام منگل کی دو پھر کو ولیمہ کھانے کے بعد کا ندھلہ ہوتے ہوئے نظام الدین گئے۔

(۱۳)، (۱۴)..... میری لڑکیاں تو نمٹ گئیں، اب نواسوں کا نمبر شروع ہوا، اگرچہ ایک نواسہ عزیز ہارون کا نمبر ۱۱ کے تحت گزر چکا۔

### عزیزان شاہد وزیر کا نکاح:

شوال ۸۸ھ میں عزیزان مولوی انعام، ہارون وغیرہ کا تو تبلیغی قانون کے موافق کہ ہر قیسے سال حج کو جانا ہے، سفر حج متعین تھا اور اس ناکارہ کے حج کا مسئلہ ہمیشہ ہی یہم و رجاء میں رہتا ہے۔ اللہ کا لطف و احسان، فضل و کرم اور اور جریں کے اعزہ و احباب کا اصرار ہمیشہ حاضری پر زور دیتا رہتا ہے اور میری بد اعمالیاں، سینات مانع بنتی رہتی ہیں، اس وقت بھی میرے حج کا مسئلہ یہم و رجاء میں تھا۔ عزیز مولوی انعام نے مجھے دہلی سے لکھا کہ اگر آپ کا ارادہ سفر حجاز کو ہو گیا ہو تو عزیز ان زیر، شاہد کا نکاح پڑھاتے آئیں، میری شرکت کی وجہ سے تاخیر نہ کریں، آپ کی شرکت میری شرکت کا لغم البدل ہے۔ لیکن اس وقت تک اس سیدہ کا سفر پختہ نہ ہو سکا تھا اور بعد میں خود مولانا انعام الحسن صاحب نے نظام الدین کی بعض ضروریات کی بناء پر میرا سفر ملتوی فرمادیا تھا اور علی میاں بھی میرے سفر کے التواء میں اور یہاں کی ضروریات میں مولانا انعام الحسن صاحب کے ہمتو تھے۔ اس ناکارہ کا سفر ملتوی ہو گیا تو مولانا انعام الحسن صاحب الوداع کے لیے تشریف لائے، ان کی آمد پر حکیم ایوب صاحب کی رائے ہوئی۔ داو الطیبہ جدید کے دارالحدیث کا افتتاح بھی اس وقت ہو جائے۔ چنانچہ ۲۵ شوال ۸۸ھ یوم چہارشنبہ کی صبح کو اول اس سیدہ کا رنے بخاری شریف کا سبق شروع کرایا، جس کی تجویز تو پہلے سے مولانا یوسف صاحب کے متعلق ہو چکی تھی مگر ان کا بھی اصرار تھا کہ بسم اللہ یہ ناکارہ کرتا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بسم اللہ کے بعد عزیز مولوی انعام سلمہ نے دونوں نواسوں کا نکاح دونوں نواسیوں کی بہنوں سے "مہر فاطمی" پر پڑھ دیا۔ خیال تو یہ تھا کہ رخصت بھی اسی وقت کرادیں، مگر دونوں طلب علم میں مشغول تھے، مولوی انعام صاحب

کا ہوا کہ مبادر خصتی تعلیم میں حارج ہو۔ میں نے تو کہا بھی کہ تمہارا اور عزیز یوسف مرحوم کا تو طالب علمی میں نکاح ہوا اور طالب علمی ہی کے زمانے میں خصتی ہوتی تھی۔ مگر عزیز مولوی انعام الحسن سلمہ نے یوں کہا کہ دور بدلتا گیا اور صحیح کہا۔

نکاح کی عجلت بھی ان عزیزوں اور دوستوں کو اس خیال سے تھی کہ اس ناکارہ کی امراض کی کثرت ادا اور راعذار کی وجہ سے جاز سے وابسی کی نوبت نہ آئے۔ شادیاں تو اللہ کے لطف و کرم سے، اس کے فضل و احسان سے ساری ایسی سہولت اور آسانی کے ساتھ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کو بھی نصیب فرمائے، جہیز کا قصہ کسی کے ساتھ پیدا نہ ہوا۔

حکیم الیاس سلمہ کو میں نے شادی کے بہت دنوں بعد کہا تھا کہ ہمارے یہاں پیالے بہت جلدی گم ہو جاتے ہیں اور مہماںوں کے لیے اکثر ضرورت ہوتی ہے، بار بار منگاتا ہوں، پھر کھوئے جاتے ہیں۔ تو جہیز کے نام سے پندرہ بیس خرید کر اپنے گھر رکھ لے، وہ ملک تو تیری اہلیہ کی ہے اور کام میرے مہماںوں کے آئیں گے۔ چنانچہ عزیز موصوف کے یہاں وہ پیالے اس کی شادی کے بعد سے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت معمولی قسم کے، جو اس سے زیادہ میرے کام آتے ہیں۔ اکثر مہماںوں کے موقع پر عزیز موصوف کھانے کے وقت تو ہوتا ہی ہے جب پیالوں میں کھانے کی کوئی چیز کہیں سے آ جاتی ہے تو عزیز موصوف خود ہی پیالے لے آتا ہے اور لے جاتا ہے یا میں آدمی بھیج دیتا ہوں۔

البتہ جہیز کے سلسلے میں ایک نہایت قابل فخر چیز میری سب بچیوں کے لیے یہ ہے کہ ان سب کے جہیز کے لحاف بچھونا میں نے ضرور دیا اور بہت عمدہ دیا، لیکن یہ بھی اللہ کا ایک احسان ابتداء اور حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ کا احسان عظیم ثانیاً جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت قدس سرہ ہر سال یا دوسرے سال ایک نہایت ہی نیس اعلیٰ قسم کا لحاف، بچھونا اس ناکارہ کو مرحمت فرماتے تھے اور حضرت کا اصرار شدید ہوتا تھا کہ میں اس کو استعمال کروں، مگر چونکہ وہ اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا میرے استعمال کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو نہایت مضبوط رہی سے ترپال میں باندھ کر اپنے کمرے کے سامنے لٹکا دیتا تھا اور جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس وقت تو نہیں، اس سے ایک دو ماہ پہلے یا اس کے ایک دو ماہ بعد اس کے حوالے کرتا تھا، یہ بھی ایک عجیب قدرت کا کر شمہ ہے۔ حضرت رائے پوری قدس سرہ نے اپنی طالب علمی کے قصے بہت ہی سنائے۔ نیز اپنی رائے پور کی ابتدائی حاضری کا بھی۔

حضرت قدس سرہ نے کئی مرتبہ یہ قصہ بھی سنایا۔ شاید یہ قصہ میری کسی تحریر میں آچکا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک سال سردی کا ایسا گزر را کہ سردی سے بچاؤ کا کوئی کپڑا لحاف، بچھونا، کملی،

رضائی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ کسی سے اظہار کی غیرت نے اجازت نہ دی، مغرب کے بعد سے کتاب لے کر جس مسجد کے اندر قیام تھا اس کے حمام کے سامنے بیٹھ جاتا، لوگ سمجھتے کہ بعض آدمیوں کو آگ سے سینکنے کا مرض ہوتا ہے۔ اس کو بھی سینکنے کا شوق ہے جب سب نمازی چلے جاتے، مسجد کا کواڑ لگا کر مسجد کے کونے میں صفائی پر لیٹ کر اور صفائی کو ہاتھ سے کپڑا کروٹیں لیتا ہوا دوسرے کونے پر چلا جاتا۔ وہ صفائی مجھ سے لپٹ جاتی، وہی اوڑھنا تھا اور وہی بچھونا تھا۔ سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے رات بھر خوب ہوا آتی۔ جب اخیر شب ہوتی تو اسی صفائی کے کروٹیں بدلتے بدلتے دوسری طرف آ جاتا، صفائی بچھ جاتی۔ حضرت نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت وہ سردی تو گزر گئی۔ لیکن اس کے بعد سے کوئی سردی ایسی نہیں گزری جس میں ایک عمدہ لحاف، بچھونا اللہ کی طرف سے عطا نہ ہوا ہو۔ یہی وہ لحاف بچھونے تھے جو اکثر اس سے کارکوم رحمت فرمادیتے، زیادہ خوبصورت ہوتا تو اس سے کارکوم رحمت فرمادیتے، کم درجہ کا ہوتا تو کسی اور کو یا اپنے استعمال میں ضرورت ہوتی تو لے آتے، یہ چونکہ بہت عمدہ محمل کا یا اطلس کا ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو احتیاط سے رکھوادیتا۔ میری سب سے چھوٹی بھی تک بڑی دوڑکیوں سے لے کر حضرت قدس سرہ کے لحاف بچھونے جہیز کے نام سے دیے گئے۔

جہیز میں بقدر ضرورت برتوں کے دینے میں تو خلاف نہیں اگر واقعی ضرورت ہو اور زیور کا دینا پسندیدہ بشرطیکہ ایسا ہو کہ اس میں مالیت تو زیادہ ہو اور گھر ایسی بہت کم ہو، تاکہ ضرورت کے وقت بچھوں کے کام آسکے اور اپنی بہت کے موافق ضرور دیا جائے۔

### زیور ضرور دیا جائے، کپڑوں کی مخالفت:

ابتدہ جہیز بری کے کپڑوں کا بہت مخالف ہوں کہ وہ عمدہ عمدہ قیمتی جوڑے اس قابل تو ہوتے نہیں کہ گھر میں پہن لیے جائیں، صندقوں کی زینت ہو کر گلتے ہیں یا خدا نخواست موت کا حادثہ پیش آجائے تو مدرس میں داخل ہو کر معمولی داموں میں نیلام ہوتے ہیں۔ اگر ایک دو جوڑا اگر قیمتی بھی بنالیا جائے تب بھی کچھ محسناً لقہ نہیں کہ وہ کہیں جانے آنے میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے قیمتی جوڑے اسرا ف اور اضاعت مال کے سوا کچھ نہیں۔ اس سلسلے کے درمیان آپ بیتی نمبر اصفہان نمبر ۲۲ (بالکل شروع کے واقعات میں واقع نمبر ۹ کے آخر میں ہے) پر بھی کچھ لکھ چکا ہوں۔ اس سے اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ بہت کچھ لکھنے کو جی چاہتا ہے۔

میرے بچپن میں ایک چیز ”سر اسری“ کے نام سے مشہور تھی۔ وہ اس قدر لغو چیز تھی کہ حد نہیں۔

ایک اوڑھنے کی چادر ہوتی تھی جس پر مختلف قسم کے موٹی چھوٹے چھوٹے بھی اور بادام کے برابر بڑے بڑے بھی اور اس سے بڑے بھی جیسے نادیہ بیل کے اوپر کوڑیوں والی چادر ہوتی ہے، اتنے جھے رہتے تھے کہ لا تَعْدُ وَ لَا تَحْصِي اور درمیان میں گوشہ کی اور گھوکھروکی انواع اتنی زیادہ کہ کپڑا کسی جگہ سے نظر نہیں آتا تھا اور عروس کے لیے یہ ایک عذاب عظیم تھا۔ اس لیے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کا وزن ایک دھڑی سے کسی حال کم نہ تھا، پنجی پر جب اوڑھا یا جاتا تھا تو وہ غریب پسینہ پسینہ ہو کر سارے کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ سراسری پانچ چھوٹے دن کے لیے مانگ لی جاتی۔ وہ تو ایک مصیبت تھی لیکن اس کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ یہ خیال رہا کہ، اگر ایک عمدہ لباس فاخرہ خاندان میں بنائے کر رکھ لیا جائے اور جہاں کہیں شادی ہو وہ آٹھ دس دن کے لیے مانگ کر دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ حدیث پاک سے بھی یہ چیز مستحب ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں درمیان میں ”باب استعارۃ الشیاب للعروس وغیرها“ ایک مستقل باب باندھ کر میرے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ شادی میں اگر دہن کے لیے کوئی کپڑا اور غیرہ مانگ لیا جائے تو کوئی مضاائقہ نہیں ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں اپنی بہن کا ہار مانگ کر لے جانا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ واضح دوسرا باب کتاب الہبہ میں باندھا ”باب الاستعارۃ للعروس عند البناء“ (دہن کے واسطے حصتی کے وقت کپڑے کا مانگ لینا) اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قصہ نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ”میری اس لوڈیا کو دیکھو یہ اس کرتے کو اپنے گھر کے اندر پہنچنے سے بھی انکار کرتی ہے، (یوں کہتی ہے کہ میں نہیں پہنچتی، یعنی ناک چڑھاتی ہے۔) حالانکہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی قسم کا ایک کرتہ تھا، مدینہ میں جب کسی عورت کی شادی ہوتی میرے پاس آدمی آتا کہ دو چار دن کو اپنا کرتہ دے دو۔ فقط ..... میں نے جب یہ حدیث بخاری شریف میں پڑھی تھی اس وقت سے بڑا ہی لطف آ رہا ہے۔


اگر ایک مشترک لباس نہ ہو تو کم از کم شادی کے وقت اپنی گھر کی شادی شدہ بہنیں اپنی بہن کو نئی شادی کے لیے ایک نیا کرتہ چند روز مانگا دے دیں تو کیا اشکال ہے؟ اسی طرح سے زیور بھی۔

زیور سے تو مجھے سابقہ پڑا ہے کہ جس لڑکی کی خصیٰ فوری طور پر ہوئی ذرا سا اشارہ اس کی بہنوں کی طرف کر دیا اور انہوں نے میرے اشارے سے بھی آگے بڑھ کر اپنا اپنا زیور پہنا دیا اور مہینوں خبر نہ لی۔ جب اس کا بن گیا واپس لے لیا۔ اگر آپس کے تعلقات اچھے ہوں، محبت ہو، اخلاص ہو، ساری چیزیں آسان ہیں۔ شادی تو خوب آسان ہے، جس کو آج کل لوگوں نے بہت ہی مصیبت عظمی بنا دیا۔

### شادی کی دعوت سے نفرت:

اور جہیز بردی سے زیادہ شادیوں کی دعوت سے بھی مجھے نفرت ہے۔ اس ناکارہ کے یہاں دیکھنے والوں کو سب ہی کو معلوم ہے کہ مہمانوں کا ہجوم بعض اوقات دوسوڑھائی سوتک ضرور پہنچ جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو دس بارہ دیگوں کی نوبت بھی پکنے کی آئی۔ لیکن شادیوں کی مد میں ایک دفعہ بھی مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایک دیگر پکوائی ہو۔

اور شادیوں کی دعوت میں ایک مصیبت عظمی یہ ہے کہ اگر ایک کو بلا یا تو دوسرا خفا ہو جائے گا اور اس کو بلا یا تو پھر تیسرا خفا ہو جائے گا۔ کہیں تو مجبوری کی وجہ سے نام بڑھتے ہیں اور کہیں ناموری کی وجہ سے اور جو شروع ہی میں ناک کٹوالے جو واقع میں تو کٹے گی نہیں تو پھر نہ تو قرض لینا پڑے اور نہ سود دینا پڑے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ تم نے دعوت نہ کر کے اپنی ناک کٹوالی، تو اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میری تو کٹی نہیں۔



# آپ یعنی نبیر

یا

# یادِ یادِ نبیر

جس میں

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا مہاجر مدینی قدس سرہ  
کے تحدیث بالنعمۃ کے طور بعض اہم واقعات حضرت  
گنگوہیؒ و دیگرا کا برمشائخ کی خصوصی شفقتیں ججاز مقدس  
کے اسفار ۱۳۸۹ھ تک کے حالات اور اس دوران کے

حوال کی تفصیل مذکور ہے

ناشر

مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی نمبر ۲ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ط

جیسا کہ آپ میتی نمبر ۳ کی ابتداء میں گزر چکا کہ اس کے ہر حصہ میں دو باب تجویز ہیں، اس کے پہلے باب میں تحدیث بالنعمۃ کے طور پر اکابر کی شفقوتوں کا مختصر حال، حضرت گنگوہی، حضرت سہارنپوری، حضرت اقدس رائپوری شاہ عبدالرحیم صاحب، حکیم الامت حضرت تھانوی، حضرت شیخ الاسلام مدنی، حضرت اقدس شاہ عبدالقدار صاحب رائپوری، والد صاحب اور پچاجان نوراللہ مراد قدم کے بھی چند واقعات آگئے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے حالات کے لیے تو بڑا ففتر چاہیے۔

اور دوسرا باب میں اس سیہ کار کے جماز مقدس کے اسفار کی تفاصیل، سفر کا زمانہ، ابتداء اور انہا اور دوران سفر کے چند واقعات جو تحدیث بالنعمۃ سے تعلق رکھتے ہیں درج کیے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان واقعات کو دوستوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنادے کسی فتنہ کا سبب نہ بنائے۔

محمد زکریا کاندھلوی

۲ جمادی الثانی ۱۴۹۱ھ

## باب پنجم

### التحدیث بالنعمہ

**”أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثٌ“**

**پہلا دور قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ:**

اپنے ابتدائی دور کے بہت سے حالات اور اللہ جل شانہ کے انعامات و احسانات کا کچھ بیان باب دوم کی ابتداء میں گزر چکا، پہلے یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ ناکارہ ڈھانی برس کی عمر میں کاندھلے سے گنگوہ گیا اور حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کا دور تھا اور حضرت قدس سرہ کی اس ناکارہ کے والد پر بہت ہی توجہ اور خصوصی نظر تھی خادم خاص اور کاتب خطوط اور شریک مجرہ تھے، اس لیے حضرت کے خدام میں ہر شخص انتہائی شفقت سے پیش آتا، خانقاہ سے باہر ایک منٹھانی کی دکان تھی، ابواس دو کاندار کا نام تھا، اس نے گویا بیٹا بنار کھا تھا۔ جب میں مولانا سید احمد صاحب کی گردان پر سوار ادھر کو گزرتا وہ بیٹا بیٹا کہہ کر اپنی دکان سے بھاگتا اور دو تین منٹھانی کی ڈلیاں میرے ہاتھ پر رکھتا، میرے ہاتھ سے تو وہ سنبھلتی بھی نہ تھیں۔ حضرت مولانا سید احمد صاحب قدس سرہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اپنے موئڑھے کے اوپر کو چلتے چلتے مجھے کھلا بھی دیتے۔ گنگوہ میں ہر ہفتہ پینٹھ لکھتی تھی جواب بھی لگتی ہے۔ اس میں دور دور کے دکاندار حضرت قدس سرہ کی زیارت کے اشتیاق میں اپنی اپنی دکانیں لے کر آیا کرتے تھے۔ بڑوت کے ایک مخلص حضرت گنگوہی کے جان شار خادم حاجی مولا بخش ان کی جوتوں کی دکان تھی۔ ہر ہفتہ تشریف لاتے اور بہت اصرار کرتے کہ مجھے ایک جوڑا جوتے کا دے جائیں اور جب پہلا جوتا صحیح و سالم ہوتا تو ابا جان انکار فرمادیا کرتے تھے۔ اس مجبوری کو مجھے اگلے ہفتے اس کو چاقو سے کاشا پڑتا تھا اور پانی میں بھگونا پڑتا تھا۔

اس سید کا رنے مشائخ کے پانچ دور دیکھے اور ہر دور کے اکابر و مشائخ اس سید کا رکنی ناپاکی اور گندگی کو ملاحظہ کرتے ہوئے بھی اپنی شفقوں میں اضافہ ہی فرماتے رہے، سب سے پہلا دور حضرت قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرہ کا ہے دوسرا دور پیچا جان اور ان کے معاصرین کا، چوتھا دور حضرت شیخ الہند، اعلیٰ حضرت راپوری کا، تیسرا دور پیچا جان اور ان کے معاصرین کا، پانچواں دور حضرت مولانا

انعام الحسن صاحبزادہ مجدد حرم کا دیکھ رہا ہوں مدرسہ کی نظمات کے بھی چار دور مجھ پر گزر گئے، سب سے پہلا دور حضرت اقدس قدس سرہ کا، دوسرا حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کا، تیسرا حضرت مولانا اسعد اللہ صاحبزادہ مجدد حرم کا اور چوتھا دور قاری مظفر حسین صاحب کا دیکھ رہا ہوں اور چاری دور خانقاہ ہوں کے دیکھے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی خانقاہ کا دور دیکھا، جس کی لذت اپنے بچپن کے باوجود اب تک دل و دماغ میں ہے، اس کے بعد بڑے حضرت رائپوری قدس سرہ کی خانقاہ کا دیکھا۔ اس کے بعد حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی خانقاہ کا دور دیکھا، اس کے بعد دوسرے حضرت رائپوری قدس سرہ کی خانقاہ کا دور دیکھا اور ان سب سے پہلے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھوون کا دور دیکھا تو نہیں مگر جناب الحاج حکیم ضیاء الدین صاحب خلیفہ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید قدس سرہ نے تفاصیل اس خانقاہ کی لکھی ہیں اس سے اس کا منظر سامنے آگیا، مگر افسوس کہ اب ساری خانقاہیں خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی سی خانقاہ کو آباد کر دے تو اس کے کرم سے کچھ یعنی نہیں۔

دونوں دور کے مشائخ واکابر نے خواہ تصوف کے ہوں یا نظمات کے ہوں ہمیشہ ہی شفقتیں اور محبتیں فرمائیں، کس کس کے حالات اور شفقتیں لکھواں، واکابر مشائخ کے چند اہم واقعات لکھوا رہا ہوں لیکن ایک ضروری بات کے اوپر بہت ہی اہتمام سے متنبہ کرتا چاہتا ہوں بہت ہی اہم بات ہے، واکابر کے وصال کے بعد یا یہ کہیے کہ ہر شیخ کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ ان کے بعد والوں میں وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں جو شیخ نور اللہ مرقدہ میں تھیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہر بعد والا پہلے سے کچھ نہ کچھ کم ہی ہوگا۔ لا ماشاء اللہ۔ جو لوگ جانے والے بزرگ کی صفات بعد والے میں نہ دیکھ کر ان سے رجوع میں پہلو تھی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنا بڑا انتقام کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو بہت ہی غور سے حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کے زمانے سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے اجل خلفاء کے دور میں بہت معاصرین کو دیکھا جو حضرت قطب عالم سے بیعت تھے اور ان خلفاء کے معاصر تھے۔ وہ یہ بات دیکھ کر کہ حضرت گنگوہی والی بات ان حضرات میں نہیں ہے رجوع نہ کر سکے۔ اس کا مجھے بہت ہی قلق رہا کیونکہ وہ میری نگاہ میں اقرب الی التسبیت بلکہ صاحب نسبت بھی تھے۔ اگر وہ ان اجل خلفاء میں سے کسی کی طرف رجوع کرتے تو بہت آگے نسبت ہوتی اسی طرح ان اجل خلفاء کے بعد تیسری پشت والوں میں بھی بہت دیکھے۔ تیسری پشت والوں کو تو میں نے بہت سمجھایا بھی۔ چچا جان قدس سرہ کے بعد عزیز مولوی یوسف کے متعلق بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ ”حضرت جی“ میں حضرت دہلوی والی بات نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے بچ کہا۔ مگر حضرت دہلوی میں حضرت

سہار پوری والی بات ہم نے نہیں دیکھی۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کثرت سے اور عزیزی مولانا یوسف صاحب کے بعد ان پانچوں پشت والوں سے بہت یہ کہا اور میرے نزدیک یہ بہت قابل غور بات ہے کہ یہ تم نے تجھ کہا کہ مولانا محمد یوسف صاحب میں وہ بات نہیں جو چچا جان قدس سرہ میں تھی۔ مگر تم ان کے معاصرین پرنگاہ ڈالو گے تو تم ان کے بعد والوں میں وہ بات نہیں پاؤ گے۔ جو عزیز مولوی یوسف میں ہے۔ اب عزیز مولانا انعام الحسن کے دور میں بکثرت یہ فقرے سنتا ہوں کہ حضرت مولانا یوسف صاحب والی بات نہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے دوستو! بعد میں یہ بات بھی نہیں ملنے کی۔ جو مولانا انعام الحسن صاحب میں ہے۔ جانے والا تو ہٹ کر آتا نہیں۔ لیکن اس تو ہم سے کہ موجودین میں وہ بات نہیں جو جانے والوں میں تھی ان سے نفع حاصل نہ کرنا اپنے کونقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے اپنے بچپن میں بار بار ایک فقرہ سنایا اور اپنے دور میں اس کا خوب مشاہدہ کیا وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ معلوم نہیں ایک رمضان میں کیا تغیر ہو جاتا ہے کہ دو سال کے دورہ والوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان مبارک سے تو یہ لفظ بار بار سنایا اور اپنے پچاس سالہ مدرس سی حدیث کے دور میں خود مشاہدہ بھی کر لیا۔ حدیث کے پڑھانے کے ابتدائی دور میں بعض بعض طلبہ ایسے اچھے اشکالات کیا کرتے تھے کہ جی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن انتہا میں بعض دفعہ تقریر کرتے ہوئے تقریر کو درمیان میں اس وجہ چھوڑنا پڑتا تھا کہ مخاطبین میں سے کوئی اس کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ بہر حال اس وقت تو مجھے اکابر کے سلسلہ کے چند واقعات اپنی شفقوتوں کے دکھلانے ہیں۔

(۱).....سب سے پہلا دور حضرت قطب عالم قطب الاقطاب حضرت گنگوہی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ عرب اجنبی کا تھا۔ میری عمر ڈھانی برس کی تھی جب گنگوہ حاضر ہوا اور آٹھ برس کی تھی جب حضرت قدس سرہ کا وصال ہوا، شعور تواب تک بھی نصیب نہ ہوا مگر وہ تعرف میں بھی بے شعوری کا زمانہ تھا، اس بے شعوری اور بے تمیزی کے زمانے میں بھی اپنی چند حماقتوں ضرور یاد ہیں، سب سے پہلی تو یہ کہ حضرت قدس سرہ چارزانو تشریف فرماتے اور یہ بے ادب بد تمیز گستاخ حضرت قدس سرہ کے دونوں گھٹنوں پر ایک ایک پاؤں رکھ کر حضرت قدس سرہ کی گردان میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اب جب خیال آتا ہے تو ڈھڑکنی آجائی ہے کہ میرے کپڑوں میں سے کتنی بدیو حضرت کو آتی ہوگی اور کتنی تکلیف حضرت کو پہنچی ہوگی۔

یہ بھی خوب یاد ہے کہ حضرت قدس سرہ کی معیت میں حضرت کے ساتھ کھانا کھاتے کی کئی دفعہ نوبت آتی اور حضرت کو چونکہ نزول آب ہو چکا تھا اس میںے حضرت قدس سرہ تو بہت آہستہ آہستہ نوش فرماتے اور مجھے اس عمر میں جو بد تمیزی کرنی چاہیے تھی وہ کیا بیان کروں۔ البتہ چونکہ حضرت

قدس سرہ کی صاحبزادی جناب الحاج حافظ محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ برابر کھڑی ہوا کرتی تھیں اور ان کے بارے چہرے سے میں ڈرا کرتا تھا۔ اس لیے جب وہ اوہر ادھر ہوتیں تو جلدی سے دست درازی کیا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں بڑے ہو کر حضرت صاحبزادی صاحبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست جو شفقتیں ہو کیں وہ بھی لا تعد و لا تحصی ہیں۔ شاید ایک دو واقعہ کہیں لکھوادوں۔ یہ میں باب دوم میں لکھوا چکا ہوں کہ جب میں حضرت قدس سرہ کے ساتھ شریک نہ ہوتا تو ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی ابیہ محترمہ میرے لیے پلا و خاص طور سے رکھا کرتی تھیں۔

یہ بھی خوب یاد ہے کہ حضرت قدس سرہ کو امرودوں کا بہت شوق تھا اور چونکہ دانت نہیں تھے، اس لیے حضرت مولانا سید احمد مدینی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت قدس سرہ کے لیے ایسی باریک در قیام امرودوں کی کامٹتے جیسے پنگ کا گاند ہوتا ہے۔ بڑی ہی مہارت تھی۔ حضرت قدس سرہ کے سامنے سے جو کچھ بچتا اس کا واحد وارث میں ہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت کی چار پائی کے نیچے پھل مٹھائی وغیرہ کی ٹوکریاں اور ہندیاں رکھی رہا کرتیں ان پر بھی چوری سے نہیں اگر غصب سے کہوں تو بے محل بھی نہیں بہر حال غاصبانہ تصرف میرا ہی ہوتا تھا۔ غصب میں نے اس لیے کہا کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ اگر دیکھتے تو گھورتے اور مجھے جھڑک بھی دیتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا سید احمد صاحب جو حضرت قدس سرہ کی اس قسم کی چیزوں کے منتظم تھے ان کی طرف سے اذن عام تھا بلکہ والد صاحب کے گھورنے یا جھڑکنے پر میں اگر اس چیز کو واپس ڈال دیتا اور وہ دیکھ لیتے تو اٹھا کر چکے سے اور بھی ان کے سامنے بھی مجھے دے دیتے، حضرت قدس سرہ کے یہاں عام معمول چائے کا مجھے اچھی طرح یا نہیں کہ تھا یا نہیں، لیکن یاد پڑتا ہے کہ بھی کبھی دو حصہ و ودھ اور ایک حصہ چائے کی ایک چھوٹی پیالی ہوتی تھی، البتہ صبح کے وقت میں دو تین بیضوں کا نیم برشت ایک تکیہ بنا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب چیز ہوا کرتی تھی اور بہت اہتمام سے بنا کرتا تھا۔ مولانا مرحوم تین بیضوں کو تقریباً آدھ گھنٹہ پھر کی سے اس قدر پھینٹتے کہ وہ پھول کر ہڑا پیالہ ہو جاتا۔ پھر اس کو پکتے ہوئے کبھی میں فرائی پان میں ڈالتے جس سے وہ بلا مبالغہ پھول کر ایک چھوٹے نان کے برابر ہو جاتا۔ پھر جلدی اس کو بسترے کی طرح پیٹتے جس سے وہ گاؤں تکیے معلوم ہونے لگتا جو اندر کی طرف سے تو بالکل کچھ اور اپر سے چلی کی طرح پکا ہوا۔ بہت ہی لذیذ ہوتا۔ اس میں سے ایک دو چمچوں تو حضرت قدس سرہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ باقی وہ سارا گاؤں تکیے اس حقیر فقیر زاہد عن الدنیا کے حوالہ ہو جاتا۔ اکابر میں کوئی ہوتا تو ایک دو چمچے بطور تبریک ان کی خدمت میں بھی پیش کیا جاتا۔ حضرت قدس سرہ کو نہنڈے پانی کا ہڑا اہتمام اور شوق تھا، گرمیوں میں حضرت کے لیے بعد ظہر

اوے کا شربت شورہ قلی میں سخندا کیا جاتا۔ پندرہ تیس منٹ تک حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدۃ الموئیم کے ڈبوں میں اس کو سخندا کیا کرتے تھے اندر کے بندوبے میں شربت ہوتا اور باہر کے کھلے ڈبے میں شورہ وہ پندرہ تیس منٹ تک اس کو گھماتے جس سے وہ برف سا ہو جاتا، وہ اندر کے بندوبے کو بالکل صاف کر کے کہیں اس کے اندر اثر نہ رہ جائے گلاس میں حضرت قدس سرہ کو پلانے کے لیے نکلتے اور باہر حضرت قدس سرہ کی خدمت میں پیش کرنے کو لے جاتے اور ایک چوتھائی کے قریب اس ڈبے میں خاص طور سے اس سے کار کے لیے بھی چھوڑ جاتے، حضرت قدس سرہ کے گلاس میں جتنا بچتا اسی میں میرا والا حصہ ملا کر مجھے مرحمت فرمادیتے۔

ایک دفعہ حماقت سوار ہوئی، مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ تو حضرت قدس سرہ کو پلانے باہر تشریف لے گئے اور اس حریص اور لاچی نے ان کے آنے سے پہلے ہی شورہ سے وہ ڈبے نکال کر منہ کو لوگایا، اندر کا شربت تو دبیر میں پہنچا اور باہر جو شورہ تھا وہ سب سے پہلے منہ کو لوگ گیا۔ جس سے سارا منہ کڑوا اور خراب ہو گیا کہ تھوکتا تھوکتا تھک گیا۔ اتنے میں مولانا تشریف لے آئے۔ میری حالت دیکھ کر ڈانٹا کہ ایسی کیا گھبراہٹ تھی میں تو آہی رہا تھا کئی مرتبہ کلی کرائی پھر وہ بقیہ شربت پلایا۔ اس سے کارنا بکار نے جملہ مشائخ کے یہاں سے ماوی مال ہی کھائے اور اپنی بد اعمالیوں سے روحانی کچھ نہ کھایا۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدۃ اعلیٰ اللہ مرادیہ کی ہمراہ کابی میں عیدگاہ جانا بھی خوب یاد ہے، ایک پاکی میں سرہانے کی طرف حضرت قدس سرہ ہوتے اور دوسری طرف (یعنی پاؤں کی جانب) یہ سے کار بیٹھا ہوا کرتا اور بڑے بڑے مشائخ درس، اکابر، صوفیا، محمد شین اس کو اٹھانے والے ہوتے۔ دس بارہ آگے ہوتے دس بارہ پیچھے اور دو سو ڈھانی سوکا مجمع اوہر اوہر، تشبیہ تو اچھی ہے نہیں مگر کوئی اور لفظ سمجھے میں نہیں آیا کہ جنازہ کی طرح سے ایسی جلدی جلدی کندھا بدلتے کہ میں بیٹھا اس منظر کی سیر کیا کرتا تھا۔ خانقاہ سے عیدگاہ تک نہایت آہستہ خراماں خراماں وہ پاکی چلتی اور ہر شخص کو تمنا ہوتی کہ مجھے بار بار یہ سعادت ملے ہمت والے نوجوان تو دو دو بار نمبر لگائیتے جس کو میں دیکھتا رہتا اور ضعفاء ایک آدھ ہی چکر لگا پاتے۔ مگر چونکہ اہل تواضع اور احترام کا خاص منظر تھا اس لیے دوسرے آنے والے کے بعد پہلے والے کو ہٹنے میں ڈرا تامل نہیں ہوتا تھا۔

ایک حماقت ساری عمر یاد رہے گی، حضرت قدس سرہ کی سہ دری اور شرقی جانب ایک بہت بڑا چبوترہ تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا چھپر پڑا رہتا تھا وہ گویا میرے والد صاحب اور ان کے متعلقین و خدام ادب کی قیام گاہ تھی اس میں چار پائیاں بھی پڑی رہتیں اور سرداریوں میں پرال اور گرمیوں میں چٹائیاں وہی گویا میری بھی قیام گاہ تھی۔ جب حضرت قدس سرہ دوپہر کا کھانا کھا کر مکان سے تشریف لاتے اور خانقاہ تشریف کے اندر داخل ہوتے تو میں اس قدر زور دار جھٹکے سے

”السَّلَعْ مَعْلِيكُمْ“ کہتا کہ دونوں عینوں کو ایے جھٹکے سے کہتا اور حضرت قدس سرہ اتنے ہی زور دار جھٹکے سے علیکم السلام کہتے کہ حضرت قدس سرہ کی آواز اپنی کانوں میں گونج رہی ہے اور اچل خلفاء اور اکابر علماء جب حضرت قطب عالم کی مجلس میں بیٹھتے تو ایسا رجھ کر بیٹھتے ”کان علی رُؤْسِهِمُ الطَّيْر“ سناتا چھایا ہوا ہوتا۔ البتہ حکیم محمد اسماعیل صاحب جو بعد میں بسمی میں حکیم اجمیری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب وہ گنگوہ حاضر ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ بات اکثر کرتے رہتے۔ یا حضرت صاحبزادے حکیم مسعود صاحب جن کا گدی دار موڑھا حضرت قدس سرہ کی چار پائی کے قریب پائی کی جانب ہوتا یا میرے والد قدس سرہ ڈاک سنانے کے لیے تشریف لاتے اور بہت چھوٹے سے بغیر گدی کے موڑھے کو چار پائی کے قریب لا کر اس پر بیٹھتے اور ڈاک سناتے۔ ان کے علاوہ بڑے بڑے اکابر معہومی موڑھوں پر ایے چپ چاپ آہستہ آہستہ دبے پاؤں موڑھوں پر آکر بیٹھتے کہ آہستہ ہو۔ الایہ کہ خود حضرت قدس سرہ کی سے مخاطب ہوں تو وہ نہایت عجلت سے نہایت آہستگی سے جس کے اندر آوازنہ ہو موڑھے کو قریب کر کے بیٹھتا اور جواب دیتا۔ ایک مقولہ حضرت قدس سرہ کا میں نے خود تو نہیں سن۔ مگر میں نے والد صاحب اور پچا جان ہر دو سے کئی مرتبہ سنائے جو آگے آرہا ہے۔ حضرت قدس سرہ مکان سے کھانا کھا کر جب تشریف لاتے تو خدام مکان سے خانقاہ تک پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ وہ حضرت قدس سرہ کے سدری میں تشریف لانے پر اپنی اپنی جگہوں پر واپس لوٹ جاتے تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب حضرت قدس سرہ دونوں وقت کھانا کھانے مکان تشریف لے جاتے تو خدام میں سے دو چار نہایت آہستہ آہستہ پیچھے ہو لیتے۔ حضرت قدس سرہ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی نہیں چلتا تھا۔ بلکہ حضرت قدس سرہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی اسی کی مدد سے بغیر سہارے کے تشریف لاتے اور لے جاتے۔ خدام جو مکان جانے پر ساتھ جاتے وہ حضرت قدس سرہ کے فارغ ہونے تک باہر دروازہ ہی پر کھڑے رہتے یا بیٹھ جاتے اور حضرت کی واپسی پر ساتھ ساتھ خانقاہ آتے ہوئے جب حضرت قدس سرہ سے دری میں تک آتے تو وہ لوٹ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ تشریف لائے۔ حضرت نے سے دری میں قدم رکھا اور خدام لوٹ گئے اور حضرت نے سے دری میں کھڑے ہو کر فرمایا کوئی ہے؟ میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! بیکی اور الیاس ہیں۔

اللَّهُ كَانَ مَكْتُنِي، هِيَ غَفْلَتْ سَلِيْمَ لِيَا جَائِيَ اَثْرَ كَيْ بِغَيْرِ نَهْيِيْسِ رَهْتَا:

حضرت نے نہایت جوش میں فرمایا، اللہ کا نام چاہے کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، حضرت قدس سرہ کا ارشاد بالکل صحیح ہے، اسی وجہ سے جملہ مشائخ سلوک میں اللہ کا ذکر

اور ورد چاری ہے کہ یہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، ایک دوسرا ارشاد حضرت کا میں نے مکاتیب میں دیکھا اور مشائخ سے سا بھی حضرت قدس سرہ ایسے لوگوں کو جو تصوف کی باریکیاں یا کسی چیز کی لم یا اصطلاحی چیزیں پوچھا کرتے تھے تو حضرت قدس سرہ کا جواب مجھے بہت، ہی پسند آیا کہ یہ بندہ صوفیاء کی اصطلاحات سے واقف نہیں حضرت قدس سرہ کے احوال یہ ناکارہ ارشاد الملوك کے مقدمہ میں بھی نہایت مختصر اکھواچکا ہے اور اوجز کے مقدمہ میں بھی۔ حضرت قدس سرہ کی صورت مبارک میں جو کشش تھی وہ آج تک بھی دل کو ٹھیک رہی ہے۔

### دوسرا دور مرشدی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ:

دوسرے دور کے مشائخ کے حالات کیا کیا لکھوں اور کس طرح لکھوں۔ سب سے اول میرے مرشد میرے آقا سیدی و سندی حضرت الحاج مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضری تور جب ۲۸ھ سے ہو گئی تھی لیکن میرے والد صاحب قدس سرہ کے انتقال یا یوں کہوں کہ شوال ۳۳ھ تک براہ راست حضرت قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کم ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت کی جو شفقتیں تھیں وہ بے پایاں تھیں۔ حضرت کی نگاہ محبت تو بہت شروع ہی سے تھی اسی کا وہ شمرہ تھا جو میری تعلیم کے بارے میں گزر چکا کہ حضرت قدس سرہ نے مجھے منطق کی تعلیم کے لیے مولانا ماجد صاحب کی خدمت میں بھجنے سے منع کر دیا اور ایک سال کے لیے بھی اپنے اقدام عالیہ سے جدا کرنا گوار نہیں فرمایا۔ براہ راست حضرت قدس سرہ سے تعلق والد صاحب کے انتقال کے بعد سے پیدا ہوا اور حضرت نے واقعی باب بن کر دکھلا دیا۔ میری پہلی شادی کے سلسلہ میں ایک واقعہ گزر چکا کہ میں نے کاندھلہ جا کر اپنی پہلی شادی کے موقع پر الہیہ مرحومہ کو یہاں لانے سے انکار کر دیا تھا کہ کاندھلہ بھی میرا وطن ہے وہیں پانچ سات دن رہ کر چلا آؤں گا۔ الہیہ کے لانے اور لے جانے کا بھگڑا مشکل ہے تو حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے انکار کرنے والا باب بن کر تو نکاح کرانے کے لیے میں آیا ہوں۔

### چھ ماہ تک مدرسہ قدیم سے باہر نہ نکلنا:

ایک مرتبہ حضرت کی غایت شفقت اور میری کثرت حاضری کو دیکھ کر ایک صاحب نے حضرت قدس سرہ سے میرے سامنے یہ پوچھا کہ یہ حضرت کے صاحبزادے ہیں؟ تو حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بیٹے سے بڑھ کر ہیں۔ مجھے ایا جان کے جو لوں کی بدولت باہر آنے جانے سے شروع ہی سے نفرت تھی۔ میں اپنے کسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا نیا جوتا اٹھ گیا تھا تو جہاں تک یاد ہے۔ چھ ماہ تک دوسرا جوتا خریدنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ جو بھی

مدرسہ قدیم میں ہوتا تھا اور دارالطلبہ بھی اس وقت تک نہیں بناتھا اور بیت الحلا میں بوسیدہ جو تے پڑے رہا کرتے تھے۔ اس لیے مجھے چھ ماہ تک باہر نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

### یندہ کانمائش میں جانے سے انکار:

یہ اسی کا اثر تھا کہ جب سہارنپور میں نمائش ہوئی تو جناب الحاج حافظ مقبول احمد صاحب مرحوم جو میرے والد صاحب سے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ اپنے بچوں کو نمائش دکھانے کے لیے کسی رئیس کی فہن لے کر آئے اور چونکہ شہر میں نمائش پہلی مرتبہ ہو رہی تھی، اس لیے اس کی شہرت بہت ہی ہو رہی تھی انہوں نے میرے والد صاحب سے اپنے بچوں کے ہمراہ مجھے بھی نمائش میں لے جانے کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے مجھے سے چلنے کو فرمایا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ دکانیں لگتی ہیں میں نے کہا کہ دکانیں تو یہاں سے اٹیشن تک بہت ہیں۔ انہوں نے از راہ شفقت بہت اصرار کیا۔ مگر میرا جی نہ چاہا۔ اسی کا اثر تھا کہ بھی سیر و تفریح کا شوق نہیں ہوا۔ صفر ۲۳ مطابق ستمبر ۲۲ء میں یوپی وغیرہ میں طوفانی بارش آئی جس میں سہارنپور کا مشرقی نالہ اتنا بھرا کہ محلہ کھال پار بالکل الگ ہو گیا اور اس نالہ کا پانی مدرسہ قدیم کی سیرہ ہیوں تک آگیا اور اس نالے کے ہر پل پر پولیس کا پہرہ رہتا تھا کہ کوئی شخص اس پل پر نہ گزرے۔ کیونکہ ہر پل کے گرنے کا خطرہ تھا۔ دہلی تا عازی آباد کی ساری گاڑیاں کئی ماہ پندرہ ہیں۔ اس لیے کہ وہاں بھی جمنانے ریل کی پڑی جگہ جگہ سے توڑ دی تھی۔ دہلی سے سہارنپور کی گاڑیاں انبالہ کو آتی تھیں۔ ساری یوپی میں اس طوفانی بارش سے بہت نقصانات ہوئے۔ کھادر کے حصہ میں سنا گیا کہ آدمی اور سانپ دلوں درختوں پر نہایت سلوک سے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔

اس زمانے میں بھی سیر کے شوقین تو ہر حالت میں سیرہ میں رہتے ہیں عبرت تو حاصل ہوتی نہیں سیرہ کی سوجھتی ہے۔ محلہ خانعالم پورہ میں شہر کی کئی ندیاں اور نالے باہم ملتے ہیں۔ وہ حصہ سمندر بن رہا تھا اور مخلوق سارے دن اس کی تفریح میں رہتی تھی۔ حضرت قدس سرہ کی مجلس میں ذکر آیا کہ خانعالم پوری کی ندی کل سے اتنی بھر رہی ہے کہ سارے شہر میں پانی بھر جانے کا اندریشہ ہو گیا حضرت قدس سرہ اس کا حال دریافت فرمائے تھے۔ جناب الحاج مقبول احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن کا اسم گرامی میری اس تحریر میں بار بار آرہا ہے اور شاید کہیں تفصیل بھی آگئی ہے فرمایا کہ مولوی زکریا بھی تو کل دیکھنے گئے تھے۔ ان سے دریافت فرمائیں۔ میرے حضرت قدس سرہ نے انتہائی سادگی سے فرمایا نہیں یہ نہیں گئے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آگیا کہنے لگے کہ

ایسی بھی کیا خوش اعتمادی یہ تو سامنے بیٹھے ہیں دریافت فرمائیں؟ اور میں چپ حضرت قدس سرہ نے دوسری بار بھی یہی فرمایا کہ نہیں یہ نہیں گئے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زور سے فرمایا آخر اس سے دریافت تو فرمائیں۔ میرے حضرت نے فرمایا کیوں جی تم گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں مجھے یہ خبر پہنچی تھی کہ حاجی خلیل احمد صاحب کا مکان پٹھان پورہ میں گر گیا۔ ان کے گھر کو دیکھنے گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ بالکل صحیح ہے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش اعتمادی ہوتا ایسی ہوا اور واقعہ بھی یہی تھا۔ پٹھان پورہ خانعالم پورہ سے ادھر ایک محلہ ہے۔ اس میں میرے والد صاحب کے ایک مخلص دوست حاجی خلیل احمد صاحب مر جوم رہتے تھے جن کو میرے والد صاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس سرہ کو بھی اس کا خوب علم تھا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کثرت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے حضرت قدس سرہ نے بے تکلف فرمادیا کہ یہ صحیح ہے۔

ایک مرتبہ مدرسہ کے ایک طالب علم کا اخراج حضرت قدس سرہ نے طے کیا۔ میں نے مخالفت کی اور عرض کیا کہ حضرت اس کے اندر یہ اندیشہ ہے۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمادی کہ نہیں حضرت کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرت نے اخراج فرمادیا۔ معاً وہی اندیشہ سامنے آگیا۔ حضرت قدس سرہ کو اس کا بڑا فکر ہوا اور حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی ندامت ہوئی۔ میرے حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی مخالفت کی تھی۔ ہم نے ہی نہ مانی۔ میں نے عرض کیا حضرت فکر نہ فرمائیں دعاء و توجہ فرمائیں انشاء اللہ یہ اندیشہ جاتا رہے گا۔ حضرت کو اس جواب سے اتنی سرت ہوئی کہ اس کی لذت اب تک مجھے معلوم ہوتی ہے اور حضرت کی دعاء و توجہ سے فوری خطرہ جو پیش آیا تھا۔ وہ اسی طرح فوراً دور ہو گیا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔

### حضرت کا ارشاد ”ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا“

حضرت قدس سرہ کا ہندوستان میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی بہت کثرت سے یہ معمول تھا کہ جب کبھی کھانے میں یہ سر کار شریک ہوتا تو حضرت قدس سرہ کوئی بوٹی یا کباب کا مکڑا بہت شفقت سے دوست مبارک سے مرجمت فرمایا کرتے تھے مجھے تو کبھی اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوا کہ حضرت کی شفقتیں اس سے بہت زائد ہتی تھیں۔ لیکن مدینہ پاک میں تو یہ ناکارہ تو دونوں وقت کھانے میں شریک ہوتا ہی تھا۔ حضرت قدس سرہ رائے پوری نور اللہ مرقدہ بھی بسا اوقات کھانے میں یا کسی دوسری چیز کے کھانے میں شرکت فرماتے حضرت رائے پوری نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تجھ

پر پڑا رشک آتا ہے کہ جب حضرت تجھے کوئی چیز کھانے کی مرمت فرماتے ہیں تو پہلے اس چیز کو خوب گھورتے ہیں پھر مرمت فرماتے ہیں۔ کاش مجھے بھی اسی طرح سے گھور کر کوئی کھلاتا۔ اس کے بعد میں نے بھی خیال کیا تو واقعی حضرت اقدس رائے پوری نے صحیح فرمایا تھا۔ کاش اسی قسی القلب پر بھی کوئی اثر ہو جاتا۔ مدینہ پاک کے قیام میں یہ ناکارہ بذل لکھا کرتا تھا اور صحیح کی چائے کے بعد سے مسلسل چھ گھنٹے حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی تو ایک بار یہ نابکار ناپاک سے کار بذل لکھتے ہوئے نہ معلوم کن کن خیالات اور وہی تباہی خیالات میں مستغرق تھا۔ میرے حضرت قدس سرہ نے عبارت لکھوا تے لکھوا تے نہایت تیز و تند لبھے میں ارشاد فرمایا "من تیو مشغول و تو با عمر و زید" مجھے اب تک بھی جب وہ منظر یاد آ جاتا ہے تو ایک شاناً چھا جاتا ہے میں ان لغو خیالات پر اور حضرت کے اس ارشاد پر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرا کرتہ اور پاجامہ پسینہ کے اندر بھیگ گیا۔ اس وقت بھی بہت سوچا اور بعد میں بھی بہت سوچا۔ مگر اب تک یہ یاونہیں آیا کہ کیا خرافات میرے دل میں تھی۔ جس پر حضرت نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت قدس سرہ کی یہ توجہات کی قابل پر ہوئیں تو نہ معلوم وہ کہاں پہنچتا یہ سے کاراپنے سارے ہی متناخ کی شان میں گستاخ رہا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تھا کہ چونکہ بے ادب ہے حدیث پاک کے استاذ کے علاوہ کسی اور استاذ کی بے ادبی کرنے گا اور وہ فن ضائع ہو جائے گا تو بلا سے۔ یہ قصہ میرے طلب علم کے حالات کے اندر گزر چکا۔ مگر حق یہ ہے کہ مجھ سے نہ حضرت والد صاحب کا ادب ہو سکا نہ حضرت قدس سرہ کا۔

مدینہ پاک میں میں نے اپنی حماقت اور گستاخانہ عادت کے مطابق مولوی عبد اللہ جان مرحوم کے متعلق چونکہ ان کا دستور یہ تھا کہ ہر ہفتہ ایک لمبا ساخت ان کا پہنچتا تھا۔ جس کو یہ جمعہ کے دن شروع کر دیتے اور روزانہ تاریخوں اپنے، مدرسہ کے، شہر کے، یاد کے، محبت کے حالات تاریخوں کو لکھ کر ہر جمعرات کوڈاک میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک سادہ کاغذ سبز جو چوڑاں میں تو تقریباً اسی سائز کے برابر جس پر یہ سالہ ہے اور لمبا میں ڈیوڑھا۔ تیلے فونٹین چین سے سارا خط اور سرخ سے روزانہ کی تاریخ ان کا خط گویا شہر اور مدرسہ کے حالات کا روز نامچہ ہوتا تھا۔ شاید تین چار سو ورق ہوں، جو میرے کاغذات میں دو گتوں کے اندر رہی سے بند ہے ہوئے پڑے ہیں۔ لوگوں نے مجھ پر بہت اصرار کیا کہ یہ اردو کی بہترین خدمت ہے۔ اس کو طبع کرالے۔ اس وقت تو چونکہ اشتغال علمی اوپنی چیزوں میں سے تھا اس لیے التفات بھی نہیں ہوا۔ آج کل دور ہوتا تو شاید طبع کرالیتا۔

بہت اونچے بیر شر تھے لندن اور نہ جانے کہاں کہاں سے ڈگریاں لے کر آئے تھے۔ محمد احمد صاحب کاظمی مولوی منفعت علی صاحب مرحوم اور یہاں کے ہندو مسلم وکلاء اور بیر شر ان کے

شاگرد تھے ان کی بھی میرے حضرت قدس سرہ سے ابتدائی نیازمندی ایک طلاق کے مسئلہ میں ہوتی تھی۔ اس زمانہ میں حضرت قدس سرہ کے قیل ارشاد میں بہت سی اردو کی مستند مصنفوں کی کتابیں ناول اور خطوط دن رات بکثرت پڑھیں اور میرا کام یہ تھا کہ جہاں لفظ ”جواب“ آجائے، وہاں حاشیہ پر نشان لگاتا جاؤ۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ لفظ جواب اردو میں کن کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب مرحوم کو مجھ سے بھی بہت تعلق ہو گیا تھا ۲۶ھ میں حجاز سے واپسی کے بعد وہ بہت اہتمام سے اس سے کار کے پاس ہندو مسلمان وکیلوں کو عصر کے بعدلاتے اور ان سے کہتے کہ ارے تم لوگ کیا جانو چائے پینا۔ چلو میں تمہیں ایک مولوی کے یہاں چائے پلواؤں۔ پھر کجا گے۔ اس زمانہ میں اس سے کار کو بھی چائے کا بہت شوق تھا اور مجھ بھی زائد تھا۔ پانچ سال آدمی عموماً اور مہماں ہوتے تو دس پندرہ ہو جاتے اتنے میں آدمی جیسی چاہے بڑھیا چائے پی لے۔ دوسو کے مجھ میں تو دیگر ہی پکتی ہے۔ بہر حال مولانا عبداللہ جان مرحوم کو مجھ سے اور میرے ابا جان سے محبت بہت تھی اور حضرت قدس سرہ سے تو گویا عشق تھا اور ہر ہفتہ ان کا بہت لمبا چوڑا خط جاتا جس کو یہ ناکارہ بہت مزے لے کر سناتا۔ کیونکہ اپنے وطن کی داستان ہوتی تھی اور حضرت بھی بڑے شوق سے سنتے تھے۔

ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مولوی عبداللہ جان کو حضرت سے عشق تو ہے مگر یہ ذکر و شغل بالکل نہیں کرتے۔ حضرت ان کو کچھ ذکر تلقین فرمادیں۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچھیں تو بتلاؤں گا۔ بغیر پوچھے کیوں بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت پوچھنے کی کیا بات ہے۔ جب وہ اپنے کو حضرت کے پرداز کچکے ہیں محبت بھی بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچھیں جب ہی تو بغیر پوچھے میں کیوں بتلاؤں؟۔ میں نے عرض کیا کہ میں کچھ لکھ دوں؟ حضرت قدس سرہ نے فرمایا اپنی طرف سے جو چاہے لکھ دیجو میری طرف سے کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت میرے لکھنے سے کیا ہوتا ہے اسی زمانے میں حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ بھی مدینہ پاک میں تشریف رکھتے تھے اور عصر سے مغرب تک حضرت قدس سرہ کی مجلس میں خادمانہ تشریف رکھتے تھے، حضرت رائے پوری کے ساتھ بھی دس بارہ خادم ہمراہ تھے۔

ایک مرتبہ حضرت رائے پوری نے میرے حضرت سے بطور معدالت کے عرض کیا کہ حضرت ایسی بے حسی کا زمانہ ہے کہ اول تو ان لوگوں کو خود ہی احساس چاہیے کہ جب میں خادمانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کو بھی حاضر ہونا چاہیے تھا لیکن میں ان لوگوں کو ترغیب بھی دیتا رہتا ہوں۔ پھر بھی حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت قدس سرہ نے حضرت رائے پوری سے ارشاد فرمایا کہ حضرت! اس کا بالکل خیال نہ فرمائیں۔ مجھے تو اس میں بہت غیرت آتی ہے۔ میں

نے تو اپنے شیخ یعنی قطب عالم گنگوہی کے متعلق بھی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی پھر اپنے صاحبزادے مرحوم کی بیعت کا قصہ سنایا کہ اس ناکارہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ یہ تو ان باوا بیٹوں کا دستور ہے کہ جوان کی طرف درا جھکے یا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے تو اس میں بڑی غیرت آتی ہے۔ میرے نزدیک تو کسی کی غرض ہو تو وہ دفعہ آئے ورنہ میری پالپوش سے۔ حضرت کا ارشاد کہ ان باوا بیٹوں کی توبیہ عادت ہے اسی مولوی عبداللہ جان کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ناکارہ ان کی بار بار سفارش کر رہا تھا۔ اس قصہ کو مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الخلیل طبع جدید طبع کردہ حکیم محمد الیاس سلمہ کے صفحہ ۲۳۲ پر مختصرًا نقل کیا ہے۔ وہ مخلص دوست جن کو مولانا عاشق الہی صاحب نے تحریری فرمایا ہے یہی مولوی عبداللہ جان مرحوم تھے۔ البته تذکرۃ الخلیل میں اور میرے اس بیان کردہ واقعہ میں یہ فرق ہے کہ مجھے بیعت کا قصہ حضرت کے صاحبزادے حافظ محمد ابراہیم کا یاد ہے اور مولانا نے یہ قصہ حضرت کے داماد محمد یا میں کا لکھا ہے جب حضرت قدس سرہ کا ۲۳۲ھ میں مستقل قیام کی تیت سے سفر ہوا تو الوداعی سفر کئی جگہ کے حضرت نے فرمائے۔ یہ یہ کاربھی ساختھ تھا۔ میرٹھ میں حماقت سوار ہوئی۔ دستِ خوان پر انواع بہت تھیں میں نے عرض کیا حضرت کے طفیل میں بہت ہی انواع ولذا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔

اس وقت تک اس ناکارہ کا حج طے نہیں ہوا تھا جیسا کہ سفر حج میں آ رہا ہے۔ حضرت قدس سرہ نے بے ساختہ فرمایا کہ اب تک طفیل میں کھایا تھا۔ اب اصالنا کھاؤ گے۔ حضرت قدس سرہ کے مجرہ میں سے ایک مرتبہ کسی کی امانت گم ہو گئی۔ چونکہ مجرہ کا کھوننا ڈاک پاہنزا کالنا۔ ڈاک کا سامان اندر رکھنا وغیرہ اسی سیہ کار کے متعلق تھا اور یہ میں متعدد بار لکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرہ کی ان شفقوتوں اور الاطاف کی وجہ سے مجھ پر اور میرے پیچا جان نور اللہ مرقدہ اور میرے والد صاحب پر تھیں شروع ہی سے حاصل ہیں کا حملہ ہم تینوں پر رہا۔ چنانچہ بعض کرم فرماؤں نے اس چوری کا الزام اس سیہ کار پر لگایا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اسی کی آمد و رفت مجرہ کے اندر رکثرت سے ہے۔ حضرت نے نہایت صفائی سے ارشاد فرمایا کہ اس کا کام نہیں۔ اللہ کا انعام احسان شکر توبیہ ناکارہ کر ہی نہیں سکتا۔ بعد میں حق ہو گیا کہ ایک دوسرے صاحب کی حرکت تھی۔ تحریک خلافت کے زمانے میں جلوں کا بہت زور تھا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ بارہ جگہ شہر میں جلسے نہ ہوں اور وہ بارہ جگہ کے باہر سے مطالبے نہ ہوں۔ اس باقی پڑھانے مشکل ہو گئے۔ بالخصوص مولوی قدوسی مرحوم کی طلب ہر جگہ سے بہت ہوتی تھی اور خاص طور سے لوگ ان کو اس وجہ سے بلاست کہ ان کے وعظ عوام میں بہت پسند ہیں اس وجہ سے مولوی قدوسی کے اس باقی بہت ناجہ ہوتے تھے مسلسل ایک ہفتہ سبق نہیں ہوتا تھا اس لیے ان کے متعلق خاص طور سے وہ تجویز ہو

گیا تھا کہ وہ ہر جلسے میں نہ بھیجے جائیں۔ مخصوص جلوسوں میں حضرت کی اجازت سے جائیں۔

ایک مرتبہ کاندھلہ میں خلافت کا جلسہ تھا۔ وہاں کے لیدروں نے ہمارے ایک عزیز حافظ شریف کو میرے پاس بھیجا کہ حضرت قدس سرہ سے اجازت لے کر مولوی قدوسی کو کاندھلہ بھیج دو۔ حافظ شریف نے مجھ سے آکر کہا مجھے چونکہ اندازہ تھا میں نے حافظ شریف سے کہہ دیا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں بڑے حضرات مثلاً مولانا عبداللطیف صاحب حاجی مقبول صاحب ان میں سے کسی سے درخواست کرو۔ بات معقول تھی۔ اس لیے ان کی سمجھ میں آگئی۔ انہوں نے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ مولانا نے جواب دیا کہ ان کا حرج بہت ہو چکا ہے۔ میری ہمت حضرت سے اجازت لینے کی نہیں پڑتی۔ انہوں نے حضرت حاجی مقبول صاحب سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ”ارے حضرت کے لاڈلے سے کیوں نہیں کہتا۔“ (یعنی تاکارہ) انہوں نے میرا جواب نقل کر دیا کہ میں تو بچہ ہوں اس پر حاجی صاحب کو غصہ آگیا اور فرمایا وہ بچہ ہے اگر وہ یوں کہے۔ تو حضرت جی اس کی خاطر میں یوں کہیں گے..... بھائی شریف میرے سر ہو گئے کہ میں کل سے دھکے کھارہا ہوں۔ اب معلوم ہوا کہ بخوبی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ چج ہے کاندھلہ کاندھلہ ہی ہے۔ بڑے بڑے جس کام کو نہیں کر سکتے بھلا میں کس طرح کر دوں۔ لیکن ان کے شدید اصرار پر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ بھائی شریف دون سے پڑے ہیں اور اہل کاندھلہ ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں اور مولوی قدوسی پر چلنے کا اصرار ہے، حرج تو بہت ہو گیا۔ اب جیسے ارشاد عالیٰ ہو۔

حضرت قدس سرہ نے اپنی عادت مبارکہ (جیسا کہ تفصیل سے لکھا چکا ہوں) کے موافق فرمایا۔ کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر جمود کی صبح کو چلے جائیں اور جمود کے بعد تقریر کر لیں اور عصر کے بعد کاندھلہ سے جو گاڑی چلتی ہے اس سے واپس آجائیں تو یہاں عشاء تک پہنچ جائیں گے۔ سبق کا حرج نہیں ہو گا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات۔ میں نے بھائی شریف اور مولانا قدوسی صاحب ہر دو سے کہہ دیا کہ حضرت نے اجازت مرحمت فرمادی جمود کی صبح کو جا کر شام کو آ جائیں۔ اس پر مولوی قدوسی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرا کا ہوا ہے۔ اگلے جمعہ کو آؤں گا۔ چنانچہ اگلے جمعہ کا اعلان کر دیا۔

ان حافظ شریف صاحب کے ساتھ ایک عجیب لطیفہ پیش آیا۔ جو لکھوانے کے قابل ہے۔ یہ عین کھانے کے وقت پہنچے تھے اور کوئی چیز فوری طور پر خاطر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تھوڑی سے دودھ جیلیباں بازار سے منگوایں اور بھلکو کران کے سامنے ایک پیالہ میں رکھ دی مجھے ترشی کا شوق بچپن سے رہا اور اب تک بھی ہے۔ ترشی بچپن ہی سے ہر نوع کی خوب کھائی۔ اتفاق سے اس وقت

کہیں سے عرق نغایع کی بوتل آئی ہوئی تھی اور میرے دسترخوان پر پیاز مرچ کتر کر اس پر عرق نغایع ڈال کر لانے کا دستور تھا۔ میں تو اس کو کھاتا ہی تھا۔ مگر اور لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے۔ ”الا ماشاء اللہ“ حافظ شریف نے جلپیوں پر تواضع بلکہ اصرار مجھ پر کھانے کا کیا میں نے سادگی سے کہہ دیا کہ میں تو عرق نغایع کھار ہا ہوں۔ میری حالت اور تعجب کی انتہائی رہی اور بہت سرست ہوئی کہ جب میری زبان سے یہ فقرہ نکلا تو دسترخوان پر آٹھ دس طلبہ میرے پاس رہنے والوں میں سے جو میرے ساتھ کھانا کھار ہے تھے سب نے چکے چکے نغایع کے ایک دو پیاز کھا لیے۔ حافظ شریف نے سب کی تواضع کی لیکن سب کا جواب یہ تھا کہ ہم نے نغایع کھالیا۔ حافظ شریف نے کہا کہ میں بھی نغایع کھالوں میں نے کھا تھوڑے سے۔ مگر ان دو دو جلپیوں کے دام مجھے دے دیجیو۔ مگر مجھے اپنے ان لڑکوں کی یادا بہت ہی اچھی لگی اور بہت ہی پسند آئی اور یاد پڑتا ہے کہ میں نے کھانے کے بعد چکے سے کچھ انعام بھی ان لڑکوں کو دیا تھا۔

یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ اس پیاز کھانے کی ابتداء عزیز عبدالجلیل برادرزادہ حضرت اقدس رائے پوری نے کی تھی، جو اس وقت نہیں رہتا تھا اور میرا شریک دسترخوان تھا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ حضرت قدس سرہ کی شفقتیں اور محبتیں لا تعدد لا تحصی نہ لکھوائی جا سکتی ہیں اور نہ ان کا احصاء ہو سکتا ہے اس رسالہ میں مختلف مضامین کے ذیل میں مختلف چیزیں آئیں گی اور بہت سی گزر چکیں۔ تعلیم و تدریس کے باب میں لکھوا چکا ہوں کہ ابتدائی مدرسی پر میری ہدایہ کی درخواست پر حالانکہ اس وقت تک کمز صرف ایک سال پڑھائی تھی حضرت قدس سرہ نے تقسیم اساباق میں بیٹھتے ہی فرمایا کہ تم نے ہدایہ اولین کو کھایا ہدایہ اخیرین کو۔ گویا دونوں میں ہر ایک دینے کے لیے تیار تھے۔ نیز بخاری شریف کے سبق کے نہ لینے پر جو ڈانت پڑی ہے۔ وہ بھی حضرت ہی کی شفقت کا نتیجہ ہے اگر زندگی اور توفیق ہوئی تو ۳۸۷ھ اور ۴۲۳ھ کے جوں کے ذیل میں بہت سے واقعات آجائیں گے۔ حضرت قدس سرہ کی اپنی شان اور جلالت قدر کے باوجود اس سیہ کار کے ساتھ ابتداء زمانہ تدریس میں تو میری شیئی کی وجہ سے اور انتہاء اس سیہ کار کے بذل کے ساتھ اشتغال کی وجہ سے شفقتیں اور محبتیں اور تعلق بڑھتا ہی رہا کیونکہ میرے حضرت کو بذل کے ساتھ عشق تھا اور اس ناکارہ کو بھی بذل سے ابتداء ہی سے عشق تھا۔ اس وجہ سے حضرت کی شفقتیں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ درحقیقت بذل کی تالیف اس ناکارہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی احسان تھا کہ اس کی وجہ سے میری ساری گندگیوں اور کوتا ہیوں پر حضرت التفات نہ فرماتے تھے۔

تمیرا درور شیخ الہند قدس سرہ:

اعلیٰ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا الحاج محمود حسن صاحب قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کی خدمت

میں (اور جیسا کہ آگے آ رہا ہے) اعلیٰ حضرت رائے پوری کی خدمت میں اس سے کارکی حاضری کی نوبت کم آئی۔ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں تو بہت بھی کم آئی، اس لیے کہ اپنے والد صاحب قدس سرہ کی حیات میں تو یہ ناکارہ اسی محض تھا کہ میں باہر آنا جانا تو درکنار۔ گنگوہ سہارپور کے قیام میں بھی کہیں مقامی جگہوں پر آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ والد صاحب کے وصال کے بعد جو ذی القعده ۱۴۳۲ھ میں ہوا، حضرت شیخ الہند گویا اسیر مالا بن چکے تھے۔ مالا کے قیام کے زمانہ میں تو صرف اتنا بھی ہوتا تھا کہ حضرت مدینی قدس سرہ کے خطوط مالا سے اس سے کارکے نام کبھی کبھی آتے رہتے تھے۔ ان میں حضرت شیخ الہند کی طرف سے اس ناکارہ کے خطوط کے جواب میں سلام و دعا میں آتی رہتیں۔

### حضرت شیخ الہند کی مالا سے واپسی:

۲ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ مالا سے روانہ ہوئے اور راستہ میں مختلف شہروں میں قید کی حالت میں قیام کے بعد ۲۰ رمضان المبارک ۱۴۳۸ھ کو بھی چہاز سے اُتر کر رہا ہوئے اور ۲۶ رمضان المبارک کو دیوبند پہنچے۔ عید سے دوسرے دن یہ ناکارہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس سہارپوری کے ساتھ دیوبند حاضر ہوا۔ ان دونوں اکابر کا بغل گیر ہونا بھی خوب یاد ہے اور حضرت شیخ الہند کا نہایت مسرت کے ساتھ یہ ارشاد کہ ”مولوی حسین احمد مولانا کے لیے بزر چائے بناؤ۔“ بھی خوب یاد ہے۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے نہایت مسرت کے لمحے میں فرمایا حضرت ابھی لاتا ہوں۔ اس وقت یہ ناکارہ بھی ہمراکاب تھا اور حضرت نے بہت شفقت و محبت سے مصافی کے بعد یاد پڑتا ہے کہ سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند کے اسفار باوجود امراض کے بہت کثرت سے ہوئے اور آخر زمانہ میں دلی میں قیام رہا۔ ان ایام میں دیوبند یاد بھی میں زیارت و حاضری تو ہوئی مگر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے۔ البتہ شوال ۱۴۳۳ھ سے پہلے جب ان دونوں حضرات کا چجاز کا سفر طے ہو رہا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے ایک ہفتہ مستقل مدرسہ مظاہر علوم میں قیام فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدینی نے سوانح خود نوشت میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سہارپوری کو اس تحریک کا تفصیلی علم مدینہ منورہ میں ہوا۔ جب کہ حضرت شیخ الہند نے حضرت سہارپوری اور حضرت شیخ الاسلام سے اس کا تفصیلی حال بیان کیا۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کو حضرت شیخ الہند نے تفصیلی احوال سنائے اور حضرت سہارپوری چونکہ پہلے سے رازدار تھے اس لیے حضرت سہارپوری کو بھی اس مکالمے میں شامل کیا۔ اس کا بہت بھی قلق ہوا کہ حضرت مدینی قدس سرہ کی حیات میں اس پر گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ گو خیال کئی مرتبہ آیا۔ ورنہ میں

حضرت اقدس مدینی سے اس کی تفاصیل پیان کرتا۔ کہ حضرت مدینی تو ان حضرات کے سفر جاز سے قبل مدینہ منورہ تھے اور یہنا کاراس وقت سہار پور میں تھا۔

### ایک ہفتہ مظاہر علوم میں:

حضرت شیخ الہند کا سفر جاز کو روانگی سے قبل حضرت کا قیام ایک ہفتہ مدرسہ مظاہر علوم ہی میں رہا اور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری اور مولانا الحاج احمد صاحب رامپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام بھی اس زمانہ میں سہار پور ہی رہا۔ یہ چاروں حضرات صبح کی چائے کے بعد مدرسہ کے کتب خانے میں تشریف فرماتے۔ کیونکہ تعلیم اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی اور طلبہ کے کتب خانہ سے کتب لینے کا موقع بھی نہیں تھا۔ کتب خانہ کا دروازہ جوان کی نشست گاہ سے بہت دور تھا اس کی اندر کی زنجیر لگ جاتی اور ان چار حضرات کے علاوہ کوئی شخص اندر نہیں جا سکتا تھا۔ ۱۱½ بجے سے حاجی مقبول احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت کے گویا گھر کے منتظم تھے، کھانا کا تقاضہ شروع کرتے اور نیچے سے آواز دے کر بار بار کہتے کہ حضرت کھانا آگیا ہے۔ ٹھنڈا ہو گیا اور اوپر سے شروع شروع میں تو جواب ہی نہیں ملتا تھا اور پھر دو چار مرتبہ کے بعد حکیم احمد کھڑکی میں سے کہتے کہ ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ ظہر کی اذان کے قریب یہ حضرات اترتے اور جو کچھ ٹھنڈا یا گرم ہوتا اس کو جلدی جلدی نوش فرماتے۔ اسی درمیان میں ظہر کی اذان ہو جاتی۔ نہایت اطمینان سے وضو اور فرائض اور سنتوں سے فراغ پر پھر کتب خانہ میں پہنچ جاتے اور عصر کی اذان پر اترتے۔ بعد عصر البتہ تخلیہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اس وقت چائے ہوا کرتی تھی اور مغرب کے بعد نوافل سے فراغت پر کھانا کھانا اور مہمانوں سے ملاقات کرتا۔ تین چار دن تک یہی سلسلہ رہا جو لوگ ابھی اس حضرت شیخ الہند کی تحریک سے واقع تھے وہ تو ابھی سمجھے ہوئے تھے۔ کہ کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت یہنا کارہ تحریک کا صرف نام ہی نے ہوئے تھا اور اس زمانہ میں بعض جاہدین کی طرف سے میرے والد صاحب کو مدرسہ سے علیحدہ کرنے کی تدبیر بھی ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ والد صاحب سے عرض کیا کہ یہ سب حضرات جناب ہی کے مسئلہ میں گفتگو فرم رہے ہیں؟ میرے والد صاحب نے بہت لمبی لا حول پڑھی اور فرمایا کہ میرا مسئلہ اتنا ہم تھوڑا ہی ہے کہ صبح سے شام تک اس کے اندر محور ہیں۔ یہ تو نہ معلوم کہاں ہیں بہت اوپنجی پرواز کر رہے ہیں۔

### حضرت شیخ الہند اور میرے حضرت کے درمیان بے تکلفی:

ان ہی ایام میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کے ذمے حضرت شیخ الہند کی غیبت میں ان کی تحریک کی سرپرستی تجویز ہوئی تھی اور حضرت سہار پوری کا حضرت شیخ الہند کے ساتھ جانا تجویز

ہوا۔ مگر اس طرح پر کہ علیحدہ علیحدہ سفر ہو۔ اس لیے کہ حکومت کی نگاہ میں دونوں مخدوش تھے۔ خیال یہ ہوا کہ اگر ایک گرفتار ہو جائے تو دوسرا جہاز پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت سہار پوری کی روانگی پہلے ہوئی اور حضرت شیخ الہند کی بعد میں۔ حضرت سہار پوری نور اللہ مرقدہ وسط شوال ۳۳ھ میں سہار پور سے روانہ ہوئے اور ۲۲ ذی قعده ۳۳ھ کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور حضرت شیخ الہند قدس سرہ باوجود رادہ کے اس جہاز سے نہ جاسکے۔ بعد میں تشریف لے گئے۔

یہ میں اپنی طلب علم کے زمانہ میں لکھا چکا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ الہند فرمایا ہے ہیں کہ مجھ سے بخاری دوبارہ پڑھو اور حضرت شیخ الہند کے جنازہ میں شمولیت کو بھی حواسِ ثبات و عجائب قدرت میں لکھوا چکا ہوں۔ شوال ۳۳ھ سے پہلے مظاہر کے جلسے میں ہر سال حضرت شیخ الہند اعلیٰ حضرت رائے پوری اور حضرت تھانوی تینوں حضرات سہار پوری قدس سرہ کی خدمت میں تشریف آوری کا منظر بھی خوب دیکھا۔ اس مجلس میں جمع تو بہت بڑا ہو جاتا تھا لیکن یہ چاروں اکابر ممتاز جگہ پر ایک ہی مقام پر تشریف فرماتے۔ اس میں حضرت شیخ الہند اور حضرت سہار پوری کی نشست تو بہت مساویانہ ہوتی تھی اور گفتگو بھی بہت مساویانہ ہوتی تھی۔ زیادہ ادب و احترام نہیں ہوتا تھا اور اعلیٰ حضرت اقدس رائے پوری اور حضرت اقدس تھانوی کی نشست ان دونوں حضرات کے سامنے موبدانہ ہوتی تھی اور گفتگو بھی بہت موبدانہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کی تشریف آوری جہاز کے یک سالہ سفر سے پہلے جلسے کے علاوہ کبھی کبھی ہوتی رہتی تھی۔ یہ منظر تو میں نے ان چاروں اکابر کے یہاں بہت کثرت سے دیکھا کہ جب کسی ایک کی بھی آمد کی دوسرے بزرگ کے یہاں ہوتی تو میزبان کو اتنی مسرت ہوتی کہ بس قابل دید تھی۔ حضرت سہار پوری کے مزاج میں انتظام اور نظم بہت تھا اور شیخ الہند قدس سرہ کے مزاج میں بے تکلفی بہت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند مع دو تین خدام کے مدرس آئے۔ حضرت سہار پوری قدس سرہ نے فوراً بازار سے مٹھائی مٹنگوائی اور جب وہ آگئی تو حضرت قدس سرہ نے چٹائی بچھوائی اور اپنے دست مبارک سے چمڑے کا دستِ خوان بچھایا اور خود اندر جگہ میں طشتیاں لانے کے واسطے چلے گئے کہ ان میں قاعدہ سے مٹھائی رکھیں۔ حضرت شیخ الہند نے حضرت مدنی قدس سرہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ مولوی حسین احمد اتنے وہ رکابیاں لا میں اتنے اس کو نہیا دو۔ چنانچہ اتنے حضرت سہار پوری رکابی لے کر آئے۔ وہ مٹھائی نہ سٹ پچکی تھی۔ کیونکہ ان کے ساتھ خدام بھی تھے۔ شاید حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی نے ایک ایک مٹھائی کھائی ہو۔ مگر ہم جیسے حریصوں کے لیے تو ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں۔ حضرت سہار پوری نے جگہ سے باہر آ کر ارشاد فرمایا ”ان کے واسطے رکابیاں لاو۔“ اپنا اور حضرت شیخ الاسلام مدنی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔

یہ تو میں پہلے لکھوا پڑکا ہوں کہ حضرت صاحبزادی کی حیات میں حضرت مدینی، پچاجان نور اللہ مرقد ہما اور اس ناکارہ کی حاضری گنگوہ بکثرت ہوتی تھی۔ حضرت مدینی کی تو بہت بھی کثرت سے ہوتی تھی۔ لیکن پچاجان کی مشغولی اور دوری کی وجہ سے کم ہوتی تھی۔ لیکن خواہش پچاجان کی بھی رہتی تھی کہ جب حضرت مدینی اور اس ناکارہ کی روائی ہو تو مجھے بھی اطلاع ہو جائے اگر حضرت مدینی کی فوری تشریف آوری ہوتی تب تو مجبوری تھی۔ لیکن اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ فلاں تاریخ ڈائری کے اندر گنگوہ کی لکھی گئی ہے تو میں پچاجان کو ضرور اطلاع کر دیتا۔

ایک بہت بھی عجیب اور لطیف قصہ ہے ایک مرتبہ ہم تینوں گنگوہ حاضر ہوئے۔ وہاں پہلے سے کسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ پچایعقوب صاحب اور ان کی والدہ حضرت صاحبزادی صاحبہ کو ہم میں سے جو بھی پہنچ جاتا اس قدر مسرت اور عید آ جاتی کہ کچھ انہیں وہ منتظر تک آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے اور اس مرتبہ تو تینوں ساتھ تھے نہایت عجلت میں کئی طرح کے تھوڑے تھوڑے سالمن تیار کیے۔ لذیذ اور جلدی کھانا پکانے میں حضرت صاحبزادی صاحبہ کو یہ طویل حاصل تھا۔ ان کا مشہور مقولہ تھا کہ تم آٹھ آدمی ایک ایک روٹی لے کر بیٹھ جاؤ اگر درمیان میں تارٹوئے تو میرا ذمہ اور ہم لوگوں میں سے اگر کوئی ایک یا سب تنہ ہوتے تو (یعنی کوئی غیر ساتھنہ ہوتا) تو زنانہ مکان میں کھانا کھایا کرتے اور اگر لوگ بھی ساتھ ہوتے تو مردانہ میں کھاتے چونکہ ہم تین سختے لہذا اندر زنانہ میں کھانا کھانے گئے۔ حضرت صاحبزادی صاحب نے خوان میں کئی طرح کے کھانے نکال کر جناب الحاج پچایعقوب صاحب کے ہاتھ بھیجا۔ وہ سالمن رکھ کر گرم گرم روٹیاں لینے گئے۔ حضرت مدینی نے مجھ سے اور پچاجان سے کہا کہ اتنے وہ روٹیاں لا میں سالمن نہیں دیں۔ پھر کیا تھا میرا تو لڑکپن تھا اتنے وہ روٹی لائے۔ سب برتن صاف ہو گئے۔ دیکھ کر حیرت بھی کی اور جا کر کہا کہ اماں جی ان حضروں نے تو سالمن رکھا کھالیا اور وہ روٹی رکھ کر سالمن لائے۔ حضرت نے فرمایا بھی نہیں دیں۔ پھر وہ سالمن لا کر روٹیاں لینے گئے تو سالمن نہیں دیا۔ اس پر حضرت صاحبزادی صاحبہ نور اللہ نہیں دیں۔ پھر وہ سالمن لا کر روٹیاں لینے گئے تو سالمن نہیں دیا۔ اس پر حضرت صاحبزادی صاحبہ نور اللہ مرقد ہاکمرے کے دروازہ پر خود تشریف لا میں اور فرمایا "اے تم تینوں کھلاتے تو ہو حضرت، تمہارا بچپن ابھی تک نہیں گیا۔" حضرت مدینی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ حاجی یعقوب ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ روٹی ہو تو سالمن نہیں سالمن ہو تو روٹی نہیں کھلاتے ہیں یہ مذاق کر رہے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ہو جائیں یا اور کچھ۔ بہر حال آپ کے پنج رہیں گے۔ فرمائے لگیں تمہارے اس بچپن پر میرا بہت بھی خوش ہوا۔ بہت دفعہ حضرت قدس سرہ کے ساتھ خاص طور سے اس نوع کے واقعات اس سے کار کے پیش آئے۔

### چوتھا دور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ:

اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ قد وہ الاتقیاء حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرہ نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مرابتہ کی خدمت میں بھی حاضری کی نوبت کم آئی۔ لیکن حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے زمانہ سے زیادہ ہوئی۔ میری اصالتاً حاضری تو میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد سے حضرت قدس سرہ کے وصال ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۷۴ھ تک رہی لیکن والد صاحب کی حیات میں بھی ان کی ہمکاری میں رب جب ۲۸ھ سے ان کے وصال اذ یقعدہ ۳۳ھ تک بار بار ہوئی۔ اس سے کارکی سب سے پہلی حاضری گنگوہ کے قیام میں جب میری عمر دس گیارہ سال کی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوئی مولانا عبدال قادر صاحب کو پہچاننا تو یاد نہیں۔ حضرت کی کوئی امتیازی حالت بھی اس وقت نہ تھی۔ اتنا یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک خادم سے جو کثرت سے جگہ شریف میں آتے جاتے تھے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ مولوی صاحب جو مٹھائیاں وغیرہ اندر رکھی ہے وہ سب صاحبزادے صاحب کو دے دو اور ان صاحب نے اندر کی جانب جو حضرت قدس سرہ کے جگہ کے غربی جانب دوسرا جگہ تھا اب تو اس کا دروازہ بھی مستقل ہو گیا۔ اس وقت وہ کتب خانہ تھا۔ اس میں کئی ہانڈیاں متفرق مٹھائیوں کی اور نمکین کی رکھی ہوئی تھیں اس سے کارکے حوالہ کر دی تھیں۔ البتہ اس وقت میں حافظ عبدالرحیم صاحب سلمہ جو اس وقت میں حضرت کا کھانا لاتے تھے وہ ضرور یاد ہیں اور ان سے اس زمانہ میں جان پہچان اور دوستی بھی ہو گئی تھی اور اعلیٰ حضرت کے حکم سے اس زمانہ میں نہر کا مخرج یعنی جس پہاڑ سے نہر نکلی ہے (بوجگی والا) اس کی سیر بھی کرانی کئی تھی اور چونکہ میرا پہلا سفر تھا اور بچپن تھا اس لیے بہت سی چیزوں کی سیر کرانی تھی اور چونکہ اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کو تیرنا بہت آتا تھا اس لیے حضرت نے خود تیر کر تیرنا بھی دکھایا تھا اور یہ ناکارہ آل کدو کے توبوں کو بغل میں لے کر چند منٹ تیرا تھا۔ مگر قابو میں نہیں آیا۔ اس کے بعد رب جب ۲۸ھ میں سہار پورا آنے کے بعد سے تو حاضری دن بدن بڑھتی ہی رہی۔ جب بھی اس ناکارہ کی ابتداء بجا اور انتہاء اصالتاً حاضری ہوتی تو حضرت قدس سرہ کے یہاں جو بھی پھل یا مٹھائی رکھی ہوئی ہوتی تو حضرت ارشاد فرماتے کہ مولوی عبدال قادر جو کچھ رکھا ہو صاحبزادے صاحب کے حوالہ کر دو۔ یہ ناکارہ حلواں کی دکان پر ناجی کی فاتح خود بھی کھاتا اور مکتب کے بچوں کو بھی باختہ۔

### رائے پور کار مصان:

اعلیٰ حضرت رائے پوری کے یہاں رمضان مبارک کا جتنا اہتمام دیکھا مشائخ کے یہاں اتنا نہیں پایا۔ ۲۹ شعبان کو جملہ حاضرین سے مصافحہ کر لیتے اور فرماتے کہ بس بھائی، اب عید پر ملیں

گے اور جو لوگ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں رمضان کرنے کے لیے باہر سے آتے تھے ان سے ملاقات کا بالکل وقت نہیں تھا۔ مسجد میں جاتے آتے دور سے حاضرین زیارت کر لیتے مصافحہ یا یا بات چیت کا نمبر عید کے بعد آتا۔ البتہ اخض خدام جیسے مولانا اللہ بخش صاحب۔ مشی رحمت علی صاحب وغیرہ حضرات کو اتنی اجازت ہوتی کہ تراویح کے بعد جب حضرت مولانا عبدالقدار صاحب سادی چائے لے جاتے اور اعلیٰ حضرت ایک دو فنجان نوش فرماتے اتنے یہ حضرات حاضر ہتے۔ البتہ اگر کوئی خاص مضمون شروع ہو جاتا تو کئی کئی گھنٹے لگ جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ حقیقت محمد یہ پر اعلیٰ حضرت نے عشاء کے بعد تقریر فرمائی تو مسلسل کئی گھنٹے کئی دن تک ہوتی رہی۔

ایک دفعہ اس سیہ کارکو والد صاحب کے زمانہ میں (یعنی رمضان ۳۲ھ میں) رائے پور رمضان گزارنے کا شوق ہوا اور والد صاحب نے اجازت بھی مرحمت فرمادی۔ اس لیے کہ والد صاحب کے وصال کے ایک سال پہلے مجھے یہم آزادی مل گئی تھی اور خود میرے ہی سے والد صاحب نے اپنے انتقال سے ایک سال پہلے اعلیٰ حضرت رائے پوری کو خط لکھوا یا تھا کہ اب تک عزیزی زکریا کی زنجیر میرے پاؤں میں ایسی پڑی ہوئی تھی کہ میں کہیں آنے جانے سے معدود رہتا۔ مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ اب آپ جب اور جہاں فرمائیں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت کے ارشاد پر اعلیٰ حضرت اور میرے والد صاحب کا قیام بیٹ رہا اور اس سیہ کارنے بھی والد صاحب کی آزادی پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو ایک عریضہ لکھا کہ یہ ناکارہ حضرت والا کی خدمت میں رمضان گزارنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ازراء شفقت تحریر فرمایا کہ رمضان کہیں آنے جانے کا نہیں ہوتا اور نہ ملنے کا۔ باقی جگہ پر یکسوئی سے کام کرتے رہو۔ اس گستاخ نے دوبارہ خط لکھا کہ صرف اخیر عشرے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ اس کا جواب آیا وہ اتفاق سے میرے کاغذات میں مل گیا۔ جس کو تبرکات نقل کر رہا ہوں۔

”بر خوردار مولوی زکریا سلمہ اللہ۔ از احرقر عبد الرحیم بعد سلام مستون و دعا۔“

تمہارا خط پہنچا مضمون معلوم ہوا۔ جو سبب شروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہے وہ اخیر ماہ میں بھی موجود ہے۔ باقی تم اور تمہارے اپا جان زبردست ہو۔ ہم غریبوں کی کیا چل سکے۔ یہ تمہاری زبردستی ہے کہ جو اس وقت ماہ مبارک میں تم کو جواب لکھوارہ ہوں۔ باقی جو ذکر و شغل حضرت مولانا سلمہ نے تلقین فرمایا ہے وہی کرنا چاہیے۔ عاشہ کو دعا، تمہاری والدہ مکرمہ کی خدمت میں سلام بخدمت جناب مولانا مولوی یحییٰ صاحب السلام علیکم۔“

رقم عبد الرحيم

از رائے پور

یہ خط حضرت قدس سرہ کے بھانجے مولانا اشfaq صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم کا لکھا ہوا تھا۔ ان کی طرف سے یہ اضافہ تھا۔ ”از محمد اشFAQ عفی عنہ السلام علیکم واقع میں ہوز بر دست اس میں کچھ شک نہیں۔ فقط۔“ مگر میرے والد صاحب نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی یکسوئی میں فرق پڑے گا اور حضرت کو تیرے کھانے پینے کا فکر رہے گا۔ اس لیے حضرت کا حرج نہ کرو اور یہ میرے والد صاحب نے بالکل صحیح فرمایا تھا۔ حضرت اقدس شاہ عبدال قادر صاحب قدس سرہ کے اہتمام کو جو اس ناکارہ کی حاضری پر ہوتا تھا بہت سے لوگ دیکھنے والے اب بھی موجود ہیں یہ سب کچھ اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کے تعلق کا شمرہ اور عکس تھا اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس ارشاد کا رد عمل حضرت رائے پوری ثانی نے کیا کہ جو رمضان رائے پور میں ہوتا حضرت کی خواہش ہوتی کہ یہ ناکارہ رائے پور حاضر ہو مگر بدستی سے نفس امارہ دینی اعذار کا مٹنا سامنے کھڑا کر دیتا۔ لیکن حضرت قدس سرہ کی حیات کا آخری رمضان اس وجہ سے کہ اس زمانے میں ہفتے کے تین دن رائے پور گزرتے تھے اور چار دن سہار نپور اس لیے رمضان بھی نصف سہار نپور گزرانصف رائے پور۔ مگر اللہ کے محبوبوں کی شفقت سے بھی اس سے کرنے کچھ نہ لیا۔“

میرے والد صاحب قدس سرہ کے انتقال کے بعد میں اپنی مدرسی کے ذیل میں لکھ چکا ہوں کہ ایک جانب تو اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ نے مدرسہ میں یہ سفارش کی کہ پندرہ روپے تینوہ کم ہے کم از کم پچیس روپے ہونا چاہیے اور دوسرا یہ جانب اس سے از راہ شفقت و محبت ارشاد فرمایا کہ مدرسہ کی تینوہ خطرہ کی چیز ہے جب اللہ توفیق وے چھوڑ دیجیو۔ حضرت قدس سرہ کی ہی توجہ اور شفقت کا اثر تھا کہ اللہ نے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمادی۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مدرسہ کے خزانچی کا ایک واقعہ تفییش کا پیش آگیا۔ ہر وقت اس کے متعلق کچھ مسامی ہو رہی تھیں اس کا بہت فکر تھا۔ حضرت نے استفسار فرمایا اس میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی حماقت سے حضرت کے استفسار پر یہ لکھ دیا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد اب ان امور کی اس ناکارہ کو اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور انعام سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بہت بھی بلند درجے عطا فرمائے کہ میرے اس احمقانہ جواب پر حضرت قدس سرہ رائے پور تشریف لائے اور مجھے علیحدہ بٹھا کر یہ سارا واقعہ بڑی تفصیل سے سنایا۔

میں بلا لفظ اور بلا مبالغہ لکھواتا ہوں اس میں ڈر انور یہ یا مبالغہ نہیں کہ جب بھی یہ منظر یاد آتا ہے سناتا چھا جاتا ہے۔ خبر نہیں کیا حماقت کی تھی۔ میں اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد تقریباً چھ ماہ تک ان کو بہت بھی کثرت سے خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ دن ہو یارات اور اکثر خواب اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں لکھا کرتا تھا۔ اس لیے کہ اپنے حضرت قدس سرہ سے ڈرتا تھا اور

اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کی بارگاہ میں ان کی شفقتوں کی وجہ سے بہت گستاخ تھا اور میری ان حماقتوں پر حضرت قدس سرہ اس قدر تبسم اور مسرتوں کا اظہار فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ گستاخیاں بھی معلوم نہ ہوئیں۔ خواب تو بہت سے یاد ہیں اور میرے انبار میں خطوط بھی اعلیٰ حضرت رائے پوری اور دیگر اکابر کے تو ہزاروں ملیں گے:

چند تصویری ہتاں چند حسینوں کے خطوط  
بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساماں لکھا

ایک مرتبہ اس سے یہ کارنے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب نے مجھے خواب میں تین کتابیں دیں۔ کافیہ، شافیہ، مقامات، میرے حضرت قدس سرہ تو اس وقت نیتی تال جیل میں تھے۔ اس لیے میں نے حضرت رائے پوری قدس سرہ کی خدمت میں لکھا۔ حضرت کا جو جواب آیا وہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے۔ حضرت نے تحریر فرمایا:

برخوردار مولوی زکریا سلمہ۔ از احقر عبد الرحیم السلام علیکم ورحمة اللہ

”تمہارے دو خط مولوی عبد القادر صاحب کے نام آئے۔ میری معدودی جو باعث تاخیر جواب ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اب مختصر اعرض کرتا ہوں پہلے خواب کی تعبیر۔ ہر چیز کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ فقط ایک جملہ خلاصہ ہے۔ اس کی تعبیر جواب پنے خیال میں آئی وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ صرف یہ ہے کہ کافیہ، شافیہ اور مقامات امانت کو معیشت کافیہ و حالہ شافیہ و مقامات السلوک والوصول۔ یہ تینوں بشارتیں حق تعالیٰ نے تمہاری طبیعت میں ودیعت رکھی ہیں۔ جواب پنے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوں گی دوسرے خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ سب قصہ ہی دنیا کا چند روزہ ہے۔ خصوصاً عالم آخرت کے مقابلہ میں تو ساری دنیا کی عمر ہی کچھ نہیں۔“

میں نے اعلیٰ حضرت کو یہ واقعہ بھی لکھا تھا کہ کثرت سے جب سوتا ہوں والد صاحب کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ اس کا جواب اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تو اس وقت سامنے نہیں۔ مگر اس کے متعلق حضرت مولانا عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک کارڈ سامنے ہے۔ جو حسب ذیل ہے:

سیدی و مولائی حضرت دام مجد کم۔ از احقر عبد القادر۔ السلام علیکم ورحمة اللہ۔

”والا نامہ شرفِ صدور ہو کر باعثِ سرور ہوا۔ حضرت تعجب کی کیا بات ہے۔ مجھے جیسوں کو پوچھتا ہی کون ہے اور کس کو جواب نہیں دیتا ہوں۔ جناب بھی بوجہ اس تعلق کے جو کہ حضرت مرحوم مغفور (یعنی میرے والد صاحب) کے ساتھ تھا یاد فرماتے ہو۔ جس کا یہ ناکارہ نہایت ممنون ہے اور باعثِ سعادت دار ہیں سمجھتا ہے۔ نصف اخیر خط کا پورا خواب حضرت قدس سرہ کو سنایا اور دوبارہ جناب کو جواب لکھوانے کی یاد دہانی بھی کر دی۔ یہ کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ جناب کو جواب کب

لکھوا یا جائے گا۔ تعبیر تو جو حضرت اقدس لکھوا دیں گے وہ ہوگی۔ اپنا خیال یہ ہے کہ آنحضرت پریشان نہ ہوا کریں۔ شخص یہ ہے کہ حضرت مرحوم کی روحانیت متوجہ ہے جس کی بڑی خوشی ہے چونکہ وہ یقیناً مصطفیٰ اور کثافت سے بالکل مبڑا ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا جواب ملتا ہے جناب کے خیالات اور تفکرات کا عکس ہے۔ جب خود آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بات ہی کیا ہے خام خیالی ہے۔ اصل بات تو وہ ہوگی جو کہ حضرت قبلہ لکھوا دیں گے۔ بس اتنی عرض ہے کہ احقر کو ایک تالاق خادم سمجھا کجھے۔ کچھ نہیں فقط آپ لوگوں کا سہارا ہے۔“

ایک بات یاد آگئی جو کہ بہت اہم ہے اور بہت قابلِ اہتمام دوستوں کو خاص طور سے اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس کا ضرور اہتمام رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے: ”جو شخص کسی کو کسی گناہ کے ساتھ عاردلا تا ہے۔ وہ مر نے سے پہلے اس میں ضرور بنتا ہوتا ہے۔“ یہ مضمون میرا بہت ہی مجرب ہے اور بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ دوستوں کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کو کسی گناہ پر عاردلا نا بڑی سخت چیز ہے۔ اس کو نصیحت کرنا۔ اس کو تعبیر کرنا امر آخر ہے اور اس کو عاردلا نایا ذیل کرنا امر آخر ہے اس سے بہت ہی بچیں۔ اس وقت یہ حدیث پاک اس خاص واقعہ پر یاد آئی۔

یہ سیہ کاراپنی حماقت سے اپنے بچپن میں جب یہ دیکھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے دانت بالکل نہیں اور حضرت تمبا کو کے ساتھ پان تناول فرماتے تو اس کو چار پانچ منٹ میں ویسے کے دیسے نکال کر اگالدان میں ڈال دیتے تو میں اپنی حماقت سے یہ سوچا کرتا تھا کہ ان کو پان کھانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے۔ حضرت قدس سرہ کے یہاں پان توڑ کر کھانے کا دستور نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا پان بغیر چھالیہ کے کھاتے اور تھوڑی دیر بعد ویسے کے دیسے اگالدان میں بچینک دیا کرتے تھے۔ اب میں اس حماقت کو دس برس سے بھگت رہا ہوں۔ دانت ٹوٹ گئے اور پان کا مرض ہے، بہت باریک باریک تکڑے کر کے کھاتا ہوں تو اپنے آپ کو بڑی ملامت کرتا ہوں کہ تجھے پان کھانے کی کیا مصیبت ہے۔

بات میں بات یاد آتی ہے اور اس قسم کی باتیں لکھوانے کو بھی جی چاہتا ہے۔ آپ بینی تو فضول ہی لکھوائی، مگر اس قسم کی باتیں بہت مفید اور کارامد ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب قدس سرہ کے انتقال پر چند واقعات بڑے عجیب پیش آئے۔ تقریباً چھ ماہ دن میں یارات میں جب بھی میں سوتا تھا، والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا تھا اور خواب میں خوب محسوس ہوتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت سی باتیں ان سے عنوان دریافت کرتا کہ ایک بات جلدی سے یہ بتا دیجئے پھر تو میری آنکھ کھل جائے گی۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے حضرات بھی تعریت کے لیے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف قبور کی دولت سے نوازا تھا۔

چنانچہ ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ”مولانا تجھی صاحب نے چند پیغامات دیے ہیں۔

(۱)..... میرے قرض کی بالکل فکر نہ کر، کیونکہ مجھ پر اس کا بالکل بارہیں۔

(۲)..... فلاں شخص کی وجہ سے مجھ پر کوئی گرفت نہیں اس کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔

(۳)..... ”اللہ والوں سے ڈرتے رہا کرو، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔“ پہلے دونوں تو بالکل صحیح ہیں میری سمجھ میں بھی آگئے۔ کیونکہ مجھے والد صاحب کے قرض کی بہت فکر تھی کہ ان پر ان احادیث کے بارے میں جو مقرض کے لیے وارد ہوئی ہیں کوئی گرفت نہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد پچا جان کے مشورے سے سب لوگوں کو خطوط لکھ دیے کہ ان کا قرضہ میری طرف ہے۔ جس کا بیان والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے سلسلہ میں باب چہارم حادث میں گزر چکا۔ (۲) بھی سمجھ میں آگیا کہ ایک صاحب کو میرے والد صاحب سے بعض پیدا ہو گیا تھا اور وہ حضرت کے یہاں بہت مقرب تھے اور ان کے متعلقین پچا جان تو رالہ مرقده اور اس ناکارہ سے بہت خفا تھے، اسی کے شہر میں پچا جان اور اس ناکارہ کو حضرت قدس سرہ پری، آئی، ڈی جاتے اور میرے سبعد معلقہ کی ابتدائی تدریس میں ان سب دوستوں نے بہت مخالفت کی تھی۔ ایک عرصہ بعد والد صاحب کا یہ ارشاد بھی دیکھ لیا۔ کیونکہ وہ صاحب حضرت کے یہاں سے پھر معتوپ بنا کر نکالے گئے اور جب اس ناکارہ نے حضرت قدس سرہ کے یہاں ان کی سخارش کی تھی تو حضرت قدس سرہ نے بڑے تعجب سے فرمایا تھا کہ تم بھی اس کی سخارش کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا ہاں حضرت ضرور کرتا ہوں کہ حضرت کی ناراضی سے اس کا دین خراب ہو جائے گا۔ لیکن (۳) کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ الٹی تو بہر حال الٹی ہے، لیکن اب اجاں کا یہ ارشاد کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہو، ان کی الٹی بھی سیدھی ہے سمجھ میں نہیں آیا۔

۲۴۵ میں جماز سے واپسی پر حضرت قدس رائے پوری ساتھ تھے، میرے مرشد میرے حضرت قدس سرہ نے حضرت رائے پوری کی زبانی مدرسہ میں حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام بھیجا کہ فلاں شخص کے متعلق تمہارا رویہ مناسب نہیں۔ حضرت رائے پوری نے حضرت ناظم صاحب کو یہ پیام پہنچا دیا۔ حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ فلاں شخص حضرت کو جھوٹی شکایت لکھتا ہے۔ میری طرف سے اس پر کوئی زیادتی نہیں۔ میرے نزدیک حضرت ناظم صاحب کا یہ جواب بالکل صحیح تھا کہ یہ شخص بہت جھوٹی شکایت حضرت ناظم صاحب کی لکھتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب قدس سرہ حضرت ناظم صاحب کے اس جواب پر کچھ خوف زدہ

سے ہو کر ساکت ہو گئے۔ مجھے اپنے والد صاحب کا یہ کشف والا پیام (۳) یاد آیا۔ میں نے حضرت رائے پوری کو یہ کشف والا مقولہ سنایا کہ اس کا مطلب کبھی سمجھ میں نہیں آیا اور اس وقت حضرت ناظم صاحب کے جواب پر میں نے آپ کو کچھ خوف زدہ دیکھا حالانکہ حضرت ناظم صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ حضرت کا یہ ارشاد اس شخص کی جھوٹی شکایت پر منی ہے۔ حضرت رائے پوری نے میرے اس اشکال کے جواب میں بہت ہی صحیح فرمایا کہ یہ تو تم نے صحیح کہا کہ اُٹی بات بہر حال اُٹی ہے، لیکن اہل اللہ کے قلوب میں اگر کسی سے تکدر پیدا ہو جائے خواہ کسی غلط بات کی ہی وجہ سے پیدا ہو تو ان کے پاک دل کا تکدر رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ اس شخص کو کسی مصیبت میں پھانس دیتا ہے، یہ بات میری خوب سمجھ میں آگئی اور ان کے نظائر بھی دیکھے۔ اس لیے میں اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کشفی پیام دوستوں کو ضرور اہتمام سے پہنچاتا ہوں کہ ان اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا۔ ان کے دل میں تمہاری طرف سے تکدر نہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے دوستوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ غالباً میں اپنے رسالہ الاعتدال میں بھی اس نوع کا ایک مضمون لکھوا چکا ہوں کہ کسی شخص کا معتقد نہ ہونا امر آخر اور اس کی مخالفت اور بے ادبی امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں میں سے کسی کے معتقد نہیں ہوتے نہ ہو۔ مگر اس کی مخالفت یا کوئی حرکت جس سے اس کے دل میں تکدر پیدا ہو بہت پچنا۔

بات پر بات یاد آتی ہے اور کہیں سے کہیں نکلی چلی جاتی ہے۔ میں تو اعلیٰ حضرت رائے پوری کی شفقتیں لکھوا رہا ہوں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی حاضری کا موقع باوجود وہ اس کے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا زمانہ حضرت شیخ الہند کے زمانہ سے زیادہ پایا۔ لیکن بذل کے شروع ہو جاتے کی وجہ سے حاضری کا موقع کم ملا۔ لیکن جتنا بھی ملا اس میں حضرت کی شفقتیں بہت زیادہ رہیں۔ آپ بیتی نمبر اکے صفحہ ۸ پر لکھوا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ نے مولانا میر شفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشورہ پر مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں کتب خانہ لے کر میرٹھ متعلق ہو جاؤں اور میرے اس جواب پر کہ ”میری یہ تمنا ہے کہ حضرت سہار پوری کی حیات تک کہیں باہر نہ جاؤں۔“ حضرت رائے پوری نے انتہائی سرست سے فرمایا کہ بس بس اور انتہائی سرست کے ساتھ مجھے اتنی دعا میں دیں کہ جن کا مشاہدہ اب تک خوب کر رہا ہوں۔ اس سے کار کا دستور تقسیم ہند سے پہلے زندوں اور مردوں کی طرف سے قربانی کے شخص کی کثرت کا بہت تھا۔ آٹھ دس گاہیں تو مستقل خود میری ہی ہوتی تھیں اور جس کی گائے میں ایک آدھ حصہ نجج جاتا تھا۔ اس کے لیے عام دستور تھا کہ وہ مجھے اطلاع کرے اور میرا حصہ اپنے بیہاں کر لے۔ نبی، سلوکی، علمی، مشائخ، خصوصی صحابہ کرام، ائمہؑ، فقہ، ائمہؑ حدیث، غرض جنہی بھی گنجائش ہوا کرتی مجھے حصہ لینے میں انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے

ساتھ یہ بھی شوق تھا کہ اکابر کے جانوروں میں میرا حصہ ہو جائے۔ حضرت اقدس سہار پوری اعلیٰ حضرت رائے پوری اور عجیب بات یہ کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے جانوروں میں بھی ایک ایک حصہ ہوتا تھا۔ جس کے گوشت وغیرہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں، وہ جس طرح چاہیں تصرف فرماویں۔ حضرت رائے پوری ثانی نے تو اس کا رد عمل یہ کیا کہ مستقل ایک جانور میری طرف سے حضرت خود کیا کرتے تھے چاہے رائے پور میں ہوں چاہے پاکستان میں۔ رائے پور کے قیام میں حضرت کا ارشاد ہوتا تھا کہ میں ۱۲ کو ضرور پہنچوں اور جانور میرے سامنے ہی ذبح ہو۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کے زمانے کا ایک کارڈ چونکہ نظر پڑ گیا، وہ بھی درج کر رہا ہوں، جو حسب ذیل ہے:

سیدی و مولائی حضرت دام مجدد کم، از احقر عبد القادر السلام علیکم و رحمۃ اللہ

”والا نامہ شرف صدور ہو کر باعث افتخار خاکسار ہوا۔ مضمون حضرت اقدس سلمہ کی خدمت شریف میں عرض کیا۔ بلکہ کچھ بلفظ پڑھ کر سنایا یہی جی چاہا اور اپنے نزدیک یہی مناسب سمجھا۔ وقت بھی مناسب ملا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یوں خدمت والا میں لکھ دے کہ بندے کی سعادت تو ہے، یا سعادت جانتا ہے۔ غرض حضرت اقدس سلمہ نے اس گائے میں جو یہاں آنحضرت والا صفات بوساطت شاہ صاحب ارسال فرمائیں گے۔ ایک حصہ کی شرکت قبول، بخوبی فرمائی۔ اب احقر عرض پرداز ہے، حضور پُر نور نے اس کی تفصیل نہ تحریر فرمائی، آیا وہ حصہ حضور انور اپنی طرف سے حضرت اقدس سلمہ کو عطا فرمائے ہیں یا قیمتی حضرت سلمہ خریدیں گے۔

یہ آپ کا غلام غبی بہت ہے، پوری بات نہیں سمجھتا، حضرت خفانہ ہوں اور دعا سے فراموش بھی نہ کیا جاؤں، آخر آپ ہی کا ہوں جیسا بھی ہوں۔ حضرت سلام فرماتے ہیں اور طبیعت بدستور سابق ہی ہے۔ تین چار روز سے شب کو کسی قدر حرارت ہوتی ہے۔“

اس خط پر رائے پوری کی مہر ۶ ستمبر ۱۸۴۱ء کہ ہے جو قمری حساب سے ذی الحجه ۳۶ھ بنتا ہے۔ ایک خط اور بھی اس وقت میرے سامنے ہے۔ ذخیرہ تو جیسا کہ بار بار لکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد ہے، اس وقت اتفاق سے ایک لفافہ سامنے آگیا، جس میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کے خطوط ہیں۔ ہیں تو بہت سے جن میں سے چند کا نمونہ اندرج کرایا۔ ایک خط حسب ذیل ہے:

سیدی و مولائی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سلمہ، از احقر عبد القادر السلام علیکم و رحمۃ اللہ

”والا نامہ شرف صدور ہوا۔ اللہ تعالیٰ جناب کو صحبت عاجله عطا فرمائے۔ جناب کا خط حضرت اقدس سلمہ کو سنانے لگا۔ اس قدر بھی آئی پورا خط سنانہ سکا۔ دو دفعہ کر کے بمشکل سنایا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی خط مولوی زکریا کا میرے پاس نہیں آیا۔ البتہ مولوی الیاس کے خط آئے۔ ان کا

جواب بھی لکھوادیا گیا۔ باقی ویے خط مولوی زکریا کو اس وجہ سے لکھا کہ اکثر آدمی آتے رہتے ہیں، ان سے خبر ملتی رہتی ہے اور یہاں سے بھی پوچھوا بھیجا گیا۔ چنانچہ مولانا عاشق اللہ صاحب بھی گئے ہیں ان کے ہاتھ سلام وغیرہ کہلا بھیجا گیا۔ حضرت اقدس سلمہ کو بھی کئی روز سے بخار آرہا ہے اور ضعف بہت ہے۔ نماز میں بھی قیام بتکلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب کو جلد صحبت عطا فرمائے۔ جناب کی زیارت کو جی چاہتا ہے، دیکھئے کب ہو آج کل ڈاک کے مدارالمہام مخدوم مکرم حضرت ملا جی صاحب سلمہ ہیں۔ واقعی جناب نے خوب پوچھا۔ بزرگ تو بڑے ہیں۔ خطوط بھجوانے کی کچھ زیادہ حاجت نہیں سمجھتے۔ جس کسی کو کچھ کہنا ہو خود آکر بالمواجہ کہو۔ دور دور سے تیر چلانا کچھ حضرت ملا جی کو بھاتا ہیں۔ حضرت اقدس مدظلہ اور مولوی الیاس صاحب وغیرہ کو دست بستہ سلام و دعا۔

### رائے پور کی مسجد باغ کا افتتاح:

جب باغ کی تعمیر ہوئی تو اس کے افتتاح کے لیے اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ نے میرے والد صاحب کو بلا یا اور بہت تاکیدی خط ایک ڈاک میں ایک دستی روائہ فرمائے۔ جس میں بہت تاکید سے مسجد کی افتتاح کے لیے بلا یا گیا تھا اور یہ لکھا تھا کہ ضرور آنا ہوگا۔ کوئی عذر مسون نہ ہوگا۔ میرے والد صاحب اس کی تعمیل میں تشریف لے گئے۔ یہ ناکارہ بھی ساتھ تھا۔ بیٹ تک تو تانگہ تھا اور اس کے بعد پاؤں تشریف لے گئے دھوپ بڑی تیز تھی۔ آدمی پڑی پر جا کر لیٹ گئے۔ مجمع دیہات کا بہت پڑی پر گزر رہا تھا، جانے والوں سے دو تین منٹ کے بعد پیام بھیجتے کہ آدھے راستے تو پہنچ گیا ہوں، اگر دیر ہو جائے تو تھوڑا انتظار فرمائیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ۲ بجے کے قریب پہنچتے تھے۔ غسل فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے جوڑا منع عمامہ کے تیار کر کھا تھا۔ اسے پہن کر جماعت کی نماز پڑھائی۔ جس وقت میں یہ خط سن رہا تھا مکرم محترم جناب الحاج حافظ عبد العزیز صاحب مکملہلوی میرے پاس تشریف فرماتھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں خطوں کی مجھے ضرورت ہے۔ میں نے بصد احترام پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس لفاظ میں کئی تو ملے، دوستوں کا اصرار جس کے نقل پر ہوا، وہ کرادیے۔ ایک خط میرے والد صاحب کے انتقال پر جو حضرت نے تحریر فرمایا وہ یہ ہے:

برخوردار مولوی زکریا سلمہ از احقر عبد الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ

”اس وقت گیارہ نج کریں منٹ پر تار جو بیٹ شاہ صاحب کے پاس آیا تھا، بندہ کے پاس حاجی غلام محمد صاحب لے کر آئے۔ جس سے اچانک اس حادثہ عظیمہ انتقال مولانا محمد سیجی صاحب کی خبر معلوم ہو کر سکتہ کی حالت ہو گئی۔ طبیعت پر ایک ایسی حیرت ہے جو تحریر میں نہیں آسکتی

ہے۔ مشیت ایزدی میں کسی کو خل نہیں۔ وہ مالک مختار ہے وہ اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اس سے جلد اطلاع دو کہ مرض پیش آیا۔ اس فوری حادثے سے ایک سخت حیرت ہے۔ میں اسی وقت یہاں سے چل دیتا مگر اپنی حالت کی وجہ سے سخت مجبور ہوں۔ اس وقت زیادہ کیا لکھوں۔“

راقم عبد الرحیم از رائے پور

بروز شنبہ

بوقت گیارہ نج کریں مت

اسی سلسلہ کا دروس روا الانامہ:

بر خوردار مولوی محمد زکریا سلمہ اللہ تعالیٰ، از احقر عبد الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ

”یہ حادثہ ایسا ہے کہ جس نے طبیعت کو بہت مُضھل کر دیا۔ مجھ کو تو صدمہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ مگر یہاں پر مرد و عورت جس کسی نے سائب کو صدمہ ہے۔ بجز صدمہ انٹھانے کے اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ طبیعت بے اختیار ہے اور تمہارے پاس آنے کو طبیعت چاہتی ہے، مگر اس وجہ سے فوراً حاضر نہیں ہو سکا کہ ضعف اس درجہ کا ہو گیا کہ کھڑے ہوتے ہوئے چکر آتا ہے۔ اندیشہ گرنے کا ہوتا ہے۔ مسجد تک جانے میں مغرب اور عشاء اور صبح کو بغیر دوسرے شخص کے پکڑے جا آنہیں سکتا ہوں۔ ادھر شاہ صاحب چلنے پھرنے سے معدود ہیں۔ ان کی صحت کی حالت میں سواری کا انتظام بسیولت ہو جاتا تھا۔ اب ایسی سواری دستیاب نہیں کہ جس میں رائے پور سے بہت تک پہنچوں۔ عنقریب ارادہ کر رہا ہوں کہ کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ یہی گاڑی کی حرکت سے دماغ پر ایک ایسا اثر پہنچتا ہے کہ جس کی تاب نہیں لاسکتا ہوں۔ اگرچہ یہ صدمہ تو ایسا ہے کہ تم کو تو لکھنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ مگر آخر مشیت ایزدی پر صبر کرنا اور راضی بر پسار ہنا اس کے سچے بندوں کا کام ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ تمہاری یہی حالت ہوگی۔

اپنی والدہ صاحبہ اور ہمیشہ صاحبہ کی جہاں تک ہو سکے تسلی کرو اور صبر اور راضی برضا ہونے کا ان کو اجر سناؤ۔ اگرچہ عنوان اس صدمہ کا بہت وجہ سے بہت بڑھا ہوا ہے مگر آخر ہمیں تمہیں سب کو پس و پیش یہی راہ طے کرنا ہے۔ مالکِ حقیقی اپنے جو چاہے کر لے کسی کو مجالِ دم زدن نہیں، رضا و تسلیم بندوں کا کام ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ یہیں معلوم ہوا کہ کیا مرض پیش آیا اور کس وقت انتقال ہوا۔ عاشش کو بہت بہت دعاء اور اپنی والدہ مکرمہ کی خدمت میں سلام و دعاء عرض کر دینا۔“

از جانب مولوی عبد القادر صاحب ملا جی صاحب و مولوی رستم علی صاحب و مولوی سراج الحق صاحب بعد سلام مسنون مضمون واحد ہے۔

راقم عبد الرحیم

از رائے پور، بروز اتوار

اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کو میرے والد صاحب کے بُلانے کا اتنا ہی اشتیاق و اصرار رہتا تھا، جس کا نمونہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس سیدہ کار کو بُلانے پر اصرار کے دیکھنے والے ابھی بہت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصرار اور خواہش یہ ہتھی کہ میرے والد صاحب کثرت سے بار بار رائے پور جائیں اور خوب ٹھہریں۔ اسی کا اتباع حضرت رائے پوری ثانی نے اس سیدہ کار کے ساتھ کر کے دکھایا، بلکہ اس سے زیادہ کر دکھایا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک خط میرے والد صاحب کے نام و وستوں کے اصرار پر اس سلسلہ کا لفظ کرا رہا ہوں:

الحمد و المکرم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب مد فیوضہم، از الحقر عبد الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ "آپ سے ملنے کی غرض سے بہت آنے کو بہت جی چاہتا رہا۔ مگر اول تو سواری اختیاری نہیں ہے۔ دوم یہ کہ شاہ صاحب کو احقر کے جانے پر اور پر کا کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے کہ جس میں وہ خود تشریف رکھتے ہیں۔ بہت آپ کا تشریف لانا طمائیت کا ہوتا فرمادیں، تاکہ بہت حاضر ہونے کا قدر کروں۔ ایسا تو ہونیں سکتا کہ آپ جمعرات کو تشریف لا جائیں اور جمعہ کو واپس ہونے لگیں۔ اس صورت میں تو مجھے آنے جانے کی ہی بہت تکلیف ہو گی۔ طمائیت سے ٹھہرنا ہوتا تشریف لا جائیں۔"

رقم عید الرحمٰم از رائے پور

۵ ذیقعده ۱۳۳۲ھ

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو میرے والد صاحب سے بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ ۲۸ھ کے سفر میں بہت ہی خواہش اور تمنا رہی کہ والد صاحب کو حج میں ساتھ لے جائیں اور والد صاحب بھی تیار تھے۔ میکے وغیرہ لگوا لیے تھے۔ عین وقت پر کچھ ایسی مجبوریاں پیش آئیں کہ والد صاحب کو سفر ملتوی کرنا پڑا۔

ایک دفعہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے میرے والد صاحب سے ارشاد فرمایا کہ پنجاب کا ایک لمبا سفر ہے اور اعلیٰ حضرت رائے پوری کا سفر بھی حضرت مدنی کی طرح سے گھوڑے سوار نہ ہوتا تھا بلکہ حضرت رائے پوری ثانی کی طرح سے نہایت اطمینان کا ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا تھا۔ مگر اس سفر میں چونکہ میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو مشقت تو بہت اٹھائی پڑی لیکن سفر بہت طویل اور اپنی عادت شریفہ کے خلاف عجلت کا ہوا، جس پر مجھے بھی بہت قلق ہوتا تھا۔

اعلیٰ حضرت نے میرے والد صاحب سے فرمایا کہ یوں جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پنجاب کا سفر تو حضرت بھی فرمائیں، بہت سے مشائق ایسے ہیں جو آنہیں سکتے۔ حضرت گنگوہی کے خدام بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ جناب کی زیارت کے بھی مشائق ہیں۔ میرے والد نے تین شرطوں کے ساتھ قبول فرمایا۔ پہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نقد ہدایا آئیں تو وہ میرے والد صاحب کے کھانے پینے

اور کپڑے قسم کی جواشیاء ہوں وہ حضرت کی۔ دوسرے یہ کہ ہر جگہ پر کھانے اور آرام کرنے میں میرے والد صاحب آزاد ہوں گے، حضرت کے پابند نہ ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ میں واپسی میں ہمراکابی کا پابند نہیں ہوں، جہاں سے میرا جی چاہے گا واپس آجائوں گا۔ حضرت اقدس نے تینوں شرطیں منظور فرمائیں۔ یہاں کارہ بھی ہمراکاب تھا۔

پہلی منزل یہاں سے انبارہ ہوئی۔ حافظ صدیق صاحب کے مکان پر قیام ہوا۔ اس کے بعد خانپور، لدھیانہ، جگراوں، رائے پور گوجران تک یہ سفر ہوا۔ ہر جگہ جہاں جانا ہوتا سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صاحبزادے اور حضرت کا بستر الگ کر دو، پہلے چار پائی اور بستر وغیرہ بچھوا کر میرے والد صاحب کو وہاں لٹوادیتے۔ یہاں کارہ شوق میں حضرت کے ساتھ رہتا۔ ہر جگہ پر ہزاروں کا مجمع حضرت کو گھیر لیتا۔ مصاقبوں اور بیعت کی اس قدر بھرمار ہوتی کہ کچھ انہیں نہیں۔ کھانا تو میرے والد صاحب کو علیحدہ کھانے کی نوبت نہیں آئی اس میں تو اعلیٰ حضرت کی شرکت ہوتی تھی، لیکن لیٹنے میں کبھی ساتھ نہ ہوا اور اعلیٰ حضرت کو بعض مرتبہ تو کئی کئی دن رات لیٹنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ رنجہ اور نیل گاڑیوں میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور تیسرا گاؤں۔ بعض مرتبہ تو چوبیس گھنٹے میں تین چار گاؤں نمٹا دیتے۔ میں تو بچھا کیا تھکتا۔ مگر اعلیٰ حضرت قدس سرہ پر تکان اس قدر محسوس ہوتی تھی کہ کچھ حد نہیں ہے اور تکان کا کیا قصور صبح کی نماز پڑھ کر ایک جگہ سے چلے اور خدام و عشاقدیکنوں کی تعداد میں گاڑیوں کے دونوں اطراف پروانہ وار خوشی خوشی میں جھومنتے بھاگتے دوڑتے چلتے تھے۔ دوسرے گاؤں میں پہنچتے تو میرے والد صاحب تو لیٹ جاتے اور اعلیٰ حضرت عشاقدیکن کے بجوم میں بیٹھ جاتے تھے۔ کہیں لسی کا دور کہیں چائے کا دور چلتا۔ حضرت تو ایک دو گھونٹ پی کر چھوڑ دیتے۔ مگر مجمع کی کثرت کی وجہ سے چائے کا دور بھی دیر تک چلتا اور لسی کا بھی۔ مگر حضرت قدس سرہ اتنی دیر مصافی اور بیعت سے نہ کر کر انگلی منزل کے لیے گاڑی میں تشریف رکھتے۔ یہاں کارہ بھی حضرت قدس سرہ کی گاڑی میں ہوتا اور بھی اپنے والد صاحب کی، اسی سفر میں رائے پور گوجران میں حضرت مولانا احمد الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی میرے والد صاحب نے پڑھایا تھا۔

رائے پور گوجران کے قریب کوئی دریا تھا جس پر کشتیوں میں بیٹھ کر عبور ہوا تھا۔ ادھر کی گاڑیاں ادھر ہی رہ گئی تھیں اور رائے پور گوجران سے ہزاروں کی تعداد میں پیادہ اور پیچاس بنا شدھ گھوڑیاں بڑی خوبصورت جواب تک نگاہوں میں پھر رہی ہیں۔ ان کو دیکھ کر اس لاپچی کے منہ میں پائی بھر گیا۔ کہ گھوڑی پر بیٹھیں گے چڑھنا آتا نہیں تھا۔ ایک نہایت اوپنجی گھوڑی نہایت ہی سفید جس پر کالے دھبے۔ اس قدر خوشما قریب قریب گویا چستکبری اس پر اینجا نب رحمہ اللہ تعالیٰ

والغفران نے بیٹھتے ہی ایڑا مار دی اور وہ ایسی بے تحاشہ دوڑی کہ اپن تو چار جامد کے اوپر سر بجود ہو گئے اور اس نے دریا کا رخ کر لیا۔ مگر اللہ رے پنجابی نوجوان میں پچیس شہسوار ایک دم انہوں نے اپنی گھوڑیوں پر چڑھ کر میری گھوڑی کا سامنا روک لیا اور چار پانچ نے آگے سے اس کا لگام پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور وہ آپ سے باہر ہو رہی تھی اور کئی نوجوانوں نے تو میرا سامنا روکنے کے لیے اپنی گھوڑیا دریا میں ڈال دیں۔ اللہ نے زندگی مقدر میں لکھی تھی ورنہ ہم نے تو اپنے ذوبنے میں کچھ کسر نہیں چھوڑی تھی۔

یہ معلوم ہوا کہ وہ گھوڑی بہت اصل تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی اس کے ایڑنہیں ماری گئی تھی۔ مگر ان نوجوانوں کا بھی منظر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے بڑے ہی ماہر تھے انہوں نے میری گھوڑی کے ساتھ اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ کہ اس سے وہ گھوڑی اور نبھڑ کے بلکہ دامیں بائیں جانب بہت تیزی سے بھگا کر اور ایک دم اپنے گھوڑوں کی بائیں میری گھوڑی سے بہت آگے کی طرف پھیر کر پچھے تو دریا کے کنارے پر اور پچھے دریا کے ابتدائی حصہ میں پہنچ گئے۔ اس گھوڑی نے ان کی گھوڑیوں پر پھلاندنا بھی چاہا ایسی بے قایو ہوتی کہ اللہ کو زندگی رکھنی ہی تھی اس ناکارہ نے اپنے مرنے کی کوشش میں تو پچھے کسر چھوڑی نہیں۔ مگر موت تو وقت ہی پر آتی ہے۔

سہارنپور کی ابتدائی آمد میں مدرسہ قدیم کے کتب خانہ کے دونوں جانب جو کمرے ہیں۔ ان کی کھڑکیوں کے باہر چھوٹے چھوٹے سائبان لگ رہے ہیں۔ ان کے لوہے کے سریوں پر لکھنا اور مہماں خانہ کے سامنے شرقی جانب جو چھوچھے ہے اس کے سریوں پر کھلینا یعنی بازی گروں کی طرح پھرنا۔ سڑک پر ہر دن کھنے والا شور مچاتا۔ ارے مرنے کو جی چاہ رہا ہے کیا؟ مدرسہ قدیم کے کتب خانہ کے سامنے جو چھوچھے ہے نماز کے اوقات میں اس پر داٹی ڈگا کھلینا کہ میرے اور میرے ساتھیوں مظہر و محفوظ کے لیے یہ قانون تھا کہ ہم تینوں اپنی جماعت اندر کریں۔ اخلاق ایک وجہ سے مجدد کی جماعت کی ایک زمانہ تک اجازت نہیں تھی نیز گرمیوں کے دوپہر میں جب سب سو جائیں گھریارات کے وقت سیڑھیوں پر اترنے چڑھنے کا دستور نہیں تھا بلکہ مدرسہ قدیم کے دروازے کے برابر جو ایک کھنکھن کھڑا ہوا ہے اور اس پر چھوچھہ رکھا ہوا ہے اسی پر گواٹنا اور اس پر کوچڑھنا۔ ایسے معمولات تھے کہ کسی وقت گرتا تو وہیں نہ مٹ جاتا۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله کہاں منہ مار دیا۔

تمیری شرط بھی حضرت قدس سرہ نے پوری فرمادی کہ مدرسہ کے حرج کی وجہ سے میرے والد صاحب پہلے تشریف لائے اور مجھے یاد نہیں کہ حضرت قدس سرہ نے خود ارشاد فرمایا یا والد صاحب کی درخواست پر اجازت مرحمت فرمائی بہر حال یہ ناکارہ اور والد صاحب تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی علامت کا زمانہ بہت ہی طویل گزر اتو تقریباً سات آٹھ سال علامت کا

سلسلہ رہا اور روز افزول اضافہ ہی ہوتا رہا حکیم جمیل الدین صاحب نگینوی ثم الدہلوی مستقل معالج تھے۔ بار بار تشریف لاتے اور کئی کئی دن قیام فرماتے مگر:

مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مریض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ہرنوع کا علاج کیا گیا۔ مگر ہر علاج بجائے صحت کی طرف لانے کے علاالت کی شدت کی طرف لے جاتا تھا اس زمانے میں والد صاحب کی بہت کثرت سے آمد و رفت تھی اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اشتیاق اور تقاضا رہتا تھا۔ میرے والد صاحب نے اس زمانے میں کئی دفعہ فرمایا بیماری وغیرہ کچھ نہیں یوں سمجھ رکھا کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور موت کے قریب مقبولین کو جو مر نے کا اشتیاق ہوتا ہے وہ ابھی ہے نہیں۔ میں جا کر اول تو اس پر مناظرہ کرتا ہوں کہ کیا آپ کو علم غیب ہے کہ میرا وقت موعود آگیا اور اس کے بعد احادیث رحمت اور آیاتِ قرآنی بکثرت سناتا ہوں۔ مثنوی شریف کے وہ اشعار بھی سناتا ہوں جو رحمت چاہیں کے متعلق ہیں اور زور سے اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ گھبرا نہیں جب وقت موعود آئے گا تو وہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی جن کا آپ کو اشتیاق ہے۔ اس سے طبیعت دو چار دن کو اُبھر جاتی ہے۔ اُنھنے بیخنے لگتے ہیں۔ کچھ غذا شروع ہو جاتی ہے لیکن دو چار دن کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے میرے بلانے کا بار بار تقاضہ رہتا ہے اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ دو چار ماہ مستقل قیام کروں مگر مدرسہ کے اس باق کی مجبوری گو زیادہ ٹھہرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شوال ۳۳ھ میں حضرت اقدس سہار پوری قدس سرہ کے اور حضرت شیخ الہند تور اللہ مرقدہ کے طویل سفرِ حجاز کی وجہ سے حضرت سہارن پوری کے اس باق ترمذی، بخاری بھی والد صاحب کے ہی ذمہ ہو گئے تھے اور ان کے اپنے اس باق ابوداؤد، نسائی شریف وغیرہ تو تھے ہی۔ البتہ مسلم شریف اس سال پہلی مرتبہ مولانا عبداللطیف صاحب کے پاس ہوئی تھی۔

میرے والد صاحب کے سفر کی وجہ سے دورے کے اہم اس باق کا حرج ہوتا تھا۔ اس لیے بہت کثرت سے ایسا ہوتا تھا کہ جمعرات کی شام کو جا کر شنبہ کی علی الصباح واپسی ہوتی تھی۔ موڑیں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں۔ شاہزادہ حسین مرحوم بہتر سے بہتر گھوڑا انتخاب کر کے رکھتے اور اس کو دُگنی اجرت دیتے۔ اس زمانے میں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ روپے میں عموماً بیٹ سے سہار پور تاگہ آیا کرتا تھا۔ لیکن شاہ صاحب مرحوم اپنی انتہائی کفایت شعاراتی اور حسنِ انتظام کے باوجود اس کو تین روپے دیا کرتے تھے اور وہ بیٹ سے سہار پور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں پہنچا دیتا تو میرے والد صاحب اس کو مزید انعام دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اقدس سرہ اپنی بیماری کے اخیر زمانے میں پیلوں جو بہت اور مرز اپور کے درمیان ایک گاؤں ہے جس کو شاہزادہ حسن صاحب نے خرید

لیا تھا۔ وہاں انگریز میجروں کا قیام رہتا تھا اور ان کی بنائی ہوئی متعدد گٹھیاں نہایت ہو اداران میں سے ایک کوئی میں حضرت کا قیام تھا آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے نیز لپ سڑک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی آمد میں سہولت تھی۔ حضرت قدس سرہ کی بیماری کا زمانہ وہیں گزر اور انتقال بھی وہیں پر ہوا اور وصال کے بعد غش مبارک رائے پور لاٹی گئی تھی۔ حضرت قدس سرہ کی طویل علاالت میں اس سے کارکا پیلوں جانا کئی دفعہ ہوا۔

ایک زمانے میں آموں کی ابتدائی اور مجھے کچے آم کھانے کا شوق تو بہت ہی کم رہا لیکن کیریاں (کچے آم) کھانے کا بہت ہی شوق ہمیشہ رہا اور اس زمانے میں تو بہت ہی تھا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میرا یہ باغ فروخت شدہ نہیں ہے۔ کچے آم کھانے کو جی چاہے یا چٹنی بنانے کو تو شوق سے استعمال کریں۔ میری ہی ملک ہیں۔ پھر کیا تھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حضرت مولانا عبد القادر سے فرمایا کہ نہک مرچ پسوا کران کو دے دینا۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ نے مٹی کی ایک بڑی رکابی میں نہک اور مٹی کی ایک رکابی میں لال مرچس پسوا کر میرے خواہ کر دیں۔ جو مولانا ہی کی قیام گاہ پر چھوڑ دیں۔ دودن میرا قیام رہا۔ خوب یاد ہے کہ نہ روٹی کھائی نہ چاول کھائے اور نہ کوئی اور چیز کھائی۔ حالانکہ بڑی شفقتیں دستر خوان پر تھیں۔ چاقو میرے ہاتھ میں رہتا اور دون بھر قلمی آموں کی کیریاں کھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مٹھائی یا پھل وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا۔ حالانکہ حضرت قدس مولانا عبد القادر صاحب بہت ہی اصرار فرمایا کرتے تھے۔

### پانچواں دور حکیم الامت حضرت تھانوی:

اعلیٰ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا زمانہ بہت پایا اور حضرت کی شفقتیں بھی بے پایاں چونکہ حضرت سہارپوری کے زمانہ میں حضرت قدس تھانوی کی سہارپور میں تشریف آوری بکثرت ہوتی تھی اور معمول یہ تھا کہ جب بھی سہارپور کی طرف کو پورب لائن یا پنجاب لائن جانا ہوتا وہاں سے واپسی ہوتی تو شباب کے زمانہ میں مدرسہ تشریف لائے بغیر روانگی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا تھا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے مدرسہ تشریف لانا نہ ہوا اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو ہم خدام اسٹیشن پر ضرور حاضر ہوا کرتے۔ ایک دفعہ یہنا کارہ اسٹیشن پر حاضر ہوا۔ بڑا مجمع موجود تھا۔ جب میں نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کے ساتھ ہی حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اکابر کے یہاں تربیت کے بھی طرق عجیب اور مختلف ہوتے ہیں۔ اکتاب بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ زمانہ بذل انجہود کی اس سے کارکی کتابت کا تھا۔ اسی زمانے میں اس ناکارہ کو تھانے بھون حاضری کی کثرت سے نوبت آتی تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں بذل انجہود مولانا شبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پریس میں تھانے بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بذل کا

مسودہ بھی یہی ناکارہ لکھتا تھا اور پندرہ میں دن میں اولاد تھانہ بھون پھر اس کے بعد دہلی طباعت کے لیے بار بار جانے کی نوبت آئی تھی۔ لیکن محض اللہ کا انعام احسان اور میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کی توجہ و برکت کہ جس پر لیں میں بھی بذل کا کام ہوتا وہ اپنے سب کام چھوڑ کر بذل کا کام شروع کر دیا کرتا تھا۔

تحانہ بھون کے بعد دہلی میں دریہ کلاں میں ایک ہندوستانی پر لیں تھا جو کہ بہت بڑا تھا اور اس میں بیک وقت آٹھ، دس مشینیں چلتی تھیں۔ اس کا مالک اور سارا عملہ غیر مسلم تھا۔ مگر اس مالک کے دل میں اللہ نے کچھا ایسی محبت ڈال دی تھی کہ میرے چھنتے ہی وہ اپنے فیجر سے نہایت زور سے کہتا کہ اتنے ان مولانا صاحب کا کام نہ ہو کسی مشین پر کوئی نیا پتھر نہیں چڑھے گا۔ اس کے بھی بڑے ہی عجیب قصے ہیں اور بہت ہی مالک کے احسانات لاتعدد ولا تحصی یہیں لیکن اس وقت یہ ناکارہ حضرت تھانوی کے حالات لکھوار ہا ہے۔ تھانہ بھون کی طباعت کا قصہ ۳۸ھ یا ۳۹ھ کا ہے۔ تھانہ بھون میں عموماً علی الصباح پہنچتا۔ اس زمانے میں چھوٹی لائن کی گاڑیاں دن رات میں ٹائی چلتی تھیں۔ گووہ اب مر جوم ہو چکی ہے اور سال روایا میں کیم ستمبر ۲۰۰۷ھ سے سب بند کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ عارضی بند ہوئی ہیں اور موڑوں کی کثرت نے اس کو فیل کر دیا۔ سہارنپور تا دہلی میں کئی نوع کی موڑیں سمرکاری و غیر سمرکاری چل پڑیں اور اس سے زائد ٹیکیوں کی بھرمار۔

بہر حال یہ ناکارہ علی الصباح تھانہ بھون پہنچتا اور مولانا شیر علی صاحب مر جوم حضرت قدس سرہ کی وجہ سے میرے جاتے ہی سب کا پیاس جمودیتے اور ظہر کے وقت تک مجھے چھ، سات پروف مل جاتے اور شام تک ان کی واپسی کا تقاضا ہوتا۔ تاکہ اگلے دن ان کی سگازی اور طباعت شروع ہو جائے۔ اس لیے یہ ناکارہ مسجد کے شمالی جانب سے دری میں گرمی کا موسم تھا اور اس زمانے میں اس ناکارہ کو پہنچانا کثیر آیا کرتا تھا کہ ہر سفر میں ایک پائچامہ بالکل گل جایا کرتا تھا۔ یہاں تو میں پائچامہ پہنچتا ہی نہ تھا۔ دونگیاں میرے استعمال میں رہتی تھیں۔ جب دو تین گھنٹے میں وہ بالکل بھیگ جاتی تو وہ لے لیتا۔ شب و روز میں سات مرتبہ ٹھنڈے پانی سے غسل کا دستور تھا اور یہاں پائچامہ پہن کر سنہیں سکتا تھا۔ چونکہ میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے چاروں طرف سے کواڑ لگا کر سو جاتا۔ مگر سفر میں محض لنگی باندھ سونے پر قادر نہیں تھا۔ کیونکہ میرے اندر ایک مرض بچپن سے اب تک یہ ہے کہ جب لنگی باندھ کر سوتا ہوں تو صح کو کروٹوں میں نہ معلوم کس طرح لنگی پہنچ پر آ جاتی ہے اور تانگیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے سفر میں ہمیشہ سوتے وقت پائچامہ پہنچنے پر مجبور رہا۔ لیکن دن میں ہمیشہ لنگی ہی ہوا کرتی تھی۔ تھانہ بھون کی حاضری میں گرمی کی شدت کی وجہ سے میں شمالی سے دری میں کرتا نکال کر اور پروفوں کو بہت غور سے نہایت جھک کر عصر کے وقت تک

دیکھتا رہتا تھا اور یہی ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت حضرت اقدس حکیم الامت کی عام مجلس کا تھا۔ مجھے اس کا بہت قلق رہتا تھا کہ تھانے بھون رہتے ہوئے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قلق کے ساتھ حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے عرض کیا کہ لوگ تو بہت دور دور سے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہنا کارہ یہاں رہ کر بھی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میرے حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے ایسا جواب مرحمت فرمایا کہ میری سرت کے لیے مرنے تک کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس کا آپ بالکل فکر نہ کیجئے۔ آپ اگرچہ میری مجلس میں نہیں ہوتے مگر میں ظہر سے عصر تک آپ ہی کی مجلس میں رہتا ہوں میں بار بار آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور رشک کرتا ہوں کہ کام تو یوں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ظہر سے عصر تک اپنے اوراق سے سر انھاتے نہیں دیکھتا۔

ایک دفعہ اس سے حضرت سے دریافت کیا کہ شرح صدر کے خلاف کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ اہل نسبت کو شرح صدر کے خلاف نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بھی جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے۔ ان کا خیال ہوا کہ فلاں عالم صاحب کی عیادت کرنی چاہیے۔ وہ عالم ہیں، چنان ہیں چنیں ہیں۔ مگر طبیعت نے شدت سے اباء کیا۔ کئی دفعہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اول تو عیادت سنت پھر عالم کی۔ اپنے شرح صدر کے خلاف زبردستی چل دیے۔ چند قدم چلے تھے کہ پاؤں پھسل گیا اور گر پڑے۔ پیر ثوٹ گیا۔ لوگ انھا کر گھر لے آئے۔ اس سے کارکا خیال یہ ہے کہ یہ اوپنے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جس کا شرح صدر:

”گفتہ“ او ”گفتہ“ اللہ بود“

کا مصدق ہو۔ لیکن اس سے کارکو باوجود ناہمیت کے اس کا تجربہ بہت ہے کہ جب بھی کوئی شرح صدر کے خلاف سفر کیا تو جانے سے پہلے ہی یہاں ہوا یا دو ران سفر وغیرہ ہوا اس کو بہت ہی بھگلتا پڑا، پھر سفر کے بعد کئی دن تک خمیازہ بھگلتا پڑا۔ جب بھی کوئی قصہ پیش آیا تو حضرت تھانوی کا ارشاد یاد آیا۔

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس سے فرمایا اور میں تھا ہی حاضر ہوا تھا کہ مولوی زکریا ایک اشکال بہت دن سے پیش آ رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کو سوچ چکا ہوں کہ دنیا بھر کے سارے پاگل ایک ایک ہو کر میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں اور پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک حکیم غالباً جالینوس نام لیا تھا مجھے اس وقت تردد ہے شاید بقراط ہو وہ جا رہا تھا۔ راستے میں کسی پاگل نے اس کو سلام کیا۔ اس حکیم کو بہت ہی فکر ہوا کہ اس پاگل نے مجھے سلام کیا۔ ”الجنسُ يَمْيِلُ إِلَى الجنسِ“ یہی مجھے میں تو جنون کا اثر نہیں۔ گھر جا کر غسل کیا اور دافع جنون دوا کھائی میں نے عرض

کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب دام مجد ہم بھی ہر وقت یہی فرماتے ہیں کہ یہ سارے پاگل چن کر میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ اچھا دوسروں کے پاس بھی جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت سب کو یہی شکایت ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت جزاۓ خیر عطا فرمائے تم نے میر ابو جہہ بہت بُلکا کر دیا ہے مجھے تو یہ خیال تھا کہ صرف میرے پاس ہی آتے ہیں۔

حضرت تھانوی قدس سرہ کو مجھ سے بچپن میں بہت محبت تھی اگرچہ اخیر زمانے میں لیگ اور کانگریس کے جھگڑے کی وجہ سے اس میں کمی آگئی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے ساتھ اس ناکارہ کے خصوصی تعلق کی بناء پر بار بار میرے شدید ترین کانگریسی ہونے کی شکایات پہنچتی رہتی تھیں اور حضرت حکیم الامت کو کانگریس سے ایسی نفرت تھی جیسی اس سے کار کو اسٹرائک سے۔ چنانچہ جب "مجلس دعوة الحق" حضرت نے قائم فرمائی اس کے ممبران میں کسی نے اس ناکارہ کا نام بھی پیش کیا تو حضرت نے بڑے تعجب سے یہ کہہ کر کہ "وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آدمی ہے" اس ناکارہ کا نام لکھنے سے انکار کر دیا اور چند روز بعد ہمارے مدرسہ کے مفتی اور میرے رشتہ کے ماموں مولانا اشfaq الرحمن صاحب مرحوم جو حضرت تھانوی کے مخصوص خدام میں سے تھے۔ جب وہاں حاضر ہوئے تو حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بڑے استجواب سے ان سے یہ کہا کہ میری مجلس میں فلاں صاحب نے مولوی ز کریا کا نام بھی بتایا ہے۔ تو مولوی اشFAQ الرحمن نے کہا کہ حضرت وہ تو بغیر تلی کاغذی درے ہر ایک کے ساتھ لڑھک جاتا ہے۔ حضرت والا کے ساتھ اس کا تعلق مولوی حسین احمد صاحب سے کم نہیں۔ مگر حضرت قدس سرہ نے سابقہ روایات کثیرہ کے مقابلہ میں اس کو اہمیت نہیں دی اور ان روایات کا محمل بھی صحیح تھا اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کی تو تقریباً روزانہ نہیں تو ہر دوسرے تیسرا روز آمد و رفت ضرور رہتی تھی۔ اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کا دستور یہ تھا کہ دہلی سے پنجاب یا رڑ کی لائن پر جب بھی جانا ہوتا اگر وہ سکھنے کی بھی عنچائش ملتی تو حضرت میرے گھر ہو کر ضرور تشریف لے جایا کرتے اور اس کے علاوہ رئیس الاحرار کا جب بھی رائے پور آنا جانا ہوتا تو میرے پاس ضرور قیام کرتے۔ ایسے ہی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی جب رائے پور کی آمد و رفت ہوتی یا مستقل ان کو لوگ سہار پور بلاتے تو ہر صورت میں قیام کشیر قلیل میرے گھر پر ہوتا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری کا تو مشہور مقولہ تھا کہ "کچا گھر" (یعنی میر گھر جو اس زمانے میں بالکل کچا تھا اور اسی نام سے اب تک مشہور ہے) مشترک پلیٹ فارم ہے۔ ساری گاڑیاں اسی پلیٹ فارم سے گزرتی ہیں کبھی کہتے کہ "یہ تو جنکشن ہے ساری گاڑیاں اسی اشیش پر سے گزرتی ہیں۔ لیگ کی ہو یا احرار کی ہو، کانگریس کی ہو یا جمعیت کی"۔

شاہ صاحب مرحوم کی ابتدائی آمد کا بھی ایک عجیب الطیفہ ہے۔ سب سے پہلی آمد جوان کی اہم جلسہ میں ہوئی۔ (اور جس کی تاریخ میرے رجسٹر میں محفوظ ہوگی) سہارنپور کے لوگوں نے بہت اصرار تھنا میں، درخواستیں ان کو بلانے کی کیں اور جب انہوں نے سہارنپور پہنچنے کا وعدہ کر لیا تو چونکہ وہ رئیس البغاۃ تھے۔ گورنمنٹ کی نگاہ میں بہت مخدوش اب مسئلہ یہ مشکل ہوا کہ ان کا قیام کہاں ہو؟ اس لیے کہ ان کو ٹھہرانا ہر شخص کو مخدوش معلوم ہوتا تھا اور یہ ڈر تھا کہ ان کے ساتھ میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اس واسطے جتنے بلانے والے تھے وہ سب مل کر ایک وفد کی صورت حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شاہ صاحب چنان اور چنیں ہیں ہمارے مکانات ان کی شان کے مناسب نہیں ہیں، مدرسہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے۔ ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ادانتی۔ وہ نہایت بے تکلفی سے بلا جھگج یہ کہہ دیتے تھے کہ اتنے میں شیخ الحدیث سے بات نہ کروں اتنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں ابھی بلا لججے۔ ناظم صاحب نے فرمادیا کہ یہ وقت ان کی مشغولی کا ہے شام کو خبر لیں۔ ان لوگوں کے چاتے ہی حضرت ناظم صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں فلاں آئے تھے بہت اصرار اس پر کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کا قیام مدرسہ میں رہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ ان سے بے تکلف میری طرف سے کہہ دیجئے کہ مدرسہ میں ان کا قیام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مدرسہ کو ان کے قیام سے نقصان کا اندریشہ ہے البتہ کچھ گھر میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہے ہی باغیوں کا مٹھکانا۔

حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام تو ہر وقت کا تھا۔ رئیس الاحرار کی بھی کثرت سے آمد و رفت تھی۔ میری شاہ صاحب سے اس سے پہلے کوئی ملاقات نہ تھی۔ نام طریقہ کا ایک دوسرے نے سُن رکھا تھا۔ میں نے اس دعوت دینے والے سے یہ بھی کہا کہ جب تمہارا حوصلہ ٹھہرا نے کافیں تھا تو دعوت دینے کی کیا مصیبত پڑ رہی تھی؟ شاہ صاحب تشریف لائے اور ان کی آمد پر بڑا جلوس لکلا اور وہ جلوس ان کو مدرسہ سک لا کر جب مدرسہ میں پہنچا تو ناظم صاحب نے ان سے کہہ دیا شاہ صاحب کے سامنے ہی کہ شاہ صاحب کا قیام تو شیخ الحدیث صاحب کے مکان پر طے ہوا تھا۔ شاہ صاحب تو میرا نام پہلے ہی نے ہوئے تھے اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں سُنی ہیں وہ خوب واقف ہیں کہ ان کو تعریف اور نہادت دونوں میں کمال کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اللہ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے، اس زور و شور سے میرے گھر قیام پر مسرت کا اٹھا فرمایا کہ کچھ انہتا نہیں۔ ہوشیار تھے، سمجھ دار تھے، دنیا دیکھنے ہوئے تھے، جلوس تو ختم ہو گیا۔ وہ چند آدمیوں کے ساتھ میرے مکان پر تشریف لے آئے اور میرا مکان اس زمانے میں اسم باسکی کچا گھر تھا۔ صرف ایک کوٹھری تھی وہ بھی کچی۔ شاہ صاحب مع سامان آکر بوریے پر بیٹھ گئے۔ اول تو

انہوں نے میری تعریف میں زمین آسمان کے فلاں بے ملا نے۔ اس کے بعد میرے مکان کی تعریفیں شروع کیں کہ نانا ابا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت کیا عرض کروں؟ کتنی سرست اس مکان کو دیکھ کر ہوئی، اسلام کا دورانگھوں میں پھر گیا۔

چنان چنیں یہ وہ، پھر کہنے لگے حضرت یہ لوگ مجھے شوق میں بُلا تو لیتے ہیں مگر مجھے خبرات ہوئے ڈرتے ہیں اور اسی واسطے میں کہیں جاتے ہوئے بہت انکار کرتا ہوں، لیکن جب وعدہ کر لیتا ہوں تو ان بلانے والوں کو نافی یاد آتی ہے کہ اس باغی کو کہاں پھرنا ہے۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی، خوش بخختی نہ معلوم کیا کیا کہا کہ جب میں دیوبند جاتا ہوں تو وہاں بھی وہاں کے شیخ الحدیث مولانا نور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کامکان میری قیام گاہ تجویز ہوتی ہے اور یہاں، یہاں کے شیخ الحدیث کامکان میری خوش قسمتی سے میری قیام گاہ تجویز ہوا۔ قیام تو ان کا میرے یہاں برائے نام ہی ہوا، اس لیے کہ تھوڑی دریخہ کروہ کہیں کسی صاحب کے یہاں دعوت میں چلے گئے۔ وہاں سے لوگ اپنے اپنے یہاں لیے پھرے، پھر جلسہ ہو گیا۔ کچھ معمولی کھانے پینے کی تواضع میں نے بھی کی۔ اس کے بعد کئی دفعہ رائے پور آتے جاتے قیام ہوا اور یہ سب روایات حضرت حکیم الاممہ قدس سرہ تک پہنچتی رہتی تھی۔ اس لیے میرا کانگریس یا جمعیتی ہونا حضرت قدس سرہ کے ذہن میں بہت ہی مستحکم تھا۔

کچھ دنوں بعد جناب الحاج شیخ رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ تھانہ بھومن حاضر ہوئے جو حضرت حکیم الامم کے یہاں بہت معتمد اور اونچے سمجھے جاتے تھے، وہی کے مسلم لیگ کے صدر تھے۔ مسٹر جناح کے خاص دوست اور حضرت تھانوی قدس سرہ کی مجلس دعوة الحق کے رکن رکیں تھے۔ حضرت قدس سرہ بہت ہی استجواب سے شیخ جی سے یہ کہا کہ فلاں شخص نے مجلس میں مولوی زکریا کا نام بھی پیش کیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آدمی ہے۔ تو شیخ جی نے بھی بہت زور سے نام پیش کرنے والے کی تائید کی اور عرض کیا کہ حضرت میں تو ان کا نام خود ہی پیش کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ان کو مولانا حسین احمد صاحب سے جتنا بھی تعلق ہو لیکن جناب والا سے بھی عقیدت کم نہیں ہے اور جتنا کسی کانگریسی یا جمعیتی سے تعلق ہواں سے زیادہ مجھے سے ہے، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ مگر چونکہ حضرت حکیم الاممہ قدس سرہ کے پاس روزانہ حضرت مدینی کی آمد اور میری حضرت مدینی قدس سرہ کے ساتھ قرب و جوار کے اسفار میں معیت خوب پہنچتی رہتی تھی اور پہنچانے والے بھی حواشی سے پہنچاتے تھے۔

چنانچہ ایک صاحب اللہ انہیں معاف کرے حضرت تھانوی قدس سرہ کی مجلس میں اس سے کارپرے یہ افتراء کیا کہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ تھانہ بھومن جا کر کیا کرو گے دیوبند حضرت مدینی کی خدمت میں جاؤ۔ جن صاحب نے مجھے سے یہ لفظ کیا وہ حضرت کی مجلس میں اس وقت موجود تھے اور حضرت کے

خاص لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت ہی اس روایت پر رنج و قلق ہوا اور اس پر تعجب بھی ہوا کہ اکابر کے حاشیہ نشین اس قدر دروغ گو بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے تمہارا حضرت تھانوی کے ساتھ تعلق عرصہ سے معلوم ہے میں نے تردید کرنے کا ارادہ بھی کیا مگر جرأت نہ ہوئی۔ غرض اسی قسم کے واقعات حضرت حکیم الامت قدس سرہ کو پہنچتے رہتے تھے، جن کی بناء پر اس سے کارکو حضرت مدینی کے خاص لوگوں میں سمجھنا بے محل نہیں تھا اور حضرت مدینی قدس سرہ کے ساتھ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا اس زمانے میں مسلک کا شدید اختلاف تھا۔ اس سلسلے میں کئی رسائل اس زمانے میں شائع ہوتے تھے جس میں سے ایک رسالہ ابو اور النادر شائع بھی ہو چکا ہے۔

اس لیے جس شخص کا بھی حضرت مدینی قدس سرہ سے خصوصی تعلق معلوم ہوتا تھا وہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے یہاں پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ مگر ان حضرات اکابر کا آپس کا اختلاف ہم جیسے نا اہلوں کا اختلاف نہیں تھا بلکہ اس نوع کا اختلاف تھا جس کی نظیر جنگ، جمل، جگ صفين میں گزر چکی ہے اور اس کے متعلق میں مفصل کلام اپنے رسالہ اعتدال میں کرچکا ہوں۔ چنانچہ یکم محرم ۱۳۵ھ میں سول نافرمانی اور قانون شکنی کے جرم میں مظفر نگر کے اشیش پر سے حضرت مدینی کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا اور حضرت تھانوی قدس سرہ کو اس کی اطلاع ملی تو ظہر سے عصر یکم کی مجلس میں حضرت مدینی کی گرفتاری پر نہایت ہی رنج و غم اور قلق کا اظہار فرماتے رہے اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ مجھے مولا نا حسین احمد صاحب سے اتنا تعلق ہے اور جب کسی شخص نے حاضرین مجلس میں سے پیغام کیا کہ حضرت گورنمنٹ نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، اس نے تو صرف دہلي کے داخلے پر بندش لگائی تھی، وہ تو خود ہی قانون شکنی کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا تھا کہ آپ اس فقرے سے مجھے تسلی دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سید حسین رضی اللہ عنہ بھی تو زید کے مقابلے کے لیے خود ہی تشریف لے گئے تھے۔ زید نے ان کو جبراً قتل نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت سید حسین رضی اللہ عنہ کا غم تو ساری دنیا آج تک نہیں بھولی۔ میں بھی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ لکھ تو یہ رہا تھا کہ ابتداء حضرت تھانوی قدس سرہ کو اس سے کار سے بہت ہی تعلق اور محبت و شفقت تھی۔ میری ابتداء سہار پور کی حاضری میں حضرت قدس سرہ نے میرا ایک امتحان بھی لیا تھا۔ اس شعر کا مطلب پوچھا تھا:

اگر بر جنا پیشہ بثنا فتنے  
کھا زدت قہرش اماں یافت

میں نے فوراً مطلب بتا دیا تو میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے سمجھا ہو گا، کسی جاہل کا پڑھایا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں ماشاء اللہ آپ کے عالم ہونے میں

گیا شک ہے۔ میرے والد صاحب کا برتا و حضرت سہار پوری اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقد ہما کے ساتھ تو بہت ادب کا تھا۔ حضرت سہار پوری کی طرف تو حضرت قطب عالم حضرت گنگوہی کے وصال کے بعد رجوع ہی کر لیا تھا اور اجازت و خلافت بھی انہی سے ملی تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ سے محبت اکابر شش سے زیادہ تھی اور ابتداء بے تکلفی بھی بہت تھی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد حضرت قطب عالم گنگوہی کی طرف سے ایک صاحب کشف قبور نے یہ پیام دیا تھا کہ مولوی بھی سے کہہ دینا کہ مولا نانا رائے پوری کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ کیا کریں اس وقت سے کچھ احترام شروع ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت حکیم الامم قدس سرہ کے ساتھ ہے تکلفی کا برتا و آخر تک رہا اور بہت زیادہ۔ جو ہم جیسے بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اور وہ فقرے نقل بھی کرانے، مشکل ہیں۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت حکیم الامم کو ابتداء اس سے کار کے ساتھ بہت ہی محبت اور علاقہ تھا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حضرت حکیم الامم کے ساتھ بے تکلفی کے واقعات تو بہت کثرت سے ہیں، دلکھواتا ہوں۔

ایک مرتبہ میرے والد صاحب تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ افطار کا وقت ہوا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کر آپ کے یہاں افطار کا کیا وستور ہے؟ حضرت حکیم الامم نے فرمایا کہ گھنٹے اور جنتزیوں کے بعد تین چار منٹ میں شرح صدر اور اطمینان کے لیے انتظار کیا کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے گھری ویکھی اور آسمان کی طرف اوہراؤہر دیکھا اور افطار شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ان کے خدام نے بھی شروع کر دیا اور حضرت قدس تھانوی اور ان کے خدام انتظار میں رہے۔ ایک دو منٹ کے بعد حضرت تھانوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنے میرا شرح صدر ہو گا اتنے یہاں تو کچھ رہنے کا نہیں۔

ترویج کے بعد حضرت تھانوی قدس سرہ نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ مولا ناصر کا کیا معمول ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ ایسے وقت ختم کرتا ہوں کہ دن بھر یہ خیال رہے کہ روزہ ہوا کرنہیں (یہ تو مبالغہ تھا ورنہ دو تین منٹ صحیح صادق سے پہلے ختم کرنے کا معمول تھا) حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ میرا صحیح صادق سے ایک گھنٹہ قبل فارغ ہونے کا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے وقت پر کھالیں، میں اپنے وقت پر۔ ڈیڑھ دن کا روزہ میرے بس کا نہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو گا، کھائیں تو ساتھ۔ ایسا کریں کہ ایک دن کے لیے آپ کچھ مشقت اٹھائیں اور ایک دن کے لیے میں آپ کی خاطر مشقت اٹھائیں گا۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ پون گھنٹے پہلے شروع کر دیا جائے تاکہ ۱۵، ۲۰ منٹ کھانے میں لگیں گے اور تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ لکھواتا ہوں۔ کہ جب اعلیٰ

حضرت سہارپوری اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقد ہماں ۳۳ھ میں طویل سفر جاڑ کے لیے تشریف لے گئے تو میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی بے تکلفی کے سلسلہ میں جونہایت ہی زیادہ تھی اور اعتدال سے بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ اب تک تو آپ حضرت سہارپوری قدس سرہ کی وجہ سے رڑکی یا چنگاب جاتے ہوئے بہت اہتمام سے مدرس تشریف لاتے تھے، لیکن اب حضرت تو طویل قیام کے ارادے حجاز تشریف لے گئے اور میری بہ نسبت آپ کو سفر آسان ہے۔ اس لیے اب آپ کو ہر ماہ میری زیارت کے لیے ایک سفر کرنا ہو گا اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے اس تعلق اور بے تکلفی کی بناء پر تحریر فرمایا کہ بڑی خوشی سے لیکن چند شرائط ہیں۔

جب میں کہیں آگے جا رہا ہوں گا تب تو میرا کرایہ اس کے ذمہ ہو گا جہاں میں جا رہا ہوں گا۔ لیکن جس ماہ آگے نہیں جانا ہو گا اور صرف آپ سے ملاقات کے لیے سہارپور آؤں گا تو میرا کرایہ اور میرے ایک رفیق کا آمد و رفت کا تھرڈ کلاس کا نکٹ آپ کو دینا ہو گا اور جب میں واپس آؤں گا تو ایک میٹی کی ہانڈی میں ماش کی دال ناشتہ میں دیتی ہو گی اور وہ ہانڈی واپس نہیں ہو گی۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کو ماش کی دال کا بہت شوق تھا اور خاص طور سے میری والدہ مرحومہ کے ہاتھ کی دال بہت پسند تھی۔ یہاں میں نے اکثر دیکھا کہ حضرت اقدس کی تشریف آوری پر دستِ خوان پر بہت ہی لذیذ چیزیں جمع ہوتی تھیں۔ فرنی بھی، شاہی مکڑے بھی، مگر حضرت اقدس اُڑکی دال کی رکابی لے کر اس کو فرنی کی طرح چمچے سے نوش فرماتے۔ بعض مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ روٹی کے صرف ایک دو لقئے کھا کر نہ پلاو کھایا نہ فرنی کھائی، اُڑکی دال کی دو تین رکابیاں فرنی کی طرح کھالیں۔ یوں ارشاد فرمایا کرتے کہ اپنے گھر میں جب دو تین دن ماش کی دال نہیں پکتی تو میں مطالبه کرتا کہ اللہ کی ہر نعمت پکتی رہتی ہے اُڑکی دال نہیں پکتی۔

میرے والد صاحب قدس سرہ کے دور میں تو اس معایبے پر دو تین دفعہ عمل ہوا، لیکن اس گستاخ بے ادب نے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد اعلیٰ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کو اپنی حمافتوں سے لکھا تھا کہ حضرت والد صاحب کے اس وعدہ میں میراث جاری ہو گی یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ ضرور ہو گی۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا یہ والا نامہ میرے اکابر کے خطوط میں موجود ہے۔ مگر اس وقت سامنے نہیں ہے۔ اس پر عمل کی نوبت میرے ساتھ نہیں آئی، البتہ ایک اہتمام اس سے کارکی طرف سے چند سال تک رہا کہ ماش کی دال جب تک میری والدہ حیات رہیں میں تشریف بری پر پیش کرو دیتا اور ایک اہتمام حضرت قدس سرہ کی طرف کئی سال تک مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آوری پر اگر کوئی شخص حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو

پہلے سے خط لکھنا پڑتا کہ معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری فلاں وقت ہو رہی ہے اگر حضور والا مکان پر قدم رنج فرمادیں تو زیارت ورنہ میں کھانا مدرسہ ہی میں پہنچا دوں گا۔ حضرت قدس سرہ کا جواب یہ ہوتا کہ میں مستقل مہمان مولوی زکریا کا ہوں تم ان سے اجازت لے لو اور جو مجھ سے اجازت لیتا تو میں اسی بُری عادت کے موافق جو مہمان کے متعلق شروع میں لکھ چکا اجازت تو ضرور دے دیتا، اگرچہ میرا ول بالکل نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس خوف سے کہ مبادا حضرت کو تشریف بری میں وقت ہو یہ شرط کر لیتا کہ کھانا مدرسہ قدیم میں آئے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اس سے کارکنام میرے والد صاحب قدس سرہ کے اعتقال کے بعد برفی رکھ دیا تھا۔ جب میں حاضر ہوتا نہایت تعجب کے ساتھ برفی کا لفظ دو دفعہ فرمایا کرو علیکم السلام فرمایا کرتے۔

اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب میں کاندھلہ جاتا تھا تو تھانہ بھون کے اشیش پر گزر ہوتا اور اشیش پر سے کوئی شخص حضرت قدس سرہ کی زیارت کے لیے جانے والا ہوتا تو میں ریل پر سے خرید کر اس کے ساتھ تین چار سیر برف بھیج دیا کرتا۔ لے جانے والا اپنے کسی کپڑے میں لپیٹ لیتا۔ وہاں پہنچ کر پیش کرتا۔ اپنا کپڑا دھوپ میں ڈال دیتا وہ سوکھ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک مغلص حاجی محمد جان صاحب محلہ نئی بانس کی مسجد کے امام تھانہ بھون کے اشیش پر اُترے میں نے اپنی حماقت سے حب عادت ان کو برف دے دی اور یہ دریافت نہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے یا نہیں۔ ان کے پاس اللہ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ کوئی کپڑا تو تھا نہیں کسی کاغذ دیا پتے پر رکھ کر کھلا ہوا لے گئے۔ ان بیچاروں کا ہاتھ بھی بھٹھر گیا ہو گا۔ ایسی حالت میں جب خانقاہ پہنچے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت قدس سرہ نے دریافت فرمایا کہ اسی طرح اشیش کے لاء ہے ہو۔ انہوں نے عرض کر دیا، کپڑا کوئی تھا نہیں۔ حضرت کو جلال آگیا کہ جب تمہارے پاس کپڑا کوئی تھا نہیں تو اس سے عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ اشیش سے یہاں تک آتے ہوئے جتنا گھلائے وہ کس کا گیا۔ ان بے چاروں کے عتاب کا خیال آ جاتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان پر ڈاٹ پڑی اور میرا نام کی سال تک برفی رہا۔

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے مدرسے کے ایک ملازم کے متعلق جو حضرت ناظم صاحب کے عزیز بھی تھے۔ مجھے راز میں ایک خط لکھا اور یہ قصہ ان کے عزیز کا تھا، اس لیے یہ بھی لکھ دیا کہ مولوی عبداللطیف صاحب کو اس خط کی خبر نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے مبادا کہ ان کو تکلیف ہو شرطیکہ یہ تغیر آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہوں۔ میں اس زمانہ میں نظامت اور مدرسہ پر جتنا حاوی تھا وہ تو اس زمانہ کے سب ہی آدمیوں کو معلوم ہے۔ میں اپنی تجویز سے تغیر بالکل بے تردید کر سکتا تھا اور اس پر ناظم صاحب کو کوئی گرانی بھی نہ ہوتی۔ مگر میں نے ناظم صاحب سے عرض کیا کہ آپ سے راز

میں ایک خط ہے میرے پاس جو آپ کو دکھانا ہے اور عمل مجھے کرنا ہے۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا ضرور یہ تغیر کر دو اس کو میرا بھی دل چاہتا تھا۔ مگر تم سے مشورہ کا سوچ رہا تھا موقعدنیں ہوا تھا۔ اب تو موکد ہو گیا۔ میں نے ایک حکم نامہ لکھ دیا کہ فلاں صاحب کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ منتقل کر دیا جائے۔ حضرت ناظم صاحب نے اس پر دستخط فرمایا کہ لکھ دیا کہ ضرور کر دیا جائے۔ حضرات سر پرستان سے منظوری لے لی جائے گی۔ صاحب قصہ بیچارے ہمیشہ ہی مجھ سے ناراض رہے اور ان کی ناراضی بجا ہے کہ وہ تفصیل سے ناواقف اور میرے پاس وہ راز ہے میں کیسے ظاہر کرتا۔

یہ میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ ان اکابر اربعہ کے درمیان میں حضرت سہار پوری حضرت شیخ الہند اور اعلیٰ حضرت رائے پوری اور حضرت حکیم الامت تھانوی اعلیٰ اللہ مراثیم و تور اللہ مرافقہم کے یہاں جب ایک دوسرے کو یہاں کوئی مہمان ہوتا تو گویا عید آتی۔ ایک مرتبہ حضرت سہار پوری قدس سرہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ یہ سے کار بھی ہمراہ تھا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے تھانہ بھون کے ایک معروف و مشہور معمربزرگ کو ان کی علوشان کی وجہ سے بلا لیا اور کھانے میں اتنی انواع تھیں کہ لا تعداد ولا تحصی۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ان صاحب نے اس دعوت پر بڑی سخت تقدیما پنی مجالس میں کی کہ یہ علماء سادگی اور زہد پر تقریر یں تو ایسی لمبی لمبی کریں۔ میں نے رکابیاں گئیں صرف چار آدمی تھے اور اتنی رکابیاں تھیں۔ مجھے صحیح تعداد یاد نہیں۔ باسٹھ یاد پڑتا ہے۔ آٹھ دس طرح کی تو چٹنیاں اور اچار تھے۔ کئی طرح کے مرے۔ کئی طرح کے سالن۔ چھوٹی چھوٹی طشتريوں میں حضرت تھانوی قدس سرہ کو ان کی تنقید اور عیب جوئی پر قلق بھی ہوا۔ اپنی مجالس میں اس پر رنج فرمایا کہ میں نے تو ان کا اعزاز کیا اور وہ رکابیاں گئے ہی میں رہے۔ میرے حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا جو مجھے اب تک بھی خوب محفوظ ہے کہ حضرت یہ تکلف میں نے نہیں کیا آپ نے کرایا۔ اگر حضرت کی تشریف آوری جلدی ہو تو پھر اتنا تکلف کیوں ہو۔ یہ سارا واقعہ حضرت کے کسی ملعوظ میں طبع بھی ہو چکا ہے۔

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا معمول ہم مخصوص خدام کے ساتھ یہ تھا کہ اگر ہم دوستیں ہوتے تو زنانہ مکان میں کھانا ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ ناکارہ اور حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مہمان تھے اور چھوٹے گھر میں مغرب کے بعد کھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت قدس سرہ خود ہی اندر سے کھانا لارہے تھے اور مجھے بہت ہی شرم آرہی تھی۔ یہاں تک لکھوانے کے بعد یاد آیا کہ یہ قصہ تالیف میں نمبر ۱۳ ارسالہ تحفۃ الاخوان کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

ایک دفعہ یہ ناکارہ اور حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے حضرت قدس سرہ

نے کھانے سے تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے ٹھنڈا پانی پیا اور کھانے کے وقت ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا تھا اسی لیے قصد ابغیر پیاس کے ٹھنڈا پانی پیا تھا کہ شاید بھوک لگ جائے مگر اس سے بھی نہ لگی۔ اس لیے ساتھ کھانے سے تو مendum ہوں۔ اسی وقت پہلی دفعہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ٹھنڈے پانی کو بھوک لگنے میں خاص دخل ہے۔ میرے استفسار پر حضرت نے اس کی تصدیق بھی فرمائی کہ ٹھنڈے پانی کو بھوک لگنے میں خاص دخل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ نے اس ناکارہ سے از را و شفقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے یہاں کے قوانین سے مستثنی ہو۔ اس کے باوجود یہ ناکارہ خانقاہ کے قوانین کا حتی الوع بہت اہتمام کرتا تھا۔ اس لیے حضرت تھانوی قدس سرہ اور حضرت میر بھی کے یہاں جب بھی بلا اطلاع کھانے کے وقت میں جانے کی نوبت آتی بلا بھوک ایک دلخیل ضرور کھا کر جاتا اور حضرت کے استفسار پر کہ آپ نے صبح ہی کھالیا تھا میرا یہ جواب ہوتا کہ رات کو کھانے کی نوبت نہ آتی تھی۔ اس لیے صبح کو کھالیا تھا۔

بدل کی طباعت کے زمانے میں اکثر ایک دوش ب قیام کی نوبت آتی حضرت قدس سرہ نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ کھانا گھر سے آ جایا کرے گا۔ مگر میں نے بہت ہی ادب اور اصرار سے اس کی اجازت لے لی تھی کہ حضرت میں خانقاہ کے مہمانوں کی طرح سے اپنے کھانے کا انتظام طباخ کے یہاں کرلوں تو مجھے اس میں راحت رہے گی۔ تو حضرت نے قبول فرمایا تھا۔ ایک لڑکا تھا۔ اس کے گھروالے خانقاہ کے مقیمین اور واروین کا کھانا بڑے ہی شوق اور محبت سے پکایا کرتے تھے وہ دو تا تین آنے فی خوراک لیا کرتا تھا۔ پانچ چھپاتیاں اور ایک سالن وال یا بھی یا لوکی۔ تھانہ بھون میں گوشت بہت کم ہوتا۔ ہفتے میں دو تین دن ہوتا تھا، لیکن اس ناکارہ کا وہ دور تھا کہ جس میں بغیر گوشت کے روئی نہیں کھا سکتا تھا میں نے اس سے یہ طے کر لیا کہ دو خوراک مستقل میری جب تک میں وہاں رہوں۔ اس میں خانقاہ کا وہی کھانا جو دو آدمیوں کا وہاں کے معمول کے مطابق ہوتا وہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے آدھ سیر گوشت فی وقت اپنا علیحدہ پکوانا تجویز کر لیا تھا۔ جس میں سارے سامان کے دام میرے اور پکوائی کی اجرت ۳۲ آنے فی وقت علیحدہ۔ میں نے مولوی شبیر علی مرحوم سے کہا کہ یہاں کا قانون تو یہ ہے کہ دو آدمی مل کر کھانا نہ کھائیں اور میری عادت یہ ہے کہ میں نے کبھی اکیلا کھایا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے بلند درجات عطا فرمائے۔ ان سے اس زمانے میں بے تکلفی بھی بڑھی ہوئی تھی۔ ان کا بھی لڑکپن تھا اور اس ناکارہ کا بھی بہی مذاق بھی بہت ہوتا تھا۔ انہیں اشعار بھی بہت یاد تھے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کے دولت خانہ پر تشریف لے جانے کے بعد ہمارے یہاں شعرو شاعری بھی ہو جاتی اور اگر اتفاق سے عالی جناب خواجہ عزیز الحسن صاحب کی تشریف آوری ہوئی پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ مولوی

شیر علی صاحب نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر بڑے ابا کے گھر تشریف لے جانے کے بعد دونوں وقت میں اور بھائی ظفر تیرے ساتھ کھایا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا۔

مولانا شیر صاحب مرحوم اور مولانا ظفر احمد صاحب شیخ الاسلام پاکستان نے بھی بار بار اصرار فرمایا کہ تیرے انتظام سے ہمیں گرانی ہوتی ہے مگر میں نے کہہ دیا کہ اگر ایک دو دن کی مہماں ہوتی تو میں بھی بھی خود انتظام نہ کرتا، لیکن یہ تو مستقل روزمرہ کی آمد ہے اس میں دوسرے کے سر پڑتا مجھے بہت گراں ہے اور اس میں کچھ تھا نہ بھون کی خصوصیت نہیں۔ میری شروع ہی سے اب تک یہ عادت ہے کہ دو چار دن کی مہماں میں تو کچھ اشکال نہیں ہوتا لیکن مستقل کسی دوسرے کے ذمے پڑ جانا میری غیرت نے بھی گوار نہیں کیا۔ اگر کہیں میں قیمتاً انتظام کرنے پر قادر نہ ہوا تو میں نے ہدیہ یا کسی دوسرے عنوان سے اس میں رقم سے چو گنا ضرور دیا۔ جو مجھ پر خرچ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہی کھانا پکانے والے مخلص دوست کو بہت ہی جزاً نے خیر عطا فرمائے۔

تحانہ بھون میں روزانہ گوشت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جلال آباد میں روزانہ ہوتا تھا اس لیے وہ میرے لیے ہمیشہ جلال آباد سے گوشت منگوا کر پکوata اور اگر کسی دن وہاں سے بھی نہ ملتا تو مرغ کٹوata۔ اللہ جل شانہ اسے بہترین اگر زندہ ہو تو دارین کی ترقیات سے نوازے اور چل دیا ہو تو مغفرت فرمائے بلند درجات عطا فرمائے۔ اس قدر میرے کھانے کا اہتمام کرتا کہ میرا بھی خوش ہوتا۔ میں بھی کبھی اس کو انعام بھی دیتا۔ وہ بھی میری آمد کا بہت ہی مشتاق رہتا۔ بہر حال جب حضرت قدس سرہ دونوں وقت مکان تشریف لے جاتے تو میں اور مولانا شیر علی مرحوم اور مولانا ظفر احمد تینوں اپنا اپنا کھانا لے کر اکٹھے کھاتے اور میرا بچا ہوا کھانا میرا طباخ لے جاتا۔ لیکن میرا سالن کم پختا تھا اس لیے کہ گوشت علی الدوام میرے ہی کھانے میں ہوتا تھا اور شور با بھی اس میں مطبخ جیسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ گاڑھا ہوتا تھا۔ ایک دو مرتبہ ایسا بھی دو پھر کے کھانے میں ہوا کہ ہم لوگوں کو کھانا شروع کرنے میں دیر ہوئی اور حضرت قدس سرہ اپنے مکان سے تشریف لے آئے اور ہم کو مجتمع کھاتے ہوئے دیکھا مگر کچھ فرمایا نہیں، پنجی نگاہ کر کے گزر گئے۔

### والد صاحب کا بہشتی زیور کو طع کرانا:

ایک چیز کا تعلق میری ذات سے تو نہیں ہے لیکن میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی تالیفات مفید عام اور مخلوق کے لیے دینی ترقیات کا جتنا ذریعہ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور ان میں بہشتی زیور کو جو مقبولیت عامہ حاصل ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ لیکن بندہ کا خیال یہ ہے کہ اس میں میرے والد صاحب قدس

سرہ کے عمل کو بہت دخل ہے۔ حادث میں لکھوا چکا ہوں کہ والد صاحب کے انتقال کے وقت ۸ ہزار روپے ان پر قرض تھا۔ اس میں ان کی تجارت کو بہت زیادہ دخل تھا۔ خاص طور سے بہشتی زیور کی طباعت ان کے زمانے میں دس بارہ ہزار سالانہ کی ہوتی تھی۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں بہشتی زیور کا کوئی حصہ بلا لی پر لیں ساڑھوڑھ ضلع اقبالہ میں زیر طبع نہ ہو۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قرضے میں پر لیں کے بھی چار پانچ ہزار باقی تھے۔ ان کے زمانہ میں ساڑھے تین آنٹی حصہ عام اس کی قیمت رہی اور ۲۱،۷ (ساڑھے سات) پیسے فی حصہ اس کی پڑت تھی اور تاجریوں کو ہمیشہ نصف قیمت پر یعنی ۷ پیسے پر دیا جاتا اور عوام کو بھی اکثر بالخصوص مدرسہ مظاہر علوم کے سالانہ جلے اور دارالعلوم دیوبند کے ۳۸ھ کے دستار بندی کے جلے پر سب کتابیں جلے کے ایک دن کے لیے اور دارالعلوم کے تین دن کے لیے نصف قیمت ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو بہشتی زیور کامل کے پانچ سال نئے اس طرح پر دیے جاتے تھے کہ جب فروخت ہو جائیں تو آدمی قیمت مجھے بھیج دیں آدمی قیمت خود رکھ لیں۔

میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد کئی برس تک اس ناکارہ کے نام دس پندرہ روپے کے منی آرڈر اس مضمون کے آتے رہے کہ ہمیں مولانا مرحوم نے اتنے بہشتی زیور دیے تھے وہ فروخت ہو گئے تھے۔ مگر قیمت ادا کرنے کی اب تک نوبت نہیں آئی۔ جب حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے حیاة اسلامین تالیف فرمائی اور اپنی تالیفات میں اس کو بہت ہی اہم ارشاد فرمایا اور واقع میں بھی بہت اہم ہے اور حضرت قدس سرہ نے بہشتی زیور کی طرح سے اس کی عام اشاعت کی تمنا ظاہر فرمائی تو مجھے اپنے والد صاحب بہت یاد آئے۔ کاش ان کی حیات میں یہ کتاب تصنیف ہوتی تو بہشتی زیور سے اس کی اشاعت المضاعف ہو جاتی۔

میرا بار بار جی چاہا کہ اس کو طبع کر کے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم کروں۔ لیکن اس ناکارہ کے علمی مشاغل کی وجہ سے مجھے پہلے سفر ج ۳۸ھ کے بعد سے اپنے کتب خانہ کے کام کرنے کا وقت نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ مولوی نصیر الدین صاحب کو جزاۓ خیر دے کہ ہمیشہ انہوں نے میری کتابوں کی طباعت اور فروختگی کا اہتمام کیا اور اب چند سال سے مہماںوں کے ہجوم کی وجہ سے میرے عزیز داما مولوی حکیم محمد الیاس صاحب میری کتابوں کی طباعت کا اہتمام کرتے ہیں کہ مولوی نصیر کو مہماںوں کے خورد و نوش کے انتظام سے ہی فرصت نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ میرے دونوں محسنوں کو اور میرے سب ہی محسنوں کو جس کا کسی نوع کا احسان جانی و مالی، جاہی، علمی، سلوکی، نسبی احسان ہے اپنی شایان شان ان کے احسانات کا بہترین بدلہ دارین میں عطا فرمائے کہ یہ یہ کاراپنے محسنوں کے احسان کا بدلہ بجز دعاء کے اور کیا کر سکتا ہے۔

ماحول کا اثر توازی اور دائیٰ ہے اسی وجہ سے حدیث پاک میں اچھے جلیس کی ہم نشیٰنی کی ترغیب اور بُرے جلیس سے اجتناب کا حکم وارد ہوا ہے۔ تھانہ بھون کے قیام میں چونکہ ہر وقت ذا کرین کا زور رہتا تھا، اس سے کارکوبھی ذکر کا شوق رہتا اور حضرت قدس سرہ نے جو بتار کھاتھا صبح کی نماز کے بعد پر لیس کے کھلنے تک حضرت حافظ ضامن صاحب قدس سرہ کی قبر پر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب اس وقت میں تھانہ بھون کے مفتی بھی تھے اور امام بھی تھے۔ وہ بہت ہی شفقت فرمایا کرتے تھے اور اونچے الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان وجہ سے اس سے کارکو خیال ہوا کہ میں بھی کچھ دنوں یکسوئی کے ساتھ ذکر شغل کروں اور اس لیے میں نے وہیں سے حضرت قدس سرہ کی خدمت میں یہ لکھا کہ مدرسہ کی مشغولی کی وجہ سے ذکر شغل میں پابندی نہیں ہو سکتی۔ اگر حضرت اجازت فرمادیں تو یہ ناکارہ کہیں یکسوئی کے ساتھ ذکر شغل چار، چھ مہینے کر لے۔ حضرت قدس سرہ نے تحریر فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں اس باق کے ساتھ جتنا تھوڑا بہت ہوتا ہے کرتے رہا کرو:

### ”خونے بدراء بہانہ بسیار“

میرے لیے بہانہ مل گیا اور اب تک بھی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اس سے کارکادستور یہ بھی رہا کہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں بہت کم جانا ہوتا اور حضرت کے یہاں کی حاضری کا وقت معین طور پر ظہر سے عصر تک تھا۔ اس لیے یہ ناکارہ اس کا اہتمام رکھتا تھا کہ حضرت کی مجلس میں بے وضو کبھی نہ بیٹھے اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ قصے تو میرے اکابر کے اس ناکارہ کے ساتھ بہت ہی ہیں اور مجھے ان سب کے لکھوانے میں لطف بھی آرہا ہے۔ مگر سانچھ سالہ حالات لکھوانے کے واسطے تو بڑا دفتر چاہیے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ اپنی علالت کے زمانہ میں اخیر دور میں بجائے مدرسہ کے قیام کے مولوی منفعت علی صاحب وکیل مرحوم کے مکان پر قیام فرمانے لگے تھے۔ اس لیے کہ وہاں استنبخ وغیرہ کی سہولت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت تشریف لائے۔ وکیل صاحب کے مکان پر قیام تھا۔ میں نے تلبینہ پکوا کر جو ایک مسنون حریرہ ہے حضرت قدس سرہ کے معان لج خاص اور مجاز بیعت حکیم محمد خلیل صاحب جو میرے مخلص دوست اور مجھ پر بہت ہی شفیق تھے۔ ان سے اجزاء بتا کر دریافت کر چکا تھا کہ حضرت کے لیے مضر تو نہیں۔ انہوں نے اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے یہ فرمایا کہ کچھ مضر نہیں۔ میں نے وہ پکوا کر حضرت کی خدمت میں بھیجا اور پرچہ لکھا کہ یہ مسنون غذا ہے اور میں نے طبیب سے اجازت لے لی کہ یہ مضر نہیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں میرے پرچہ پر لکھا کہ میں اس کو سرت سے قبول کرتا ہوں اگر آپ یہ نہ لکھتے کہ یہ مسنون ہے۔ موجودہ صورت میں یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے اس کو

رغبت سے نہ کھایا تو ایک منون چیز سے بے رغبتی ہو جائے گی۔ میں نے پھر واپس کیا اور عرض کیا کہ حضرت کا ارشاد سر آنکھوں پر لیکن اگر پسند نہ آیا تو یہ قصور پکانے والی کا ہو گا نہ کہ اصل شنی کا۔ ہم روزانہ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک پکانے والی ایک چیز کو بہت لذیذ پکاتی ہے اور دوسرا ہی اسی چیز کو نہایت بدمزہ۔ اس کے بعد بھی رائے مبارک نہ ہو تو اصرار نہیں ہے۔ حضرت نے رکھواتولیا مگر یہ معلوم نہیں کہ نوش فرمایا کہ نہیں۔

### چھٹا دور شیخ الاسلام حضرت مدینی:

حضرت شیخ الاسلام مولانا الحاج سید حسین احمد صاحب مدینی نور اللہ مرقدہ کو اس ناکارہ پر شفقت و محبت اس وقت سے ہے کہ جب کہ اس ناکارہ کی عمر ۱۲ سال سے بھی کم تھی ۲۷ھ میں حضرت مدینی قدس سرہ نے تقریباً دو ماہ قیام گلگوہ شریف کیا اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ حضرت عصر کی نماز خانقاہ کی مسجد میں پڑھا کر سید ہے قطب عالم کے مزار پر تشریف لے جاتے مغرب تک وہاں مراقب رہتے اور غروب سے پانچ سات منٹ پہلے اٹھتے اور ہمارا گھر خانقاہ کے راستے میں تھا۔ میری والدہ مرحومہ کئی نوع کی افطاری پھلکیاں وغیرہ تیار کر کے رکھتیں اور ایک دسترخوان چار پانی پر بچھا کر اس پر آٹھ دس طرح کی افطاریاں رکھ دیتیں اور میں باہر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور جب دور سے حضرت مدینی کو آتا دیکھتا بھاگ کر اپنی والدہ سے کہتا کہ آگئے آگئے۔ وہ جلدی سے پردے میں ہو جاتیں۔ اتنے حضرت دروازے تک پہنچ جاتے اور میں دروازے سے آجائے، تشریف لے آؤ کا شور چاتا۔ حضرت اندر تشریف لاتے بہت اطمینان سے افطار فرماتے۔ اسی قانون کے تحت جو میں اپنے والد صاحب کے افطار کا حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے حال میں لکھوا چکا ہوں۔ خوب اطمینان سے افطار فرمانے کے بعد پانی وغیرہ پینے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کر کے خانقاہ میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے کہ اس زمانے میں مستقل امام وہی تھے خانقاہ میں پہنچ کر ایک لوٹے سے پانی کے دو گھونٹ پی کر گویا افطار کر کے مصلعے پر پہنچ جاتے۔ یہ حقیقت میں تو ریت تھا کہ حضرت مدینی حضرت صاحبزادے صاحب حکیم مسعود احمد صاحب کے مستقل مہمان تھے اور حکیم صاحب کے لیے موجب گرانی تھی کہ وہ کہیں دوسرا جگہ افطار کریں۔ یہی وہ دور ہے جس کے متعلق باب دوم میں ”مذیع“ کے ایڈیٹر کو حضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ میں اس وقت سے واقف ہوں جب کہ اس کی عمر ۱۲ برس کی تھی اس کے بعد سے تو پھر جب بھی ملاقات ہوتی شفقوتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اخیری زمانے کا حال تو میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ دیوبند سے رڑکی اور پنجاب یا چھوٹی لائن پر جانے آنے میں اگر ایک گھنٹے کا بھی فرق ہوتا تو واپسی کا تانگہ لے کر مکان تک تشریف لاتے اور ان ہی شفقوتوں نے مجھے اپنے دو اکابر حضرت

مدنی اور حضرت رائے پوری ثانی قدس سرہما کی شان میں بہت گستاخ بنادیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے۔ ان دونوں اکابر کا اس سیہ کار کے ساتھ تعلق اور اس ناکارہ کا ان دونوں بزرگوں کے ساتھ گستاخانہ برداود کیجئے والے ابھی تک ہزاروں موجود ہیں۔

تقسیم سے پہلے جو آخری حج حضرت مدینی قدس سرہ کا ہوا تو بندہ کے نام تار آیا کہ میں فلاں تاریخ کو فرنٹیر سے پہنچوں گا۔ میری ایک عادت ہمیشہ مستقل اور دامنی یہ رہی جواب نہیں ہے کہ نہ سونا تو میرے قبضے کی چیز تھی۔ دو تین رات مسلسل نہ سونا آسان تھا۔ لیکن سونے کے بعد اٹھنا میرے بس کا نہیں تھا بچپن میں میری والدہ مرحومہ رمضان میں سحری کے لیے انتہائی مشقت سے اٹھا تیں مگر میں نہیں اٹھتا تھا۔ وہ بٹھا کر بڑی مشکل سے دو چار لمحے سحری کے کھلا تیں۔ جن کا کھانا مجھے بالکل یاد نہیں ہوتا تھا۔ البتہ صبح کو اس چیز کا ذائقہ ہوتا جو سحری میں کھاتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جوانی کے زمانے میں والدین کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی۔ گرمی کا زمانہ تھا میں باہر سورہا تھا۔ بالکل پتہ نہیں چلا صبح کو اٹھنے کے بعد دیکھا تو ساری چار پائی بستر سارا بھیگ رہا تھا اور میں بھی بھیگ رہا تھا اس سے بڑھ کر یہ کہ ۲۸ حج میں شریف مرحوم کے زمانے میں جب کہ غارت ولود مارکی کثرت کی وجہ سے مدینی قافلے راستے پر سے نہیں جاسکتے تھے اول اسمندر کے کنارے اور آخر اجل غائر پر کو جاتے تھے۔ اسی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرت کا سفر فرمایا تھا۔ اس میں پہاڑ کی چڑھائی کی وجہ سے آخری تین منزلوں میں شغد فیثبری وغیرہ کچھ نہیں جاسکتے تھے۔ اوٹ کی خالی پشتوں پر جانچ رات کو چلتے لیکن گرنے کے خوف سے اوٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے اور چونکہ کوئی سایہ کا سامان شغد وغیرہ نہیں تھا علی الصباح آفتاب نکل آتا تھا اور کوئی درخت وغیرہ بھی آس پاس نہیں ہوتا لیکن یہ ناکارہ مدینہ جاتے ہوئے بھی اور اسی طرح واپسی میں احرام کی حالت میں ننگے بدن صرف ٹانگوں میں ایک لٹکی اسی ریت پر ہندی بارہ بج تک سوتا۔ جب اٹھتا تو میرے نیچے کاریت پسینے کی کثرت سے ایسا نہنڈا اور بھیگا ہوا ہوتا کہ جیسا کسی نے پانی کا گھڑا ذال رکھا ہوا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے سارے رفقاء کے منہ سرخ ہوتے اور وہ مجھ پر خوب خغا ہوتے کہ دھوپ سے تیری آنکھیں نہیں کھلتیں۔ بہر حال چونکہ سوکرا اٹھنا میرے بس کا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے جب مجھے اخیری شب میں کہیں جانا ہوتا یا حضرت مدینی قدس سرہ کی آمد کا کہیں سے تار آیا ہوتا کہ حضرت کے علاوہ اور کسی کے لیے تو میں اشیش پر نہیں جاتا تھا تو میرا دستور یہ تھا کہ میں عشاء کے بعد سے اپنے لکھنے کا کام شروع کر دیتا اور اشیش جانے تک بہت سہولت اور انہا ک سے لکھتا رہتا۔ چونکہ حضرت قدس سرہ کا تار کراچی سے فرنٹیر سے پہنچنے کا تھا اور وہ صبح کے چار بجے اشیش پر آتا تھا۔ میں بہت اطمینان سے اور پر بیٹھا لکھ رہا تھا کہ ۱۲ بجے کے قریب

میرے زینے پر نہایت شدت سے زور زور سے پاؤں مار کر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو حضرت شیخ الاسلام صاحب میرے کمرے پر پہنچ گئے۔ میں ایک دم انٹھا اور اپنی جماfat سے گستاخانہ لفظ کہا کہ مشائخ حدیث مشائخ سلوک حج سے آتے ہوئے بھی تو جھوٹ اور دھوکہ دہی سے احتراز نہیں فرماتے یہ فرنیسر کا وقت ہے؟ اور یہ کہہ کر گھڑا ہتی ہوا تھا کہ حضرت ایک چھٹ گئے اور خوب معاف نہ فرمایا جس کی لذت اب تک یاد ہے۔ حضرت قدس سرہ نے اللہ تعالیٰ بہت بلند درجات عطا فرمائے اور حضرتین مولانا مدینی و رائے پوری کی شفقتوں کا بہتر سے بہتر بدله عطا فرمائے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جب کراچی میل لاہور پہنچا تو کسی نے یہ کہا کہ گلکتہ میل سامنے چھوٹ رہا ہے۔ وہ دو گھنٹے لیٹ تھا۔ میں چھڑی اور حج سے ہاتھ میں لے کر چلتی گاڑی میں گلکتہ میل میں سوار ہو گیا ساتھیوں کو بھی ایک دو کے سوا جن کو میں لاہور کے اشیش پر ریل سے اترتے ہوئے کہہ کہ آیا کہ میں سہار پور اشیش پر ملوں گا کسی کو خبر نہیں ہے مستورات اور سارا سامان فرنیسر سے آ رہا ہے میں نے سوچا کہ دو گھنٹے تم سے مل لوں گا۔ یہ فرمایا کہ ارشاد فرمایا چلو جو لاہے کو انٹھادیں قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرہ کے بیٹھنے والے جانب حافظ محمد یوسف صاحب مرحوم انصاری گنگوہی ممبر شوری دارالعلوم دیوبند انگریزی دور میں سرکاری ملازم تھے۔ بہت اونچی شخواہ اور افسران کی نگاہ میں بہت با غرمت دیا وقار سرکاری حیثیت سے بہت ہی امتیازی شخصیت و شان رکھتے تھے۔ ترک موالات کے زمانہ میں سرکاری ملازمت سے استعفاء دے کر سہار پور میں مستقل قیام کر لیا تھا اور یہاں کھدر کے بُنے کی کھڈیاں کئی ایک لگائی تھیں۔ اس وقت سے حضرت مدینی قدس سرہ کے یہاں ان کا لقب جو لاہہ پڑ گیا تھا:

### لگتی ہیں گالیاں بھی منہ سے ترے بھلی

میں نے کہا ضرور چلے میں یہ کہہ کر لیپ گل کر کے ساتھ ہولیا اور زینے سے اترتے وقت میں نے پوچھا کہ اور چائے؟ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ضرور نصیر سے کہہ دو کہ بنا کر دہیں لے آئے۔ نصیر اپنے مکان میں سورہاتھا۔ میں نے جلدی سے اس کو آواز دے کر جگایا اور کہا کہ حضرت تشریف لے آئے دو کیتلی (چائے دان) چائے کی ایک بہت بڑی بلکلی چائے کی اور ایک چھوٹی تیز چائے کی بنا کر حافظ یوسف صاحب کے یہاں جلدی لے آؤ۔ وہاں پہنچے تو وہ مرحوم سورہ تھے کئی آوازوں میں بیدار ہوئے اور انٹھ کر گھڑی دیکھ کر آنکھیں ملتے ہوئے آئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو ابھی بارہ ہی بجے ہیں گھڑی بند ہو گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بے فکری سے سورہ ہیں اور ایک ہم ہیں:

پھرتے ہیں میر خوار گوئی پوچھتا نہیں

میں نے عرض کیا کہ اب بھی کچھ پوچھنے میں کسر رہ گئی۔ مشرق، مغرب، ہند و عرب تو پچھے پچھے پھر تے ہیں وہاں بیٹھ کر حافظ یوسف صاحب سے وہی بیان فرمایا کہ کلکاتہ میں لیٹ تھا میں نے سوچا کہ دو گھنٹے دو ستوں سے مل لیں گے۔ اتنے میں مولوی نصیر الدین چائے لے آئے اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے۔ اطمینان سے چائے پی۔ سفر کے حالات حضرت ساتے رہے۔ ڈھائی بجے کے قریب حافظ یوسف صاحب کو تقاضہ کیا کہ آپ اشیش نہ جائیں اور مجھ سے فرمایا کہ چلو اشیش میں نے کہا کہ میں تو بغیر حکم کے بھی چلوں گا۔ جب ہی اشیش کے لیے تانگہ منگایا اور پونے تین بجے کے قریب اشیش پہنچ گئے۔ وہاں سو ڈریڑھ سو کا جمع جمع ہو چکا تھا۔ حضرت تانگہ سے اترے اور وہاں کہرام مجع گیا۔ کوئی کہے کہ حضرت تشریف لے آئے اور کوئی دور سے کہتا ہے کہ بالکل جھوٹ ابھی تو گاڑی میں سوا گھنٹہ ہے اور کسی نے کہا کہ گاڑی تو آگئی ہم نے تو دیکھی نہیں۔ حضرت مشائخ اوڑھے چھڑی ہاتھ میں لے کر نہایت وقار سے ہر شخص سے فرمار ہے تھے کہ آپ اگر مجھے پہچانتے ہیں اور میں حسین احمد ہوں تو مل جیجے بہت اطمینان سے لوگوں سے مصافحے کیے۔ اتنے میں فرنٹیر میں آگیا۔ چونکہ وہ دیوبند نہیں تھہرتا اس لیے سارا سامان جو حضرت قدس سرہ کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے سفر میں خوب ہوا کرتا تھا اور اس مرتبہ تونج سے تشریف لارہے تھے۔ وہ سارا سامان سہارنپور کے اشیش پر آتا رہا گیا اور جب ہی ساڑھے چار پر پستینجرا جاتا تھا اس میں رکھا گیا۔ بہت ہی بھاگ دوڑ ہوئی۔ مگر حضرت قدس سرہ کو سامان کی کثرت سے کبھی فکر نہ ہوتی تھی اور میں حضرت کے سامان کو دیکھ کر ہمیشہ ہم جاتا تھا کہ اتنا سامان کس طرح جائے گا۔ چھ بجے کے قریب حضرت قدس سرہ دیوبند پہنچے اور آٹھ بجے بخاری کا سبق پڑھایا اور اس سے کار کو جب کہیں سفر درپیش ہو تو تین دن پہلے بلکہ ایک ہفتہ پہلے سے اس کے ہم میں بخار ہو جاتا ہے۔ اور دس دن بعد تک تکان اور بخار رہتا ہے:

بُنَيْنَ تَفَاوْتَ رَهْ ازْ كَجا سَتْ تَاْ بَهْ كَجا

میرے حضرت اقدس سہارنپوری قدس سرہ کا بھی یہی دستور تھا کہ جب کہیں جانا ہوتا تو بہت اطمینان سے بذل لکھواتے رہتے اور جب حاجی مقبول صاحب سامان بندھوا کرتا تھا پر رکھ کر یہ اطلاع دیتے کہ تانگہ آگیا تو حضرت نہایت اطمینان سے لکھواتے ہوئے اٹھتے اور گھر کے دروازے پر کھڑے کھڑے جاتے اور پھر تانگہ میں بیٹھ جاتے میرا تو اپنے بزرگوں کے قصے لکھوانے کو بہت جی چاہتا ہے خواہ کسی کو پسند آؤں یا نہ آؤں یا اسی مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اور حضرت مدینی اور حضرت رائے پوری ثانی کی تواتی شفقتیں ہیں کہ بڑے بڑے دفتروں میں بھی نہیں آسکتیں ایک مرتبہ دو پھر کا وقت گرمیوں کا زمانہ ایک بجے دو پھر کو میں اپنے گھر کے دروازے میں سویا کرتا

تحا، کیونکہ بھلی پچھے کا دور نہیں شروع ہوا تھا، میں سونے کے لیے لیٹا سر بانے کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو حضرت قدس سرہ کھڑے ہیں۔ میں نے جلدی سے انھوں کو مصافحہ کیا اور پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت کھانا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر کھانا کھا لیتے تو تمہارے یہاں کیوں آتے؟ حضرت کے پیچھے پیچھے علامہ ابراہیم مرحوم اور ان کے پیچھے نائب مفتیم دارالعلوم دیوبند مولانا مبارک علی صاحب مرحوم اور یکے بعد دیگر ایک لائن لمبی تھی جن کو میں نے اس وقت شمار بھی نہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بارہ تھے حضرت قدس سرہ تو پچھے گھر میں آگئے اور پیچھے پیچھے جملہ رفقاء اور میں نے پاؤں اندر گیا اور اپنی بچیوں سے پوچھا کہ حضرت کئی آدمیوں کے ساتھ ہیں پکھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ن روٹی کا نکڑا اور نہ پکھ سالن جس کی وجہ یہ تھی کہ کھانے کے وقت بے اطلاع آٹھ دس مہماں میں وقت پر پہنچتے اس لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ بلکہ بچیوں نے بھی آدمی بھوک کھائی تھی۔

اللہ جل شانہ ہر دو میری بیویوں اور سب بچیوں کو بہت ہی جزائے خیر دے مہماںوں کے سلسلہ میں ان سے بہت راحت پہنچتی ہے۔ تمیں چالیس مہماںوں کا کھانا آدھ پون گھنٹے میں تیار کر دینا ان کے یہاں بہت ہی معمولی بات رہی۔ بشر طیکہ گھر پر کئی ہوں میں نے کہا کہ جلدی سے ایک آنا گوندھے اور ایک جلدی سے دیکھی میں مصالحہ بھونے اور میں باہر نگئے پاؤں گیا۔ حضرت مدینی قدس سرہ کی کرامت کے سڑک پر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا قدمی قصاب صوفی کرم الہی جو ہمیشہ سے میرے یہاں گوشت لاتا ہے اور مجھے بھی اس سے محبت و تعلق ہے اس کے سوا کسی کا گوشت پسند نہیں آتا۔ بہت آہستہ آہستہ بہت دور سے آ رہا ہے میں نگئے پاؤں اس کی طرف بھاگا اور اس کو آواز دی کہ جلدی آ۔ وہ جلدی سے آیا۔ میرے سوال پر اس نے کہا کہ گوشت بھی ہے اور قیمة بھی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے قیمہ دے اور جلدی سے دونوں ہاتھوں میں سارا قیمه جو تمیں سیر کے قریب ہو گا لے کر گھر پہنچا تو دونوں چولہوں میں آگ جل پکھی تھی اور ایک پر توار کھا تھا اور ایک پر مصالحہ بھون رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ گوشت مصالحہ میں ڈال کر کہا کہ جلدی سے پکا اور دو بچیوں سے کہا کہ توے پر بیٹھو ایک پیڑے بننا کر روٹی بنائے اور دوسرے توے پر سینکے وہ بجائے دو کے تین بیٹھے گئیں۔ ایک گوشت بھون رہی تھی۔ اور اس وقت چارہ ہی گھر میں تھیں اور میں نے باہر آ کر شور چایا کہ بھائی کسی نے دستر خوان نہیں بچایا۔ ارے بھائی دستر خوان بچھا و اور ہاتھ دھلا و۔ حضرت قدس سرہ سمجھے کہ کھانا تیار رکھا ہو گا۔ سب کے ہاتھ دھلانے اور ترتیب سے بیٹھنے اور دستر خوان بچھانے میں دو تین منٹ لگ گئے میں اندر گیا تو دس بارہ روٹیاں تیار ہو پکھی تھیں اور قیمہ بھی نیم برشت ہو چکا تھا۔ میں اطمینان سے تین روکابی میں قیمہ لا یا اور تین جگہ روٹیاں رکھیں۔ ایک دم حضرت قدس سرہ کو خیال ہوا کہ پہلے کا کچھ نہیں حال ہی کا پکا ہوا ہے۔

حضرت کو تو تعجب نہیں ہوا کہ بارہا حضرت کو سابقہ پڑھ کا تھا۔ لیکن علامہ ابراہیم مرحوم جوفن معقول کے مشہور امام تھے، فرمانے لگے کہ کیا آپ کو ہمارے آئے کا پہلے سے علم تھا یا آپ کو کشف ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جناب کہ یہاں بیٹھنے کے بعد یہ گوشت قصاب کے یہاں سے خریدا گیا ہے، فرمانے لگے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ ہر بات معقول نہیں ہوتی۔ کچھ عقول سے بالاتر بھی ہوتی ہیں۔ حضرت مدینی نے علامہ سے فرمایا کہ مناظرہ نہ کرو جلدی سے کھالو دیر ہو رہی ہے۔ ان کے یہاں تو یہ قصے چلتے ہی رہتے ہیں اور پھر مجھ سے فرمایا کہ ان میں سے میرے ساتھ کوئی نہیں۔ مولانا اشfaq صاحب (اعلیٰ حضرت رائے پوری کے بھانجے دار العلوم کے ممبر شوری) کا جب سے انتقال ہوا جس کوئی دن گزر گئے۔ روز رائے پور جانے کا ارادہ کرتا رہا لیکن جب سبق کے بعد گھر جاتا تو کوئی نہ کوئی اہم مہمان یا کوئی مانع پیش آ جاتا تھا اس لیے آج میں نے ارادہ کیا کہ سبق پڑھ کر درس گاہ سے سیدھا ریل پر چلا جاؤں۔ میں رائے پور کا ارادہ کوئی دن سے کر رہا تھا ان لوگوں میں سے جس جس نے ساچھے ہو لیے۔ ان میں سے بعض سے ملاقات دیوبند کے اشیش پر ہوئی تو بعض سے سہارنپور کے اشیش پر۔ میرے ساتھ ان میں کوئی نہیں۔ کھانا کھا کر جب ہی رائے پور پہنچے گئے۔

اتنا مجھے خوب یاد ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ حضرت مدینی قدس سرہ کے دروازے میں مصافحہ کے وقت سے گیارہویں منٹ پر دستِ خوان بچھ گیا تھا۔ میرے حضرت مدینی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کے صرف کھانے ہی کے مد میں اگر شفقتیں اور واقعات گنواؤں تو ان کا احاطہ بھی بہت دشوار ہے۔ بارہا اس کی نوبت آئی کہ حضرت تشریف لائے اور میں دارالطلبہ سبق میں تھا۔ حضرت نے دروازے پر کسی بچے کو آواز دے کر ارشاد فرمایا کہ حسین احمد کا سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ جو کھانے کو رکھا ہے جلدی بھیج دو گاڑی کا وقت قریب ہے اور جب اندر سے بچوں کی یہ آواز سنتے کہ ابا جی کو جلدی سے مدرسہ سے بلا لاؤ تو حضرت لکار کے فرماتے کہ مجھے ابا جی کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، ہو تو بھجوادو، ورنہ میں جارہا ہوں۔

کئی دفعہ اس کی نوبت آئی کہ میرے دارالطلبہ سے آنے تک حضرت کھانا شروع فرمادیتے یا تناول فرمائیتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ آپ کا آپ کے گھر والوں نے حرج کیا ہے میں نے نہیں بلوایا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول جمعرات کے سفر کا ہمیشہ سے تھا اور کبھی کبھی جمعہ کو بھی آتے جاتے سہارنپور کا نمبر آ جاتا۔ میری عادت اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے زمانے سے جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانے کی ہمیشہ رہی۔ مجھے پہلے کھا کر جمعہ کی نماز میں لطف نہیں آتا اور حضرت قدس سرہ کا معمول ہمیشہ جمعہ سے پہلے کھانے کا تھا خواہ وقت قلیل ہی ہو۔ سفر میں تو ہمیشہ

میزبان ان کی رعایت کرتے اور میں تابع ہوتا۔ مگر سہارنپور میں خوب رسہ کشی ہوتی۔ میری خاطر حضرت تو فرماتے کہ میں جمعہ کے بعد کھاؤں گا اور میں کہتا کہ نہیں حضرت میں جمعہ سے پہلے کھاؤں گا مگر اس میں حضرت قبول نہ فرماتے اور غلبہ جمعہ کے بعد ہی کو ہو جاتا اور میں بھی جھوٹا سچا اصرار کر کے خاموش ہو جاتا۔

ایک مرتبہ حضرت سفر سے تشریف لائے جمعہ کا دن گیارہ بجے کے قریب فیصلہ جمعہ کے بعد کھانے پر ہو گیا۔ کھانے کے دوران میں ایک صاحب شہر کے آگئے اور بہت اصرار سے اپنے ادارے میں چند منٹ کے لیے تشریف لے جانے کا وعدہ لے گئے۔ میں نے مخالفت بھی کی کہ حضرت وہاں جا کر دریں، بہت ہو جائے گی یہ صاحب جلدی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت قدس سرہ کو سازھے چار بجے کے ایک پریس سے سیدھے دہلی جانا تھا کہ وہاں کسی اجتماع میں عشاء کے بعد شرکت کا وعدہ تھا۔ مگر حضرت مدینی اور حضرت رائے پوری نور اللہ مرقد ہمدلداری اور دلجمی کے پسلے تھے قبول فرمایا تین بجے کے قریب ان کی کار میں ان کے ادارے میں گئے۔ کارتے راستے میں بہت پریشان کیا اور ان صاحب نے حسب عادت بہت تاخیر کی اور جب اٹیشن پہنچ تو گاڑی چھوٹ چکلی بھی۔ مگر چہرہ انور پر ذرا بھی ناگواری یا ملال کا اثر نہ تھا۔ دہلی تو حضرت نے تار دیا کہ دوسری گاڑی سے آؤں گا اور خادم کو تو شہزادان دے کر بھیجا کہ شیخ الحدیث سے کہو جو کچھ رکھا ہے دے دیں۔ معلوم ہوا کہ اٹیشن پر بہت سے مخصوصوں نے خوشامد اور منت سماجت کی کہ کھانا وہیں سے آئے گا۔ کس کس شفقت کو یاد کروں اور روؤں اور رُلاؤں۔

ایک دفعہ تشریف لائے۔ گرمی کا موسم، میں نے حضرت کے خادم سے پوچھا کہ تھر ماں میں برف ہے۔ وہ یہ سمجھنے کے پینے کے واسطے پوچھا ہے۔ وہ کہنے لگے تھوڑا سا ہے لااؤں۔ میں نے کہا کہ پینے کو نہیں پوچھتا بلکہ میرے تھر ماں میں سے اپنے تھر ماں میں بھرلو۔ وہ کوئی نئے خادم تھے۔ کہنے لگے کہ نہیں حضرت اس میں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنی جگہ ہے اس میں بھرلو، بخیل کامال ہے جتنا ہو وصول کرو۔

ایک مرتبہ میرے پاس دہلی کے ایک صاحب نے گاجر کے حلے کا ایک پیکٹ بذریعہ ڈاک بھیجا اور اسی دن معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لارہے ہیں۔ میں نے احترام و اشتیاق میں اس کو اپنے کمرے کے سامنے چھینکے پر کھوادیا۔ اس زمانہ میں میرا قیام مستقل اور پر کے کمرے میں شب و روز رہتا تھا۔ حضرت کے تشریف لاتے ہی میں نے ایک مخلص سے کہا کہ بھائی چھینکے پر سے پیکٹ اٹھا کر کھول کر حضرت کی خدمت میں پیش کرو۔ حضرت نے خود ہی پیش قدمی فرمائی اور چھینکے پر سے اس کو اٹار لیا اور اس کے کپڑے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ تو بادشاہ تھے، ان کی نگاہ میں

ایسی معمولی چیزیں کیا تھیں اور میں بقول ان کے بخیل، اول تو مجھے اس کپڑے پر قلق ہوا کہ کیسا ضائع ہوا اور حضرت نے ایک دو انگلی تو اس میں سے خود تو ش فرمائی اور باقی سارا جس کی مقدار انداز آدھ سیر ہو گی ایک ایک لقمہ سارے جمع کو جو حضرت قدس سرہ کے ساتھ ان کے آتے پر ہمیشہ ہو جاتے تھے قسم فرمادیا اور میری نہ تواضع فرمائی اور نہ چکھایا اور سارا ختم کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ بخیل اس کو پھر چھینکے پر رکھ دیتا۔

حضرت نور اللہ مرقدہ کو ہمدر سے تو عشق تھا اور ولایتی کپڑے سے نفرت تھی یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن اس سے کار کے حال پر ایک ہر یہ شفقت یہ تھی کہ میرے بدن پر جب بھی بدی یہی کرتے دیکھتے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایسے زور سے چاک فرماتے کہ بیچے تک وہ پھٹ جاتا تھا۔ حضرت قدس سرہ کی حیات تک ڈر کے مارے کھدر کا میرے یہاں بہت بھتی اہتمام رہا۔ چونکہ حضرت قدس سرہ کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ نہ دن نہ رات۔ اس لیے گرمی میں بھی کھدر کا کرتا جھک مار کر پہننا پڑتا تھا۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ کی صاحبزادی نور اللہ مرقدہ کو حضرت سہار پوری سے بہت محبت تھی اور حضرت کو بھی بہت بھی زیادہ ان سے عقیدت و محبت اور ان کا احترام تھا۔ میرے حضرت کھدر بالکل نہیں پہنتے تھے۔ حضرت صاحبزادی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت اہتمام سے روئی مانگوا کر بہت بھی باریک سوت خود کاتا اور ایک جوڑا کرتے پاجامہ ٹوپی خود اپنے دست مبارک سے سیا اور میرے حضرت سہار پوری قدس سرہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حضرت قدس سرہ نے ایک جمعہ تو ان کے احترام میں اس جوڑے کو پہن کر پڑھا اور دوسرے دن اس ناکارہ کو یہ کہہ کر عطا فرمادیا کہ تم مولوی حسین احمد کی خاطر میں ہر وقت کھدر پہنتے ہی ہو اس کو بھی پہن لینا۔

جب اعلیٰ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے بعض اعذار کی وجہ سے مدرسے کی تشریف آوری سے عذر فرمادیا تھا تو میرے حضرت قدس سرہ نے حضرت مدینی کو تار دیا جو اس وقت کلکتہ میں تشریف فرماتھے کہ جلسے میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔ حضرت مدینی کو اللہ تعالیٰ بہت بھی جزاً نیز عطا فرمائے کسی دوسری جگہ تشریف لے جانا تھا۔ وہاں کا التواء کا تار دے کر فوراً سہار پور تشریف لے آئے۔ چونکہ خاص طور سے بلائے گئے تھے اس لیے مدرسہ کے مہمان خانہ میں حضرت مدینی کے قیام کا اہتمام میرے حضرت قدس سرہ نے فرمایا، تانگہ سے اُتر کر حضرت مدینی مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ میرے حضرت سے مصافی اور دست بوی فرمائی۔ خدام سامان لے کر پیچھے پیچھے آرہے تھے۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ سامان اوپر مہمان خانہ میں لے جاؤ۔ حضرت مدینی نے ارشاد فرمایا کہ میرا سامان کچھ گھر میں جائے گا۔ اس کے بعد سے جب تک

منظار علوم کا سالانہ جلسہ ہوتا رہا جو قسم ہند تک بڑے اہتمام سے ہوتا رہا اور اس کے بعد بعض مجبوریوں کی وجہ سے بند ہو گیا۔ حضرت ہمیشہ دو مرتبہ کے علاوہ سالانہ جلسہ میں تشریف لاتے رہے اور حضرت حکیم الامت کے بعد مدرسہ کے جلسہ کے واعظ حضرت شیخ الاسلام بن گنے، دو مرتبہ تشریف نہ لاسکے۔ ایک مرتبہ تو جلسہ کے موقع پر حضرت مدح صحابہ کے سلسلے میں لکھنؤ جیل میں تھے، اس جلسہ میں بعض مفسدین نے کچھ خلفشار پھیلایا، جلسہ کو بند کرنے کی کوشش بھی کی اور ایک مرتبہ باوجود دیوبند تشریف فرمائونے کے میری حمایت سے تشریف آوری نہ ہوئی۔

میں مطمئن رہا کہ حضرت کو جلسہ کی تاریخ معلوم ہے، دفتر سے ضابطہ کا خط اور اشتہار جا چکا ہے اور خود حضرت کو بھی مدرسہ کے جلسہ کا اہتمام رہتا تھا، مجھ سے اکثر ایک دو ماہ قبل دریافت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے جلسہ کی تاریخ نوٹ کر اودبھی میری تاریخ کہیں دوسرا جگہ کی ہو جائے اور تم خفا ہو۔ اس لیے میں بالکل مطمئن تھا۔ حضرت تشریف نہ لائے اور دیوبند میں مقیم رہے۔ جلسہ کے دن شام کو تشریف لائے، اس لیے کہ بعض خصوصی مہماںوں سے خود حضرت کو بھی ملنا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آج تو بڑا انتظار کرایا خیر تو ہے۔ فرمایا کہ تم نے بلا یا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت امدرسہ سے تو مطبوعہ اشتہار اور خط دوں گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو گئے تھے مگر اب تک معمول ہمیشہ یہ رہا کہ مدرسہ کے خط کے ساتھ یا علیحدہ مستقل حکم نامہ تمہارا بھی جاتا تھا، اب کے نہیں گیا، میں نے سمجھا کہ میری آمد تمہارے زذیک مناسب نہیں ہے۔ اس وقت اپنی حمایت پر بہت ہی قلق ہوا۔ اس کے بعد سے کبھی مستقل عرض نہیں چھوڑا۔ اتنے واقعات اس وقت ذہن میں ہیں کہ او جز کی چھ جلدیں حضرت مدنی و رائے پوری کے حالات میں آسکتی ہیں۔

میرے حضرت مدنی قدس سرہ کو ترمذی کے سبق میں کوکب الدرمی کے دیکھنے کا بہت اہتمام تھا اور طلبہ کو ترغیب بھی فرماتے تھے اور کبھی کبھی مستقل سفر دیوبند سے سہارنپور کا او جز کوکب کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کوکب کا حاشیہ لکھا ہے یا او جز کا اشتہار دیا ہے۔ ہر جگ دو تین لفظ لکھ کر لکھ دیتے ہیں کہ ”والبسط فی الاو جز“۔ ایک دفعہ کوکب دیکھو اور ایک دفعہ او جز دیکھو۔ حضرت اکثر بہت ہی شفقت سے کوکب اور او جز کے مضامین پر اصل مأخذ کا بھی مطالبہ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ نے کہاں لکھ دیا، اس کا مأخذ دکھائیے۔ اس کے متعلق بعض واقعات تایفات میں گزرے ہیں۔ ایک اہم واقعہ تو جزء الاستحاضہ میں گزر گیا۔

ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ نے میری دیوبند حاضری پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے او جز کی کتاب الحج میں ایک ایسی اچھی بات لکھی ہے جس سے بہت دل خوش ہوا اور امام بخاری کے بہت سے اعتراضات تمہاری تقریر سے اٹھ گئے۔ حضرت سبق کو تشریف لے جا رہے تھے۔ میرا حضرت کے

ارشاد پرندامت سے کچھ ایسا سر جھکا کہ تفصیل نہ پوچھ سکا کہ میری کون سی تحریر تھی جس سے امام بخاری کے جملہ اعتراضات ختم ہو گئے۔ بعد میں بھی کئی مرتبہ خیال آیا مگر حیا کی وجہ سے نہ پوچھ سکا۔ ”لامع الداری“ بھی دراصل حضرت کے شدید اصرار پر تکمیلی تھی۔ کوکب کے بعد سے حضرت اس کی طباعت کا بہت ہی اصرار فرمائے تھے اور میں اوجز کی تکمیل کا اعذر کر دیتا۔ ایک مرتبہ بہت ہی قلق نے فرمایا کہ میرے سامنے طبع ہو جاتی تو میں بھی منتظر ہوتا، میرے بعد طبع کرو گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ بہت ہی قلق اور رنج ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت کے مرض الوصال اور شدت علالت میں بہت ہی زور باندھ کر چار صفحے اس کے چھاپے تھے، جو حضرت کی خدمت میں مستقل آدمی کے ہاتھ بھیجے تھے، جو وصال کے وقت حضرت کے سرہانے رکھے رہے مگر مقدر کہ حضرت قدس سرہ کی زندگی میں کم از کم ایک ہی جلد طبع ہو جاتی تو بے حد سررت ہوتی۔ لیکن مقدرات کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ اللہ جل شماہ لامع کا اجر و ثواب حضرت کو مرحمت فرمادے کہ حضرت ہی کے حکم سے تکمیلی تھی۔

حضرت قدس سرہ سے علمی گفتگو بھی خوب ہوتی اور مناظرے بھی خوب ہوتے تھے۔ بہت سے مضافین کو اس ناکارہ نے ”افادات حسینی“ کے نام سے جمع بھی کر رکھا ہے، جس کا تذکرہ تالیفات میں گزر چکا ہے۔ خطبات کی تالیف میں جو حضرت کثرت سے لکھا کرتے تھے۔ اکثر کسی طالب علم کے ہاتھ پر چہ بھیج دیتے کہ فلاں فلاں حدیث کے حوالے بھیج دو، میں بڑے اہتمام سے اسی وقت لکھ کر بھیجا کرتا تھا۔

حضرت قدس سرہ دستی ٹکھے کے بہت خلاف تھے۔ کچھ گھر میں جب کوئی جھلنے کھڑا ہوتا تو ڈانت سنتا، میں خوشامد کرتا تو مجھ پر بھی ڈانت پڑ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت نے بہت زور سے فرمایا کہ کسی حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو بخالی کے ٹکھے کا بھی ثبوت نہیں ملا، جو حضرت کے کمرے میں لگا ہوا ہے، حضرت بھس پڑے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کے مسجد میں جماعت کو پنکھا کرنے کی نقل کر کے بھیجی اور جب اگلی دفعہ تشریف لائے تو میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ حضرت کو پنکھا کر، اب تو حدیث بھیج دی، اب کیا کسر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غیر معروف کتاب کی حدیث بھیجی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری احادیث معروف کتابوں میں ہیں اسی طرح ارشاد فرمایا کہ یہ بدن دیانے کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مباحثات میں ہر ایک کے لیے حدیث تلاش کرتا ہے امشکل ہے۔ اس کی حدیث تو میں تلاش کر کے بھیج دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ایک طالب علم کے ہاتھ بھیج دی۔

اس ناکارہ کا دستور تواتر کو کام میں مشغول رہنے کا خوب رہا اور ساری رات جا گناہ معمولی

بات تھی۔ حضرت قدس سرہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری اس چیز پر بڑا رشک آتا ہے۔ میری تو یہ مصیبت ہے کہ جہاں عشاء کے بعد کتاب ہاتھ میں لی تھیں اس قدر غلپہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اخیر شب میں کتاب دیکھنے کی حضرت کی خصوصی عادت تھی اور یہ ناکارہ اس سے عاجز تھا۔ تھوڑی دیر سو کرایک دو بجے اٹھ کر صبح تک کتاب دیکھنا حضرت کے یہاں بہت معمولی چیز تھی۔ بسا اوقات اس کی نوبت آئی کہ حضرت تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ایک مضمون لکھنا ہے، اس کے مأخذ نشان رکھ کر میرے سر ہانے رکھو۔ اس وقت شروع رات میں دیکھنا میرے بس کا نہیں، اٹھ کر دیکھوں گا۔ میں جن کتابوں میں فوراً ملتا وہ حضرت کے سر ہانے رکھ دیتا۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ معاہدات یہود کی ضرورت ہے، اس کی روایات جہاں جہاں ہوں اور اس قسم کے مضمومین ہوں نشان لگا کر رکھ لینا۔ کل رات کو یہاں سوؤں گا حالانقل کر کے لے جاؤں گا۔

ایک دفعہ حضرت قدس سرہ رمضان ناندہ گزار کر تشریف لائے اتفاق سے حضرت رائے پوری ثانی بھی سہار پور تشریف رکھتے تھے۔ حضرت نے حسب معمول تار دیا اور میں صبح کو دس بجے اٹیشن پر حاضر ہوا اور حضرت رائے پوری میرے ساتھ اٹیشن تشریف لے گئے۔ یہ حضرت رائے پوری کی مستقل عادت تھی کہ جب ان کے قیام سہار پور میں حضرت تشریف لاتے اور میں اٹیشن جاتا تو حضرت ضرور تشریف لے جاتے۔ حضرت مدینی قدس سرہ حضرت رائے پوری سے مل کر بہت بھی خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کی مجھے بڑی ضرورت ہو رہی تھی۔ میں تم دونوں سے ایک اہم مشورہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس وقت مستورات ساتھ ہیں، سامان بھی ساتھ ہے۔ میں ان سب کو دیوبند پہنچا کر الگی گاڑی سے واپس آجائوں گا۔ حضرت کا قیام یہاں کب تک ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت رائے پوری کچھ ارشاد فرمائیں میں مجھے گستاخ کو پیش قدیمی کی عادت ہمیشہ رہی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کا ارادہ آج ہی جانے کا تھا۔ جناب والا کی خبر سن کر ملتوی کیا تھا اور شام واپسی کا ارادہ ہے، مگر جب بھی حضرت والا تشریف لائیں، ان حضرت کا قیام یہاں ضرور رہے گا۔ آپ فوراً واپسی کا ارادہ ہرگز نہ فرمائیں، جب سہولت ہو، بہت اطمینان سے کل یا پرسوں تشریف لے آئیں۔ حضرت تشریف رکھیں گے۔ حضرت مدینی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل نہیں، میں حضرت کا حرج بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ سامان اور مستورات وغیرہ کو پہنچا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ ان حضرت کو نہ تو بخاری کا سبق پڑھانا ہے اور نہ مؤٹاکی شرح لکھنی ہے ان کو نور پھیلانا ہے، رائے پور کی جگہ دو تین دن سہار پور بیٹھ کر نور پھیلادیں گے۔ دونوں حضرات بہت بہنے اور میرے حضرت رائے پوری قدس سرہ نے بہت زور سے میری بات کی تائید کی کہ ہاں حضرت انھوں نے صحیح فرمایا میں تو بے کار ہوں نہ مجھے یہاں

کوئی کام اور نہ دباؤ۔ میں جب تک حضرت تشریف لاویں گے خوشی سے انتظار کروں گا۔ مگر حضرت مدینی قدس سرہ دوسری گاڑی سے فوراً تشریف لے آئے ظہر کی نماز کے بعد مدرسہ کے قدیم مہمان خانے میں جواب کتب خانہ کا جزو بن گیا شرقی دیوار کی طرف دونوں اکابر تشریف فرماتے۔ دیوار کے قریب تکینے رکھے ہوئے تھے اور سامنے خادمانہ دوز انوں بیٹھنے سے میں عرصے سے معدود ہوں چوڑ انوں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت مدینی نے فرمایا کہ مودود یوں کی کتابوں کے برہا راست دیکھنے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ کچھ تراشے لوگ بھیجتے رہے اور کچھ احوال خطوط سے معلوم ہوتے رہے۔ ان ہی پر میں رائے قائم کرتا رہا۔ تم دونوں کا موقف اس سلسلہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رائے پوری قدس سرہ کا دستور تو دیکھنے والے سینکڑوں موجود ہیں ان کا ایک عام ارشاد تھا کہ میں تو ان حضرت (یعنی یہ ناکارہ) کے پیچھے ہوں۔ جو یہ حضرت فرمادیں گے۔ وہی میری رائے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث شجاعت اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں۔ لیکن مودود یوں کے بارے میں اگر آپ کوئی حکم متفقہ میری رائے کے خلاف دیں گے تو بہت ادب سے عرض کروں گا کہ تمیل حکم سے معدود ہوں۔

حضرت مدینی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ ہے ہمارے جو توں کی خاک کی حقیقت۔ حضرت رائے پوری خوب نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تقریباً میں پانچ کے قریب کتابیں اسال دیکھ چکا ہوں جو زبردستی مجھے دکھلائی گئیں اور ان پر میرے اشکالات ایک جگہ نوٹ ہیں چناچہ تالیفات کے سلسلہ میں اس کا ذکر گز بھی چکا ہے۔ حضرت اطمینان سے تشریف لا میں تو میں اصل کتابوں کی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جن پر مجھے اشکالات ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں دو دن بعد دو شب قیام کے لیے آؤں گا اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ مجلس ختم ہو گئی اور دونوں حضرات شام کو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دو دن بعد حضرت قدس سرہ مولانا اعزاز علی صاحب کو لے کر تشریف لائے اور دو دن مستقل قیام فرمایا۔ مہمان خانہ قدیم وہ کمرہ جو دارالافتاء کے نیچے ہے اور اب کتب خانہ کا جزو ہے اور مدرسہ کے زینہ کے منہماں پر اس جانب کو اڑ بھی لگے ہوئے تھے۔ غالباً اب نہیں رہے۔ صبح کو چائے کے بعد میں اور حضرت قدس سرہ اور مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ زینے والے کو اڑوں کی زنجیر لگا کر اس کمرہ میں بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت کئی کئی ورق اول سے آخر تک مسلسل پڑھنے کے بعد نشان لگا کر مولانا اعزاز علی صاحب کو دیتے کہ یہاں سے یہاں تک عبارت نقل کر دو۔ کبھی کبھی قاری صاحب مرحوم کو بھی نقل کی یا کسی افتاء کی کتاب کی مراجعت کے لیے بلالیا جاتا تھا تین شب دو دن مسلسل ان دونوں حضرات کا یہاں قیام رہا اور شہر میں جیسا عوام کی عادت ہوا کرتی ہے خوب قیاس آرائیاں ہو میں کہ یہ کیا اہم سلسلہ درپیش

ہورہا ہے عام طور سے لوگ سیاسی مسائل کے اوپر رائے زناں کرتے۔ مگر اونچے لوگ اس کی تردید کر دیتے کہ سیاسی مسائل میں شیخ الحدیث اور مفتی کی ضرورت ہے کوئی علمی مسئلہ ہوگا۔ سامنے جگلے پر سے لوگ کھڑے ہو کر کئی کمی گھنٹے گھورتے رہتے بعض سیاسی اونچے لوگ آتے اور اپنے علوشان کی ہمار پرواہ کھلوانا چاہتے آوازیں دیتے تو میں اپنی جگہ سے احتاثہ نہیں اشارہ سے انکار کر دیتا۔ حضرت پکھ آڑ میں کو ہوتے تھے اور کچھ آگے کو ہوتے تھے پورے نظر نہیں آتے تھے۔ نچے درسہ والوں سے کہہ رکھا تھا کہ جو آوے اس سے کہہ دیجیو کہ بارہ بجے سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی یا پھر عصر کے بعد۔ عصر سے مغرب تک مجلس عامہ رہتی اور مغرب سے عشاہ تک سیاسی لیڈروں کے حضرت سے تخلیہ کی ملاقاتیں اور رکھانا عشاہ کے بعد پھر میں ہمار کاب مہماں خانہ میں پہنچ جاتا ایک دو گھنٹہ تو حضرت کتابیں دیکھتے پھر ارشاد فرماتے بھائی ہمیں تو نیند آگئی۔ نشان رکھ کر چلے جاؤ اور مولا نا اعز اعلیٰ صاحب کو اس عشاہ کے گھنٹہ ڈریڈھ گھنٹہ میں کچھ حضرت حوالے بتا دیتے وہ ان کو نقل کرتے رہتے۔ بات پر بات یاد آ جاتی ہے میرے حضرت مدینی کا ایک بڑا عجیب دستور میرے ساتھ سالہ سال یہ رہا کثر مہینے دو مہینے میں ایک پھر اکبھی تو سونے کی مد میں ہوتا اور کبھی کوئی اہم مضمون لکھنے کے واسطے حضرت تشریف لاتے اور فرماتے تین رات ہو گئیں سوئے ہوئے۔ نیند کا بڑا خمار ہے۔ دیوبند میں سونے کی جگہ بالکل نہیں میں نے سوچا تیرے یہاں سوؤں گا میں عرض کرنا ضرور میں کچھ گھر میں گرمی میں باہر اور سردی میں اندر کمرے میں چار پائی بچھا کر حضرت کو لنا کر کسی تسلی ملنے والے کو سہانے بٹھا کر اور باہر کا قفل لگا کرتا لی اپنے ساتھ لے کر اوپر چلا جاتا لوگ مولوی نصیر سے مطالبہ کرتے کہ قفل کھول دو کہتے کہ تالی تو میرے پاس نہیں وہ تو اوپر ہے اوپر ہر شخص کی جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اونچے لوگ جن کے نام لکھنا تو مناسب نہیں سمجھتا اور پہنچ جاتے اور مجھ پر اصرار فرماتے کہ ضروری کام ہے کواڑ کھول دو۔ میں اول تو ذرا ممتاز سے عرض کرتا کہ حضرت کئی روز کے جاگے ہوئے ہیں سونے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں اسی حالت میں جتاب کو تو خود ہی چاہیے۔ مگر بعض بڑے آدمی ذرا اپنی علوشان کی وجہ سے اس جواب کو بھی اپنی تو ہیں سمجھتے تو میں کہتا کہ آپ کو تو حضرت کا یہاں تشریف لانا معلوم نہیں تھا آپ یوں سمجھتے کہ دیوبند ہیں کار لے کر دیوبند تشریف لے جائیے اور وہاں جا کر جب یہ معلوم ہو کہ سہار پنور گئے ہوئے ہیں تو واپس آ کر مجھ سے کواڑ کھلوایے اتنے وقت ہو ہی جائے گا۔ بعض لوگ تو نصیر ہی کے پاس سے واپس ہو جاتے تھے اور بعضے اوپر جا کر میرے پہلے یادو سرے جواب پر خواستہ یانا خواستہ واپس آ جاتے۔ لیکن بعض لیڈروں پر بھی زور دکھلاتے تو پھر میں بھی زور دکھلاتا۔ میں کہتا کواڑ تو نہیں کھلیں گے آپ کا جب تک جی چاہے تشریف رکھیے۔ میرا بھی حرج ہو گا مناسب یہ ہے کہ باہر

بوریے پر تشریف رکھئے۔ مجھے بڑا لطف آتا جب عتابات اور گالیاں سنتا۔ باقی میں تو کئی یاد آگئیں لیکن میں نے اور پر لکھا تھا۔ دو مرتبے تشریف آوری کے دوسرا مدحس کے لیے حضرت اہتمام سے تشریف لاتے کسی اہم مضمون کا لکھنا ہوتا تھا۔ وہ اگر طویل ہوتا یعنی ایک دو روز کا ہوتا تو حسین آباد تشریف لے جاتے دو چار گھنٹے کا ہوتا تو ایک گاڑی سے یہاں تشریف لے آتے اور وہی سارا منظر جو اور پرسونے کے سلسلے میں گزرا وہی یہاں بھی ہوتا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول گرمی ہو یا سردی اگر شب کو سونے کی نوبت آتی تو کچھ گھر ہی میں آرام فرماتے تھے سردی میں تو کوئی دقت نہ تھی۔ لیکن گرمی میں بہت ہی اصرار کرتا کہ مدرسہ کی چھٹ پر بہت ہی اچھی ہوا آئے گی منت خوشامد کرتا۔ حضرت فرماتے کہ مجھے جیل کی کوٹھریوں کی عادت ہے۔ ایک دفعہ حضرت قدس سرہ اور مولانا عزیز گل صاحب اور دو مہمان مغرب کے وقت تشریف لائے علی الصباح گنگوہ جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ گرمی بڑی شدید ہے بر سات کا زمانہ تھا آج تو مدرسہ کی چھٹ پر بڑے کمرے میں چار پائی بچھوادوں۔ بڑی اچھی ہوا آئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو کچھ گھر ہی میں سووں گا ان لوگوں کے لے بچھواد بھیو۔ میں نے مولانا عزیز گل صاحب سے اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے۔ پوچھا کہ آپ کی وہاں چار پائیاں بچھوادوں جو مولانا عزیز گل سے کبھی مل چکا ہو گا وہ ان کے طرز گفتگو سے خوب واقف ہو گا کہنے لگے کہ ہم بھی وہیں مرسیں گے جہاں یہ مرے گا چونکہ اس زمانے میں گھروالے نہیں تھے اس لیے میں نے بقیہ حضرات کی چار پائیاں زنانے مکان کی سہ دری میں بچھوادیں کہ وہاں فی الجملہ ہوا تھی۔ ایک بات اور یاد آگئی اور یہ بھی یاد نہیں کہ کہیں اور لکھوا پکا کہ نہیں۔ حضرت مدینی اور حضرت رائے پوری ثانی کا معمول یہ رہا کہ سفر ہو یا حضران دونوں حضرات کی چار پائی مجمع سے علیحدہ ہوتی تھی اور یہ ناکارہ اس ضابطہ سے دونوں کے یہاں مستشی تھا۔ ایک مرتبہ آنہدی حضرت مدینی تشریف لے گئے یہ سے کار بھی ساتھ تھا حسب معمول سب رفقاء کی چار پائیاں مختلف کروں میں بچھیں حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ ان کی چار پائی میرے ہی کرے میں ہو گی۔ آنہدی والے بھی حضرت قدس سرہ کے ساتھ بے تکلف تھے۔ کہنے لگئے کہ حضرت جی یہ کیا بات ہے کہ خادم لوگوں کی چار پائیاں تو دو رہوں ان کی کیا خصوصیت ہے کہ حضرت ہی کے پاس ہو۔ قبل اس کے کہ حضرت قدس سرہ جواب مرحمت فرمائیں۔ میں بول پڑا کہ اس کی وجہ بتلاوں وہ یہ کہ یہ دونوں حضرات رات کو بہت مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کے قرب سے ان کا حرج ہوتا ہے اور میں تو ایسا ہوں جیسے تمہاری یہ بکریاں یہاں بندھ رہی ہے۔ ایک چار پائی کے قریب وہ بھی بندھی ہوئی ہے ایک میں بھی کسی جانوروں سے حرج نہیں ہوتا آدمیوں سے ہوتا ہے میں نے اپنے اکابر میں اپنے والد صاحب اور حضرت مدینی قدس سرہ کو اخیر شب میں

بہت ہی آواز سے روتے سن۔ بسا اوقات ان اکابر کے رونے سے مجھے جیسے کی آنکھ بھی کھل جاتی تھی۔ جس کی آنکھ سونے کے بعد بڑی مشکل سے کھلتی ہے۔ حضرت مدینی قدس سرہ ہندی کے دو ہے بڑے درد سے پڑھا کرتے تھے۔ میں ہندی سے واقف نہیں اس لیے مضافاً میں کا تو پڑھنیں چلتا تھا۔ لیکن رونے کا منتظر اب تک کانوں اور دل میں نہ ہے۔ جیسے کوئی بچہ کو پیٹ رہا ہو اور وہ رورتا ہو۔ بہت وجھا اور مشقت اٹھانا تو میں نے اپنے سارے اکابر میں حضرت مدینی کے برابر کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ۱۲ ربیع الاول کے موقع پر حضرت سہار پور تشریف لائے ہوئے تھے۔ اہل شہر نے اصرار کیا کہ آج ہمارے یہاں سیرت کا جلسہ ہے۔ ذکریا نے کہہ دیا کہ اب مولود کا نام سیرت ہو گیا۔ نہ معلوم حضرت مدینی قدس سرہ کس خیال میں تھے سختی سے انکار فرمادیا کہ میں نہیں آؤں گا اور خوب ڈانٹا کہ تم لوگوں کو عقیدت ساری ۱۲ ربیع الاول ہی کوہتی ہے سال میں کبھی توفیق ہوتی ہے جلسہ کرنے کی؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو ہر وقت متنبی رہتے ہیں کوئی مانتا نہیں۔ سنا نہیں۔ حضرت نے فرمادیا کوئی سننے کے لیے تیار ہو تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے اپنی حمایت سے استقبال کا خوب اظہار کیا۔ حضرت قدس سرہ نے ہر ہفتہ تشریف لانے کا وعدہ فرمالیا اور جمعرات کی رات اس کے لیے متعین ہو گئی۔ اس لیے کہ جمعہ حضرت کا کئی کئی ماہ کا پہلے سے موعود ہوتا تھا۔ تقریباً چار ماہ مسلسل اگر کسی دوسری جگہ کا طویل سفر نہ ہوتا تو حضرت جمعرات کی شب میں ساڑھے آٹھ بجے کی گاڑی سے تشریف لاتے اشیش سے سید ہے جامع مسجد جاتے اور نماز کے بعد وعظ شروع فرماتے۔ ساڑھے بارہ ایک بجے اس سید کار کے مکان پر تشریف لاتے۔ چونکہ مجھے معمول معلوم تھا اور میری پہلی اہلیہ مرحومہ کو حضرت قدس سرہ کے لیے کھانے یا پینے کی چیزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھا وہ بارہ بجے چائے کا پانی رکھ دیتی اور حضرت کی آواز اور پڑھنے کی جب آتی کہ میرا قیام اس وقت اوپر کے کمرے میں تھا تو چائے دم کرتی اور زور سے کھڑکا کرتی اور میں جلدی سے آکر چائے لے جاتا۔ حضرت پر اس وقت چونکہ تعجب ہوتا تھا اس لیے پیتے تو تھے رغبت سے اور بار بار مجھ سے فرماتے کہ آپ اس غریب کو نا وقت ستاتے ہیں۔ میں عرض کرتا کہ میں نے نہیں کہا اس نے اپنے شوق سے خود پکائی اور چونکہ مجھے معمول معلوم تھا اس لیے چار پانی اور بستہ پہلے سے تیار ہوتا۔ حضرت چائے پی کر آرام فرماتے، میں نے اختیاری سونا اور سو کرا اختیاری جا گنا اپنے اکابر میں صرف اپنے حضرت قدس سرہ اور حضرت مدینی میں دیکھا۔ حضرت سہار پوری قدس سرہ کو بار بار دیکھا کہ ریل پر تشریف لے جا کر گاڑی اگر دس پندرہ منٹ لیت ہوئی تو حضرت فرماتے کہ میں تو اتنے سلوں گا اور کوئی خادم جلدی سے بستہ پلیٹ فارم پر کھول دیتا اور حضرت تکیہ پر سر رکھتے ہی سو جاتے اور دس منٹ کے اندر خود اٹھ جاتے۔ میرے

حضرت قدس سرہ کبھی کبھی یہ بھی ارشاد فرماتے کہ سونے کے ارادے کے بعد مجھے اکثر تکیہ پر سر رکھنے کی بھی خوبی نہیں ہوتی ہے یہ مقولہ میں نے اپنے پچا جان سے بھی اکثر سنا کہ ماہ مبارک میں وتروں کے بعد چار پائی پر تشریف لے جا کر تکیہ پر سر رکھنے سے پہلے ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ پچا جان نور اللہ مرقدہ کا معمول ماہ مبارک میں تراویح کے بعد فوراً سونے کا تھا اور بارہ ساڑھے بارہ بجے اٹھ کر سحر تک کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کا تھا اور جہر سے قرآن پاک پڑھتے۔ صحیح کواذ ان کے ساتھ ہی نماز ہو جاتی اور اس کے بعد خود مصلے پر بیٹھ کر اشراق تک اور ادو و طائف پڑھتے اور خدام کو تقاضا کر کے سلااویتے۔ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بہر حال حضرت مدینی قدس سرہ کی نیند اس قدر قایو کی تھی کہ سینکڑوں دفعہ میرے یہاں رات دن میں آرام فرمائی کی نوبت آئی اور میں نے حضرت کی راحت کی وجہ سے بارہاں کی کوشش کی کہ کوئی حرکت نہ ہو اور کوئی نہ بولے چاہے گاڑی نکل جائے مگر حضرت قدس سرہ گاڑی سے آدھ گھنٹہ پہلے ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ اس ہفتہ واری آمد میں بھی رات کو ساڑھے چار پر گاڑی جاتی تھی اور چار بجے سے پانچ سات منٹ قبل اٹھ جانا طے شدہ تھا۔ میں حضرت کے اٹھتے ہی کسی شخص کو تانگ کو بھیجا اور پہلی الہیہ مرحومہ اس وقت بھی چائے تیار رکھتی اس وقت کی چائے پر حضرت زیادہ ناراض ہوتے تھے کہ میں دیوبند جا کر پی لوں گا۔ چائے کے وقت پہنچ جاؤں گا۔ میرے اصرار پر کبھی توپی لیتے اور کبھی عتاباً انکار فرمادیتے تھے۔ کیا کیا مناظر آنکھوں کے سامنے آگئے پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ایک دفعہ حضرت قدس سرہ تانگ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ وقت تانگ ہے مدینہ پاک کے لیے درخت خریدنے ہیں کہ ج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا کہ تانگ پر بیٹھ جاؤ۔ تانگ میں ہی ملاقات ہو جائے گی۔ نہ سب نے کا وقت نہیں جلدی واپسی ہے۔ میں نے جلدی سے مولوی نصیر کو آواز دی اور ان کو بھی تانگ میں اس خیال سے بیٹھا لیا کہ حضرت تو درخت خرید کر خود ہی اٹھا لیں گے اور مجھے شرم آئے گی اور مجھ سے اٹھنے مشکل ہوں گے۔ اس لیے مولوی نصیر اٹھا لیں گے۔ راستے میں حضرت نے فرمایا کہ ج کو نہیں چلتے میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اس وقت بڑی مشغولی ہے اسی نصیر کو لیتے جاؤں کرایہ میرے ذمہ اور بقیہ اخراجات کھانے پینے کے آپ کے ذمے۔ حضرت نے فرمایا کہ ضرور میں نے اور حضرت قدس سرہ نے نصیر پر بہت ہی اصرار کی مگر اس نے بھی عذر کر دیا۔ اتنے میں ایک بہت لمبی چوڑی تعمیر آگئی۔ قربان خاں مرحوم کے باعث میں جانا تھا جن کا دفتر تو شاہ مدار میں تھا پہلے وہاں گئے ان کا دوسرا باغ کچھری سے دور تھا وہاں جاتے ہوئے اس تعمیر پر کو گزرے میں نے پوچھا کہ کیا ہے اس لیے کہ مجھے کبھی چالیس سالہ قیام سہارپور میں وہاں جانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کو نہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت میں تو

یہاں کبھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ یہ کچھری وہ دیوانی ہے یہ گلگھری ہے وغیرہ وغیرہ میں نے کہا اللہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت کی برکت نے کچھری تک تو پہنچا دیا۔ آپ جیل بھی پہنچا کر رہیں گے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کی اس بے تعلقی نے انگریز کو ہم پر مسلط کر رکھا ہے تم کچھری سے اتنا ذرا تے ہو جیسے سانپ سے ڈرتے ہو فرمایا کہ ہمارے مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ ایک میراث کے مسئلہ کی تصدیق کے لیے مسن پہنچ گیا۔ کچھری آنے کے ڈر سے بخار آگیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جناب والی قوت کہاں سے لا دیں۔ فرمایا کہ یہ سب بزرگی کی باتیں ہیں۔ غرض بہت سے پودے خریدے۔ حضرت قدس سرہ کا ہمیشہ معمول رہا کہ جب کبھی مدینہ پاک تشریف لے جاتے تو سید محمد صاحب کے باغ کے لیے بہت سے نجی چھلوں اور پچھلوں کے اور بہت سے پودے کئی کئی ٹوکروں میں لے جاتے خاص طور سے آم کے پودے کثرت سے لے جاتے مگر ہمیشہ خراب ہو گئے بالآخر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے دو تین درخت بار آور ہو گئے۔ گز شتہ سال ۸۹ھ میں جب مدینہ پاک قیام تھا تو سید صاحبزادہ مجدد ہم نے اپنے باغ کے آم کھلانے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزاۓ خیر عطا، فرمائے۔ آم تو گز شتہ سال اللہ کے فضل سے مدینہ پاک میں ہندوپاک۔ افریقہ، لندن، بحرین، شام وغیرہ نہ معلوم کتنے ملکوں کے کھائے احباب اپنی شفقوتوں سے دوسرے تیسرا دن کہیں نہ کہیں سے لاتے تھی رہتے تھے۔ شاید ہندوستان سے زیادہ ہی کھانے کی نوبت آئی ہو۔ میں بھی شتر بے مہار کی طرح سے کبھی ادھر چلا جاتا ہوں اور کبھی ادھر۔ حضرت مدینی قدس سرہ کی کیا کیا شفقتیں لکھواوں۔ حضرت اقدس کا معمول تقسیم سے پہلے تک کثرت سے تشریف بری کا تھا اور جب بھی تشریف لے جانا ہوتا تھا تو اس سے کار کے لیے ایک عطر عود کی بڑی شیشی لانے کا معمول تھا ۶۰ھ میں حضرت قدس سرہ نے ایک عطر عود کی شیشی مرجمت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ستر سال کا ہے اور سترہ روپیہ تو لے اس کی قیمت ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اس کی قیمت میں ایک روپیہ سالانہ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب چونکہ یہ ستر سال کا ہے اس لیے اس وقت اس کی قیمت ستر روپیے ہے۔ میں نے بھی اس کو بڑی احتیاط سے اس پر چیٹ لگا کر اور یہی عبارت لکھ کر ایک ڈبے میں محفوظ رکھ دیا تھا۔ اپنے بچل کی وجہ سے خود تو اب تک استعمال نہیں کیا البتہ گز شتہ سال ۸۹ھ میں حضرت قدس سرہ کے برادر خور حضرت الحاج سید محمد صاحب کی خدمت میں اس کا ایک ربع پیش کیا تھا اگر میرے مرنے کے وقت کسی کو یاد رہے اور مل جاوے تو اس میں سے تھوڑا سا میرے کفن پر بھی مل دیں۔ اس وقت ۹۰ھ میں تو اس کی قیمت سورپے نی تولہ ہو گئی ہو گی کیونکہ اس کی عمر سو سال ہے واقعی شیشی کھولنے سے کمرہ مہک جاتا ہے۔ ایک قصہ لکھوانے کا تو نہیں ہے مگر میرے دوستوں کا اصرار ہے کہ ضرور لکھواوں حضرت کی شفقتیں تو بے

پایاں تھیں اور جتنی حضرت کی شفقتیں بڑھتی جاتی تھیں میری گستاخیاں بڑھتی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ پچھے تذکرہ اکابر کا اور جنت کا چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں میرے بغیر جانا نہیں ہوگا، حضرت نے نہایت سادگی میں بلا تامل فرمایا کہ ہاں ضرور۔ ایک سال بعد بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے تو ذہن میں بھی نہیں رہا حضرت تشریف لائے میں دارالطلبہ تھا مجھے آدمی بلانے گیا۔ اتنے میں آتا ایک صاحب مدرسہ کے قریب ہی اپنے گھر آموں کے لیے لے گئے۔ میں جب دارالطلبہ سے آیا تو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کے یہاں چلے گئے میں وہاں پہنچا تو آم بھیکے ہوئے تھے اور حضرت تشریف فرمایا میرا انتظار فرمائے تھے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا تقاضا تھا پہلے ہی تشریف لے آئے حضرت نے فرمایا کہ ہر جگہ ساتھ لے جانے کا وعدہ تو نہیں کر رکھا جہاں کا وعدہ ہے وہاں کا ہے۔ مجھے اس قدر سرست اور حیرت ہوئی کہ حضرت کو ایک سال کے بعد تک کیسے یاد رہا۔ اس کے بعد تو پھر ان شاء اللہ اپنی مغفرت کی بھی ڈھارس بندھ چلی ورنہ و امتاز و ایام ایسا مجرمون کا خوف غالب رہتا تھا اور ہے اللہ تعالیٰ ان اکابر کی جو تیوں میں اس سے کارکو بھی جگہ دے دے تو اس کے لطف و کرم سے کیا بعید ہے۔ حضرت مدنی قدس سرہ کی شفقت و محبت کے قصے لا تعدد لا تحصی ہیں اور یاد بھی بہت ہیں۔ بہت سی چیزوں میں خود نمائی بھی مانع ہو جاتی ہے ایک دفعہ اس سے کارکو معمولی سا بخار ہوا کسی جانے والے طالب علم سے حضرت نے خیریت دریافت کی۔ اس نے کہہ دیا بخار ہو رہا ہے۔ حضرت اسی وقت اسی گاڑی سے تشریف لے آئے اور کچھ گھر کے دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ شعر پڑھا

تعالیٰ کی اشجعی و مابک علته تریدِ ین قتلی قد ظفرت بذلک  
میں ایک دم حضرت کی آمد پر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اچھے خاصے ہوشور مچار کھا ہے بخار کا۔ میں نے عرض کیا میں نے حضور کی خدمت میں کون ساتار یا میلفون کیا تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ فرمایا ساری دنیا میں شور مج گیا بخار کا، بخار والا یوں نہیں کھڑا ہوا کرتا۔ میں نے عرض کیا

ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق

وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

اور واقعی ہوا بھی ایسا ہی، حضرت کی تشریف آوری کی برکت سے بخار جاتا رہا۔ ایک ادا حضرت مدنی قدس سرہ کی بڑی پسند آیا کرتی تھی۔ ایک ادا کیا ادا کیں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں اور ایک سے ایک بڑھ کر:

فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر  
ادا کیں لاکھ اور بے تاب دل ایک

میں نے بارہا دیکھا کہ جب حضرت مدینی قدس سرہ کی آمد حضرت مرشدی سیدی قدس سرہ کی خدمت میں ایسے وقت ہوتی جب حضرت کا درس جاری ہوتا تو بہت خاموشی سے آکر قاری کے برابر بیٹھ جاتے تو سلام نہ مصافحہ ملاقات اور جب قاری حدیث ختم کرتا تو اس کو اشارہ سے روک کر خود حدیث کی قراءت شروع کر دیتے۔ اس سے میرے حضرت کو حضرت مدینی کی آمد کا حال معلوم ہو جاتا اور سبق کے ختم پر سلام اور مصافحہ وغیرہ ہوا کرتا۔ اللہ جل شانہ اس سے کارکو بھی حسن ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت کراچی جیل سے تشریف لائے اس وقت کا منظر بیش آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت مرشدی قدس سرہ مکان تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت مدینی اشیش سے تشریف لارہے تھے۔ مدرسہ قدیم کی مسجد کے دروازے پر آمنا سامنا ہوا۔ حضرت مدینی قدس سرہ حضرت مرشدی قدس سرہ کے ایک دم قدموں میں گڑ پڑے۔ حضرت سہار پوری قدس سرہ نے جلدی سے پاؤں پیچھے کو ہٹا کر سینے سے لگایا اور طرفین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ حضرت مدینی قدس سرہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید احمد صاحب نوراللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مراتبہ کی شفقتیں تو اس سے کارپار اس وقت سے رہیں جب میری عمر ڈھانی برس تھی۔ جیسا کہ میں اپنی گنگوہ کی حاضری کی ابتداء میں لکھ چکا ہوں اور مددینے پاک سے اخیر زندگی تک روضہ اقدس کی خاک وغیرہ بھینے کا معمول اخیر تک رہا اور ۳۵ھ میں جیکہ اس سے کارکا قیام مدینہ پاک میں رہا اس وقت کی شفقتوں کا تو پوچھنا ہی کیا جس حجرہ میں میرا قیام تھا اس میں رطب اور جب رطب کا زمانہ نہ ہوتا تو ایک صندوق عمدہ کھجوروں کا ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ میں کھاتا اور بانٹتا اگلے دن صبح کو پھر پڑ کر دیا جاتا۔ ایک ڈبہ تازہ پیز کا بھرارہتا۔ ایک زیر زمزم شریف سے پر رہتی اور کیا کیا بتاؤں علی الصباح ایک مستقل براد (کیتلی) دودھ کی چائے جس میں مشک و عنبر خوب پڑا ہوتا میری قیام گاہ پر آ جاتی۔ یہ تو لمبی داستانیں ہیں اس وقت تو ان کا ایک گرامی نامہ جو میرے والد صاحب کے انتقال پر تعزیت کے سلسلے میں آیا تھا۔ وہ اتفاق سے سامنے نظر پڑ گیا۔ اس کے لکھوانے کو میرا بھی جی چاہا۔ مستقل عنوان تو کوئی مولانا مرحوم کا ہے نہیں اور اگر لکھا جائے تو بہت طویل مضمون ہو جائے۔ لیکن اس خط کے نقل کرنے کو میرا بھی جی چاہا بڑے مزے کا ہے۔ اس لیے تبعاً حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے حالات ہی میں نقل کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے:

بسم اللہ!

عزیزم میاں مولوی محمد زکریا صاحب سلمکم اللہ تعالیٰ

از جانب خاکسار سید احمد غفرلہ بعد اہدائے سلام آں کے احقر بخیریت رہ کر صحت و عافیت تمہاری  
مع جملہ کچے بچے کا خواست گارہے اگرچہ آپ مدرس ہو گئے ہیں ہم جیسے دور افتادہ کو کیوں خیال

میں لانے لگے۔ مگر اول تو اس عاجز کو آپ کے والد بزرگوار سے اور مرحوم کو اس تابکار سے کچھ ایسا تعلق مخلصا نہ تھا۔ جس کی وجہ سے اگر آپ خداخواست بے اعتنائی بھی برتو گے تو ایجائب علیہ الرحمۃ و الغفران ایسے نہیں ہیں کہ چپکے ہو کر بیٹھ رہیں الحاصل حافظ محمد یعقوب صاحب کے خط سے آپ کے والد ماجد صاحب مرحوم کا اس دارفانی کو چھوڑ کر دارجا و انی کی طرف منتقل ہونا معلوم ہو کر جو کچھ اثر قلب پڑ مردہ بلکہ مردہ پر ہوا ہے عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ مگر عزیزم کیا کیا جائے۔ بجز انان اللہ وانا الیہ راجعون کے چارہ نہیں۔ اسی پر حلوات من ربہم کا انعام ملنے کی توقع ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ ”سر لابی“ کا کرشمہ کر دکھاؤ۔ جیسے کہ اپنے کمالات علمی و اخلاقی کی وجہ سے ہر دلعزیز تھم بھی اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کرو:

ان الفتی من يقول ها انا ذا      ليس الفتی من يقول کان ابی

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مد ظہم العالی کی خدمت میں عرصہ ہوا ایک عریضہ ارسال کیا تھا۔ اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد دوسرا عریضہ بھائی مقبول صاحب کی خدمت میں ارسال کیا۔ مگر تعجب ہے کہ آج تک کسی کا جواب نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں راستے میں ضائع ہوا۔ آپ مہربانی کر کے دونوں حضرات و نیز جملہ واقفین کی خدمت میں مودبانہ سلام عرض کر دیں اور خصوصیت سے حضرت مولانا مد ظہم اور مولانا رائے پوری ظہم کی خدمت اقدس میں زبانی یا بذریعہ تحریر اس عاجز کی طرف سے نہایت ادب سے سلام مسنون کے بعد دعاۓ فلاج دارین کی التجا کر دیں اور اگر بہت کر کے دو چار پیسہ کا لٹکٹ خرچ کر کے اس عاجز کو مدینہ منورہ کے پتہ پر دو چار حرف خیر و عافیت وغیرہ کے لکھ بھیجیں تو آپ کی سعادت مندی سے بعید نہیں معلوم ہوتا۔ میاں الیاس کو بھی ایک خط لکھا ہے مگر وہ تو ہمیشہ کے ست درست اپنے مطلب میں چست ہیں۔ ہم جیسے تابکاروں کی دلداری کی کیا پرواہ کریں گے۔ مگر یاد رہے کہ خداخواست یہ سراپا عصیان ہندوستان میں آگیا تو ایسی خبر لے گا کہ وہ بھی یاد کریں گے اور اگر خداخواست وہ مدینہ منورہ آگئے تو پھر کیا پوچھنا۔ ہندوستان کا راستہ ہی نہ بھلا دیا تو کہنا۔ اب ایجائب رحمہ اللہ تعالیٰ عنقریب ملک شام کو طلاق مغلظہ دے کر دو چار روز میں مدینہ منورہ کو بھاگا چاہتے ہیں بس گویا کہ پا بر کاب ہیں کیا عجب ہے کہ راستے میں قدس شریف کی بھی زیارت سے شرف حاصل ہو۔ نہیں تو سوہنہ ہوتے ہوئے یہ یوں میں جا کو دیں گے اور پھر کیف خلقت پر سوار ہو کر منزل مقصود کی راہ لیں گے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مد ظہم کے واسطے ایک سماں اور مولانا خلیل احمد صاحب مد ظہم نے خرید کر ارسال کرنے کے واسطے ارشاد فرمایا تھا۔ اپنی بنیصیبی کے اثر سے کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اب جا کر دیکھیں گے مل گیا تو روانگی کی فکر کریں گے۔ میاں زکر یا یاد رکھو اگر میرے خط کا جواب نہ دیا تو میں روٹھ جاؤں

گا۔ پھر کتنا بھی مناوے گے منوں ہی گا نہیں۔ بس اور زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔

اس کے بعد یہ عبارت بھی تھی جس کو مولانا مرحوم نے قلمز دکر دیا تھا ”شکل اول کا نتیجہ ظہور پذیر ہوا ہو تو اس کو دعاء و پیار نہیں تو موجب تاخیر کیا ہے۔ ایجاد اب علیہ الرحمت کے نتیجہ صاحب تو اپنی ماں کو بھی لے گئے اکیلے رہنا ہی گوار نہیں ہوا اور طرفہ یہ کہ خود مددینہ میں اور امام جان ٹبوک میں فقط۔

### سید احمد غفرلہ ۲۶ جمادی الاولی ۱۴۳۵ھ:

حضرت مولانا کے والانامے میں سماوار کے سلسلہ میں جو لفظ ہے کہ ”کچھ کا کچھ ہو گیا“، اس لفظ میں اشارہ اس حادث عظیمہ کی طرف ہے جب کہ مدینہ کے بالکلی انخلاء کا حکومت ترکیہ نے اپنے آخری دور میں حکم کیا تھا اور حضرت سید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ریانو پل (شام) کی طرف منتقل کیے گئے تھے۔ اس کا مختصر حال حضرت مدنی قدس سرہ کی خود نوش سوانح (نقش حیات) جلد اول ص ۳۰ پر ہے شام سے واپسی کے متعلق جو مولانا نے اس خط میں لکھا ہے وہ اسی طویل غیبت سے واپسی کا ذکر ہے اور جب ۳۸ھ میں اس ناکارہ کی پہلی حاضری حجاز مقدس ہوئی اس وقت مولانا سید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نئے نئے واپس شدہ تھے۔ حضرت مولانا سید احمد صاحب قدس سرہ کے مکاتیب کا بھی بڑا ہی ذخیرہ اس سیہ کار کے کتب خانہ میں محفوظ ہے اور جو ظرافت و محبت کا نمونہ اوپر کے خط میں ہے اس کے نمونے بھی ان خطوط میں بہت ملیں گے۔ بالخصوص ۳۸ھ کے بعد سے وصال تک روز افزون سلسلہ بڑھتا ہی رہا۔ ۳۶ھ کے بعد سے چونکہ مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرس شرعیہ کا حساب اور ہندوستان کا چندہ مدرس شرعیہ کی روئی داد کا شائع ہونا بھی اسی سیہ کار سے متعلق ہو گیا تھا اس لیے کوئی ہفتہ بھی لمبے چوڑے خط سے خالی نہ جاتا تھا اور اس کے درمیان میں اطائف و ظرافت اور محبت آمیز فقرے کثرت سے ہوتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد رشید الحاج عبدالحمید جو آج کل جدہ کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں ۳۵ھ میں میری مدینہ پاک سے واپسی کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ میں اور مولانا مرحوم خوب چاہتے رہے کہ میرے سامنے ہو جائے مگر مقدر نہ ہوا۔ میری مدینے سے روانگی کے کچھ دنوں بعد ہوئی تو حضرت مولانا مرحوم نے ایک پر ظرافت خط لکھا تھا کہ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے عبدالحمید صاحب دولہابن گئے ہیں چنانچہ میں نے آپ کی طرف سے پانچ گنی (اشرفتی) ان کے نکاح میں خرچ کر کے آپ کے حساب میں درج کر دی ہیں۔ میں نے بھی اس کے جواب میں ترکی بہتر کی ان کو دوہا بن بنے ہوئے نہ دیکھنے کی حرست اور شادی میں عدم شرکت پر تلقق اور پانچ گنی کی قلت پر افسوس لکھ دیا اب تو میرا بہت ہی دل چاہ رہا ہے کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب کی شفقتیں اور کچھ خطوط نقل

کراوں مگر وقت نہیں ہے۔ جو چیزیں علیگڑھ میں لکھوا چکا ہوں وہی پوری ہو جائیں تو غنیمت ہے،

### حضرت شاہ سیدن صاحب نگینوی رحمۃ اللہ علیہ:

یکے از خلفاء قطب عالم مولانا گنگوہی قدس سرہ جن کا مختصر ذکر یہ ناکارہ اپنے رسالہ فضائل درود کی ابتداء میں بھی لکھ چکا۔ مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں ان کا دستور ہمیشہ تشریف لانے کا تھا اور جسے کے بعد ہفتہ عشرہ اس سیدہ کار کے پاس قیام ہوتا۔ صورت سے بزرگی پیشی تھی۔ بہت ہی شفقت فرماتے تھے۔ بہت ہی اہتمام سے اس سیدہ کار کے سبق میں تشریف لے جاتے اور بہت ہی انتہائی ادب سے کائن علی رؤسہم الطیر کا مصدقہ بنے ہوئے پنجی نگاہ کیے ہوئے ایسے تشریف رکھتے کہ مجھے ان کی نشست پر بڑا رٹک آتا تھا۔ میرے اصرار پر میرے قریب ہی تشریف فرمائے۔ شفقتیں تو بہت یاد ہیں مجھے اس وقت ان کی ایک کرامت یاد آگئی۔ اسی کی وجہ سے ان کا نام نامی لکھوا یا ہے میری عادات سیدہ میں ایک برقی عادت یہ بھی تھی کہ جب سبق میں جاتا تو ذبیحہ بڑہ میرے ساتھ ہوتا اور اگالہ ان کی بجائے مٹی کا لوٹا مستقل دارالحدیث میں رہتا اور سبق کے دوران میں پان بھی کھاتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں پان کھانے کو تو منع نہیں کرتا۔ آپ سبق کے درمیان میں شکھایا کریں۔ اس دن سے تقریباً بیالس سال ہوئے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں سبق میں ذبیحہ لے کر گیا ہوں یا سبق کے درمیان میں پان کھایا ہو سبق میں باوضو ہونے کا اہتمام تو ہمیشہ رہا مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ حدیث پاک کا سبق بھی بے وضو پڑھایا ہو لیکن شاہ صاحب کے اس ارشاد کے بعد سے سبق کو جاتے ہوئے ہمیشہ بہت اہتمام سے کلی کر کے جاتے تھا اور اس پر ہمیشہ قلق رہا کہ شاہ صاحب نے یوں کیوں فرمایا کہ پان کھانے کو تو منع نہیں کرتا۔ کاش یہ بھی فرمادیتے کہ پان نہ کھایا کرو تو ان کی برکت سے اس مصیبت عظیمی سے نجات مل جاتی یہ میں ہر دو رسائل بالا کے درمیان میں لکھ چکا ہوں کہ میرے فضائل کی ابتدائی تالیفات میں فضائل قرآن ہے اور آخر میں فضائل درود اور یہ دونوں حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعلیل ارشاد میں لکھی گئیں۔ کہ فضائل قرآن ۲۹ ذی الحجه ۱۳۸۴ھ میں ختم ہوئی اور فضائل درود ۶ ذی الحجه ۱۳۸۲ھ کو ختم ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے اجل خلفاء شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی دعاء جو کو مرحوم کے قول کے موافق بار بار تاکید کی معلوم ہوا کہ انتقال کے وقت اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ میرے بعد زکریا سے تعلقات رکھیں۔

حضرت اقدس رائے پوری ثانی حضرت الحاج مولانا عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ وبرو مضجعہ کی خدمت میں اس سیدہ کار کی حاضری بہت قدیم اور حضرت کا دور بھی حضرت اقدس مدینی کی طرح سے خوب پایا۔ میری حاضری سہار پور کی رجب ۲۸ھ میں ہے جیسا کہ کئی جگہ لکھا چاچکا

ہے۔ اس سے پہلے گنگوہ کے قیام میں ایک مرتبہ اپنے والد صاحب نوراللہ مرقدہ کے ساتھ رائے پوری حاضری خوب یاد ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دور تھا۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب قدس سرہ کو اس وقت کا پہچاننا تو یاد نہیں اور حضرت کی کوئی امتیازی حالت بھی اس وقت کچھ نہ تھی اتنا یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک خادم سے جو کثرت سے جو گزہ شریف میں آتے جاتے تھے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ مولوی صاحب! جو مٹھائی وغیرہ اندر رکھی ہے وہ سب صاحبزادے صاحب کو دے دو جیسا کہ اعلیٰ حضرت کے حال میں گزر چکا۔ اس کے بعد سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وصال تک تو کوئی امتیازی تعارف مجھے اپنے سیدی و مولائی حضرت رائے پوری ثانی سے نہیں ہوا۔ البتہ حضرت نوراللہ مرقدہ مجھے بحیثیت صاحبزادہ خوب پہچانتے تھے اور چونکہ اعلیٰ حضرت کا کاتب بھی اس زمانے میں ایک نہیں تھا۔ عام ڈاک تو ملا جی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (جذاب ملا عبد العزیز صاحب والد ماجد حافظ عبد الرشید صاحب) لکھا کرتے تھے۔ اس واسطے خطوط میں بھی کوئی تعین نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سیہ کار کو تو یاد نہیں لیکن حضرت رائے پوری قدس سرہ نے اللہ ہی مجھے معاف فرمادے کئی دفعہ مجھ سے فرمایا کہ آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں جب آپ ہم سے پاؤں دبوایا کرتے تھے۔ اللہ ہی معاف فرمادے معلوم نہیں کہ یہ لفظ نقل کرانے کا بھی ہے یا نہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ جب یہ سیہ کار اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد رائے پور حاضر ہوتا تو کنوں کے قریب جو بیتلہ ہے اس کے سامنے بے حیائی سے چار پائی پر پڑ جاتا اور اعلیٰ حضرت کے بہت سے مخلص خدام اعلیٰ حضرت کی شفقت دیکھ کر مجھے سب لپٹ جاتے ممکن ہے کہ حضرت اقدس رائے پوری بھی اس وقت ان لوگوں میں ہوں۔ مگر میں ان کو خاص طور سے نہیں پہچانتا تھا۔ میرا تعارف حضرت رائے پوری ثانی سے اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد سے شروع ہوا۔ جب کہ تین چار برس تک حضرت رائے پوری ثانی اپنے مکان سے تشریف لا کر مدینہ و مدینہ یہاں قیام فرماتے اس زمانے میں آتے جاتے سہار پور بھی قیام فرماتے۔ اس کے بعد سے جو تعلق بڑھنا شروع ہوا تو اخیر دور کے دیکھنے والے اب تک ہزاروں موجود ہیں اور ۲۵ھ میں جب یہ ناکارہ یک سالہ قیام کے لیے مدینہ پاک بذل الجہود کے سلسلے میں حاضر ہوا اور ماہ رب جب میں حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ بھی مدینہ تشریف لے گئے تو کئی مرتبہ سفر میں بھی اور سفر کے بعد بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ معاف کرے کہ میں حج کی یا حضرت مدظلہ کی زیارت کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہاری محبت کھیج کر لائی ہے۔ آٹھ ماہ سے تمہاری زیارت نہیں ہوئی اس نے تمجین کر رکھا ہے۔ یہ حضرت رائے پوری کا دوسرا سفر حج تھا۔ پہلا سفر حج ۲۸ھ میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کے ساتھ ہوا۔ اس سفر کے واقعات بھی بہت ہی عجیب اور اہم ہیں اور حضرت اقدس رائے پوری کے واقعات تو کہاں

تک لکھوا سکوں اس سفر کے واقعات اس سیرے کار کے جوں کی تفصیل میں آرہے ہیں۔ لیکن اس حج کے بعد سے حضرت قدس سرہ کی محبت اور شفقت میں بہت ہی اضافہ ہو گیا اور چونکہ اس سفر کے اخیر میں یعنی ذی القعده ۲۵ھ میں حضرت اقدس نے اس سیرے کار کو اجازت بیعت بھی فرمادی تھی۔ اس لیے حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی محبت میں المصالح اضافہ ہو گیا۔ اس سیرے کار نے حضرت رائے پوری قدس سرہ کے پاؤں پکڑے تھے کہ اللہ کے واسطے اجازت کی خبر ہندوستان میں نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا ضرور کروں گا اور وہیں سے لوگوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے اور یہاں آکر خوب شور چایا:

دaman نگہ تنگ و گل حسن تو بیار      گل چیس بہار تو زد امال گلدار

اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور ان ہی کی اتباع میں حضرت رائے پوری قدس سرہ ولداری کے تو پتے تھے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے بھی موعودہ وقت پرواپس تشریف نہیں لاتے تھے۔ چاہے کتنا ہی پختہ وعدہ ہو۔ مگر جب لوگوں نے خوشامد درآمد کی تولتوی فرمادیا۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو پچا جان سے ملنے کا اور پچا جان کو حضرت سے ملنے کا بہت ہی اشتیاق رہتا تھا۔ ہر ایک یوں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد ملاقات ہو۔ ایک دفعہ حضرت رائے پوری قدس سرہ رائے پور سے تشریف لائے دہر دو دن جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پچا جان کا والا نام بھی آیا ہے۔ انھوں نے حضرت کا نظام سفر اور قیام پوچھا ہے فرمایا وہ وہ وا۔ میرا بھی ملنے کو حضرت دہلوی سے بہت ہی دل چاہ رہا تھا۔ آپ تکلیف فرم کر ان کو یہ لکھ دیں کہ فلاں دن تشریف لاویں۔ چار دن کے وقفے سے حضرت نے ان کا دن متعین کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو نہیں لکھوں گا۔ مولوی عبد المنان لکھ دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں حضرت! آپ اتنی بدگمانی نہ کریں میں ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں لکھوں گا۔ آخر مولوی عبد المنان تو آپ کے کاتب ہیں۔ فرمایا کہ نہیں حضرت ہی لکھیں گے میں نے عرض کیا کہ میں ہرگز نہیں لکھوں گا۔ فرمانے لگے کہ حضرت ہی سے لکھواؤں گا اور آپ کو دکھلا دوں گا۔ کہ میں وعدہ پختہ کرنا بھی جانتا ہوں جب حضرت نے حکما فرمایا تو میں نے لکھ دیا اور ساری بات بھی لکھ دی۔ اتفاق کی بات کہ پچا جان بھی اس تاریخ کوئی آنکے اور حضرت قدس سرہ بھی وعدہ کے دن سے تیرے دن تشریف لائے اور آتے ہی دروازے سے مصافحے سے پہلے فرمایا کہ حضرت آپ نہیں آنے دیا۔ بالکل آپ نہیں آنے دیا۔ ہوا یہ کہ سب ہی نے اصرار کیا اور میں نے کہا کہ مجھے اب کے حضرت کو اپنے وعدہ کا سچا ہونا بتلانا ہے۔ سب ہی نے اصرار کیا خاص طور سے ڈاکٹر محمد امیر صاحب اور مسٹری صاحب نے تو بہت ہی زور لگائے۔ مگر میں مانا نہیں۔ لیکن چلنے کے بعد سے جو بارش شروع ہوئی لوگوں نے پھر بھی اصرار کیا مگر میں نے مانا

نہیں۔ لیکن یا رش اتنے زور کی ہوئی کہ پانچ میل پر آ کر انہیں فیل ہو گیا۔ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے۔ بہت دیر ہو گئی مغرب کا وقت ہو گیا۔ مجبوراً یہاں سے جانے والی لاری میں بڑی مشکل سے میں اور دو آدمی سوار ہوئے اور یقینہ دوسری لاری میں واپس گئے۔ ایسا تصرف نہیں کیا کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تو بے توبہ بھلا میں تصرف حضرت پر کروں گا۔ اگر ہو گا تو ڈاکٹر صاحب کا ہو گا۔ حضرت قدس سرہ کی یہ بھی بہت ہی خواہش رہا کرتی تھی کہ میں اس قرار میں حضرت کے ساتھ چلوں۔ شروع شروع میں بہت ہی اصرار فرمایا مگر مجھ پر اس زمانہ میں طالب علمی کا غالباً حال تھا اب وہ دور یاد آ کر بڑی ندامت ہوتی ہے کہ حضرت نے بڑی محبت شفقت اور اصرار سے ہم کا بچنے کا اصرار فرمایا اور میں نے حرج کا اعذر کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت کے ساتھ متعدد اسفار بھی ہوئے۔ ہر سفر میں اہم واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ریل کا سفر ہوا۔ یہاں سے مراد آباد اور ہاں سے بریلی تشریف لے جانا ہوا۔ ہر جگہ حضرت قدس سرہ تو اس کی کوشش فرماتے کہ لوگوں کا اس سید کار سے زیادہ سے زیادہ تعارف ہو۔ حضرت تخلیہ میں تشریف لے جاتے اور میزبانوں سے کہتے کہ لوگوں کی ان سے ملاحت کرو۔ حضرت قدس سرہ کی بہت ہی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلق پیدا کریں اور مجھے اس قدر روحشت ہوتی کہ میں اپنی کوئی کتاب لے کر نقل کی یا تالیف کی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر اندر کے کواڑ لگایتا اللہ ہی معاف فرمادے۔ حضرت کی شفقت اب ندامت ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ یہ شوق رہا کہ میرے بدن پر اچھا کپڑا دیکھیں بار بار اس کا اظہار بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھوں۔ مگر جیسا کہ یہ ناکارہ آپ بیتی نمبر ایں لکھ چکا ہے کہ اب اجان کے ان جو توں کی بدولت جواب دناء عمر میں بجائے پاؤں کے سر پر پڑھ کر تھے۔ واقعی مجھے اچھے کپڑے سے نفرت ہو گئی۔ اس لیے حضرت جب کوئی اچھا کپڑا امر حمت فرماتے تو میں بیکھوں یا دامادوں میں سے کسی کو دے دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت نور اللہ مرقدہ نے میری علمی میں میرا ایک جوز احاظہ صدقیق سے منگایا جو میرے کپڑوں وغیرہ کے منتظم ہیں اور اس کے مطابق ایک بہت خوبصورت جوز اسلوکر بھیجا جس کو میں نے بہت ہی احترام سے پہنا۔ یہ میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ میری بیکھوں کے سارے لحاف حضرت قدس سرہ کے عطا فرمودہ ہیں دولا کھ مرغون کا قصہ یاد نہیں کہ پہلے لکھوا یا نہیں وہ تو دوبارہ لکھوا رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں بھی میں اکثر مرغایا مرغی آتی تو میں اپنے دوستوں میں سے کسی کو دے دیتا۔ حضرت کو بھی کسی طرح اس کا علم ہو گیا تو حضرت نور اللہ مرقدہ کا معمول یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی مرغ اپنائے تو اس سے یہ فرمادیتے کہ سالم نہ دینا، مولوی نصیر کی نال میں ذبح کر کے پھر دینا۔ ان مرغوں کا قصہ یاد پڑتا ہے کہ کہیں پہلے لکھوا چکا ہوں۔

۲۵ کے سفر حج سے والپی پر حضرت قدس سرہ بھی ساتھ تھے۔ تین چار اوٹ حضرت کے اور حضرت کے رفقاء کے اور تین چار ہی میرے اور میرے ساتھیوں کے۔ قافلہ تو سارا اکٹھا ہی رہتا۔ مگر مکہ مکرمہ سے جدہ آتے جاتے وقت حدیبیہ کی منزل میں رات کا وقت ہو گیا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ قافلہ تو دوستوں بالکل برا بر، مگر اندر ہیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ صبح کو آپس میں ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت کے خدام نے تو حضرت کے لیے دو چوزے خرید لیے تھے اور ہمارے رفقاء کو کچھ ملنا نہیں، تو کچھ زی پکائی۔ حضرت کو یہ معلوم ہوا تو بہت ہی قلق ہوا اور اس گستاخ نے بھی تفسیر یا کہہ دیا کہ اکیلے اکیلے آپ نے یہ مزے اڑائے۔ حضرت قدس سرہ نے ازراہ شفقت فرمایا کہ جدہ جا کے اس کی قضا کروں گا میں نے کہا کہ حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے۔ حضرت نے فرمایا انشاء اللہ ہندوستان جا کر دولاکھ مرغیاں کھلانی ہیں۔ کراچی پہنچنے کے بعد حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط لکھوائے۔ اس میں یہ بھی لکھوایا کہ میرا خیال تو راستے میں تم دوستوں سے ملتے ہوئے جانے کا تھا۔ مگر چونکہ شیخ الحدیث صاحب ساتھ ہیں اس لیے اب تو سید ہے جانا ہے بعد میں آؤں گا۔ لیکن میرے ذمے حضرت شیخ کی دولاکھ مرغیاں قرض ہیں۔ فلاں گاڑی سے فلاں اشیش پہنچوں گا۔ ایک دو مرغیاں پکا کر لیتے آتا۔ کراچی سے سہار پور تک ہر اشیش پر چار پانچ بلکہ کہیں دس بارہ تک ملتی رہیں۔ اس کے بعد سے اس ناکارہ کی مرغ خوری نے ایسی شہرت پائی کہ گویا مرغ ہی میری غذائیں گیا۔

حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کے بہت سے واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ چونکہ ترتیب تو ذہن میں نہ تھی اس لیے بہت سے قصے مکر بھی ہو گئے۔ حضرت قدس سرہ کی بیماری اور انتقال حاوادث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ بیماری کے زمانہ میں حضرت کا اصرار اور خواہش یہ رہتی تھی کہ یہ ناکارہ مستقل حضرت کی خدمت میں قیام کرے۔ یہ بھی درحقیقت اپنے شیخ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اتباع اور اثر تھا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اپنے طویل مرض میں جو انتقال سے کئی سال پہلے شروع ہو گیا تھا بہت ہی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والد صاحب ہر وقت پاس رہیں، مگر ان کو اسیاق وغیرہ کی مجبوری تھی، اسی کے اتباع میں حضرت رائے پوری قدس سرہ کی بھی یہی خواہش رہتی کہ یہ سیہ کار بیماری کے زمانے میں حضرت کے پاس رہے۔ بار بار تقاضے اور اصرار منصوری سے جب مرض کی ابتداء ہوئی تو تارا اور آدمی بار بار پہنچے۔ مگر نابکار کو:

”خوئے بدراء بہانہ بسیار“

علاوہ مدرس کے اسیاق کے اپنی تالیف کا مسئلہ بھی سدراء ہوتا تھا۔ مگر اعداد میں بیان تو نہیں کرتا تھا۔ آخری سال رجب کا مہینہ اور مجھ پر بخاری شریف کے ختم کا بوجھ، میں نے اجازت چاہی۔

حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بخاری شریف تو پڑھاؤ گے، ہم کہاں رہیں گے۔ کیا کہوں خبر نہیں، اس وقت کچھ علمی غلوایسا سوار تھا کہ حضرت کی ان شفقتوں کو اب دیکھ کر رونا آتا ہے۔ بارہا اس کی بھی نوبت آئی کہ میں بلا اطلاع حاضر ہوا اور حضرت نور اللہ مرقدہ نے بلا کسی تحریک کے یہ فرمایا کہ بھائی شیخ آرہے ہوں گے خیال رکھنا۔ مجھے وہاں پہنچ کر یہ بات معلوم ہوتی تھی۔ حضرت نو راللہ مرقدہ کی اس آخری بیماری کے زمانے میں سواری منگانے کی پابندی چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ کثرت سے حاضری ہوتی تھی اور حضرت کو علم ہو جانے پر حضرت پر کہیں سے کار مہیا کرنے کا بوجھ ہو جاتا تھا اور پڑی پر کشہ کے لیے کوئی پابندی نہ تھی۔ بہت میں ایک نو عمر لڑ کا تھا، رکشہ چلاتا تھا، نام اس وقت یاد نہیں۔ اللہ اس کو بہت ہی جزائے خیر دے، بہت پر میرا انتظار کرتا تھا۔ میں لا ری سے اترتے، ہی رکشہ پر سوار ہو کر رائے پور میں پہنچ منٹ میں پہنچ جاتا تھا اور واپسی کے لیے اس کو وقت بتا دیتا۔ وہ بسا اوقات صحیح کی اذان کے وقت سردی میں رکشہ لے کر جاتا تھا، جس پر مجھے بہت ہی ترس آتا تھا۔ واپسی میں حضرت کو کار کا بہت اہتمام تھا۔ اگر پاکستانی احباب میں سے کوئی موجود ہوتا تو حضرت سے زیادہ ان لوگوں کا اصرار ہوتا کہ تم پہنچا کر آئیں گے۔

پاکستانی کار میں ماشاء اللہ کیا کہنا۔ بالخصوص بھائی اکرام کی کار میں کئی وفع مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ یہ پاکستانی کار میں ماشاء اللہ کیا کہنا۔ بالخصوص بھائی اکرام کی کار میں کئی وفع مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ چل رہی ہے یا کھڑی ہے۔ ذرا حرکت معلوم نہ ہوتی تھی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مجرے سے لے کر کچھ گھر کے دروازے تک صرف بائیس منٹ میں پہنچتی تھی۔ عزیزم الحاج ابو الحسن صدیقی اس وقت میرے پاس ہے جو بارہا اس قسم کی گاڑیوں میں میرے ساتھ آیا ہے اور عرصہ سے مستقل میرار فیض سفر ہے۔ بالخصوص رائے پور کے سفر کا تو مستقل رفیق۔ وہ کہتا ہے کہ اس کار میں آٹو میک گیئر تھے، اس کو ہم سمجھتے نہیں وہی سمجھتا ہے، میں تو ان گاڑیوں کی ہمیشہ دواداؤں پر کہ حرکت بالکل نہیں اور بائیس منٹ میں اس دروازے سے اس دروازے تک پہنچنا حیرت میں رہتا تھا۔ وہ احباب ہمیشہ مجھے میرے دروازے پر اٹا کر اور جب ہی واپس جاتے اور وہاں کی چائے میں شریک ہو جاتے۔ پاکستان کے سفروں میں بھی ان کاروں سے بہت سابقہ پڑا۔ یہ داستان شروع ہو گئی، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔

اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہمیں پیسہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ مجال ہے کہ اعلیٰ حضرت قطب عالم مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خدام یا والد صاحب کے دوستوں میں سے مجھے کوئی پیسہ دے دے۔ ان کی اتنی پٹائی ہوتی تھی کہ اس کے ڈر کی وجہ سے پیسہ کی جنت سے پٹائی کی دوزخ سامنے آ جاتی تھی۔ اسی کا اثر تھا کہ مجھے اپنے والد رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب کے انتقال کے بعد کسی شخص کا ہدیہ جو بزرگی کی لائیں سے دیتا تھا اس سے اس قدر نفرت تھی کہ کوئی حد و حساب

نہیں۔ البتہ گھر کے رشتہ دار مستشی تھے۔ جن کے متعلق اپنے کسی رسالہ میں لکھوا بھی چکا ہوں کہ میرے والد صاحب کی حقیقی خالہ جب بھی میں کائد حلہ جاتا تو دوپیے دیا کرتی تھیں اور جب بھی ان کے پاس پیے نہ ہوتے اور معدرت کرتیں تو میں ان کی خدمت میں ایک روپیہ پیش کرتا تھا اور اپنے دوپیے لیا کرتا تھا مگر دوسری لائے سے پیسہ لینے سے مجھے اس قدر نفرت تھی کہ اللہ ہی مجھے معاف فرمائے۔ یا اللہ، یا رحمٰن، یا رحیم تو مجھ سے فضل و کرم سے مجھے معاف فرم اور جن مخلصوں کو میری اس حرکت سے اذیت پہنچی ہوان کو اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدله عطا فرم۔ بعض ہدیہ دینے والوں کے نوٹ ایک، دو، پانچ، دس کے پھاڑے بھی ہیں۔ جب میں انکار کرتا اور وہ اصرار کرتے تو اپنی حماقت سے نوٹ لے کر اس کو پھاڑ دیتا تھا۔ مگر قاعدہ یہ کہ ہر گناہ ابتداء میں بڑا اگرا ہوتا ہے۔ مگر جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے مخلص دوستوں میں سے ایک دوست حاجی جان محمد صاحب پشاوری تھے جو آج کل پاکستان میں جا کر پاسپورٹ کی گڑ بڑ کی وجہ سے وہیں پھنس گئے۔ وہ ابتداء میں بہت ہی ہدایا لایا کرتے تھے اور میری خوب لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت جو قصہ لکھوانا چاہتا تھا اور یہ سب اسی کی تمہید تھی۔ وہ یہ کہ:

ایک مرتبہ میرے حضرت رائے پوری اور میرے چچا جان نور اللہ مرقد ہما عصر کے بعد کچھ گھر میں چبوترے پر تشریف فرماتھے اور میں اپنی چار پانی پر۔ مجمع اس وقت زائد نہیں آیا تھا، دو ایک آدمی آپکے تھے۔ حاجی جان محمد صاحب اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے اور ان کے احسانات کا بہت ہی بدلہ عطا فرمائے۔ ایک چائے کا ذبہ لائے۔ مجھ پر حماقت سوار ہوئی، میں نے اس کو پھاڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ وہ ساری چائے دُور دُور تک منتشر ہو گئی۔ میرے دونوں بزرگوں کو بہت ناگوار ہوا، جس کا مجھے بھی احساس ہوا، میرے حضرت اقدس رائے پوری تو بالکل ساکت و صامت دس پندرہ منٹ تک بیٹھے رہے۔ میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ نے چار پانچ منٹ کے بعد ناگواری کے لبجے میں فرمایا کہ یوں ناک مار کر کھانا ہمیں نہیں آیا۔ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کے ہدایا تو لاتعد ولا تحضی شروع میں تو یہ کہہ کر انکار کرتا تھا کہ حضرت یہاں بھی خدام بہت ہیں۔ حضرت ان کو محنت فرمادیں۔ ایک مرتبہ ناگواری کے تیز لبجے میں حضرت نے فرمایا کہ انکار نہ کرو، میں خود نہیں دیتا۔ اس کے بعد سے نہ صرف حضرت رائے پوری اقدس سرہ کی عطا یا اور ہدایا میں ڈھیلا پن ہوا بلکہ اور دوسرے ہدایا میں بھی ڈھیلا پن ہو گیا۔

مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظر سے بارہا گزر اکے طلب کسی چیز کے آنے پر اگر کوئی انکار کرے تو طلب پر بھی نہیں ملتی۔ اس کو فضائل صدقات حصہ دوم فصل ششم کی حدیث نمبر ۳ کے ذیل

میں آداب ہدیہ میں لکھ چکا ہوں۔ مگر اس کے ساتھ جب امام غزالی کے ارشادات سامنے آتے ہیں اور مشائخ کے ارشادات بھی کہ اشراف نفس نہ ہو، دینے والا مخلص ہو تو پھر ڈر لگتے گتے ہے۔ حضرت اقدس رائے پوری کے واقعات تو اتنے اوپر ہیں کہ مجھے لکھوانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت نور اللہ مرقدہ نے رائے پور میں ارشاد فرمایا کہ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ تو مجھے اجازت بیعت دے دے تاکہ حضرت ہمارا پوری قدس سرہ کی نسبت سے بھی مجھے کچھ مل جائے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر دست بوئی کے بعد عرض کیا کہ حضرت تو پہ توبہ ایسی بات فرمائیں۔ حضرت مولانا احمد الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ اجازت نہیں دیتے تو آپ ان کو اجازت دے دیں تاکہ ان کے سلسلے میں آپ کی شرکت ہو۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا میری طرف سے توبہ خوشی سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا احمد الدین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سیہ کار پہلے لکھوا چکا ہے کہ جب حضرت مرشدی قدس سرہ نے اس ناکارہ کو اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ وہاں ہی موجود تھے۔ میں نے حضرت کے پاؤں پکڑے تھے کہ اللہ کے واسطے اظہار نہ فرمائیں اور یہ کوئی قصنع نہ تھا۔ اللہ کی قسم مجھے اب تک شرح صدر نہیں ہے کیونکہ میری حالت واقعی اس قابل نہیں ہے۔ مگر حضرت نور اللہ مرقدہ کی جواب دہی کے ڈر سے اب تک بیعت کر رہا ہوں۔

میں نے ابتداء میں بہت انکار کیا مگر ایک مرتبہ کاندھلہ جانے پر وہاں کی مستورات پچاچا جان کے سر ہو گئیں کہ آپ حکما اس سے بیعت کرادیں میں مسجد میں تھا اور پچاچا جان گھر میں تشریف فرماتھے مجھے آدمی بھیج کر بلا یا یہ پچاچا جان کے حالات میں آئے گا کہ وہ بعض مرتبہ پچاچا جان ہونے کا حق ادا کرنے کے واسطے ضرورت سے زیادہ ذات دیتے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو پچاچا جان نے ایسا غصہ کامنہ بنارکھا تھا، فرضی غصہ میں چہرہ لال تھا۔ مستورات کو سب کو کوئی میں جمع کر رکھا تھا اور اس کے برابر کی چار پائی خالی چھوڑ رکھی تھی اور خود دوسری چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سر مبارک پر سے عمامہ اتارا۔ اس کا ایک کونہ میرے ہاتھ میں پکڑا یا اور دوسرا دروازے میں ان عورتوں کو پکڑا دیا اور نہایت غصہ میں فرمایا کہ ان کو بیعت کر میں نے کچھ اوس آں کرنی چاہی ایک ذات پلائی بیعت کر۔ یہ اس سیہ کار کی بیعت کرنے کی ابتداء ہے۔

یہ بیعت علی منہاج النبوة ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیعت اسلام کی۔ حضرت اقدس قطب عالم مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک پر بھی گنگوہ میں سب سے پہلے ایک عورت اعلیٰ حضرت حاجی صاحب نور

اللہ مرقدہ کے حکم سے بیعت ہوئی تھی۔ حضرت اقدس مذہب کی نسبت بھی حضرت گنگوہی قدس سرہ کی نسبت کا عکس ہے کہ جملہ امور تصوف مع مشاغل علمیہ خدمت حدیث تعلیماً و صدیقاً ظاہر باہر ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس مدینی اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ ہما سے بارہا اجازت چاہی اور بلا مبالغہ ایک سے زائد مرتبہ ہر ایک کی خوشامد کی ہوگی۔ کہ بیعت نہ کرنے کی اجازت دے دیں میرے حضرت اقدس مدینی کا ایک جواب تھا کہ اپنے کو اہل صحبت ہی کون ہے اور حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا جواب اس سے زیادہ سخت ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے پاکستان بہت ہی زوردار اور شدت سے لکھا کہ میری حالت بہت ہی ابتر اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت بیعت نہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ڈانٹ کا خط آیا جو میرے خطوط کے خزانے میں محفوظ ہے۔ عزیز جلیل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت ہمار پوری نے آپ کو بیعت کرنے کی اجازت دی اور حضرت دہلوی (یعنی میرے پچھا جان) نے حکماً آپ سے بیعت کی ابتداء کرائی۔ میں اور حضرت مدینی بار بار آپ سے تقاضہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ آپ کے اطمینان کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام تو اترنے سے رہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی ان بزرگوں کے حسن ظن کی لاج رکھئے یہ میں نے پہلے بھی لکھوایا کہ یہ واقعات مولوی یوس کی زبردستی سے لکھوادیے ورنہ حضرت اقدس رائے پوری کے ارشادات تو واقعی اتنے اوپنے ہیں کہ میری نقل کرانے کی ہمت نہیں ہے۔

### میرے والد ماجد صاحب نور اللہ مرقدہ:

مجھے ان سب اکابر کی نہ تو سوچ لے لمحنی ہے اور نہ ان چند اور اق میں یہ دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ کچھ خصوصیات اپنے ساتھ کے تعلقات کی نمونہ اشارہ کرنی تھی وہ بھی تحدیث بالمعتمد کے طور پر۔ میرے والد صاحب قدس سرہ پیدائش سے ہی بہت ذکی الحس تھے ان کے کچھ حالات مذکورة اخیل میں بھی آچکے ہیں۔ میں نے ان کی زبانی بھی یہ روایت کئی مرتبہ سنی جوانہوں نے اپنی والدہ (میری دادی) سے نقل کی فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے دودھ نہ تھا اس لیے مجھے دایی نے دودھ پلایا لیکن اگر روزانہ غسل کر کے اور خوشبو لگا کر دودھ نہ ملاتی تو میں دودھ نہ پیا کرتا تھا۔ دو برس کی عمر میں جب دودھ چھٹا تو اس وقت پاؤ پارہ حفظ تھا اور سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ جس میں اپنی ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں۔ میری ابتدائی عمر میں میرے سب بڑوں کا دستور یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے والدین یا اپنے کسی بڑے کے سامنے گود میں لینا تو درکنار اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔

میری پیدائش کے ساتویں دن وہ دوپہر کے وقت میں رمضان کا مہینہ سب سور ہے تھے میری

والدہ کی نانی کے مکان پر جہاں میں پیدا ہوا تھا تشریف لائے۔ میری والدہ کی نانی کو مجھ سے بہت بھی محبت تھی۔ انہوں نے میرے عقیقے کے لیے سنائے کہ بہت تیاریاں شروع کر دیں تھیں۔ سارے محلے اور براوری اور دور دوستک اقرباء کو دعوت دینے کا ارادہ تھا اور تاریخ مقرر کرنے کے مشورے ہو رہے تھے وہ ساتویں دن میری والدہ کی نانی کے مکان پر آئے، گھر میں ایک عورت تھی اس کو آواز دے کر فرمایا کہ ذرا بچ کو دروازے میں لے آئیں والدہ کی نانی نے خیال کیا کہ پدری محبت نے جوش کیا بچے کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہو گا۔ انہوں نے ایک نہال پچھے پر جس پر میں پڑا ہوا تھا عورت کے ہاتھ دروازے میں بھیج دیا۔ والد صاحب نانی کو ساتھ لائے تھے میرے بال کٹو اکران کو ایک پڑیا میں لپیٹ کر اس عورت کے ہاتھ گھر بھیج دیے کہ بال تو میں نے کٹوادیے بکرے تم کٹوادو اور ان بالوں کے بعد رچاندی صدقہ کر دو میری نانی کو بہت صدمہ ہوا کہ ساری امتنگیں اور حوصلے خاک میں مل گئے۔ اس کے بعد میں آپ بیتی نمبر ایں اپنی مارپٹائی کے قصے خوب لکھ چکا ہوں کہ اگر میرے مارتے مارتے تو مر جائے گا تو تو شہید ہو گا اور مجھے ثواب ملے گا۔ بہت سے دیکھنے والوں کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میں ان کا لڑکا نہیں بلکہ اپنی والدہ سے کسی پہلے خاوند کا ہوں۔ حالانکہ میری والدہ کا نکاح ابتداء پہلا ہی میرے والد سے ہوا تھا۔ البتہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نکاح میری حقیقی خالہ مرحوم سے ہوا جو میری والدہ کی بڑی حقیقی بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ سے جلد ہی ہو گیا تھا۔

یہ تو مجھ سے بھی والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ تیری خالہ کے انتقال کے بعد اس کے حسن صورت، حسن سیرت کی وجہ سے تیری والدہ کے لیے بہت ہی دعا میں کیں اور بڑی ہی کوششوں سے تیری والدہ سے نکاح ہوا اور اس کے بعد اولاد سے محبت تو قطری ہوتی ہے۔ مگر اس سیرہ کار کے ساتھ ان کی محبت تادیب میں مستور ہو گئی تھی۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد پر عمل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے ”ما نحل ولد ولد من نحل افضل من ادبِ حسن“ (کذا فی المشکوہ و عن الترمذی وغيره) یعنی کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر کوئی عطا نہیں دیا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے ”لان یودب الرجل ولدہ خير له من ان يتصدق بصاع“ (کذا فی المشکوہ عن الترمذی) کوئی شخص اپنی اولاد کی تادیب کرے یا اس سے اچھا ہے کہ ایک صاع (یعنی  $3\frac{1}{2}$  سیر کھجور) صدقہ کرے۔ اس قسم کی روایات کی بنی پران کی نگاہ میں میری محبت میری تادیب تھی۔ اس وقت تو قطری طور پر بچپن کی وجہ سے ناگواری ہوئی ہی چاہیے تھی مگر اب بہت دعا میں دیتا ہوں کہ ان کی سختی اور شدائد کی وجہ سے آدمیوں کی صورت میں ہوں ورنہ معلوم نہیں کہ حالات میں

ذلیل و خوار پھرتا۔ ان کے بہت سے حالات میری ابتدائی تعلیم وغیرہ کے ذمیل میں گزر چکے ہیں۔ ان کی یہ بھی غایت شفقت تھی کہ مجھے دینیات یعنی فقہ و حدیث اپنے اور حضرت قدس سرہ کے علاوہ کسی سے نہ پڑھنے دیں اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ تو گستاخ بے ادب ہے اگر کسی استاد کی بے ادبی کی تو وہ فتن جاتا رہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تیرافقدہ و حدیث ضائع ہو۔ کوئی دوسرا فن ضائع ہو جائے تو مضافاً تھے نہیں۔

میں حضرت مدینی کے حال میں لکھ چکا ہوں کہ میں نے اپنے اکابر میں بہت بے تابی سے رونے والا حضرت مدینی قدس سرہ اور اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا۔ قرآن شریف پڑھنے کا بہت ہی کثرت سے معمول تھا۔ خالی اوقات میں بہت کثرت سے حفظ قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے اور آخر شب میں جھروپکا کے ساتھ ان کو اس کا بہت ہی اہتمام تھا کہ اس سے کارکا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ اللہ کے فضل سے اور ان کی توجہ سے یہ چیز معتاد بن گئی۔ اپنے شاگردوں کے لیے اور بالخصوص اس تاکارہ کے لیے نظام الاؤقات لکھوانے کا بڑا اہتمام تھا۔ ہر موسوم میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنا نظام الاؤقات بنانا کر مجھے وکھلاو۔ ان کا ہر کتاب کے ختم پر شیرینی کے پیے دینے کا معمول اپنے تعلیمی سلسلے میں لکھوا چکا ہوں اور ساتھ ہی اس کی نگرانی بھی کر میں اپنی رائے سے ان کو خرچ نہ کر سکوں۔ وہ چونکہ بہت ہی باکمال تھے۔ فقہ و حدیث از بر اور علم ادب تو ان کے یہاں قاعدہ بغدادی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب یہاں تاکارہ و نابکار تو اب تک بھی کسی چیز میں ان کا اتباع نہ کر سکا۔

اس لیے کئی دفعہ فرمایا کہ ایک مولا نا تھے۔ مجھے جیسے علام ان کا ایک لڑکا تھا نالائق تجھے جیسا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو لڑکے کو بلا کریوں فرمایا کہ نالائق تونے کچھ نہ کیا۔ باپ کے مرید و شاگرد ہر طرف سے تیرے پاس آ کر کہیں گے کہ حضرت صاحبزادے فلاں بات کیوں کر رہے تو یہ کہہ دیجئے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے بات بندی رہے گی۔ ان کا یہ ارشاد تو میرے سر ایسا پڑا کہ سن چالیس بھری سے حدیث پاک کے اسباق ہونے شروع ہوئے تھے اور مجھے اختلاف مذاہب کا کچھ ایسا چکا پڑا گیا تھا کہ ہر مسئلہ میں فلاں امام کا یہ مذہب ہے فلاں کا یہ ہے۔ ایسا زبان پر چڑھ گیا تھا۔ اس کو میں اپنے رسالہ الاعتدال میں بھی کچھ تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ مخلوٰۃ شریف پڑھانے کے زمانے میں نماز کی چار رکعت کے اختلاف ایک رسالہ میں لکھے تھے جو میری تالیفات کے ذمیل میں گزر بھی چکا۔ اس وقت نماز کی چار رکعت میں دو سو سے زائد مسئلہ مختلف فیہ ملے تھے اور اس کے بعد علماء کا آپس کا اختلاف میری نگاہ میں ایسا ہلکا بن گیا کہ موجودہ زمانے میں جب علماء میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو مجھے اس اہمیت دینے سے کلفت

ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی مسئللوں میں اختلاف ہوا ہی کرتا ہے۔ تمہیں جن پر اعتقاد ہوا س کے قول پر عمل کرو۔ اس میں لڑائی، مناظرہ، مجادلہ کی کیا ضرورت ہے۔

### والد ماجد اور میرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف:

میرے والد صاحب قدس سرہ اور میرے حضرت قدس سرہ کے درمیان میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا۔ مگر چونکہ مجادلہ اور مخالفت نہیں تھی اس لیے عوام تو عوام خواص کو بھی اس کی ہوانہیں لگتی تھی۔ ان میں سے ایک مسئلہ مثال کے طور پر لکھتا ہوں۔ قربانی کے جانور میں دو تین شر کاء اگر ایک حصہ مشترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیں بشرطیکہ خود ان کے حصے اپنے بھی اس جانور میں ہوں۔ یہ صورت میرے والد صاحب کے نزدیک جائز تھی اور میرے حضرت کے نزدیک ناجائز۔ میرے والد صاحب اور پرستے تھے اور حضرت قدس سرہ کا قیام نیچہ رہتا تھا۔ قربانی کے زمانہ میں متعدد لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ حضرت کے پاس پوچھنے آتے تو میرے حضرت یوں فرمادیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تو ناجائز ہے مولانا بھی صاحب کے نزدیک جائز ہے۔ تو اور پر جا کر ان سے مسئلہ پوچھ لے وہ بھی اجازت دے دیں گے۔ تو اس پر عمل کر لینا۔ اس کے بعد میرے نزدیک یہ صورت جائز ہے اور ہمارے مدرسے کے مفتی سابق (مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) اور سابق ناظم عبداللطیف صاحب قدس سرہ حضرت قدس سرہ کے مسلم کے مطابق ناجائز بتاتے تھے اور ہر ایک کافتوں ایک دوسرے کو معلوم تھا میں نے ان دونوں حضرات سے گفتگو بھی کی انہوں نے میری نہیں مانی۔ میں نے ان کی نہیں مانی۔ مگر نہ کبھی اشتہار بازی ہوئی نہ جنگ و جدل ہوا۔

حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کے تابوت کے مسئلہ میں میں نے لوگوں سے ہمیشہ یہی کہا کہ اس میں جنگ و جدل اور منازعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ مناظرے اور مباحثے کی شاشتہار بازی کی جیسا کہ ہمیشہ مسائل میں اختلاف ہوتا آیا۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے اس میں منازعت کی کیا بات ہے اور لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے۔ متنات سے افہام و تفہیم میں کوئی مضائقہ نہیں کسی ایک فریق کی سمجھی میں نہ آئے تو اس پر لعن طعن سب و شتم بے جائے اور یہ ناکارہ تو اس میں اتنا وسیع ہے کہ مسلم لیگ، کانگریس، جمیعۃ، احرار کے مسائل مختلف فیہا میں کبھی کسی سے نہ الیحہ اور نہ کبھی کسی سے لڑا۔ ایک لطیفہ اس وقت یاد آگیا۔

مسلم لیگ کانگریس کے دور میں بھی یعنی تقسیم سے پہلے میرے حضرت مدینی شیخ الاسلام قدس سرہ تو کانگریس کی حمایت میں جتنے زوروں پر تھے کبھی کو آج معلوم ہے اور اس کے مقابل حضرت تھانوی قدس سرہ اس کی مخالفت اور حضرت کے اتباع میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام پاکستان مسلم لیگ کی حمایت میں حضرت مدینی سے کم نہیں تھے۔ مجردوں پر، جلوسوں میں،

اشتہارات میں ایک دوسرے کی تردید دونوں طرف سے جتنی شدت سے ہوتی تھی وہ ابھی تک کبھی کو معلوم ہے اور مقدر سے دونوں اکابر میرے مہمان ہوا کرتے تھے۔ لیکن مولانا ظفر احمد صاحب کی تشریف آوری ہوتی تھی تو دو تین دن قیام ہوتا تھا اور حضرت مدینی کے حالات میں گزر چکا ہے کہ حضرت کی تشریف آوری منشوں اور گھنٹوں کی ہوا کرتی تھی۔

ایک مرتبہ اسی دور میں مولانا ظفر احمد صاحب زادِ مجدد ہم و دام ظلہم تشریف فرماتھے دو تین دن سے آئے ہوئے تھے۔ مدرسہ میں قیام تھا میرے مہمان تھے۔ میں دارالطلبہ گیا ہوا تھا۔ ایک لڑکے نے مجھے جا کر اطلاع دی کہ حضرت مدینی قدس سرہ آئے ہیں، کچھ گھر میں ہیں۔ میرے پاؤں تک زمین نکل گئی اور اب تک بھی جب اس منتظر کا مجھے خیال جاتا ہے اور اپنی اس وقت کی پریشانی یاد آتی ہے تو دھڑ دھڑی سی آجائی ہے۔ میں دارالطلبہ سے بہت تیزی کے ساتھ مدرسہ قدیم آیا اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب زادِ مجدد ہم سے درخواست کی کہ حضرت مدینی تشریف لے آئے، مکان پر ہیں۔ حضرت کا قیام گھنٹہ آدھ گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہو گا آپ ابھی تکلیف نہ فرمائیں، کھانے کے بعد حضرت کی تشریف بری کے بعد میں آپ کو بلا لوں گا۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے اللہ ان کو بہت ہی درجے عطا فرمائے یہ فرمایا کہ کیوں؟ میری حاضری سے کیا نقصان ہو گا، میں ابھی آؤں گا۔ میں نے بڑی خوشامد و منت کی کہ اللہ کے واسطے ہرگز کرم نہ فرمائیں، مگر جتنا میں نے خوشامد کی اتنا ہی انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ابھی آؤں گا۔ میں نے کہا حضرت میرے بڑے ہیں وہ کچھ ارشاد فرمائیں گے تو میں بالکل جواب نہیں دوں گا۔ ان سے مایوس ہو کر میں کچھ گھر میں حاضر ہوا اور حضرت مدینی قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کئی دن سے آئے ہوئے ہیں اور میرے مہمان ہیں۔ میں ان سے کہہ آیا ہوں کہ ابھی آپ نہ آئیں، حضرت کی تشریف بری کے بعد آپ کو بلا لوں گا۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کیوں؟ میں ان سے کیا چھین لوں گا یا وہ مجھ سے کیا چھین لیں گے۔

میری یہ گفتگو حضرت سے ہو رہی تھی کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کچھ گھر میں پہنچ گئے۔ حضرت ان کو دیکھ کر بہت ہی سرست سے اٹھے کھڑے ہو کر مصافحہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ ابوالدیک صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ جب عزیز مولوی عمر احمد ابن مولانا ظفر احمد پیدا ہوئے تو ان کی تاریخ ولادت مرغ محمد تجویز کی گئی تھی۔ اس وقت سے حضرت مدینی قدس سرہ نے تفریحًا مولانا ظفر احمد صاحب کی کنیت ابوالدیک تجویز کر رکھی تھی اور اکثر ملاقات پر اسی لفظ سے مخاطبیت ہوتی تھی۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے دست بوسی کی اور میں پھر بھی ڈرتاہی رہا اور یارب سلم سلم پڑھتا رہا۔ جلدی سے دستِ خوان بچایا دلوں اکابر نے آئنے سامنے

بینہ کر کھانا نوش فرمایا۔ طرفین سے خیریت اہل و عیال کے حالات وغیرہ امور ہوتے رہے۔ تقریباً پون گھنے بعد حضرت مدینی قدس سرہ تشریف لے گئے اور میری جان میں جان آئی۔ کوئی سیاسی لفظ اس مجلس میں نہیں آیا۔

مولانا ظفر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مٹھائی کھاؤ۔ میں نے کہا ضرور مگر آپ سے زیادہ حضرت شیخ الاسلام ہیں۔ مجھے یہ فکر تھی کہ اگر ایک ڈانٹ پڑ گئی تو کیا ہو گا۔ مولانا نے فرمایا کہ میں تو پہلے کہہ چکا تھا کہ مولانا اگر ڈانٹیں گے تو کچھ نہیں بولوں گا۔ مجھے مولانا کی بڑائی یا علوشان سے انکار نہیں، مولانا کو ہر طرح اپنا بڑا سمجھتا ہوں، لیکن کیا کریں، ہم دیانت کا نگریں کو مسلمانوں کے حق میں نہایت عی مضر بھجتے ہیں۔ اس لیے اخبارات، اشتہارات اور منبروں کی تقریر میں تردید پر مجبور ہیں۔ یہ تو ہولیا، اب اس کا تکملہ سنو۔

ابھی دو تین سال کی بات ہے جب جمیعت اور مشاورت میں خوب چل رہی تھی۔ مولانا منظور صاحب نعمانی میرے مہمان تھے اور رات سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تخلیہ کا وقت مانگ رکھا تھا اور میں نے ان کے لیے ظہر کے بعد کا وقت تجویز کر رکھا تھا۔ میں ظہر کے فرض مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیرتے ہی چکے سے دہنی ایک لڑکے نے کان میں کہا کہ مولانا اسعد صاحب تشریف لائے ہیں اور کچھ گھر میں ہیں۔ پھر دوسری طرف سے ایک شخص نے با میں کان میں کہا کہ مولانا اسعد تشریف لے آئے اور کچھ گھر میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا "اونٹ پہاڑ کے نیچے سے نکل چکا، بھاگ جاؤ۔"

اطمینان سے سنتیں پڑھ کر میں نے مولانا محمد منظور صاحب مد فیوضہم سے اوپر مہمان خانہ میں کہلوایا کہ عزیز مولانا اسعد صاحب سلمہ آگئے اور ان کا قیام اپنے والد صاحب قدس سرہ کے طریق پر گھنٹے آدھ گھنٹے کا ہو گا۔ اس کے بعد آپ کو بلا میں گے۔ اس کے بعد میں نے کچھ گھر میں آکر عزیز مولانا اسعد سلمہ سے کہا کہ کوئی تخلیہ کی بات ہوتی تو خیرورنہ مولانا منظور صاحب کو میں نے یہ وقت دے رکھا ہے۔ ان کو بھی بلا لوں مہمان خانہ میں ہیں۔ عزیز موصوف نے کہا مجھے تو دس منٹ تخلیہ کے چاہیں۔ میں نے سب کو اٹھا دیا اور عزیز موصوف سے تخلیہ کے بعد ان کے رفقاء کو اپنے رفقاء کو اور مولانا منظور صاحب کو بھی مہمان خانہ سے بلا یا اور ان کی آمد کے بعد میں نے دونوں کو سنایا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک دم میرے اوپر یورش ہو گئی کہ حضرت مولانا اسعد صاحب تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے سے نکل چکا بھاگ جاؤ اور پھر اس جملہ کی شرح میں حضرت مدینی قدس سرہ اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب زادِ مجدد ہم کا قصہ سنایا اور اب بیک وقت مختلف الالوان کے جمع ہونے پر کچھ زیادہ فکر نہیں ہوتا اس لیے کہ اب میرے

دوسٹ ہی رہ گئے اکابر تو تشریف لے گئے۔ اللہ میرے سب اکابر کو بہت ہی بلند درجے عطا فرمادے بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے۔ اس کے بعد ایک دو موقعہ پر مختلف الالوان عناصر کے اجتماع پر جب زائی گفتگو شروع ہوئی تو میں نے دونوں سے عرض کرو یا کہ حضرت جی مرغے تو باہر جا کر لڑیں کھانا کھانا ہو تو کھائیں۔ ورنہ اللہ حافظ۔ مجھے مسائل خلافیہ میں جنگ وجدوں اور نزاع سے بہت نفرت ہے اور اختلاف علماء کو رحمت سمجھتا ہوں۔ اپنے رسالہ الاعتدال میں اس کو تفصیل سے لکھوا چکا ہوں۔ اس وقت تو اپنے والد صاحب کے مختصر احوال لکھوانے تھے۔

میں تعلیم کے سلسلہ میں لکھ چکا ہوں کہ مجھے اور میرے رفیق مولوی حسن احمد کو والد صاحب والے دورے میں اس کا بہت ہی اہتمام تھا کہ نہ کوئی حدیث استاد کے سامنے چھوٹے اور نہ بے وضو پڑھی جائے۔ ایک دفعہ میرا ساتھی مولوی حسن احمد مرحوم وضو کے واسطے اٹھا اور حبِ معمول میرے کہنی ماری۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فتح القدیر میں یوں لکھا ہے۔ ابا جان بہت ہنسنے اور فرمایا کہ میں تمہاری فتح القدیر سے کہاں لڑوں گا۔ تم کو ایک کہانی سنادوں۔ ان کا معمول اس باق میں عبرت کے قصے سنانے کا تھا اور خوب سنایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی سبق میں رو دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمیشہ مستقل ایک معمول ہو گیا تھا کہ جب ہم میں سے کوئی ایک اٹھتا، ایسا جان کوئی قصہ شروع کر دیتے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو طلب علم کے زمانے میں علمی شغف بہت تھا۔ ایک زمانے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نزول آب ہونے کو ہے۔ کتاب کم دیکھا کر میں بالخصوص رات کو کتب بینی نہ کریں۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی ماہ تک اس قدر محنت اور کتب بینی کی اس خیال سے کہ پھر تو یہ آنکھیں جاتی رہیں گی جو کچھ دیکھنا ہوا بھی دیکھ لیں۔ میرے والد صاحب نظام الدین میں رہتے تھے اور مدرسہ حسین بخش میں پڑھتے تھے۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد مدرسہ پڑھنے آتا تھا اور دو پھر کو فراغت کے بعد نظام الدین جاتا اور ظہر کے بعد واپس آتا۔ تقریباً یہ راستہ ساڑھے تین میل ہے۔ چودہ میل تقریباً روزانہ ہو گئے۔

### میرے والد صاحب کی تعلیم بمدرسه حسین بخش:

اس قصہ کو بہت اہمیت کے ساتھ کتب احادیث کی مواقیت صلوٰۃ میں بیان فرمایا کرتے تھے، جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر اپنے گھر مغرب سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ نظام الدین سے مدرسہ حسین بخش پہنچتیں (۳۵) منٹ میں پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی اس سے ایک دو منٹ کم تو ہوتے مگر زیادہ

نہیں۔ مجھے تو کبھی اس کے اندر استبعاد نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ناکارہ خود اپنے ثواب کے زمانے میں رائے پور کی پڑی جو ساڑھے تین میل ہے تیس پینتیس منٹ کے درمیان میں پہنچا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکثر کتب مدرسہ حسین بخش میں پڑھیں، مگر وہاں حدیث پڑھنے سے انکار فرمادیا۔

بڑا عجیب قصہ ہے، اگرچہ میری ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے مگر میرے والد صاحب کے کمالات سے ضرور ہے۔ یہ قصہ تذکرۃ الخلیل میں بھی آچکا ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دہلی میں حدیث پڑھنے سے آدمی غیر مقلد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی مولوی محمد صاحب نے چونکہ حدیث پاک گنگوہ میں پڑھی تھی، اس لیے میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کا بہت معتقد ہو گیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ اگر حدیث پڑھوں گا تو حضرت سے ورنہ نہیں پڑھوں گا اور اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ امراض کی کثرت اور بہت سے عوارض کی وجہ سے کئی سال پہلے سے حدیث کے اس باقی بند فرمائے چکے تھے۔ مدرسہ حسین بخش والوں کی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والد صاحب حدیث ان کے مدرسہ میں پڑھیں کہ اس میں میرے دادا صاحب کی وجہ سے ان کے مدرسہ کی شہرت اور مقبولیت تھی۔ میرے والد صاحب کے شدید انکار پرانہوں نے میرے دادا صاحب پر اصرار کیا کہ مولوی سید حمزة از کم بخاری شریف کے امتحان میں شریک ہو جائیں۔ اس کو میرے والد صاحب نے قبول فرمایا۔

نظام الدین کا مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا حجرہ جو مسجد کی دامیں جاتب ہے۔ اب تو وہ شاندار ہو گیا۔ اس وقت میں وہ بہت بو سیدہ تھا اور چھت بھی بہت پیچی تھی۔ مسجد کی طرف کا دروازہ تو اسی طرح تھا جیسا اب ہے لیکن جس جگہ آج کل زنانے مکان کی کھڑکی ہے وہاں بجائے کھڑکی کے ایک مختصر دروازہ قدِ آدم تھا اور زنانے مکان کی جگہ کیکر اور خود رو درخت اتنی کثرت سے اور گنجان خاردار کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں چلنے بھی بہت دشوار تھا۔ میں نے بھی اس کی یہ حالت دیکھی ہے۔ اس جگہ ایک رُو بھی بہتی تھی۔

### والد صاحب کا طرزِ تعلیم:

جس میں گند اپانی بہتا تھا اور مچھروں کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ میرے والد صاحب شب و روز اس حجرے کے اندر رہتے تھے۔ میرے دادا کے شاگردوں میں دو ایک لڑکے تھے جن کے ذمے یہ تھا کہ ہر آذان پر دلوں میں پانی بھر کر اس جنگل والے دروازے کی طرف پہنچا دیں اور دونوں وقت کھانا بھی اسی دروازے پر جا کر ان کے پاس رکھوا دیں۔ وہ

فرماتے تھے کہ میں سنتوں اور نماز سے فارغ ہو کر اپنی کتاب دیکھنے میں مصروف ہو جاتا تھا اور نماز کی تکمیر پر مسجد کا دروازہ کھول کر جماعت میں شریک ہو جاتا اور نماز کا سلام پھیرتے ہی اندر آکر سنتیں پڑھتا۔ اسی دوران میں کاندھلہ سے میری شادی کے سلسلہ میں میری طبلی کا تاریخ پہنچا تو اس کو نظام الدین والوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ وہ کئی ماہ سے یہاں نہیں ہے۔ غالباً میرے دادا صاحب کاندھلہ ہوں گے۔ انہوں نے ہی یہ تاریخ تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پانچ چھ ماہ میں بخاری شریف، سیرت ابن ہشام، حجاوی، بدایہ، فتح القدر بالاستیعاب اس اہتمام سے دیکھنے کے مجھے خود حیرت ہے۔ مختین میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس بخاری شریف کا امتحان تھا اور حضرت شیخ البند جن کے پاس ترمذی شریف کا تھا اور حضرت مولانا احمد حسن صاحب و دیگر اکابر کے پاس دوسری کتب کا۔

کھانے کی مجلس میں میرے دادا صاحب اور یہ سب حضرات شریک تھے، تو حضرت سہار پوری قدس سرہ نے میرے دادا صاحب سے فرمایا کہ آپ کے لڑکے نے ایسے جوابات لکھے ہیں کہ اچھے مدرس بھی نہیں لکھ سکتے اور اسی امتحان کی بناء پر حضرت سہار پوری نوراللہ مرقدہ نے حضرت گنگوہی قدس سرہ سے سفارش فرمائی تھی کہ حضرت نے اعذار کی وجہ سے سبق بند کر دیے، مگر ایک سال دورہ میری درخواست پر اور پڑھادیں کہ مولانا اسماعیل صاحب کاندھلی ثم الدہلوی کے لڑکے مولوی بیگی کا میں نے امتحان لیا ہے۔ ایسا ذہین طالب علم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ پہلے سے بھی میرے والد صاحب کا اصرار اور شرط سن رہے تھے اور میرے دادا صاحب سے واقفیت بھی تھی۔ اس پر حضرت نے کیم ذیقعدہ ۱۴۷ کو ترمذی شریف شروع فرمائی، جو بہت ہی آہستہ اور تھوڑی دیر ہوا کرتی تھی اور ذی الحجہ ۱۴۸ میں ایک سال کے اندر ترمذی شریف ختم ہوتی۔ اس کے بعد بخاری شریف شروع ہوتی جس کی تفصیل میں لامع کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں چونکہ میرے والد صاحب کا یہ اہتمام تھا کہ کوئی حدیث استاذ کے سامنے پڑھنے سے نہ چھٹے۔

ایک موقع پر اعلیٰ حضرت کے اصرار پر والد صاحب کاندھلہ تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ان کی غیبت میں سبق نہ پڑھانے کا وعدہ فرمایا۔ جب واپس تشریف لائے تو قاری ایک ولایتی تھے۔ انہوں نے ایک باب چھوڑ کر اگلے باب سے سبق شروع کیا۔ میرے والد صاحب اور دوسرے شرکاء نے تو کہ ایک باب اس سے پہلا باقی ہے۔ چونکہ وہ ولایتی تھی زور میں نہ مانے۔ چند ماہ بعد میری دادی صاحب کے اصرار پر حضرت قدس سرہ نے میرے والد صاحب کو کاندھلہ جانے کو ارشاد فرمایا۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ مجھے پہلے ہی روائی کا قلق ہے کہ میرا ایک باب چھوٹ گیا۔ حضرت نے فرمایا کل کو وہی باب ہو گا اور سبق میں بیٹھتے ہی اعلیٰ حضرت نے دریافت

فرمایا کہ مولوی بھی تمہارا کون سا باب چھوٹ گیا اور حضرت نے سب سے پہلے وہی باب پڑھایا۔ اتفاق سے قاری اس دن بھی وہی ولایتی تھے۔ اس باب کے ختم پر ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ کوئی اور باب چھوٹ گیا ہو تو وہ بھی پڑھوالو۔ اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کو غصہ آگیا اور غصہ میں فرمایا چلو تو تو باو لا ہے۔ چند ہی روز بعد یہ طالب باو لا ہو گیا۔

اس زمانے میں کوئے کام سلسلہ بھی زوروں پر تھا۔ یہ طالب علم ایک بانس کے اوپر کوے کو باندھ کر سارے دن گنگوہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرتا پھرتا کہ یہ کو احلاں ہے۔ ”اللَّهُمَّ إِنَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضْبِكَ وَغَضْبِ رَسُولِكَ وَغَضْبِ أَوْلِيَائِكَ“ یہی وہ بات ہے جس کو پہلے بھی لکھوا چکا ہوں کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے غصے سے محفوظ رکھے۔ میں نے بھی کوب الدرمی میں اس باب کو اسی جگہ پر رستے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پر منتقل نہیں کیا اور اس کے حاشیہ میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔

ایک عجیب واقعہ یاد آگیا کہ میں پہلے بھی کسی جگہ لکھوا چکا ہوں کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد دن یا رات میں جب بھی سوتا تھا، والد صاحب کو خواب میں دیکھتا تھا۔ ایک واقعہ اسی زمانے میں یہ پیش آیا۔ میں اوپر رہا کرتا تھا اور زینے کے اوپر کے کواڑ لگالیا کرتا تھا جو نہایت معمولی اور کمزور تھے۔ تین میتے انتقال کو گزرے ہوں گے۔ ایک رات کو آواز سائی دی، معلوم نہیں کس کی تھی، مگر مشابہ والد صاحب کی آواز کے تھی۔ زور سے کسی شخص نے کہا کہ نیچے کے کواڑ کیوں نہیں لگتے؟ اور اس آواز سے سب گھر کے بڑے سوتے ہوئے جاگ اٹھے۔ ہم کو آج تک پتہ نہ چل سکا کہ کس کی آواز ہے۔ والد صاحب کی آواز کے بہت مشابہ ہے۔

اس سے کارنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا کہ کتابوں کا ایک ڈھیر ہے، مسجد کے میتارے کی طرح سے، میں اس خواب کے بعد بہت ہی ڈر گیا، بڑی بے ادبی بھی۔ میرے والد نے یہ تعبیر دی کہ انشاء اللہ کتابوں پر عبور ہو گا۔ تعبیر تو بالکل صحیح ہوئی اور اللہ کے لطف و احسان سے ہزاروں سے متجاوز کتابوں پر عبور ہوا۔ مگر عزیزم مولوی یونس سلمہ یوں کہتے ہیں کہ تو نے ایک عرصہ ہوا نقل کیا تھا کہ والد صاحب نے اولاد تو فرمایا کہ تو بہت بڑا گستاخ ہے اور پھر تعبیر دی۔ میرے بچپن میں جب میری عمر پانچ چھ سال کی تھی۔ میرے والد صاحب کے ایک محبوب شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے ان کو چاول دیے اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ میرے والد صاحب نے اس وقت یہ تعبیر دی تھی کہ اس بچے کو ”ثبات فی الدین“ نصیب ہو گا اور بعد میں معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی اس کی تعبیر تھی ہے۔

میں بارہ مختلف تحریرات میں لکھوا چکا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بہت فخر

سوار رہتا تھا کہ میرے اوپر کہیں صاحبزادگی کا گھمنڈ نہ سوار ہو جائے۔ ان کا مشہور مقولہ تھا۔ جس کو انہوں نے سینکڑوں دفعہ کہا ہو گا کہ صاحبزادگی کا سور بری مشکل سے نکلتا ہے۔ اس لیے وہ بسا اوقات بڑے مجمع میں بے وجہ بھی مجھ کوڈاٹ دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ خود فرمابھی دیا کرتے تھے کہ بات تو کچھ ایسی نہیں تھی مگر مجھے یہ خیال ہوا کہ تیرے اوپر صاحبزادگی کا سور نہ سوار ہو جائے۔ ایک دفعہ انبالہ سے کلکتہ میں پرواپسی ہو رہی تھی یہنا کارہ بھی اپا جان کے ساتھ تھا۔ اس کی تیز رفتاری پر متوجہ فرمائیا کردیکھ سفر اس طرح قطع ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا، جو اکثر مجھے سنا کر پڑھا کرتے تھے:

تر ا ہر سانس خل موسوی ہے

یہ جز رو مد جواہر کی لڑی ہے

ان واقعات میں کوئی ترتیب تو ہے نہیں۔ نہ مسلسل لکھوانے کی نوبت آ رہی ہے۔ ”کیف ما اتفاق“ جب وقت ملتا ہے اکابر میں سے جن کے حالات ہوتے ہیں جو یاد آ جاتا ہے لکھوادیتا ہوں۔ اسی وجہ سے اکابر کے حالات میں سے بہت سے واقعات مکر بھی آ گئے ہیں۔ یہ میں ”امال الشم“ کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں کہ ان کا طرز تعلیم بالکل علیحدہ تھا اور طرز تربیت تو اس سے کارکے ساتھ تو بڑا ہی سخت تھا۔ دس سال کی عمر سے یعنی ۲۵ھ سے لے کر ۳۲ھ تک کازمانہ مجھ پر بہت سختی کا گزر۔ اس زمانہ میں اچھا کپڑا پہننے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ اسی بناء پر میری والدہ مرحومہ کے اچھے جوڑے پر میری پٹائی ہوئی تھی، جس کو میں آپ بیتی نمبر ایں لکھوا چکا ہوں۔ ہر جمعہ کو سرمنڈ و اتنا ضروری تھا۔ گرمی ہو یا سردی نماز میں اگر دونمازوں میں ایک شخص میرے پاس ہو جاتا تو مجھ سے جواب طلب ہوتا تھا کہ تیری نماز فلاں ہی کے پاس ہوتی ہے اور کہیں ادا نہیں ہوتی۔ رستے چلتے کوئی مجھے سلام کر لیتا تھا تو مجھ سے جواب طلب ہوتا تھا کہ یہ کون ہے اور جب میں علمی ظاہر کرتا تو پھر ارشاد فرماتے تو پھر سارے جمیع میں تو ہی ملا تھا اس کو سلام کرنے کے واسطے، لیکن یہ ساری سختیاں اللہ کے فضل سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال سے ایک ڈیڑھ سال پہلے ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد تو انہوں نے میرے دو تین سخت امتحان لے کر بس پھر آزادی دے دی تھی۔ اس کے بعد تو بہت ہی شفقتیں اور اعتماد اور حسن ظن بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن ہی کو سچا کر دیں۔

ان کے رائے پور کے سفر میں اس ناکارہ کا کچھ دل گھبرا یا۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا۔ ان کا ایک والا نامہ محبت سے لبریز آیا جس میں انہوں نے اس سے کارکے متعلق لکھا تھا کہ تعلق مع اللہ پیدا ہو گیا ہے میں اس کو پورا لکھوانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ مگر عزیز سلمان نے کہا کہ یہ

آپ بیتی نمبر ۳ میں گزر چکا۔ اس سب کے باوجود نکیر اخیر تک نہیں گئی۔ حضرت سہار پوری قدس سرہ یک سالہ قیام کے بعد جو حضرت شیخ الہند کے ساتھ ۳۳ھ میں روانگی ہوتی تھی۔ جس دن بسمی پہنچ اسی دن میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کا تاریخ حضرت کو بسمی میں پہنچا اور حضرت اس کو سن کر سکتہ میں رہ گئے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ لیکن اس سے تین چار دن پہلے حضرت کا عدن سے تاریخ آیا کہ فلاں جہاز سے تشریف لارہے ہیں۔ اس تاریخ پر حقیقتی مسیح سہار پور والوں کو اور حضرت اقدس سے تعلق رکھنے والوں کو ہونی چاہیے تھی ظاہر ہے۔ میں نے اس تاریکی اطلاع پر اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ اور نظام الدین کا ندھلہ۔ گنگوہ سب جگہ مژدہ کے خطوط لکھ دیے دوسرے دن والد صاحب نے مجھ سے ہی اعلیٰ حضرت کو رائے پور خط لکھوانا شروع کیا۔ جس کی ابتداء یہ تھی:

مژدہ اے دل کہ دگر باد صبا ز آمد  
ہد ہد خوش خبر از شهر سبا باز آمد

میں نے اپنی حماقت سے خط کے دوران میں کہہ دیا کہ میں نے بھی اطلاع کا ایک عریضہ کل لکھ دیا تھا۔ فرمایا کہ ابھی تو پاوازنہ تھا۔ ابھی سے استقبال کا جھنڈا ہاتھ میں کیوں لے لیا۔ اس وقت تو میں بہت سوچتا رہا کہ اس میں کون سی ڈائٹ کی بات تھی مگر بعد میں خیال آیا کہ اس میں بے ادبی ضرورتی۔

ان کے طرز تعلیم کے متعلق تو بہت ہی کچھ لکھوانے کو دل چاہتا تھا۔ مگر بہت ہی طول ہو جائے گا وہ مدرسہ میں قائم مقام صدر مدرس تھے۔ ابو داؤد شریف، مسلم شریف اور نسائی شریف ان کے مستقل سبق تھے اور حضرت کی غیبت میں حضرت قدس سرہ کے سبق ترمذی بخاری بھی ان کے یہاں منتقل ہوتی رہتی تھی۔ وہ احادیث کے اس باقی کے مقابلے میں ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کا زیادہ اشتیاق رکھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بنیاد ابتداء سے پڑتی ہے استعداد کی بھی، اصلاح اور تقویٰ کی بھی اور جب بنیاد خراب ہو جائے تو پھر اخیر میں تعمیر اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ مدرسہ حدیث کے زمانے میں مدرسہ سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ مجھے ابتدائی سبق دے دو مگر اہل مدرسہ اس کو کیسے مانتے۔

انہوں نے ایک مرتبہ مدرسہ میں یہ تجویز پیش کی کہ درجہ ابتدائی کا مدرس ایسا ہونا چاہیے جس نے شرح جامی سے اور پر کچھ نہ پڑھا ہو کہ ایک دو ہو شیار سمجھداروں کو ابتدائی کتب مجھ سے پڑھوا کر اور بعد کی تعلیم پنڈ کر کے مدرس بنادیا جائے۔ کہ وہ کہتے تھے کہ پورا مولوی ہمیشہ ترقی کی فکر میں رہتا ہے اور جب اس کو متوسط کتب مل جاتی ہیں تو ابتداء میں اس کی توجہ نہیں رہتی اور جب اس نے شرح جامی سے اور پڑھا نہیں ہو گا تو وہ اور پر کی کتاب میں نہیں مانگے گا۔

یہ ناکارہ اس زمانے میں مختصر المعانی پڑھتا تھا۔ احقوں نے یہ شہرت دی کہ یہ اپنے لڑکے زکریا کو تعلیم چھڑا کر مدرسہ میں ملازم رکھنا چاہتے ہیں۔ احقوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ جس شخص نے اپنی اعلیٰ تخلواہ بھی نہ لی ہو۔ اس کو میری ابتدائی تخلواہ کی کیا خواہش ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں ان کو طحاوی شریف سے بڑی مناسب تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ طحاوی مشکلوہ شریف کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھائی جائے۔ چنانچہ اس ناکارہ نے اسی طرح پڑھا ہے۔ احادیث کا ترجمہ تو میں نے مشکلوہ شریف میں بھی نہ کیا۔ طحاوی میں کیا کرتا۔ لیکن امام طحاوی کی نظر کا ترجمہ ضرور کراتے تھے۔

شاید میں کہیں لکھوا چکا ہوں اسی رسالہ میں یا ”اممال الشیم“ کے مقدمہ میں کہ انہوں نے قطب عالم حضرت گنگوہی کے انتقال کے بعد طحاوی کی اردو شرح لکھنی شروع کی تھی۔ جس میں اسانید کو چھوڑ کر متن حدیث کا ترجمہ مکرات کے حذف کے ساتھ اور امام طحاوی کی نظر کا ترجمہ بسط و تفصیل کے ساتھ کیا تھا مگر پہلے لکھا جا چکا کہ اس زمانے میں طحاوی شریف ترمذی، بخاری شریف کے ختم ہونے کے بعد اس کے گھنٹے میں حضرت قدس سرہ کے یہاں سود و سورق ہوا کرتے تھے۔

مجھ سے ایک دفعہ مولانا انور شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ مولوی زکریا صاحب میں تو دیوبند پر قابو یافت نہیں ہوں لیکن تم مظاہر علوم پر قابو یافتہ ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ طحاوی شریف پورے سال ہوا کرے۔ میں اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پہلے سے طحاوی شریف کا دلدادہ تھا۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد میں نے مظاہر علوم کے دورہ حدیث میں طحاوی شریف کا پورا گھنٹہ شروع سال سے جبوز کر دیا تھا۔ جب تک عبد الرحمن صاحب کا قیام یہاں رہا وہ مستقلًا مولانا کے یہاں ہوتی رہی اور ان کے پاکستان تشریف لے جانے کے بعد مولانا اسعد اللہ صاحب کے یہاں اب سے ایک سال قبل تک ہوتی رہی، مگر میری کوشش کے باوجود دونوں جلدیں کسی سال پوری نہ ہو سکیں۔

میں نے بارہا مدرسہ سے یہ درخواست کی کہ طحاوی شریف کا سبق مجھے دے دیا جائے، مگر اپنی تالیفی مشغولیت کی وجہ سے تین سبق لینے پر میں آمادہ نہیں تھا اور ابوداؤ دیا بخاری شریف کی جگہ طحاوی شریف ان لوگوں نے دینا گوارانہ کیا کہ یہ دونوں زیادہ اہم ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ دو سال کے لیے دے دو، میں دونوں جلدیں ختم کرا کر دکھادوں گا۔ مگر چونکہ اولاً ابوداؤ داور چند سال کے بعد اس کے ساتھ بخاری شریف میرا مستقل سبق ہو گیا اس لیے اہل مدرسہ نے مجھے طحاوی شریف نہ دی۔

میرے پچھا حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب قدس سرہ بانی جماعت تبلیغ:

میرے صنوالاب نائب اشخ مریبی و استاذ کی شفقتیں تو میرے حال پر جتنی بھی ہوتی چاہیے تھیں ظاہر ہے، مگر ان شفقوں کے ساتھ ساتھ آخر میں ان کا طرز ایسا ہو گیا تھا، جس نے مجھے بہت ہی شرمندہ کر رکھا تھا اور جیسا کہ میں نے حضرت اقدس مدینی اور حضرت اقدس رائے پوری کے حالات میں لکھوایا ہے کہ ان اکابر کے بعض فقرے اب نقل کرنے کے قابل نہیں، اس کے باوجود بھی میں نے بہت نامناسب قصے لکھوادیے۔ البتہ پچھا جان کے ابتدائی حالات ضرور لکھوانے کو جی چاہتا ہے۔ اگرچہ بہت سے قصے میری ابتدائی تعلیم اور حالات سے گزر گئے۔ میں نے جب سے ہوش سنجھا لا اس وقت سے اپنے پچھا جان کو نہایت عابد، زاہد، منفق اور پرہیزگار پایا۔ میرا ابتدائی دوران کے شدید مجاہدوں کا تھا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نفلوں کی نیت باندھا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے وقت سلام پھیرا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد کی طویل نفلوں کا دستور تو ہمیشہ رہا، مگر عشاء کی اذان کے قریب تک پڑھنے کا معمول رمضان میں اخیر تک رہا۔ اس زمانے میں ایک دستور پچھا جان کے چپ اور خاموش رہنے کا تھا۔ یاد نہیں کہ دن رات میں شاید کوئی لفظ بولتے ہوں۔ اس زمانے میں مجھے سے فرمایا کہ اگر تو چھ بھتے چپ رہے تو میں تجھے ولی کردوں۔ مجھے میں اس زمانے میں بلاوجہ بھی بولنے کا مرض تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد نظام الدین میں میں نے ان سے عرض کیا کہ میں چھ ماہ چپ رہ کر دکھادوں، وہ فرمانے لگے وہ بات گئی۔ میری ابتدائی تعلیم میں پچھا جان کے کچھ واقعات اس سلسلہ میں گزر چکے ہیں۔

اس زمانے میں چونکہ وہ چھوٹے تھے، اس لیے والد صاحب کی اگر کہیں دعوت ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لے جانا ضروری تھا اور وہ ادبیاً تو اضعاً یہ ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے کہ میرا روزہ ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ روزہ ہے۔ مجھے سے فرمایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ دعوت میں جانا ہے، میرے پاس بیٹھنا، چنانچہ وہ لقمه بناتے، من بھی چلاتے مگر ان کا بنایا ہوا لقمه میرے منہ میں جاتا تھا۔ جب وہ چاول وغیرہ کا لقمه بناتے یا روٹی کا لقمه سالمن میں لگاتے تو میں ان کے ہاتھ لے کر اپنے منہ میں رکھ لیتا، وہ دوسرا لقمه شروع کر دیتے۔ دیکھنے والے میری بد تیزی سمجھتے۔

ایک عجیب قصہ یاد آگیا۔ ایک داحب مولوی شیر محمد صاحب ولایتی ہندوستان میں عربی پڑھنے آئے اور مختلف مدارس میں معقول کی کتب اتنی کثرت سے پڑھیں کہ لا تعداد ولا تحصی جہاں کہیں منطق کے استاد ملے وہیں پہنچے بارہ چودہ برس کے بعد گھروالوں کے شدید تقاضوں پر گھر گئے کہ لڑکی کے گھروالوں کے تقاضے کافی عرصے سے ہو رہے تھے۔ ان کے جانے پر بڑا

استقبال ہوا کہ ہندوستان سے علم پڑھ کر آئے ہیں۔ بڑے زورو شور سے شادی کا اہتمام و انتظام ہوا۔ ایک مولانا صاحب اپنے ماجھے کران کے پاس آئے کہ میری صحاح کی سب کتب ہو چکیں، صرف اپنے ماجھے شریف رہ گئی ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر نہ گئے تھے اس لیے بڑی شرم آئی کہ علامہ ہونے کی اتنی شہرت ہو رہی ہے، انہوں نے ان سے تو معدودت کی کہ میں اپنی بد قسمتی سے حدیث پاک کے سواب سے کچھ پڑھ کر آیا ہوں، مگر میں ایک حدیث کا استاد ہندوستان میں دیکھ کر آیا ہوں۔ انشاء اللہ چند ماہ بعد حدیث پڑھ کر آؤں گا اور تم کو ضرور پڑھاؤں گا۔ شادی ہو گئی۔ شب زفاف میں یہوی سے بہت منٹ سماجت سے یہ سارا قصہ کہہ کر چند ماہ کی اجازت مانگی اور یہ بھی کہا کہ لوگ تجھے طعن دیں گے۔ کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ کہے گا۔ کوئی کہے گا کہ یہوی سے نفرت ہو گئی۔ مجھے اللہ کی قسم تو بہت ہی پسند آئی اور چنان چنیں (مجھے اس میں تردہ ہے کہ دوسرے دن بھاگ آئے یا تیسرا دن) اور چکے سے بلا اطلاع وہاں سے چل کر سیدھے گنگوہ پہنچے اور میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے پورا قصہ سنایا۔

ان کو میں نے بھی دیکھا اور خوب دیکھا۔ میں نے ان کا پڑھنا بھی دیکھا اور مطالعہ بھی، وہ ولایتی تھے۔ قراءت ان سے نہ ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد والد صاحب کے سبق شروع ہوتا تھا اور سحر کے وقت ختم ہوتا تھا۔ قرأت بھی میرے والد صاحب خود فرماتے اور بھی پچا جان۔ زیادہ تر پچا جان فرماتے اور ان ولایتی مولوی صاحب پر مجھے بہت ہی رشک آتا تھا۔ میں نے ان کو کسی وقت دن میں خالی نہیں دیکھا۔ لال مسجد کی چھت کے اوپر ایک جگہ رہتا تھا اسی میں ان کا قیام تھا۔ اس میں پڑے رہا کرتے تھے۔ ایک میرے والد صاحب کے شاگرد مولوی سعید گنگوہی مرحوم تھے، ان کے ذمہ ان کا کھانا لانا تھا جو میرے والد صاحب نے کسی کے گھر مقرر کر رکھا تھا۔ مولوی سعید سے مولانا شیر محمد صاحب نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کھانا لا کر اس طاق میں رکھ دیا کرو اور سالن تم لے جایا کرو۔ وہ سالن تو دونوں وقت اپنے گھر لے جاتے اور کچھ بڑھیا مال ہوتا تو وہیں صاف کر دیتے۔ ولایتی مولوی ہر وقت چاور اور ٹھہر کر رکھتے تھے۔ اس چادر کو پھیلا کر مولوی سعید اس پر رکھ دیتے۔ میں نے ان کو روٹی کھاتے دیکھا ہے کہ مطالعہ بڑے غور سے کرتے رہتے، خوب حاشیہ وغیرہ دیکھتے اور ایک لفہ توڑ کر بغیر سالن کے منہ میں رکھ لیتے اور پان کی طرح اس کو چجالیتے اور کھا کر لوٹے میں جو پانی رہتا اس کوئی لیتے، گرم ہوتا یا نہنڈا۔

مجھے اس وقت بھی ان کے مطالعہ پر بڑا رشک آتا تھا۔ حالانکہ میں اس وقت بہت ہی بچھا اور اب جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے بڑا لطف آتا ہے اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی کا مقولہ یاد آ جاتا ہے کہ ”کام تو یوں ہوا کرے۔“ مگر پڑھنے اور پڑھانے والوں دونوں ہی کا کمال تھا کہ

ساری رات پڑھنے پڑھانے میں ہی خرچ فرمادیتے تھے۔

### منظہر علوم کی تدریس:

چچا جان قدس سرہ ان مجاہدات، عبادات، ریاضات کی وجہ سے کتب خانہ کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ایک مشیٰ محمد حسین صاحب فیض آبادی تھے جو میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا نجیب تھے اور کتب خانہ کا سارا کام اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے زمانے میں بھی اور حضرت کے وصال کے بعد بھی وہی کیا کرتے تھے۔ بڑی محنت اور جانشناختی اور دل سوزی سے کیا کرتے تھے۔ ایک عادت مرحوم کی یہ تھی کہ میرے والد صاحب جب بھی سفر میں ہوتے تو وہ ان کی آمدہ ڈاک پر پتہ کاٹ کر جہاں ابا جان کا قیام ہوتا وہاں کا پتہ لکھ دیتے اور انہی خطوط پر اپنا مضمون بھی لکھ دیا کرتے تھے جو قانونی جرم تھا۔ مگر اس کی ان کو خبر نہ تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ان پر مقدمہ قائم ہو گیا اور شایع گیا کہ یہ تو سنگین جرم ہے۔ وہ روپوش ہو کر مکہ مکران پلے گئے اور وہیں انتقال بھی ہوا۔ مشیٰ صاحب مرحوم نے ایک مرتبہ میرے چچا جان کو ڈانت کریوں ہی پھر تے رہتے ہو کوئی کام کتب خانہ کا بھی کر لیا کرو۔ میرے والد صاحب کو بہت ہی ناگوار ہوا اور مشیٰ جی کو خوب ڈانٹا اور فرمایا کہ مشیٰ جی میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اسی کی برکت سے مجھے روزی مل رہی ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ ”هَلْ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِعُفَافٍ كُمْ“ (کذا فی المشکوہ برواية البخاری) رزق اور تم کو مدد کیا ضعفاء کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی؟ گنگوہ سے واپسی پر ۲۸ھ میں جب اکابر مظاہر علوم بہت سے حج کو چلے گئے تو ان کی غیبت میں چچا جان مظاہر علوم کے مدرس بنائے گئے تھے۔ زبان میں کچھ لکھت تھی جو بات چیت میں تو بالکل ظاہر نہ ہوتی تھی۔ مگر تقریر اور سبق میں بھی تقریریزور سے ہوتی تو اس کا اثر ظاہر ہوتا، جس سے بعض طالب علم کبھی شکایت بھی کرتے تھے مگر مجھ سے متعدد لوگوں نے بعد میں بیان کیا کہ ان سے پڑھنے والے علمی حیثیت سے بہت اوپر پہنچ پہنچے۔

### نظام الدین منتقل ہونا اور بیماری کا شدید حملہ:

میرے تایا ابا جان (مولانا محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) کے انتقال کے بعد اہل نظام الدین کے اصرار پر نظام الدین کی مسجد میں منتقل ہوئے۔ اتفاق سے اس انتقالی دور میں چچا جان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہو گئی۔ مرض سہار پور سے شروع ہوا۔ راستے میں کاندھلہ دو تین دن قیام کا ارادہ تھا۔ وہاں پہنچ کر بہت ہی شدت مرض نے اختیار کی۔ حکیموں نے پانی پینے کو منع کر دیا اور وہ غصے میں جوش میں پانی پینے کو دوڑتے۔ حالانکہ حرکت بھی دشوار تھی۔ یہ ناکارہ اس پوری بیماری میں ان

کی خدمت میں رہا۔ بڑے وقایع اس میں پیش آئے۔ ایک معمولی سی بات یہ کہ بہت بڑی جماعت جنات کی ان سے بیعت ہوئی۔ ایک دفعہ اصرار ہوا کہ بخار کا علاج چلتے پانی میں نہانہا ہے اور حکیم نے وضو کو بھی منع کر رکھا تھا۔ تیم سے نماز پڑھتے تھے۔ مجھ پر خفا ہوئے کہ ان حکیموں کی ایسی تیسی۔ تم ان کے مقابلے میں حدیث کے علاج کو انکار کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا حدیث شریف تلفی ہے قطعی نہیں اور پھر یہ علاج جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں یہ کلی نہیں۔ ہر شخص کے لیے اور ہر موسم کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ طبیب کا علاج بھی مشروع ہے اور وہ احوال کے مناسب ہوتا ہے۔ غرض خوب مناظرہ ہوا اور مجھے خوب ڈانتا، لیکن ان پر حدیث پاک کے اتباع کا جوش تھا، اس لیے خوب ڈانت پلائی کہ حدیث پاک کے مقابلے میں تم کسی حکیم کا نام لیتے ہو۔ یہ ولولہ بعض اوقات زوروں پر آ جاتا تھا۔

### ماحول کا اثر اور اس کے چند واقعات:

ایک ہمارے مخلص دوست مرحوم نے ان کو ایک خط سہار پور سے دہلی لکھا۔ جس میں ایک عزیز کی بیماری کی تفصیل لکھ کر ایک تعویذ منگایا تھا اور جواب کے لیے اپنے پتہ کا لفافہ لکھا تھا۔ پچا جان نے ان کے لفافہ پر سے ان کا پتہ کاٹ کر میرا پتہ اور انہی کے خط پر یہ مضمون تحریر فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ مغرب اور صبح کی نماز کے بعد بیمار کو مسجد میں لا کر تم سے دم کرائیں اور مجھے ایک دعا لکھی کہ تم یہ دعا پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرو اور اگر وہ اس دعا سے اچھے نہ ہو تو ایسے کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں مر جانا اچھا ہے۔

میراڑ کا عزیز طلحہ غالباً دوڑھائی برس کا تھا۔ نظام الدین میں اتنا شدید بیمار ہوا کہ مایوسی کی حالت ہو گئی اور ان کو کسی تبلیغی جلسے میں تشریف لے جانا تھا۔ جاتے ہوئے غالباً قاری داؤ د مرحوم سے یا اسی نوع کے کسی اور سے ہمارے مدرسہ کے مدرس حدیث مولوی یوسف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مولوی یوسف میواتی مرحوم یاد ہیں اور بعض کو میاں جی مولوی کا نام یاد ہے کہا کہ دیکھا اگر میری والپی سے پہلے طلحہ مر گیا تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے۔

ان واقعات میں کچھ اشکال نہیں۔ ممکن ہے کہ پچا جان کو یہ کشف ہوا کہ اس کی صحت فلاں کی زور دار دعا پر موقوف ہے اس لیے سخت لفظ کہے۔ معلوم ہوا کہ عزیز بارون کی والدہ کی شدت عالات میں بھی عزیز مولانا یوسف صاحب مرحوم نے بھی اس قسم کا جملہ میاں جی مولوی سے کہا تھا۔ حدیث پاک میں ہے ”ان من عباد اللہ لواقسام على الله لأبره أو كما قال عليه الصلوة والسلام“ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو

ضرور پورا فرمادیں گے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز قابلِ لحاظ یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ”وَمَن يَتَال عَلَى اللَّهِ يَكْذِبُهُ“ جو اللہ تعالیٰ پر بخلاف فتنہ کھانے کا اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا کر دیں گے۔ اس کے لیے دونوں حدیث بہت ہی غور کی اور اہم ہیں ہر ایک کا مصدقہ الگ الگ ہے۔

جو حضرات واقعی اہل اللہ ہیں وہ اگر جوش میں کوئی بات فرمادیں وہ پہلی حدیث کا مصدقہ ہے اور جو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے واسطے پیش گویاں کریں وہ دوسری حدیث کے مصدقہ ہیں۔ میں اپنی اُسی تالیف میں اس کو تفصیل سے لکھ بھی چکا ہوں۔ اس ناکارہ کا ذوق والد صاحب قدس سرہ کی برکت سے کچھ علمی ہو گیا تھا۔ اگرچہ رسمی بیعت شوال ۳۳ھ میں حضرت قدس سرہ کے یکساںہ قیام حجاز کی روائی کے موقع پر ہو گئی تھی مگر ذکر شغل کی توفیق اب تک بھی نہ ہوئی۔

میرے چچا جان قدس سرہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ ان کی شفقتیں بچپن سے مجھ بہت بڑھتی رہیں۔ وہ مجھ پر بیعت کے بعد سے بہت ہی اصرار فرماتے رہے کہ تو ذکر کر لیا کر۔ مگر میں ہمیشہ اپنی نالائقی سے یہ جواب دیا کرتا تھا کہ ”ہر کے را بہر کارے ساختند“، ضر میں آپ لگائیں سبق میں پڑھاؤ۔ یہ لائیں میرے بس کی نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل ہوں وغیرہ وغیرہ۔ مگر چچا جان کی شفقتیں ہمیشہ بہت ہی متضاضی رہیں۔ میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ بذل کی طباعت کے سلسلے میں جب کبھی تھا نہ بھون ہوتی تھی تو وہاں کام احوال ہر وقت اسی کا تھا اور ماحدوں کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ اس کے بڑے تجربے ہیں۔ ایک غیر متعلق بات یاد آگئی۔

میرا ایک مخلص دوست لیق مرحوم مظاہر علوم سے فارغ ہوا۔ استعداد بڑی اچھی تھی۔ میرے بڑے خصوصی تعلق والوں میں تھا۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ کی بھی اس پر بڑی شفقتیں تھیں۔ اس لیے فراغ پر میں نے از خود اس کو مظاہر علوم کی شاخ میں ۲۰ روپے تختواہ پر مدرس تجویز کیا۔ اس نے بخوبی پسند کیا، مگر دو تین دن بعد آ کر اس نے قلت تختواہ کا عذر کیا اور کہا کہ کم از کم پچیس روپے پر کام کر سکتا ہوں۔ میں نے معدودت کر دی کہ میں بھی تمہاری خصوصیات کی وجہ سے ہیں، ورنہ شاخ کی تختواہ میں پندرہ سے متباہز نہیں ہیں۔ میں نے اس مرحوم کو تختواہ کے غیر مقصود اور ناقابل التفات ہونے پر ترغیب اور نصیحت بھی کی۔ مگر اس نے خالگی ضروریات وغیرہ وغیرہ نہ معلوم کیا اکیا ضروریات بیان کیں اور اس نے منتظر نہ کیا۔ مولوی سعید خاں صاحب کا دور تھا۔ وہ اس کو ترغیب دے کر نظام الدین لے گئے۔ وہاں مدرسہ اور تبلیغ دونوں کام اس کے حوالے ہوئے اور آٹھ روپے تختواہ مقرر ہوئی۔ نظام الدین کی حاضری تو میری ہوتی رہتی تھی۔ وہ مرحوم اکثر ملتا رہتا تھا۔ چونکہ چچا جان کے دور میں بھی مدرسہ اور تبلیغ کی سر پرستی اس ناکارہ کے ذمہ تھی۔ ایک سال بعد میرے پاس ایک درخواست وہاں کے ہمہ تم صاحب کی طرف سے پہنچ کے مدرسہ کے

مدرسین ہیں جن میں چار پانچ نام تھے ان میں ایک لیق مرحوم کا بھی تھا۔ مہتمم صاحب نے لکھا تھا کہ ان لوگوں کی آٹھ روپے تxonah ہے۔ اگرچہ ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں ہے مگر میری سفارش ہے کہ دور و پے کا اضافہ ہر ایک کی تxonah میں کر دیا جائے۔ میں نے لکھا کہ ضرور، بلکہ چار روپے کا۔ مگر پچا جان نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ابھی تو دور و پے ہی رہنے والے، ہمارے مدرسین کی عادت نہ بگاؤ۔ میں نے مغرب کے بعد لیق مرحوم کو بلایا۔ وہ انداز سے یا کسی کی روایت سے سمجھ گیا۔ مجھے اس کا گردن جھکا کر آنا اپ تک یاد ہے۔ نہایت شرمندہ، نہایت تجوہ، میں نے پوچھا کہ لیق تو وہی تو ہے وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، میں تو پات پوچھتا ہوں۔ تم کو معلوم ہے کہ میں نظام الدین کا سرپرست ہوں اور میرا یہاں والوں سے تعلق بھی تجوہ کو معلوم تھا۔ تو نے ہمارے میں روپے پر تو ٹھوکر مار دی اور دوسال سے یہاں آٹھ روپے پر کام کر رہا ہے۔ اس مرحوم نے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی درجات عطا فرمائے۔ بہت مخلص اور نیک تھا۔ بہت ہی شرمندگی سے یوں کہا کہ ماحول کا اثر ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو تو یاد ہو گا کہ میں روپے بڑی خوشی سے میں نے قبول کیے تھے۔ مگر شاخ کے سب مدرسون نے مجبور کیا کہ پچیس سے کم پر راضی نہ ہونا، تیری وجہ سے ہمارا بھی راستہ کھلتے گا۔ لیق مرحوم کے علاوہ اور بھی کئی ساتھ میرے اس نوع کے واقعہ پیش آئے کہ یہاں کے ماحول میں اور نظام الدین کے ماحول میں بہت ہی تفاوت خاص طور سے پچا جان کے دور میں پیش آتا رہتا تھا۔

یہاں کئی آدمیوں کو ہم نے دس روپے معین مدرسی پر رکھنا چاہا اور وہاں جا کر وہ بلا تxonah محض کھانے پر تبلیغ و تدریس کا کام کرتے رہے۔ اگرچہ اس میں پچا جان کی برکت کو خاص دخل تھا۔ لیکن دوسرے درجے میں ماحول کا بھی اثر تھا اور یہ تو کئی سال ہوئے رمضان کے آنے والوں کے خطوط کئی ماہ تک آتے رہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جولنڈت ذوق و شوق ذکر و تلاوت میں محسوس ہوتی تھی، وہ یہاں آ کر نہیں رہی اور میں یہی جواب لکھواتا رہتا ہوں کہ یہ ماحول کا اثر ہے۔ آپ لوگ وہاں کا ذکر کا ماحول پیدا کریں تو یہ لذت وہاں بھی محسوس ہونے لگے گی۔ پچا جان کی شفقتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ مگر بعض دفعہ وہ ذات بھی خوب پلایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ عزیز ان مولانا یوسف مرحوم، مولانا انعام صاحب سلمہ یہاں دورہ پڑھتے تھے تو عزیز یوسف مرحوم کے دامنے ہاتھ میں زخم ہو گیا، شکاف آیا اور بہت ہی مرحوم کو تکلیف آٹھانی پڑی۔ سال کا ختم تھا۔ جمادی الثانیہ آگیا۔ پچا جان نے ارشاد فرمایا کہ سال تو قریب اکتم ہے۔ کتابیں پوری ہو گئیں، معمولی سی رہ گئی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑکوں کو ساتھ لیتا جاؤں۔ تمہاری کیا رائے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے عزیز یوسف کو افاقت ہے۔ دو چار روز میں انشاء

اللہ اچھا ہو جائے گا۔ امتحان قریب ہے۔ اس میں شرکت مناسب ہے۔ چچا جاں میری عدم موافقت رائے پر ناراض ہوئے اور خود رائی پر خوب ڈالنا۔ میں نے عرض کیا جناب نے مشورہ پوچھا تھا۔ مشورے میں تو جو خیر ہو وہی دیانت سے بتانا چاہیے۔ آپ اگر حکم فرماتے کہ میں لے جا رہا ہوں اور میں اس کی مخالفت کرتا تو خود رائی ہوتی۔ اس پر اور بھی ناراض ہوئے۔ حضرت رائے پوری بھی اس مجلس میں اول سے آخر تک شرکیت تھے اور تہایت ساکت رہے۔ میرے اٹھنے کے بعد چچا جان نے حضرت رائے پوری سے پوچھا کہ میر انارض ہونا آپ کونا گوار ہو گا۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ ہاں حضرت! سمجھ میں نہیں آیا۔ بات تو حضرت شیخ کی صحیح ہے۔ جب آپ نے مشورہ پوچھا تھا تو پھر بات تو وہی کہنی چاہیے تھی جوان کی رائے تھی۔ چچا جان نوراللہ مرقدہ نے بہت سادگی سے یوں فرمایا کہ حضرت! میں آخر چچا بھی تو ہوں۔ اس پر حضرت رائے پوری نہ سمجھنے پڑے اور فرمایا کہ جناب کے بچا ہونے میں کیا انکار ہے کہ وہ کہیں اپنے آپ کو بڑا آدمی نہ سمجھنے لگے۔ یہاں اپنے بزرگوں کا ایک عجیب قصہ یاد آیا۔

میرے اجداد میں حضرت مولانا نور الحسن صاحب کاندھلوی بڑے مشہور اساتذہ کرام اور درس و تدریس کے امام اور دور دور کے ولایتی ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان کے والد ماجد مولانا ابو الحسن صاحب علمی درجہ میں ان کے برابر نہیں تھے۔ جنہوں نے کاندھلہ دیکھا وہ اس سے واقف ہیں کہ ہمارا مکان جو بڑا گھر کہلاتا ہے اس پر ایک کمرہ بنگلہ نہما جس کی کھڑکیاں مسجد کی طرف باہر کھل رہی ہیں حضرت مولانا نور الحسن صاحب مسجد میں طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے۔ ولایتی قد آور مستعد طلبہ سبق میں شرکیت تھے۔ مولانا ابو الحسن صاحب نے اوپر کے کمرے سے آواز دے کر کہا کہ نور الحسن تم تو بالکل گدھے ہو۔ ولایتی شاگردوں کو جوش زیادہ آیا اور سب کے چہرے سُرخ ہو گئے۔ مولانا نور الحسن صاحب نے شاگردوں کا تیور دیکھا تو فرمایا کہ کچھ نہیں کچھ نہیں پڑھو۔ وہ یوں فرمارہے ہیں کہ میں باپ ہوں یہ بیٹا ہے۔

ان کا ایک عجیب قصہ ہے۔ میں بھی شتر بے مہار کی طرح کہیں سے کہیں منہ مار دیتا ہوں۔ برسات کا موسم تھا اور دھوپ بہت تیزی پر تھی۔ مولانا نور الحسن صاحب اپنی قلمی کتابوں کو دھوپ میں پھیلا رہے تھے اور پھیلاتے وقت ان کو صاف بھی کرتے تھے۔ مولانا ابو الحسن صاحب (ان کے والد) ان سے بار بار یہ فرماتے تھے کہ میاں نور الحسن دھوپ تیز ہے، وہ فرماتے کہ ابا جی ابھی آتا ہوں اور یہ کہہ کر پھر اپنی کتابوں کے پھیلانے میں لگ جاتے۔ دو تین دفعے کے بعد مولانا ابو الحسن صاحب نے ان کو تقاضہ کیا وہ جواب میں بھی کہتے رہے۔ دو تین دفعے کے بعد مولانا ابو الحسن اٹھے اور مولانا نور الحسن کے صاحبزادے (اپنے پوتے) خور دسال مولوی ضیاء الحسن صاحب کو اٹھا کر

باہر چار پائی پر دھوپ میں بٹھا دیا۔ مولانا نور الحسن صاحب کہنے لگے۔ ابا جی بڑی تیز دھوپ ہو رہی ہے۔ مولانا ابو الحسن صاحب نے فرمایا کہ ابا جی کے دل پر بھی بڑی دری سے یہی گزر رہی ہے۔ یہ تو جملہ معترض تھا۔ اس ناکارہ کے پیچا جان قدس سرہ کا ایک مشہور مقولہ تھا جو بارہ فرمایا کہ میری تبلیغ کا جتنا یہ (زکریا) مخالف ہے اتنا بڑے سے بڑا مخالف بھی مخالف نہ ہو گا اور میری تبلیغ کی تقویت اور حمایت جتنی اس سے حاصل ہے اتنی میرے کسی موافق سے موافق اور محسن و کارکن سے بھی حاصل نہیں ہے اور دونوں ارشاد ان کے بالکل صحیح تھے۔ پہلے جملہ کی شرح تو یہ ہے کہ یہ ناکارہ یہ کار نا بکار علمی زور پر اشکالات خوب کیا کرتا تھا۔ یہاں بھی ایک جملہ معترض آگیا۔ میرے مختلف دوست قاری مفتی سعید مرحوم نے ایک مرتبہ مجھ سے یوں فرمایا کہ حضرت دہلوی کی چیزوں پر جتنا تم اعتراض کرتے تھے، مولوی یوسف مرحوم کی باتوں پر اتنا اعتراض نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا۔ پیچا جان کے سامنے تو میری حیثیت ایک شاگرد اور خور دکی تھی۔ میرے اعتراض سے نہ تو ان کی شان پر کوئی اثر پڑتا تھا اور نہ کام پر۔ عزیز یوسف کے ساتھ میر امعاملہ بڑائی کا ہے۔ مجمع میں اس پر اعتراض کرنے سے کام پر بھی اثر پڑے گا اور اس کے وقار پر بھی۔ اس لیے مجھے جو کہنا ہوتا ہے، تہائی میں کہتا ہوں۔

پیچا جان نور اللہ مرقدہ کے دوسرے جملے کا مطلب یہ تھا جس کو انہوں نے بار بار مجمع میں بھی فرمایا کہ میری بہ نسبت میرے معاصرین خاص طور سے حضرت مدینی، حضرت میر بخشی نور اللہ مرقدہ ہما وغیرہ جتنا اس سے دبتے ہیں، مجھ سے نہیں دبتے۔ یہ میرے لیے وقایہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ مجھے دبایں اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ان دونوں اکابر کے یہاں اس سے کارکی بہت ہی شنوائی تھی۔

ایک دفعہ نظام الدین میں یہ ناکارہ اور حضرت رائے پوری تشریف فرماتھے۔ پیچا جان قدس سرہ نے خواب دیکھا کہ سب سے آگے پیچا جان چل رہے ہیں، ان کے پیچھے میں چل رہا ہوں، میرے پیچھے حضرت اقدس مرشدی و مولائی سہار پوری چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی تعبیر دو۔ حضرت اقدس رائے پوری نے اپنی عادت کے موافق فرمادیا کہ اس کی تعبیر تو شیخ دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا جزو توصاف ہے کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں مگر چلانہیں جاتا ہے۔ اگر دوسرا جزو توصاف میں نہ آیا۔ فرمانے لگے کہ بس! یہ خواب تو بہت صاف اور واقعہ ہے۔ کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہے۔ میری پشت پناہی صرف تم سے ہو رہی ہے۔ اگر تم نہ ہو تو میرے معاصرین مجھ کو دبایں گے اور تمہاری پشت پناہی حضرت نور اللہ مرقدہ سے ہو رہی ہے کہ حضرت کی وجہ سے یہ حضرات تم سے دب جاتے ہیں اور یہ بالکل صحیح فرمایا۔ میں یوں واقعات اس قسم کے پیش آئے جن کا لکھوانا اب بے ادبی ہے۔ دو واقعے دونوں بزرگوں کے ایک ایک لکھواتا ہوں۔

تقسیم سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں جبریہ تعلیم کا بڑا ذریعہ تھا۔ میرے پیچا جان نور اللہ مرقدہ اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ دونوں اس کے سخت مخالف تھے اور حضرت مدینی قدس سرہ اس کے موافق تھے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے مدرسہ کے مفتی مولوی عبدالکریم صاحب گمتحلوی مرحوم کو اسی کام پر لگا رکھا تھا اور ان کو پیچا جان قدس سرہ کی ماتحتی میں دے رکھا تھا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی اپنی مساعی جمیلہ تو ممبران اسمبلی وغیرہ کے نام خطوط اور فوڈی تھی۔ اس زمانے میں ایک رسالہ اس ناکارہ نے قرآن عظیم اور جبریہ تعلیم تالیف کیا تھا اور پیچا جان و مولانا عبدالکریم صاحب کی مساعی اس کے خلاف جلوں وغیرہ کے کرنے کی تھیں جلد جلد جلسے کرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ دونوں دو پہر کے وقت تشریف لائے کھانے کے لیے دستخوان بچھ پکا تھا۔ پیچا جان نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ دبلي میں ایک بہت بڑا جلسہ جبریہ تعلیم کے خلاف کرنا ہے اور حضرت مدینی کی صدارت میں کرنا ہے تھے دیوبند جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور لیکن حفظ کا استثناء تو میری سمجھ میں آتا ہے ناظرہ کا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ حفظ پر تو دوسرے کام سے ضرور اثر پڑتا ہے۔ لیکن ناظرہ میں کچھ تاخیر ہو جائے اور اس کے ساتھ وہ لوگ اُردو حساب بھی پڑھ لیں تو اس میں آپ کا کیا حرج ہے۔ پیچا جان نے فرمایا کہ مناظرہ مت کرو چلو۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا۔ پہلے کچھ سمجھ تو لوں۔ مولوی عبدالکریم نے فرمایا کہ حضرت تھانوی نے دونوں کا استثناء کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تھانوی کوں بزرگ ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟۔ یہ سن کر ان کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا۔ یہاں سے اٹھ کر پیچا جان سے کہنے لگے کہ اس کے تو عقائد خراب ہو گئے ہیں۔ پیچا جان نے ان ہی کے سامنے مجھ سے یہ فقرہ نہ یا میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ مولوی صاحب آپ اتنے اونچے ہو کر بھی یہ بات نہ سمجھے۔ حضرت تھانوی زاد مجدد ہم کا ارشاد میرے اور آپ کے لیے جدت ہے۔ لیکن جن سے بات کرنے جا رہے ہوں گی حیثیت تو معاصرت کی ہے اور مسلم لیگ و کانگریس کی وجہ سے آپس کے تعلقات جیسے ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں اور مجھے بھی۔ ان کے لیے یہ چیز جدت نہیں بنے گی کہ مولانا تھانوی نے فرمایا ہے کوئی دلیل بتلو جو ان کو سمجھائی جائے۔ اتنے میں گاڑی کا وقت ہو گیا اور ہم لوگ دو بجے والی سے دیوبند گئے۔ پیچا جان آگے آگے ان کے با میں جانب درا پیچھے گوئیں اور میری با میں طرف پیچا جان کے پیچے مولوی عبدالکریم صاحب۔ حضرت مدینی نور اللہ مرقدہ کے دروازے پر جب پہنچ تو حضرت اپنے مردانے مکان کی سردری سے باہر کو تشریف لارہے تھے۔ ملاقات پر بہت ہی اظہار سرہ کے ساتھ مجھ سے فرمایا کہ دبلي سے آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یہی حضرات

سہارپور سے آرہے ہیں اسی گاڑی سے دہلی سے آئے تھے اور مجھے ساتھ لے کر بارگاہِ عالیٰ میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت تیز لمحہ میں فرمایا کہ کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ دہلی میں ایک بہت بڑا جلسہ حضور کی صدارت میں جبراہی تعلیم کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ غصہ آگیا فرمایا کہ ہرگز صدارت نہیں کروں گا۔ تم لوگ سب کو جاہل رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت جی! آپ ساری دنیا کو عالم بنائیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کو جرانہ لیں۔ حضرت نے کھڑے کھڑے فرمایا کہ قرآن پاک کا انتظام آپ لوگ خارج میں کریں۔ قرآن شریف کا بہانہ کر کے یہ لوگ تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تشریف تور کھئے بیٹھ کر بات کریں گے۔ کمرے میں تشریف لے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ خارج اوقات میں حفظ قرآن کیے ہو سکتا ہے سارے دن محنت کر کے بھی مشکل سے ہوتا ہے فرمایا کہ میں نے تو جیل میں یاد کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ بھی ریزولوشن پاس کراؤ جس کے جس کو قرآن پاک حفظ کرنا ہے وہ جیل چلا جائے۔ اس پر نہس پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جلسہ تو ہوگا اور جناب کی صدارت میں ہوگا۔ اللہ جل شانہ بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ ان کی شفقتیں محبت یاد کر کے رونے کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ ایسا خوشدی سے استقبال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا اسی گاڑی سے چلتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی نہیں۔ ابھی تو دہلی جا کر جلے کا انتظام کریں گے۔

حضرت نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں مولانا الیاس صاحب کا جلسہ نوٹ فرمالیا اور تاریخ بتلا دی اس کے بعد پھر جوش میں فرمانے لگے میں حفظ کے استثناء کو تو کہوں گا مگر ناظرہ کے استثناء کی کوئی وجہ نہیں میں نے عرض کیا کہ مضمون کی آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ جو چاہے آپ ارشاد فرمائیں کہ جس کو حفظ کرتا ہے وہ جیل جائے۔ قرار یہ پایا کہ فلاں تاریخ کو چار بجے کے ایک پر لیس سے یہ تاکارہ سہارپور سے سوار ہوگا اور اسی گاڑی سے دیوبند سے حضرت مدینی سوار ہوں گے اور نوبجے کو دہلی میں جلسہ ہوگا۔ جب دہلی پرائیشن پر پہنچ تو سارا پلیٹ فارم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شیخ الاسلام زندہ باد ”جمعیۃ العلماء زندہ باد“ کا انگریز زندہ باد کے نعروں سے پورا ایشیشن گونج رہا تھا اور میں سارے راستے یہ سوچتا چلا گیا کہ اگر حضرت نے ناظرہ کے عدم استثناء کا اعلان کر دیا تو اور مصیبت آجائے گی۔ ایشیشن پر مجمع کے درمیان میں حضرت مولانا الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب بھی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے کارکی بات کی بہت ہی وقعت تھی۔ اس لیے کہ بیسوں نہیں بلکہ سیکنڈوں مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی شوریٰ کی ممبری میں جمعیۃ کے مشوروں میں وقف بیل کے مسئلے میں اس کی نوبت آئی کہ جب میری رائے مفتی صاحب کے خلاف ہوئی تو یا تو انہوں نے میری رائے خوشی سے قبول فرمائی

یا بڑی فراغتی سے یہ لکھ دیتے کہ بعض مغلص اہل علم کے رائے یہ ہے۔ وقف بل کے مسودے میں یہ بھی لفظ میری رائے کے ساتھ بغیر نام کے چھپا ہوا ہے۔ اتفاق سے مفتی صاحب اسی ذہب کے قریب تھے جس میں یہ ناکارہ اور حضرت مدینی تھے۔

حضرت مدینی قدس سرہ تو استقبال والوں کے مصالحتے میں ایسے بچنے کے کوئی حد نہیں اور چاروں طرف سے مجمع ان پر گرنے لگا اور میں نے مفتی صاحب کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے عرض کیا کہ استثناء ناظرہ اور حفظ دونوں کا کرنا ہے اور یہ حضرت حفظ کے لیے تو تیار ہیں مگر ناظرہ کو نہیں مانتے۔ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزاۓ خیر عطا فرمائے کہنے لگے کہ نہیں استثناء تو دونوں ہی کا ہونا چاہیے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ جلے میں جا کر تقریر شروع ہو جائے گی۔ راستہ میں ہی نہت لیں۔

حضرت مدینی قدس سرہ کی عادت شریفہ یہ تھی جس کا بار بار میں نے مشاہدہ خود بھی کیا کہ مفتی صاحب کی بات حضرت کے یہاں بہت وقیع اور اہم سمجھی جاتی تھی۔ بار بار میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنی رائے پر مفتی صاحب کی رائے کو ترجیح دی۔ مفتی صاحب میرے کہنے پر آگے بڑھے اور میں ذرا فصل سے پچھے پچھے کہ حضرت کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہلوار ہا ہے۔ مفتی صاحب نے اشیش کے زینے پر حضرت کے قریب ہو کر کان میں یہ کہا کہ حضرت استثناء حفظ و ناظرہ دونوں کا کرنا ہے۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی نے بات کرتے دیکھا ہو گا تو اس کو اندازہ ہو گا کہ کس طرح گروں ہلاکر بات فرمایا کرتے تھے۔ میرے سامنے تو وہ منظر خوب ہے۔

حضرت نے نہایت جوش میں فرمایا کہ ناظرہ کے استثناء کی کوئی وجہ نہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے چند پارے ناظرہ پڑھ کر ہی تو حفظ میں لگتے ہیں جب وہ ناظرہ میں اور کام میں لگ جائیں گے تو پھر ان کو حفظ کا وقت کب ملے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ سیدھے جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے۔ جلسہ کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی تھیں۔ سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے اور جاتے ہی زوردار تقریر اپنی "مہربان گورنمنٹ" کے خلاف کی کلطف آگیا اور کہا کہ "ہمارے دین کو برپا کرنا چاہتی ہے اور ہمارے قرآن کو ضائع کرنا چاہتی ہے۔ اس کو ہمارے مذہب میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اپنے قرآن پاک کی تعلیم کو کسی طرح ضائع نہ ہونے دیں گے۔ ناظرہ کا بھی استثناء کرنا ہو گا اور حفظ کا بھی استثناء کرنا ہو گا۔ پچھا جان بہت ہی حیرت اور سوچ میں یہ سمجھے کہ راستہ میں کوئی گفتگو مجھ سے ہوئی ہو گی۔ عرض بہت زوردار جوش و خروش گورنمنٹ پر طائفہ کو گالیاں دے کر اور ایک ریز و لیوٹن قرآن پاک کی تعلیم خواہ حفظ کی ہو یا ناظرہ کی ہو جریہ تعلیم سے مشتمل ہونا نہایت ضروری ہے۔ تقریر یا ڈیڑھ بجے تک جلسہ اور اس کے

بعد مختصر ساکھانا نوش فرما کر علی الصباح دیوبند تشریف لے آئے اور آگر بخاری کا سبق پڑھا دیا۔ بعد میں چچا جان نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کوئی گفتگو ریل میں ہوتی ہوگی۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ دوسرا قصہ دوسرے حضرت کا بھی لکھوا ہی دوں اگرچہ بڑی گستاخیاں ہیں۔

چچا جان کا اصرار حضرت رائے پوری پر یہ رہتا تھا کہ وہی تشریف آوری زیادہ ہوا کرے اور کئی دن کے واسطے ہوا کرے ایک دفعہ کچھ گھر میں بیٹھے ہوئے حضرت سے چچا جان نے فرمایا کہ حضرت کی تشریف آوری تو دبلي خوب ہوتی ہے مگر جی چاہتا ہے کہ زیادہ دن کے لیے کثرت سے ہوا کرے۔ حضرت رائے پوری نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میری حاضری تو ان پر موقوف ہے یہ جب آئیں اور جب تک رہیں میں حاضر ہوں اکیلے آتا تو بہت مشکل ہے۔ چچا جان نور اللہ مرقدہ کو اپنا چچا جان ہونا یاد آگیا۔ خوب ناراض ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب حضرت کا آنا آتا آسان ہے تو پھر بھی اتنی دیر کیوں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! آپ میرے چچا جان، میرے استاذ، میرے جائین شیخ اور صنوالاب۔ یہ حضرت جی (حضرت رائے پوری) یوں کیوں نہیں فرماتے کہ جب آپ ارشاد فرمائیں میں حاضر ہوں یہ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کہے میں حاضر ہوں۔ اب دونوں بزرگ خاموش ہو گئے۔

تحوڑی دیر کے سکوت کے بعد میں نے یوں کہا۔ جی چچا جان! بات یوں ہے اگر یہ یوں کہہ دیں کہ جب آپ فرمادیں گے تو آپ ابھی بگل بول دیں گے کہ کل کو چلیں گے اور میرا دستور یوں ہے اور یہ حضرت اس کی شہادت بھی دیں گے کہ جب مجھے دبلي جانا ہوتا ہے تو میں ان حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دبلي کا خیال ہے بشرطیکہ کسی جلے میں نہ جانا ہو۔ میرے اس کہنے پر اگر یہ حضرت یوں ارشاد فرمائیں کہ جی تو میرا بھی چاہ رہا ہے تب تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کب کا ارادہ ہے اور آپ کے صلاح مشورے سے تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے اور میرے ارادے کے اظہار پر اگر یہ حضرت ارشاد فرمادیں کہ میرا بھی سلام عرض کر دینا اور دعاء کی درخواست کر دینا تو میں کبھی بھی ان سے چلنے کو نہیں کہتا۔ حضرت رائے پوری بہت ہی بہتے اور چچا جان سے فرمایا کہ حضرت انہوں نے بالکل حق فرمایا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ضعیف آپ کے حضرت آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ چچا جان تشریف لے گئے میں نے حضرت رائے پوری سے عرض کیا کہ آپ نے تو مجھے پٹوا ہی دیا۔ اب آپ بے تکلف جس وقت راحت ہواں وقت تجویز فرمادیں۔ چچا جان کے اس ارشاد کی کہ جلدی تاریخ مقرر کرو کوئی پابندی نہیں ہے۔ الزام میرے اوپر رہے گا اور یاد پڑتا ہے کہ میں نے شعر بھی پڑھا تھا:

تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردان پر

حضرت نے فرمایا کہ تاریخ جلدی ہی مقرر کرو حضرت دہلوی کو تو غصہ آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تو ایک ہی دن کے لیے تشریف لائے تھے شاید ادھر سے ادھر جانے میں تکلیف ہو۔ دو چار دن ہفتہ عشرہ بعد جب دل چاہے مقرر فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جزاکم اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے سہولت شنبہ میں ہے کہ جمعہ یہاں کا ذرا اہم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بہت اچھا میں جمع کی شام کو شاہ صاحب کی کار میں آ جاؤں گا۔ شنبہ کی تاریخ مقرر کرو، پچاچان تو منتظر تھے میں نے عرض کیا کہ شنبہ کا دن مقرر ہو گیا۔ پچاچان بہت خوش ہوئے تین چار روز کے بعد واپسی کے وقت پچاچان نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سہارنپور تک پہنچانے چلوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اعزاز کی ضرورت نہیں۔ ریل سیدھی سہارنپور جائے گی، راستہ معلوم ہے تقریباً دوست میں اس پر الجھا۔ حضرت رائے پوری نے بھی میری تائید فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ اب تو ملاقات ہو گئی۔ پندرہ میں دن کے بعد تشریف لا کیں میں بھی آپ کی ہمراکابی میں رائے پور آؤں گا۔ مگر انہوں نے قبول نہ فرمایا۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا طے ہوا کہ صبح کو چھ بجے چلیں گے اور جب طے ہو گیا تو پچاچان نے فرمایا کہ راستہ میں میرٹھ اترنا ہے۔

اب میں سمجھا کہ ان کے اصرار کا اصل مبنی کیا تھا۔ حضرت اقدس (رائے پوری) نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ واہ واہ ضرور میرا بھی کئی دن سے جانے کو جی چاہ رہا ہے مگر ان کے (ناکارہ) کے بغیر جانے کی ہمت نہ پڑی اور ان سے کہنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ اس وقت بہت اچھا موقع ہے آپ بھی ہوں گے یہ بھی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اتروں گا نہیں سیدھا سہارنپور چاؤں گا۔ آپ دونوں حضرات اس گاڑی سے اُتر کر دوسرا گاڑی سے سہارنپور تشریف لے آئیں وہاں استقبال کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم نہیں اُترو گے تو میں بھی نہیں اُتروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ پچاچان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پچاچان نے زور سے فرمایا کہ نہیں تم بھی اُترو گے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میرٹھ گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں میں تو جاتا ہی رہتا ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مگر پچاچان نے بحق عمومیہ ایک ڈانٹ پلا کی کہ نہیں چلنا ہے۔ میں ”قہر درویش بر جان درویش“ چپکا ہو گیا۔

حضرت میرٹھی و حضرت رائے پوری سے میری اور پچاچا کی تسلیعی سلسلہ میں گفتگو:

آٹھ بجے کے قریب میرٹھ پہنچ۔ حضرت میرٹھی نور اللہ مرقدہ اس قدر خوش ہوئے کہ کچھ حدود حساب نہیں اکابر کے ایک دوسرے کے یہاں مہماں کے جو مناظر اور لکھوا چکا ہوں اس سے بہت

زیادہ خوشی میں اچھل گئے اور دو گھنٹے میں اتنے لوازمات اکٹھے کیے کہ حیرت ہو گئی۔ حضرت رائے پوری کے لیے دو تین طرح کا سالن بے مردج کا اور اس سیاہ کار کی چونکہ مرچیں اور گوشت ضرب المثل تھا اس لیے سخ کے کتاب گرم گرم دو تین مرتبہ منگائے گئے۔ شامی کتاب گھر میں پکوائے گئے۔ میرٹھ کہ نہاری بھجی بہت مشہور ہے وہ بازار سے منگا کر اور میری رعایت سے اس میں بہت سے مرچیں اور گھنی ڈلو اکر خوب بھنوا یا۔ بڑی، بالائی، فیرنی، پلاو یہ سب چیزیں خوب یاد ہیں۔ گرمیوں کا چونکہ موسم تھا اور حضرت میرٹھی قدس سرہ کے زنانے مکان کے نیچے ایک تھہ خانہ ہے نہایت تھہنڈا۔ مولانا کو مکان بنانے کا بہت ہی سلیقہ تھا۔ بڑی بڑی جد تیس آتی تھیں۔ اس تھانے کا ایک زینہ زنانے میں اور ایک مردانے میں اگر اس کو زنانہ کرنا ہے تو مردانہ زینہ بند کر دیا جاوے اور اگر مردانہ کرنا ہو تو زنانہ زینہ بند کر دیا جاتا ہے۔ مولانا نے اس میں خوب چھڑکاؤ کرایا تین چار پائیاں بچھوا میں اور خالی جگہ میں بوریا اس پرستیل پائی کافرش بچھوا یا اور کھانے سے فارغ ہو کر بہت خوشی خوشی ہم لوگ آگے آگے اور مولانا میرٹھی ہمارے پیچھے پیچھے تھانہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے چار پائیوں کا ارادہ کیا۔

لیکن مولانا نے پیچا جان کو خطاب فرمایا کہ حضرت مولانا آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے کچھ عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میری وہاں حاضری نہ ہوئی اور آپ یہاں تشریف نہ لاسکے۔ اس وقت یہ دنوں حضرات بھی تشریف فرمائیں مجھے کچھ عرض کرنا ہے تھوڑی دیر تکلیف فرمادیں۔ نشست اس طرح کہ میں اور حضرت رائے پوری ایک جانب اور پیچا جان و حضرت میرٹھی برابر برابر دوسری جانب۔ حضرت میرٹھی نے عرض کیا کہ تبلیغ تو سرانگھوں پر اس سے تو کسی گوانکار نہیں اس کے ضروری ہونے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی مگر جتنا غلو آپ نے اختیار کر لیا یہاں کا بر کے طرز کے بالکل خلاف ہے آپ کا اور ہننا بچھانا سب تبلیغ ہی بن گیا۔ آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت نہ خانقاہوں کی۔ پیچا جان کو غصہ آگیا۔ فرمایا کہ جب ضروری آپ بھی سمجھتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتا نہیں تو مجھے سب کے حصہ میں فرض کفایا ادا کرتا ہے۔ غرض دنوں بزرگوں میں خوب تیز کلامی ہو گئی اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو کچھ ایسا رنج و قلق ہوا کہ کاپٹنے لگے۔

میں نے چپکے سے حضرت رائے پوری کے کہنی مار کر (وہ دو نوں اپنی تقریر میں تھے انہوں نے تباہی نہیں) کہا کہ ”میرٹھ اتریں گے“، ”میرٹھ اتریں گے“ دو دو تین تین سالیں کے فضل سے یہ جملہ تین مرتبہ کہا۔ میں بھی چار پائچے منٹ خاموش بیٹھا رہا اور جب میں نے دیکھا کہ دنوں اکابر کا جوش ڈھیلا پڑ گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی کچھ عرض کروں تو تینوں حضرات نے متفق

السان ہو کر فرمایا کہ ضرور ضرور۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ اتنی دیر سے چپ بیٹھے رہے پہلے ہی سے بولتے۔ میں نے کہا کہ بڑوں کی باتوں میں سب کا چھوٹا کیا بولتا۔

میں نے حضرت میرٹھی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں ان سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ اس لفظ پر پچا جان کو غصہ آگیا۔ مگر بولے کچھ نہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دین کا ہو یاد نیا کا ہو تو چند مطلب بغیر نہیں ہوا کرتا۔ کام تو جو ہوتا ہے، یکسوئی سے اس کے پیچھے پڑ جانے سے ہوتا ہے۔ حضرت رائے پوری نے میری تائید کی کہ چ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ذرا ٹھہر جائیے۔ اسی زمانے میں حضرت مرشدی سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کا ایک عتاب حضرت میرٹھی پر مدرسہ کے سلسلے میں ہو چکا تھا۔ جس کا حال مجھے اور مولانا میرٹھی کو صرف معلوم تھا اور کسی کو نہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت کا یہ ارشاد آپ کو یاد نہیں رہا جو ابھی گزرا ہے کہ میرے ساتھ تعلق تو مدرسہ کے ساتھ تعلق ہے جس کو میرے مدرسہ کے ساتھ جتنا تعلق ہے اتنا ہی مجھ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میں ایک ہی مدرسہ ہے مظاہر علوم اس کے علاوہ اور کوئی مدرسہ نہیں؟ اور ابھی جلدی جلدی دو تین واقعے انہاک کے جس میں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کا حادث اور بھی کئی قصے سنائے۔ میں نے کہا کہ حضرت! پچا جان اپنے اس حال میں مغلوب ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی اور کوئی کام بغیر غلبہ حال کے نہیں ہوتا۔ خبر نہیں کیا بات کہ حضرت میرٹھی کو ایک دم بُکسی آگئی اور میرے پچا جان بھی ہنس پڑے۔ بات کو بھی دونوں ختم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت رائے پوری نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے تو (ناکارہ) آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ لے جانے کی ہم کو اسی وجہ سے تو ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے حضرت میرٹھی سے عرض کیا کہ اتنے تو مال کھلادیے میرے سے تو بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب آپ تشریف لے جاویں ہم کو آرام کرنے دیں، چنچھے مولانا ایک دم اٹھ گئے۔ جب حضرت میرٹھی تشریف لے گئے تو میں نے دونوں بزرگوں سے عرض کیا کہ اسی وجہ سے تو خوشنام کر رہا تھا کہ سید ہے سید ہے چلے جاؤ۔ حضرت رائے پوری نے ارشاد فرمایا کہ واقعی اگر آپ کی بات مان لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ پچا جان نے فرمایا کہ نہیں بہت اچھا ہوا میں بھی ایک دفعہ کھل کر بات کرنے کو بہت دنوں سے سوچ رہا تھا۔ اس سے اچھا موقع نہیں ملتا تھا تمہارے اتر نے پر میں نے اسی واسطے اصرار کیا تھا۔

ظہر کے لیے اٹھے تو پھر وہ ملاطفت اور انبساط اور شام کی چائے میں وہی فتوحات اور خنده پیشانی۔ حضرت میرٹھی نے بھی چلتے وقت فرمایا کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ تمہارے سامنے گفتگو ہو گئی کبیدگی پر اگر بات ختم ہوتی مجھے بھی قلق ہوتا۔ تیرے بول پڑنے سے خوشگواری پر ختم ہو گئی۔ یہ دو

نمونے تو میں نے پچا جان کے خواب کے اور ان کے ارشاد بالا کے مثال میں دونوں اکابر حضرت مدنی حضرت رائے پوری کا ایک ایک قصہ لکھوادیا:

### ورنه با تو ما جراہا داشتیم:

پچا جان نور اللہ مرقدہ کے ڈاٹ کے علاوہ شفقتوں کے واقعات بھی لا تُعَدُ ولا تحصی ہیں۔ ان کے یہاں تبلیغی سلسلہ میں بھی جب کوئی بات پیش آتی تو وہ بے تکلف فرمادیتے کہ شیخ کے یہاں جب تک پیش نہ ہو اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دہلی کے ہر سفر میں کئی کئی مسئلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کے متعلق میں سنتا تھا کہ وہ میرے مشورے اور منظوری پر کے ہوئے ہیں۔

ایک دفعہ میں حاضر ہوا تو پچا جان نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں کا اصرار یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جب گشت کے واسطے جائے تو ایک مختصر ساجھنڈا ان کے پاس ہونا چاہیے میں نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ فرمایا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ کی جماعتیں تو نماز کے لیے بلانے جاتی ہیں اور مسجد میں جمع کرتی ہیں اور نماز کے لیے جھنڈا انصار د ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جزا کم اللہ بس بھائی ملتوی۔ ایک معمول پچا جان قدس سرہ کا مستقل یہ تھا اور بڑی باریک بات ہے کہ وہ جب کسی تبلیغی اجتماع سے واپس آتے تو ایک سفر رائے پور ضرور فرماتے، ورنہ کم از کم ہمار پور کا اور اگر دونوں کا موقع نہ ہوتا تو تین دن اعتکاف اپنی مسجد میں فرمایا کرتے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ جلوں کے زمانے میں ہر وقت مجمع کے درمیان میں رہنے سے طبیعت اور قلب پر ایک تکدر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دھونے کے واسطے یہ کرتا ہوں۔ میں یہ مضمون لکھوار ہاتھا کہ اتفاق سے مولانا منظور نعمانی زادِ مجدد ہم دیوبند سے تشریف لائے اور اس وقت تشریف فرمائی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مضمون خود حضرت دہلوی کے ملفوظات میں خود ان کا ارشاد بلطفہ منقول ہے۔

چنانچہ پچا جان کے ملفوظات منگوائے گئے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ فرمایا "مجھے جب میوں بھی جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اہل خیر اور اہل ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر بھی عمومی اخلاق اسے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ سے غسل نہ دوں یا چند روز کے لیے ہمار پور یا رائے پور کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جا کر نہ رہوں قلب اپنی حالت پر نہیں آتا۔"

دوسروں سے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ "دین کے کام کے لیے پھر نے والوں کو چاہیے کہ گشت اور چلت پھرت کے طبعی اثرات کو خلوتوں کے ذکر و فکر کے ذریعہ دھویا کریں۔" اُنہی بلفظے مضمون تو یہ حدیث پاک سے بھی مستبط ہے کہ مجمع کا اثر بڑوں کے قلب پر بھی پڑ جاتا ہے۔ مشکلہ

شریف کی کتاب الطہارۃ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس میں سورہ روم تلاوت فرمائے تھے کہ اس میں تشبہ لگا سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے (نماز میں شریک ہو جاتے ہیں) اور یہ لوگ ہماری قراءت قرآن میں گڑ بڑ پیدا کرتے ہیں۔ کذافی الحمشکوۃ بر وایۃ النسائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اچھی طرح وضو نہ کرنے والوں کا اثر پڑ جاتا ہے تو پھر مجمع کا اثر جس میں ہر قسم کے فاسق و فاجر بھی موجود ہوں مشائخ کے اوپر کیوں نہ پڑے گا۔ جن اکابر و مشائخ کو مجامع سے کام پڑتا ہو تبلیغ میں ہو جلوں اور مواعظ میں ہو بلکہ میرے نزد یک تو مر سین کو بھی۔ کیونکہ طلبہ کی جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ترکیہ قلوب کی طرف بہت توجہ اہتمام اور فکر کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا اہتمام تو ہر شخص کو بہت دشوار ہے، لیکن ایسے مجامع کے درمیان میں اور ان کے بعد بھی کچھ وقت مراقبہ اور تسبیح اور درود و شریف واستغفار میں کثرت سے خرچ کرنا چاہیے۔

چچا جان کے مرض الوصال کے زمانہ میں یہ ناکارہ کثرت سے حاضر ہوتا تھا اور مدرسہ کے اس باقی کی وجہ سے طویل قیام نہ ہوتا تھا۔ اس واسطے بار بار واپسی ہوتی۔ ایک وفعہ چچا جان نے شفقت اور قلق کے ساتھ یوں فرمایا میرے جس کی خاطراتی تکلیف کرتے ہو جس سے مجھے بہت ہی ندامت ہوتی ہے۔ اگر میرے کام کی خاطر تم اتنی جلدی جلدی آؤ تو میرا دل کتنا خوش ہو۔ جب حالت مایوسی کی ہو گئی تو اس ناکارہ نے طویل قیام کیا اور یہ میرے رجسٹر میں موجود ہو گا کہ میری آخری حاضری کس تاریخ کو ہوئی اور وصال تک وہیں قیام رہا۔ اس وقت میں حضرت اقدس مولانا عبدال قادر صاحب بھی موجود تھے۔ جناب الحاج حافظ فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی بھی جو ایک دو دن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے مگر حالت کو دیکھ کر دو تین ہفتہ وہیں تشریف فرمائے۔

### چچا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جائشی:

چچا جان نور اللہ مرقدہ نے اپنے سے مایوسی کی حالت میں وصال سے دو تین دن پہلے اس سے کار سے کہا کہ میرے آدمیوں میں چند لوگ صاحب نسبت ہیں۔ عزیز مولانا یوسف صاحب، قاری داؤ د صاحب، سید رضا صاحب، مولانا انعام صاحب ان کے علاوہ حافظ مقبول صاحب اور مولوی احتشام صاحب کو اس سے پہلے اجازت ہو چکی تھی۔ چچا جان نے فرمایا میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو مولانا رائے پوری کے مشورے سے بیعت کے لیے تجویز کر دو۔ میری رائے حافظ مقبول

حسن صاحب کے متعلق تھی کہ ان کو بہت پہلے سے خلافت ملی تھی۔ مدینہ منورہ سے ان کی خلافت کے متعلق مجھے لکھا کہ تیری رائے موافق ہوتا ان کو اجازت دے دو۔ ورنہ میری واپسی کا انتظار کرو۔ مگر حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی رائے عالی عزیز مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تھی۔ میں نے حافظ مقبول کی وجہ ترجیح عرض کی اور یہ بھی کہا کہ عزیز یوسف نے ذکر و اذکار زیادہ نہیں کیے۔ حضرت کامشہور جملہ جو بارہ انہیوں نے فرمایا کہ تم لوگوں کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے جہاں ہم جیسوں کی انتہاء ہوتی ہے۔ اس جملہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کو اذکار ضرورت نہیں۔ میں نے پچاچان نور اللہ مرقدہ سے پوری بات عرض کر دی۔ پچاچان نے حضرت اقدس رائے پوری کی تصویب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ میوات والے جتنے یوسف پر جمع ہو سکتے ہیں کسی اور پرمنہ ہوں گے۔ میں نے پچاچان نور اللہ مرقدہ کی طرف سے ایک پرچہ لکھا کہ میں ان لوگوں کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں۔ پچاچان نور اللہ مرقدہ نے میری تحریر کے شیخ میں ”میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دیتا ہوں“ یہ جملہ بڑھوادیا۔ مشائخ کے ہاں ایک نسبت خاصہ ہوتی ہے جو شیخ کے انتقال پر کسی ایک کی طرف جوش سے زیادہ نسبت اتحاد یہ رکھتا ہوا س کی طرف منتقل ہوا کرتی ہے۔

پچاچان قدس سرہ کے انتقال پر مولانا ظفر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دہلوی کی نسبت خاصہ میری طرف منتقل ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ مبارک فرمائے۔ حضرت حافظ فخر الدین صاحب نے مجھ سے تو نہیں فرمایا مگر ناکسی سے فرمایا تھا کہ میری طرف منتقل ہوتی۔ جب مجھ تک یہ فقرہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اللہ مبارک فرمائے۔ حضرت اقدس رائے پوری کا رمضان مبارک میں یعنی پچاچان کے انتقال سے دو ماہ بعد رائے پور سے ایک والا نامہ آیا، جس میں حضرت قدس سرہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت دہلوی کی نسبت خاصہ کے متعلق مختلف روایات سننے میں آئیں۔ میرا خیال تمہارے متعلق تھا، مگر میری کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب حضرت حافظ فخر الدین صاحب کا والا نامہ آیا ہے، جس میں انہیوں نے بڑے زور سے میرے خیال کی تائید لکھی ہے۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں نے اسی وقت جواب لکھا کہ ”حضرت آپ حضرات نہ معلوم کہاں ہیں وہ تو لوندالے اڑا۔“

شووال میں جب حبِ معمول عید کے بعد رائے پور حاضری ہوتی تو عزیز مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ تھے۔ حضرت رائے پوری نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں تو میں نے آپ کے خط کو تواضع پر محمول کیا تھا، لیکن اب تو مولانا یوسف کو دیکھ کر آپ کی بات کی تصدیق کرنی پڑی۔ آپ نے بالکل صحیح اور صحیح فرمایا۔ اب اس میں بالکل تردید نہ رہا۔ پچاچان کی

بیماری میں بھی عزیز یوسف مرحوم اکثر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن پچا جان کے انتقال کے بعد صبح کی نماز جو اس نے پڑھائی ہے میرا دل تو اسی نے پہنچ لیا تھا اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ معافانہ بیٹھ کر انتقال کے وقت بلکہ نزع شروع ہونے کے وقت پچا جان نور اللہ مرقدہ نے عزیز مولا نا یوسف صاحب کو بلا یا جو سور ہے تھے اور انتقال صبح اذان سے پچھلے ہوا تھا اور بلا کریوں فرمایا تھا کہ ”آیوسف پٹ لے ہم تو جار ہے ہیں۔“ وہ پچا جان کے سینے پر گر گیا اور بندہ کے خیال میں اسی وقت القابی کا القاء ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

### تحدیث بالنعمۃ کے سلسلہ میں چند واقعات:

اس باب میں بہت کچھ لکھوانے کو جی چاہتا تھا۔ مگر ان میں خودستائی بھی بہت ہی ہے اور صرف اکابر کی شفقتوں پر ہی قناعت کر لی۔ البتہ دوستوں کا اصرار ہے کہ ایک واقعہ اور تحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں لکھوادوں۔ یہ تو میسوں واقعات سے معلوم ہو چکا باخصوص آپ بیتی نمبر ایسیں بھی کہ اس ناکارہ کی زندگی والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی حیات میں سخت ترین مجرم قیدیوں کی سی گزری۔ کہیں آنے جانے کی بغیر والد صاحب یا پچا جان نور اللہ مرقدہ کے اجازت نہ تھی۔

### پچاز کریا مرحوم کی شادی اور اس میں بندہ کی شرکت اور وہاں کے دلطیفے:

قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرہ کے سب سے چھوٹے نواسے پچاز کریا مرحوم جو من اپنے اہل و عیال کے ۲۷ء کے فسادات میں غالباً ناعازی آباد کے اشیش پر شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کا نکاح حافظ ابراہیم صاحب گنگوہی کی صاحبزادی سے تجویز ہوا۔ حافظ ابراہیم صاحب اس وقت میں کھنڈ جو سرہند شریف سے آگے ہے وہاں تھانیدار تھے۔ ان کے اہل و عیال بھی سب وہیں رہتے تھے۔ وہاں بارات گئی۔ حضرت قطب عالم کے سب سے بڑے نواسے پچا یعقوب صاحب کا اصرار ہوا کہ وہ مجھے بھی بارات میں ساتھ لے کر جائیں والد صاحب نے بھی تھوڑے سے اصرار کے بعد نواسوں کی خوشنودی کی بناء پر اس شرط پر اجازت دی کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہوں۔ ان کو میرے والد صاحب کا میرے ساتھ کا ہر تاؤ پہلے سے معلوم تھا۔ انہوں نے بہت زور سے شرط قبول کر لی اور اس کو بہت اہتمام سے ہر جگہ پر بھایا بھی۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتے۔ ان کو پیدل چلنے کا بہت شوق تھا۔ کھنڈ کے اشیش سے سب لوگ تو سواریوں میں گئے اور پچا یعقوب مجھے اپنے ساتھ پیدل لے کر گئے۔

پہلا طیفہ تو وہاں یہ ہوا کہ ایک جگہ پہنچ کر دو ساہی بندوق لگائے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے دور کھڑے تھے۔ معمولی سی روشنی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر ان دونوں نے کہا کہ بُڑ بُڑ بُڑ۔ حافظ ابراہیم

صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی اس طرح جواب دیا۔ اس پر ان دونوں نے جھک کر سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے۔ میں نے پچالیعقوب صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بلاتھی؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے تھانہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ پھرے دار ہیں، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں دار و نعم ہوں۔ انگریزی تو پچالیعقوب بھی نہیں جانتے تھے۔ بظاہر موقع و محل سے وہ سمجھے۔ حافظ ابراہیم صاحب نے بتایا کہ یہاں رات میں آنے والوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ کون ہے اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے تو دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو وہ لوگ اس سے تحقیق کرتے ہیں کہ کون ہے، کیوں آیا ہے۔ لیکن اگر دوسری دفعہ بھی جواب نہ دے تو ان لوگوں کو گولی مار دینے کی اجازت ہے۔

### سر ہند شریف کے مزار پر حاضری:

ہم جب کھنہ پینچ تو رات ہو چکی تھی۔ ان سب لوگوں نے تو کھانا کھایا اور معلوم نہیں کہ سوئے۔ مگر میں جاتے ہی بغیر کھائے پڑ کر سو گیا۔ ایک دن دوشب قیام رہا۔ تیرے دن وہاں سے مع دہن کے واپسی ہوئی۔ میں تو پچالیعقوب صاحب کے ساتھ لکھم تھا۔ میرا نکٹ بھی ان ہی کے پاس تھا۔ سر ہند شریف آنے کے بعد مجھے بالکل خبر نہیں، نہ یاد کہ میں ریل سے کس طرح اتر ا۔ بغیر نکٹ کے مجھے پلیٹ فارم سے بابو نے کیسے نکلنے دیا۔ میں نے تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو روپہ شریف کے پاس پایا۔ روپہ شریف کے پاس ایک سکھ کی دوکان پر گوشت روپی فروخت ہو رہی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ چار پیسے میرے پاس تھے۔ میں نے کھانا خریدنے کا اس سے بہت ہی اصرار کیا۔ مگر جتنا اصرار کیا اتنی ہی شدت سے وہ انکار کرتا رہا۔ چونکہ اس کے منہ پر ڈاڑھی تھی اس لیے مجھے اس پر غیر مسلم ہونے کا شہر بھی نہ ہوا اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ سکھوں کے ڈاڑھی ہوتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سکھ تھا اور اس کے پاس جھٹکے کا گوشت تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے احسان سے حفاظت فرمائی۔

دن بھر روپہ کی پشت کی طرف جو جالیاں تھیں وہاں رہا۔ شام کے وقت وہاں سے چل کر اٹیشن آیا اور آخر شب میں سہارنپور پہنچا۔ معلوم نہیں کہ روپہ سے اٹیشن تک بغیر پیسے میں کیسے آیا۔ یکہ (گھوڑا تانگہ) میں آنا تو خوب یاد ہے، نہ تو وہاں کے اٹیشن پر مجھ سے کسی نے نکٹ کا مطالبہ کیا اور نہ سہارنپور کے اٹیشن پر۔ پچالیعقوب اور سارے ساتھیوں پر میری گشادگی کی وجہ سے کیا گزری اور یہاں پہنچ کر میرے والدین پر کیا گزری یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بلکہ ظاہر ہے، یہاں پہنچنے کے بعد میرا خیال تھا کہ خوب پٹائی ہوگی، مگر جب میں والد صاحب کے سامنے آیا اور انہوں نے بہت

غصہ کی آواز سے پوچھا کہ تو کہا رہ گیا تھا اور میں نے قصد سنایا کہ مجھے تو خبر نہیں۔ میں تو ریل میں تھا مجھے ریل سے اُترنا یاد ہے اور نہ میں سر ہند کے راستوں سے واقف۔ میں نے تو اپنے آپ کو اشیش اور ریل کے بعد مزار پر پایا۔ یہ اس سیدہ کارکی سب سے پہلی حاضری تھی اس کے بعد دوسرا حاضری غالباً اعلیٰ حضرت رائے پوری کے حالات میں لکھوا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو لاکھوں ہیں کتنے شمار کرائے جائیں۔

ایک قصر اور یاد آیا معلوم نہیں کہ پہلے کہیں لکھوا تو نہیں چکا۔ اس لیے کہ بہت سے واقعات تو علی گڑھ میں لکھوائے گئے۔ واپسی کے بعد ان کے سنبھال میں اور چیزیں بھی اضافہ ہوتی رہیں۔ یہ ناکارہ اپنی نالائقی سے حضرت مرشدی قدس سرہ کو لینے کے لیے اشیش نہیں جایا کرتا تھا حرج کا بہانہ نفس و شیطان پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رنگون سے تشریف لارہے تھے۔ یہ ناکارہ ایک ضرورت سے پٹھان پورہ گیا ہوا تھا۔ وہ اشیش کے قریب تھا مجھے یاد آیا کہ حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے اور کبھی اشیش پر حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ گاڑی کا وقت قریب تھا اور پیسہ جیب میں ڈالنے کی عادت والد صاحب نے ڈالی ہی نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ اشیش پر بہت سے خدام ملیں گے کسی سے کہہ دوں گا کہ میرا بھی پلیٹ فارم لے لے۔ مگر جب میں اشیش پر پہنچا تو گاڑی کا وقت بالکل قریب تھا اور سب خدام استقبال کے لیے اندر پلیٹ فارم پر پہنچ چکے تھے۔

### قرض پلیٹ فارم ملکٹ خریدنا:

میں ملکٹ گھر کے قریب پہنچا اور وہاں کے بابو سے کہا کہ پیسہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔ اگر آپ بطور قرض پلیٹ فارم دے سکتے ہوں تو دے دیں اس نے کھٹک کر کے فوراً ایک پلیٹ فارم میرے حوالہ کر دیا۔ میں اندر جو پہنچا تو سب سے پہلے مولانا منظور احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مدرس مدرسہ مظاہر علوم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ چار پیسے جیب میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف تو ہو گی آپ بابو صاحب کو چار پیسے دے آئیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دیں۔ میں پلیٹ فارم قرض لے کر آیا ہوں۔ مولوی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ آپ کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو، کہیں پلیٹ فارم بھی قرض مل سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ملا تو نہیں کرتا لیکن جس کا سارا کاروبار قرض پر چلتا ہواں کو مل جاتا ہے۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ لا د مجھے چار پیسے دو گاڑی آنے والی ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں تم کو دے دوں گا اور جب میں پیسے لے کر ملکٹ گھر کی طرف چلا تو وہ میرے پیچے بہت تیزی سے ملکٹ گھر کی طرف چلے اور جا کر اس سے پوچھا کہ کوئی شخص تم سے قرض پلیٹ فارم لے گیا ہے۔ اس نے کہا

ہاں لے گیا ہے مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ قرض بھی پلیٹ فارم مل سکتا ہے۔ اس نے کہا ملتا تو نہیں۔ مگر اس کی صورت کہہ رہی تھی وہ دھوکا نہیں کر رہا۔ ہمیں بھی یہ امور اکثر پیش آجاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیب میں پیسے ہیں۔ مگر جیب میں ہاتھ ڈالیں تو خیال غلط لکھتا ہے۔ لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ میری وجہ سے مولانا مرحوم کی گاڑی بھی چھوٹ جاتی جس کا مجھے قلق ہو رہا تھا۔ کیونکہ جب میں اشیش پہنچا تو گاڑی سامنے آچکی تھی۔ مگر اللہ کے احسانات کا کیا پوچھنا کہ عین اشیش کے قریب آخری سکنی نہیں دیا گیا اور جب مولانا منظور احمد صاحب پل پر پار ہو کر آخری پلیٹ فارم پر پہنچ گئے تب گاڑی کا سکنی ہوا اور گاڑی اندر آگئی۔

بسم اللہ الرَّحْمٰن الرَّحِیْم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! یہ ناکارہ سفرِ حجاز کی وجہ سے رسالہ کو ختم کر چکا تھا اور اس کے بعد اپنادستی بیگ کہ وہی ہر سال سفرِ حجاز میں میرے ساتھ رہا کرتا ہے اس نیت سے اٹھوایا کہ اس میں کوئی چیز رکھنی ہو یا نکالنی ہو۔ کیونکہ گز شتر سال سفر سے واپسی کے بعد سے اس کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس وقت جو دیکھا تو اس مرتبہ اس میں ایک لفاف ملا جو ۸۳ھ کے حج میں جاتے ہوئے بندہ نے رکھا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی اور ان خطوط کی زیارت بھی ہوئی۔ مگر چونکہ دو سال سے نزول آب تھا اس وجہ سے نہ یہ خطوط ذہن میں رہے اور نہ اس کی زیارت ہو سکی۔ اس وقت میرے دوستوں نے جب اس بیگ کو کھولا اور زائد کاغذات نکال کر ضروری کاغذات رکھتے تو یہ لفاف مجھے بتایا گیا اس کو سن کر مجھے بہت قلق ہوا۔ اگر پہلے اس کا علم ہوتا تو ان خطوط کو اپنے موقع پر درج کر رہا۔ اب عجلت میں اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میں ان خطوط کی نقل اپنے دوستوں کو دیتا جاؤں کہ ابواب التحدیث بالنعمۃ کے ختم پر ان کو یکجا تی نقل کر دیں کہ ہر ایک ان میں سے تحدیث بالنعمۃ ہے۔ گوہر ایک مختلف ابواب کے ہیں۔ اس لفاف میں بعض اکابر کے علاوہ ایک خط عزیز ماجد سلمہ کا بھی ملا جو تحدیث بالنعمۃ کا جزء ہے، اس کو بھی آخر میں نقل کر دیا۔

مکتوب نمبرا:

حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ

از مکہ معظمه حارة الباب

مورخ: ۲۵، جمادی الاول ۱۴۱۳ھ

از فقیر امداد اللہ عفی عنہ بخدمت سر اپا جود و تحامی شریعت و طریقت جناب نواب (نواب  
چھتاری مرحوم ۱۳) محمد محمود علی خان صاحب متعال اللہ مسلمین بطول حیات۔  
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں دل کو بہت قلق ہے۔ امید ہے کہ بفضلہ تعالیٰ آپ مع الخیر  
والعافیت اپنے طلن پہنچ کر اپنے فرزندان و عزیزان واقارب کے دیدار سے مسرو شاد کام ہوئے  
ہوں گے۔ آپ بہت جلد اپنے مزاج مبارک کی خیریت و حالات سفر و دیگر حالات سے سرفراز  
فرمائیں۔ چونکہ فقیر کو آپ سے محبت للہ ہے اور (الدین النصیحة) بڑی خیر خواہی دین کی ہے۔  
اس لیے خیر خواہانہ تحریر ہوتا ہے۔ آپ اپنی ریاست کا انتظام اور حق داروں کے ادائے حقوق کا  
بندوبست اس طرح سے کر کے یہاں تشریف لا میں کہ آپ کو کچھ تشویش نہ رہے۔ کیونکہ جب تک  
قلب تعلقات و تشویشات دنیاوی میں مشغول رہے گا عبادت و طاعت کی لذت و حلاوت ہرگز نہ  
ملے گی۔ بلکہ جب تک دل ماسوال اللہ سے پاک و صاف نہ ہو گا تک نہ پھی تو حید حاصل ہوگی اور  
نہ جمال مبارک حق آئینہ دل میں مشاہدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک ہی قلب مخصوص اپنے  
واسطے عطا کیا ہے کوئی دوسرا دل نہیں ہے کہ اس میں دوسرے تعلقات و متنازع کو جگہ ہو۔ حریمین  
شریفین میں دل کو امور و مشاغل ہند میں مشغول رکھنا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہند میں رہ کر دل کو  
حریمین شریفین کی طرف متوجہ رکھنا، کیونکہ حقیقت بحیرہ قلب سے ہے۔ اگر قلب ہند میں رہا اور  
صرف ظاہری جسم حریمین شریفین میں رہا تو یہ بحیرہ حقیقی نہ ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل معتبر  
قلب کا ہے ”ان الله تعالى ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم“۔ اصلی بحیرت تو یہ  
ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے سواب کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو رہے اگر یہ نہ ہو سکے تو اس قدر ضرور  
ہے کہ آپ کو اپنی اولاد و اموال و ریاست اور سب کاموں کو اللہ کی وکالت کے سپرد کر کے  
خود تدبیر و بندوبست سے فارغ ہو جائے جب اللہ قادر رحیم و کریم علیم کو اپنا وکیل و کار ساز بنادیا تو  
بندہ عاجز کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جب تک اللہ و رسول کی محبت سب چیزوں پر غالب نہ ہوگی اور  
امور دینی امور دنیا پر یعنی باقی فانی پر غالب نہ ہو جائیں گے تب تک بندہ کا ایمان پورا نہیں ہونے  
کا۔ مسلمان کو کامل مسلمان ہونے کی کوشش و فکر تو سب پر مقدم وفرض ہے، بس اپنے متعلق کوئی

جھگڑا اتعلق دنیاوی نہ رکھیں۔ جب سب اللہ تعالیٰ کے پروردیدے اور دنیا پر عقیٰ کو مقدم کر دیا تو سب کام درست و ٹھیک ہو گئے۔ دنیا فانی بگڑی تو کیا اور بنی تو کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پروردیدا تو ہرگز نہ بگڑے گی۔ عقیٰ و دین کی درستی ہو گی تو ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ حضرت مولانا تاروم فرماتے ہیں:

عشق بر مردہ خیال پاسیدار عشق رابر حق و بر قوم دار  
اللہ تعالیٰ کے سواب فانی ہے اور عشق باقی باقی ہے۔ یا اللہ فانی کی محبت یعنی اولاد و اموال کی  
محبت اللہ جی و قوم کی محبت سے تم سب کو نہ رو کے۔ پس مکہ اور مدینہ میں رہنے کا لطف جب ہی  
ہے کہ دل سب سے فارغ و خالی ہو۔ بہت علوم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب عمل نہ ہو۔ نقل ہے  
کہ امام ابو یوسف صاحب نے حضرت ابراہیم قدس سرہ سے کہا کہ درویش کے واسطے علوم کا سیکھنا  
ضروری ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے (حب الدنیا راس کل  
خطیۃ) جب اس حدیث پر عمل کرلوں تو اور علم سیکھوں۔ ہدایت کے واسطے ایک آیت ایک  
حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائیں اور اپنی رضامندی پر چلا گئیں اور  
ماریں حقیقت میں اس حدیث پر عمل ہو جائے تو انسان مقبول خدا ہو جائے۔

صفاتِ ذمّم جو مہلکات ہیں مثلاً طمع، حرص، حسد، کینہ، عداوت، غصب، کبر بخل وغیرہ سب حب دنیا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ہی صفاتِ حمیدہ مثل صبر و توکل و رضا و قناعت و تواضع و سخاوت و حلم وغیرہ سب ترک حب دنیا سے حاصل ہوتے ہیں۔ اولاد کے برابر عزیز اور والدین کے برابر شفیق و مہربان کوئی نہیں مگر اس حب دنیا کی وجہ سے آپس میں مخالفت و عداوت ہو جاتی ہے اور جب حب دنیا ہی نہیں رہی تو سارے جہاں کے غیر عزیز دوست ہو جاتے ہیں (اللّٰهُمَّ اجعْلُنَا مِنْهُمْ)۔ ایک بات ضروری یہ ہے کہ دادوہش کا جھگڑا بھی اپنے ساتھ نہ ہو تو بہتر ہے۔ بلکہ کل مصدقاتِ خیرات بھی متعلق ریاست کر دی جائے۔ بندہ کو اپنے آپ کو اپنے جسم و روح کو اللہ تعالیٰ کو دے دینا یہی حقیقی سخاوت و جودا دی ہے۔ جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو دے دیا تو اب کوئی جود و سخاوت باقی نہ رہی۔ اب اس کو لا کھ و کروڑ روزانہ خرچ کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ اہل اللہ کے برابر کوئی جود و سخاوت نہیں ہو سکتا۔ فقیر کی یہ بھی صلاح نہ ہوتی کہ آپ اپنے مصارف کے واسطے کچھ ریاست مقرر کر لیں۔ لیکن چونکہ ساری عمر نظر اسباب پر رہی اس لیے اس بارے میں فقیر کچھ نہیں کہتا آپ اپنے نفس سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ درویش میں یہ بذا شرک ہے کہ رہے تو باب اللہ و باب الرسول پر اور رزق مانگے ہندوستان سے۔ کسی امیر کے دروازہ پر رہی کسی دوسرے سے مانگ کر کھانا امیر کی غیرت و غصہ کا سبب ہے یہ کوئی بڑے درجات و مراتب کی بات نہیں بلکہ کمال ایمان اور کمال ادب کی بات ہے۔

پس آپ صرف اپنے ضروری خرچ کے سوا زیادہ مقرر نہ کریں کہ لوگ آپ کی تصحیح اوقات اور تشویش کے باعث ہوں۔ بڑی خرابی امراء اور رئیسین کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے مشورہ لینے کی سنت کو اپنی کنج فہمی سے ترک کر دیا۔ مسلمانوں کی تعلیم کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ”وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ“ تاکید فرمائی ہے۔ نصرانیوں نے اس حدیث پر اس درجہ عمل کیا کہ ہزاروں قسم کی مجالس مقرر کیں ہر اخبار اور ہر رعیت کو رائے دینے کا مجاز کیا۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہے ان کو بھی معلوم ہے۔ مسلمانوں کو خطبہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے رائے لیں گے تو ہم کو لوگ کم عقل سمجھیں گے۔ ہماری حکومت میں شریک ہو جائیں گے یا تکمیر سے کسی کو مشورہ کے قابل نہیں سمجھتے۔ غرض کر اس قسم کے میسوں خطبہ ہیں۔ پس اپنے خیرخواہوں سے مشورہ کر کے اپنے سب کاموں کا انتظام و انصرام بخوبی کر کے تشریف لائیں۔ اگرچہ پانچ چار مہینہ زیادہ ہی توقف کرنا پڑے تو کچھ مصلحت نہیں کیونکہ ادھورا کام چھوڑ کر آنے میں پھر ویسے ہی تشویش و تردود رہے گی۔ زمانہ میں عقل کے ساتھ دیانت دار کیا ہے۔ اگر ایسے لوگ مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے آدمی کی بہت قدر کرنی چاہیے ”لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ“ خود اللہ تعالیٰ شاکر و مشکور ہے۔ ہر شخص کی استعداد و اعمال کے مطابق برتاب و فرماتا ہے۔ نیکوں کو ہر ایک نیکی کے بد لے دس سے کم نہیں زیادہ کہ انتہاء نہیں عنایت کرتا ہے اور برائی کا بدلہ ایک برائی خود فرماتا ہے ”اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْ كَانَ فَاسْفَالًا لَا يَسْتَوُنَ“ اس مسئلہ پر بھی فرنگیوں نے ایسا عمل کیا کہ جیسا چاہیں ادنیٰ ملازم یا ادنیٰ رعیت کچھ اچھا کام کرتی ہے تو اس کا کیسا شکر کرتے ہیں۔ اگر ملازم ہے تو ہمیشہ اس کی کارگزاری کی کتاب میں تعریف و توصیف لکھتے ہیں اور اس کی خدمت کے لاائق برابر ترقی کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض وقت دس روپیہ والے کی ترقی ہزار دو ہزار تک ہو جاتی ہے ویسا ہی بذریعہ خطاب وغیرہ کے ملازم و رعایا کی عزت کرتے ہیں۔ اس سے اس کی دیانت و ہمت بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر دیانت دار اور غیر دیانت دار کے ساتھ ایک سا سلوک ہوگا تو دیانت دار کی ہمت اس کی خیرخواہی کی طرف سے سست ہو جائے گی۔ پھر تو سب کام خراب ہو جائیں گے۔

مسلمان رئیسین کی زیادہ خرابی اس سے ہوتی کہ انہوں نے اہل نا اہل میں تمیز نہ کی اور بہت رئیسین نے جان بھی لیا کہ فلاں شخص عاقل دیانت دار ہے مگر تکمیر یا بد عقلی کی وجہ سے اس کی قدر نہیں کرتے۔

بعضوں کو یہ خطبہ ہے کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے یا ترقی کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے۔ نعموذ باللہ اپنی عقل کو اسرار شریعت سے بھی بڑھ کر سمجھنے لگے۔ فقیر نے بار بار دیکھا کہ دیانت

دار کو خائن خود رئیس کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ملازم نے اپنے اوقات کو تو اپنے آقا کے ہاتھ اپنی رفع حوانج کے واسطے نیچ ڈالا۔ جب آقا کو اپنے ملازم کی حاجات و ضروریات کا خیال نہ ہوگا۔ مثلاً اس کی حیثیت کو موافق اس کی رفع حاجت پیچاں میں ہو اور وہ پچیس دے تو وہ ملازم اور حاجتوں کو کہاں سے پورا کرے۔ آخر وہ خیانت کی طرف مجبور ہوگا۔ پس اس میں اللہ اور رسول کے قانون کے موافق کارروائی ہونے سے سب امور صحیح ہوتے ہیں۔

عزیزم مولوی منور علی صاحب سلمہ کو ان کے مکان پر بتا کید بھیج دیجئے اور عزیزم مولوی رشید احمد صاحب سلمہ یاد گیر برادر ان طریقت سے جیسے عزیزم مولوی محمد انوار اللہ صاحب وغیرہ سے آپ ملیں تو بہت خوب ہے۔ آپ میں ملنے سے اپنی جماعت میں محبت و اتحاد و اتفاق کی ترقی ہوئی ہے۔ آپ بھی کوشش و ہمت کریں کہ فقیر کی جماعت علماء میں موافق و اتحاد کی ترقی ہو لہبھیہ محبت کی فضیلت کا کچھ حد و حساب نہیں۔ آپ کی رباط شامیہ میں چند دنوں سے پانی اور روشنی موقوف ہے۔ حالانکہ آپ کی طرف سے بہت جگہوں پر بڑی فیاضی سے سبیل وغیرہ جاری ہے۔ یہاں پانی دینا اور جگہوں سے افضل ہے۔ انتظام کے وقت قاری احمد صاحب کے مدرسہ کا بھی خیال رہے بلکہ حریم شریفین میں جن جن کا مقرر ہے ان سب کو متعلق ریاست کر دیجئے کہ سب کو وہیں سے آجائے، آپ کو کوئی طلب و تقاضا کرنے میں تشویش میں نہ ڈالے۔ فقط

### مکتب نمبر ۲:

حضرت اقدس قطب عالم مولانا گنگوہی  
از بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ بعد سلام مسنون

آنکہ بندہ بخیریت ہے۔ آپ کے خط سے حال دریافت ہوا۔ عرصہ کے بعد آپ کا خط آیا۔ مجھے آپ کے لیے دعائے خیر سے کیا دریغ ہے۔ آپ لکھیں یا نہ لکھیں میں اپنے احباب و متعلقین کے لیے ہمیشہ دست بے دعا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کو شاید پہلے بھی کسی وقت لکھا گیا ہو اب پھر تحریر ہے کہ آپ بعد نماز عشاء سوار "حسبنا اللہ و نعم الوکيل" پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں وہی سب کا کفیل اور کارساز ہے۔ فقط والسلام

از بندہ محمد بیکی السلام علیکم

آپ کی تشویش سے تشویش ہے۔ داموں کا کچھ تقاضا نہیں ہے۔ مگر اپنی عملداری میں ان دو پر چوں کی کافی تشویش فرمادیں۔ فقط والسلام

مکتوب نمبر ۳:

از بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

بعد سلام مسنون، آنکہ بندہ تحریرت ہے۔

مزدہ عافیت باعث طہانیت ہوا۔ میں دعاء گو ہوں، دعائے خیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چونکہ نجات اور فلاح بجز اتباع سنت کے میسر و نصیب نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت سے چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے بیعت کی جاتی ہے اور اسی واسطے تحصیل علم ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو سب یقین اور بے فائدہ ہیں۔ زیادہ اس بارے میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ ”اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول“ اور ”فاتبعونی یحبیکم اللہ“ خودوارہ ہوا ہے۔ فقط والسلام

از کاتب الحروف یحیی عفی عنہ بعد سلام مسنون

گزارش آنکہ یہ اشتہار دو چار کی نظر سے گزار دیں۔ اس میں تعلیم الدین، امداد السلوک، اتمام العum، جزاء الاعمال نہایت مفید ہیں اور ہر شخص کے دیکھنے کے قابل ہے۔ فقط والسلام،  
کے ارز و القعدہ ۱۸۴ھ

مکتوب نمبر ۴:

حضرت مولا نا محمد قاسم نانو تو می

بسم اللہ الرَّحْمن الرَّحِيم

کم ترین خلاق محمد مولوی احمد حسن صاحب کی خدمت میں بعد سلام مسنون عرض پر داڑ ہے کہ پیر جی مخدوم بخش صاحب کا خط جو آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا حاجی صاحب کے ہاتھ پہنچا۔ پیر جی صاحب کی شدت یماری سے بہت رنج ہے۔ خداوند کریم ان کوشش فاعلیت فرمائے۔ ان کے اخلاق اور عنایتیں یاد آتی ہیں اور جی کڑھتا رہتا ہے۔ بندہ عجیب ہے۔ (فتو پر دھبہ آگیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لفظ نہیں پڑھا گیا) ساری بات خدا کے ہاتھ ہے جو چاہے سو کرے اور بیعت کا حال کیا کہوں۔ میں تو بخدا اپنے آپ کو اس کے لاکھ نہیں سمجھتا۔ پر بزرگوں کے فرمانے کے موافق کرتا ہوں۔ لیکن تاہم اپنی طرف سے بیعت کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی صاحب کبھی گرد ہوتے ہیں اور تو بت لا چاری کی پہنچتی ہے تو حضرت پیر و مرشد کی طرف بیعت کر لیتا ہوں۔ مگر ظاہر ہے کہ جیسی بزرگوں کی شان ہوتی ہے انہیں کے موافق اگر کوئی شخص نکلتا ہے تو خیر نہیں تو بزرگوں کے نام پر بٹھ لگتا دیکھ کر جی کورنج ہوتا ہے۔ سو پورا پورا ہونا اور ظاہر و باطن کے درست ہونا لوگوں کو کہاں میسر۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ ظاہر تو موافق شریعت و سنت ہو جائے۔ اس لیے جس سے

یہ امید ہوتی ہے کہ یہ شخص بدعاں کے باب میں میرا کہنا مان لے گا تو البتہ میں دریغ کم کرتا ہوں، ورنہ بجز انکار کچھ مذہبیں پڑتی اور پیر جی سے یہ توقع مشکل ہے۔ خیران کی خدمت میں بعد سلام اور مزاج پر سی یہ عرض کردیتا اگر وہ منظور فرمائیں تو بندہ غالباً نہ حضرت کی طرف سے ان کو بیعت کر چکا ہے اگر انہوں نے اس بیعت کو تجھایا تو موافق حدیث ”بیعة فمن وفى فاجره على الله“ کے انشاء اللدان کو اجر عظیم ہو گا، ورنہ موافق ”ومن اصحاب من ذلك شيئاً“ ان کا اللد کے ساتھ معاملہ باقی رہے گا۔ مگر اتنا اور بھی عرض کردیتا کہ بیعت کی ایک ظاہر شکل ہے خدا سے دوسروں کو گواہ کر کے اس کا توڑنا سخت ہے۔

فقط

(۵) ..... حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے حالات میں تلبینہ کا ایک قصہ لکھوا چکا ہوں۔ اتفاق سے ان خطوط میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے ساتھ تلبینہ کے قصہ کی وہ مراحل بھی مل گئی، وہ بھی درج ذیل ہے:

حضرت اقدس ادام اللہ ظلال بر کا تم۔ بعد ہدیہ سلام نیاز آنکہ یک تہایت مختصر ہدیہ پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ احادیث میں ایک چیز تلبینہ کے نام سے وارد ہوئی ہے، جس کے اجزاء ملاعلیٰ قاری نے آٹا، دودھ اور شہد لکھے ہیں۔ ذرا سی زعفران کا خوشبوکی مد میں اضافہ میں نے کر دیا۔ ایک مرتبہ تجربہ عرصہ ہوا پکوانی تھی تو بہت لذیذ معلوم ہوئی تھی، بے اختیار اس وقت دل چاہا کہ شاید حضرت والا کو بھی پسند آئے اس وقت اس کی کیا صورت ہو گی یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر اجزاء کو جوڑ دیا۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”قول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فواد المريض و تذهب الحزن وفي أخرى للبخاري عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة و تقول هو البغيض النافع قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقع عند احمد و ابن ماجة عن عائشة مرفوعا عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء و اخرج به النساءى من وجه آخر عن عائشة و زاد والذى نفس محمد بيده انها لتغسل بطن احدكم كما يغسل احدكم الوسخ عن وجهه بالماء“ اس کی اصل روایات سے رقيق ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر معلوم ہوا کہ حضرت کو شاید جامد پسند ہو کہ فیرینی کو رغبت سے نوش فرمانا معلوم ہوا اس لیے جامد کر دیا۔ حکیم خلیل احمد صاحب سے اجزاء لکھ کر اس کا استفسار بھی کر لیا کہ حضرت کے لیے مضر نہیں ہے۔

زکریا کاندھلوی

جواب:

**محبی محبوبی دائم حبهم، السلام علیکم**

ایسا متبرک ہدیہ کس کو نصیب ہوتا ہے، مگر غلبہ محبت سے اس میں تدبیر سے کام نہیں لیا گیا۔ جیسا کہ عشق کے لیے لازم ہے، ورنہ عقل کا فتویٰ یہ تھا کہ مجھ کو بتایا نہ جاتا کہ کیا ہے جب خلوئے ذہن کی حالت میں اس کی پسندیدگی ظاہر کرتا، اس وقت اس کی حقیقت ظاہر کر دی جاتی۔ اب میں اس سوچ میں ہوں کہ استعمال نہ کرنا موہم اعراض ہے استعمال کے بعد رغبت کا نہ ہونا متحمل تو ہے اگر یہ احتمال واقع ہو تو اس سے بے رغبتی کا اظہار موہم اعتراض ہے اور یہ دونوں امر موہم صورۃ نہایت سوء ادب ہے۔ اب آپ کا تبرک اس انتظار میں رکھ لیا ہے کہ آپ اس مرضی سے مجھ کو نکالیے۔

**فقط والسلام: اشرف علی**

بحضرت اقدس ادام اللہ ظلال بر کاتکم و متعنا با فاداتکم و فیوضکم  
بہت ہی اچھا ہوا کہ حضرت والا نے ایک اشکال کی طرف تنہیہ فرمائی، جس کی طرف اس وقت  
ذہن کو التفات بھی نہیں ہوا تھا، مگر پہلے بسا اوقات بعض اشیاء کے متعلق اس نوع کے اشکالات  
پیش آجاتے تھے۔ اب انشاء اللہ حضرت کی برکت سے اس کے حقیقی جواب کی طرف رہنمائی ہو  
جائے گی۔ اس لیے اپنا ناقص خیال خدمت والا میں پیش کر کے استصواب اور حضرت والا کے  
ذہن میں کوئی اور جواب ہو تو استفادہ چاہتا ہوں۔ چند امور بندہ کے ناقص خیال میں ہیں۔  
(۱)..... اس خاص موقع پر تو خود حدیث کے الفاظ میں "البغیض النافع" سے اس کو تعبیر کیا  
گیا ہے۔ جس میں مریض کے ناپسند ہو جانے پر گویا تصریح ہے۔

(۲)..... بندہ ناکارہ نے اپنے پہلے عریضہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت اس کی کیا حقیقت  
ہوگی، توبی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بعینہ وہ شی کہنا تو ممکن ہی نہیں اور ترکیب  
کیفیت کے تغیرات سے لذت وغیرہ امور میں تغیر ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ناپسندیدگی کو اس  
ترکیب کی طرف منسوب کرنا بہت اقرب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سالن کو ہم لوگ ہر وقت مشاہدہ  
کرتے ہیں کہ پکانے والیاں ایک ہی نوع کا مصالح سب ڈالتی ہیں، لیکن ایک کا پکا ہوا لذیذ ہوتا  
ہے اور وہی سالن ان ہی اجزاء سے دوسرا کا پکایا ہوا لذیذ نہیں ہوتا اور یہ یقینی چیز ہے کہ صحابیات  
جیسی پکانے والیاں اب کہاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ حافظ یعقوب صاحب گنگوہی کی والدہ صاحبہ  
جیسا سالن پکاتی ہیں ہمیشہ میری اہلیہ مرحوم نے کوشش کی کہ ویسا پک جائے مگر نہ پک سکا۔

**زکریا کاندھلوی**

جواب:

السلام علیکم

(۲) تو میرے ذہن میں نہیں تھا۔ مگر (۱) میرے بھی ذہن میں تھا لیکن اپنے ضعف عقل کے سبب اس سے اس لیے شفauenہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجویز کے بغیض فرمانے کا حق ہے۔ مگر حضور کے غلاموں کی اس کی ہمت نہیں ہو سکتی اور (۲) میں بھی ایک گونہ نسبت پھر بھی ہے اس لیے وہ کم ہمتی مشترک ہے۔ ان سب مقدمات میں غور کرنے سے یہ فیصلہ قرار پاتا ہے کہ اقویاء و سبع النظر کے مناسب آپ کی تحقیق ہے اور ضعفاء قاصر النظر کے لیے میرے احتمالات ”وَ إِنَّمَا مِنَ الْمُضْعِفِينَ مَنِ اتَّقَىٰ فِيمَا بَعْدَ وَ حَسِبَنَا اللَّهُ وَ نَعْمَ الْوَكِيلُ“۔

اصل قصہ یہ نارکارہ لکھوا چکا ہے کہ حضرت نے تلمیذہ کو رکھ تو لیا تھا پہلے ہی عریضہ پر اور واپس دوسرے پر بھی نہیں کرایا۔ مگر میں تحقیق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت نے تو ش فرمایا یا نہیں یاد پڑتا ہے کہ کسی خادم نے یہ کہا تھا کہ حضرت نے تو ش فرمایا۔ مگر یہ روایت محقق نہیں۔ فقط اعلیٰ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی شفقتیں تو اس سے کار پر اسی وقت سے روز افزودن تھیں جب یہ ناکارہ بارہ سال کی عمر میں سہار پورا آگیا تھا اور حکیم الامت قدس سرہ کی آمد اس زمانہ میں حضرت مرشدی قدس سرہ کی وجہ سے بہت ہی کثرت سے ہوتی تھی اور چونکہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ حکیم الامت قدس سرہ کا برتاب و بہت مساویانہ اور دوستانہ ایسا تھا کہ ہم نو عمر بچے اس سے بہت حیرت کرتے تھے۔ میرے والد صاحب قدس سرہ کا تعلق حضرت سہار پوری کے ساتھ بہت ہی زیادہ ادب و احترام کا تھا۔ اس لیے والد صاحب قدس سرہ نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کے بعد میرے حضرت مرشدی سہار پوری سے رجوع کر لیا تھا اور حضرت سہار پوری ہی سے میرے والد صاحب کو بیعت کی اجازت بھی تھی۔ اس لیے مولانا سہار پوری کا بہت ہی ادب فرمایا کرتے تھے۔

مكتوب نمبر ۵:

مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، رئیس الاحرار بنام زکریا

۱۹ نومبر ۲۰۰۴ء

محترم زید محمد کم، السلام علیکم

آپ کے خطوط نے اور بالخصوص اس خط نے جو عربی کے دو اشعار میں حضرت اقدس کو الوداع کہی جس کے آخر میں یہ ہے کہ اگر مر گئے تو قیامت میں ملاقات ہو جائے گی اور حضرت کا اس خط

کا پڑھ کر آنکھوں پر لگانا اور پھر سر پر رکھنا اور پھر اپنی جیب میں محفوظ کر لینا، اس واقعہ سے خاص لوگوں میں ایک پریشانی سی پیدا ہو گئی ہے۔ مولوی عبدالمنان صاحب دہلوی نے آج مجھ سے یہ روایت بیان کی کہ آپ نے کسی مجلس میں مولانا علی میان لکھنؤی سے فرمایا کہ میں جس حال میں گزر رہا ہوں، اگر وہ حالت نہ بدلت تو میں چھ مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے جیسا کندڑ ہے اور بے خبر آدمی ایسی باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہے مگر اس دفعہ حضرت کی روانگی کا طریقہ اور آپ کی بے چینی اور حضرت مدفنِ مظلہ العالی کا یہ فرمانا کہ کیوں جانے دیا۔ ان باتوں سے ایک قسم کی پریشانی مجھ سے لوگوں کو ضرور پیدا ہو گئی۔ اس معہمہ کا کچھ نہ کچھ حل ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تو خود حاضر ہو کر تمام حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ میرے لیے دعاء فرمائیں کہ صحت کے ساتھ توجہ الی اللہ بھی نصیب ہو۔

## والسلام

مذکورہ بالا خط کا جواب بندہ نے جو دیا اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آسکتا نہیں

محوجیت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

آپ آئندہ کی باتیں ایسے شخص سے دریافت کرتے ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم "کما یحب و یرضی" کے لیے بھی علم غیب کا قائل نہیں۔ اس سلسلہ میں نہ سوچ کجھ نہ کھو ج کی فکر کیجئے۔ صرف دو اشعار اس کا خلاصہ ہیں:

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد

و گردم ور کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد

باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو مرے

جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

زکریا

۲ ربیع الثانی ۱۴۷۲ھ

## مکتوب نمبر ۶:

مولانا انعام الحسن صاحب بنام زکریا

مخدوم مکرم معظم محترم مظلوم العالی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

الحمد للہ خیریت ہے، امید ہے کہ مزاج اقدس بخیر ہوں گے۔ والد صاحب کے ہمراہ عریضہ

ارسال کرنے کا ارادہ تھا، مگر کچھ ایسی صورت ان تین چار ایام میں رہی کہ بیٹھ کر لکھنے کی نوبت نہیں آئی اب اس وقت مولوی عبد المتنان صاحب کا لاہور سے خط آیا جو ارسال ہے۔ الحمد للہ حضرت اقدس بخیریت پہنچ گئے۔ حضرت عالیٰ نے جس بات کے متعلق تحریر فرمایا تھا کہ حضرت اقدس کے بعجلت واپسی کا تذکرہ اگر کسی مجلس میں ہو تو اس کو تحریر کیا جائے۔ اخیر وقت تک نہیں آیا۔ اخیر وقت میں جب کہ حضرت اقدس ہوائی اڈے پر تشریف لے جا رہے تھے اور اس کا رہ میں حضرت اقدس کی معیت میں بندہ و مولانا یوسف صاحب اور حافظ مقبول حسن صاحب تھے۔ راستہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی سہار پور جاؤ حضرت شیخ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کر دینا۔ پھر مولوی یوسف صاحب سے بھی ارشاد فرمایا کہ دونوں کہہ دینا۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا کہ اب کے واپسی میں سہار پور قیام نہیں ہوا، اگرچہ جاتے ہوئے دورات قیام رہا۔ باتِ اصل میں یہ ہے کہ حضرت شیخ کی طبیعت میں بڑا سمجھل ہے جو کیفیات حضرت اقدس گنگوہی توراللہ مرقدہ کی آخر میں تھیں وہ ہیں اور اس سے رعب ہوتا ہے اور طبیعت مرعوب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت تکڑ وغیرہ سب چیزیں ہو چکی تھیں۔ رائے پور سے بعجلت بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ارشاد فرمایا کہ جی طبیعت میں گھبراہٹ ہے۔ گھبرا تانہ تو تکنانہ ہوتا۔ اسی طرح وہاں جا کر ابھی سے گھبرا نا شروع کروں گا۔ انتہی۔ نیز حضرت عالیٰ کا ایک والا نامہ جو حضرت اقدس کی خدمت میں آیا ہے، جس میں صرف دو شعر ہیں اس کے مطلب میں طبیعت بہت زیادہ پریشان ہے۔ امید ہے والد صاحب بخیر پہنچ گئے ہوں گے۔ سلام منون

انعام الحسن قبل جمع

### مکتوب نمبر ۷:

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب توراللہ مرقدہ

اس تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسہ کی تعلیم کے زمانہ میں جو کچائی باقی رہ گئی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے کلمہ، نماز، چھوٹے بڑوں کے آداب و باہمی حقوق، درستی، نیت اور لغزشوں کے موقعوں سے بچنے کے علم و عمل سیکھنے کے لیے ان اصول کے ساتھ اپنے بڑوں سے بچا لیتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جائیں جو ان سے بالکل مرحوم ہیں تاکہ ان کی کچائی ڈور ہو جائے اور ان کو واقفیت حاصل ہو۔

### مکتوب نمبر ۸:

۲۴ محرم الحرام ۱۹۵۲ھ مطابق ۱۲۹ پریل ۱۹۷۳ء یوم شنبہ از مدینہ متودہ

عزیز محترم مولا ناز کریا صاحب شیخ الحدیث معننا اللہ بطول حیاتکم  
السلام علیکم ورحمة اللہ برکاتہ

آپ کا گرامی نامہ آج ۲۴ محرم الحرام کو موصول ہوا۔ مدرسہ مظاہر علوم کے بخیر و عاقیت جلسہ کے  
کامیاب ہو جانے کی خبر سے نہایت سرگرمی ہوئی۔ حق تعالیٰ شانہ ہمارے بزرگوں کو ہمیشہ باہم  
متالف متعاضد متعاون رکھے۔ بنده دوسری محرم یوم اخیس علی الصباح الحمد للہ ثم الحمد للہ زیارت  
روضہ مطہرہ اور سعادت صلوٰۃ و تسلیم سے شرف اندوز ہوا۔ حق تعالیٰ میرے اور میرے سب  
دوستوں کے لیے موجب خیر و برکت اور باعث ثبات فرمادیں۔ آپ نے وہاں (نظام الدین)  
کی بہت سے مشکلات اور روپوں کے مختلف ضرورتوں کے لیے تقاضے کی شکایتیں لکھی ہیں۔ میری  
حاضری کی وجہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ حضرات ان ضرورتوں کا احساس فرمادیں اور  
آنکھوں سے دیکھیں اور اس کی اہمیت اور واقعی اور غیر واقعیت کی تحقیق میں آپ بھی میرے برابر  
ہوں اور پھر سب مل کر یا تو اس کو کرو یا اس کو سب مل کر چھوڑ دیں۔ ورنہ تم ہی بتاؤ کہ میں تنہا کیا  
کروں؟ یہی مضمون میری طرف سے شیخ صاحب کی خدمت میں عرض کر دینا ہے۔ خلاصہ یہ ہے  
کہ اس تبلیغ کی چھیٹر چھاڑ بجھے سے نہ ہو یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا اور کسی لظم کا میں اہل نہیں، کوئی لظم  
میرے قابو کا نہیں، تواب کیا صورت ہو؟ تین صورتیں ہیں یا یہ کہ میں وہاں کا ارادہ متواتی کر دوں  
اور عرب میں قیام کروں اور یا ہندوستان میں آنا ہو تو مستقل توجہ کرنے والی ایک جماعت مستعدان  
امور کے لظم کے واسطے مجھے اطمینان دلادیں اور تیری صورت یہ ہے کہ میں اگر ان امور کی طرف  
نظر نہ رکھوں۔ مجھے تم جیسے دوستوں خصوصاً تمہارے حکم کی تعیل سے گریز اور انکار نہیں۔ مگر ایسی کوئی  
صورت ان تین میں سے یا کوئی چوتھی صورت جس کا آپ امر فرمادیں، میں اس کے لیے تیار  
ہوں۔ رقوم کے متعلق بات پہ ہے کہ میں قرض لینے کو کس بھروسہ پر کہہ دوں، یہ میرے اصول کے  
خلاف ہے۔ باقی توح کے مدرسے کے علاوہ سب ضرورتیں غالب ہے کہ پوری کر دینے کی ہیں۔  
یہ اصول البتہ ضروری ہے کہ پہلے خود ان مواضع میں کوشش کرائی جائے۔ پھر بھی ضرورت ہو تو اس کا  
بندوبست کیا جائے۔

خدمت جناب شیخ صاحب بعد سلام مسنون مضمون واحد

### فقط السلام

سب بزرگوں اور ملنے والوں کی خدمت میں سلام مسنون، گھر میں اور سب بچوں کو دعوات کہہ  
دینا۔ مساجد اور تبلیغ کی امداد کے لیے حافظ عبدالحمید صاحب سے بعد سلام مسنون فرمادیں کہ  
صاحبزادہ کی شادی کی خبر موجب سرگرمی ہے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ انشاء اللہ عنقریب میں

حاضر ہو جاؤں گا۔ کوئی خاص تقاضہ نہ ہو تو میرے آنے پر ہی کیجھے گا۔ عزیز یوسف کی محنت کی خبر سے خوشی ہوئی ماشاء اللہ وہ ہمیشہ سے محنتی ہے۔ محنت کے زمانے اس کو محنت سے روکنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے میں بھی دماغ کا کمزور ہوں اور یہ بھی میری طرح ہے وقت محنت کر کے دماغ سے بے کار نہ ہو جائے میں نے حافظہ مقبول صاحب وغیرہ کو مخصوص (اس تحریر میں حافظہ مقبول صاحب اور قاری داؤ د صاحب کی اجازت بیعت کو اس ناکارہ اور حضرت اقدس رائے پوری کی اجازت پر مشروط کیا تھا۔ کہ اگر آپ دونوں کی رائے ہو تو ان دونوں کو میری طرف سے بیعت کی اجازت دے دو) تحریر میں بھیجنے کے لیے آپ مولانا نارائے پوری کے مشورہ کے ساتھ وابستہ کیا تھا اور یہاں مولوی شفیع الدین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں ایسی بات میں پیش قدیمی کی جرأت اور غیرت رکھتا ہوں۔

از آدون خدام احتشام بعد سلام نیز گرامی نامہ عزت بخش ہوا۔ فقط

### مکتوب نمبر ۹:

آخری تحریر حضرت دہلوی بقلم مولانا ظفر احمد صاحب بسلسلہ امارت  
مولانا یوسف صاحب مرحوم و تکملہ آں تحریر از مولوی یوسف۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

آج صحیح حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کا یہ پیغام پہنچا کہ میری جماعت میں بہت سے اہل ہیں۔ شیخ الحدیث اور مولوی ظفر احمد تیسرانام حضرت مولانا عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ہے جو غالباً نقل میں رہ گیا جس کو ان میں سے منتخب کریں اس سے ان لوگوں کو بیعت کرادیں جو مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ پھر یہ پیغام پہنچا کہ مجھے چند لوگوں پر (جن کے نام بھی بتلانے تھے) اعتماد ہے۔ بعد ظہر ہم اس ارشاد کی توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں یہ پیغام پہنچا تھا کہ مجھے اپنے چند لوگوں پر اعتماد کا مفہوم خلافت اور اجازت تھی یا کیا تھا۔ سکوت کے بعد فرمایا کہ مولوی شفیع الدین صاحب (حضرت مولانا شفیع الدین بھنوی مہاجر کی جو حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب کے اجل خلفاء میں تھے۔ مکہ میں مقیم رہے اور وہیں وصال ہوا۔) صاحب نے قاری داؤ د اور حافظہ مقبول حسن پر اعتماد ظاہر کیا تھا۔ اس وقت میں نے ان کے احترام کی وجہ سے حرم کے رہنے والے ہیں ان کو اجازت دے دی تھی۔ مگر اب مجھے ان پر پہلے سے بہت زیادہ اعتماد ہے اور ان کے علاوہ اور بھی چند لوگوں پر اعتماد ہے۔ مولوی یوسف میں استعداد بہت ہے۔ میں نے اس کو پاس انفاس بتایا تھا اور بہت دن سے کر رہا تھا۔ سید رضا بھی ذکر و شغل میں لگے

ہوئے ہیں اور سوزش و درد سے کام کرتے ہیں۔ مولوی احتشام کو میں نے اجازت دے دی مگر ایک شرط کے ساتھ جوانہ میں سے معلوم کر لینا۔ (مولوی احتشام کو وہ شرط یاد نہ آئی تو ہمارے دریافت کرنے پر) پھر فرمایا کہ وہ شرط یہ ہے کہ علماء کا احترام کریں (از ز کریا مجھ سے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ شرط یہ بھی ہے کہ امراء سے تعلق نہ رکھیں) علماء سے نیازمندی کا تعلق رکھیں۔ ہمارے مزید دریافت کرنے پر فرمایا کہ مولوی انعام بھی بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے ذکر و شغل بھی بہت کیا ہے۔ یہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ البتہ علم کا احترام زیادہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تینوں (تیرے حضرت رائے پوری) کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مولوی محمد یوسف سلمہؒ کو اجازت دے دیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک ان میں شرائط اجازت موجود ہیں۔ عالم ہیں، باعمل ہیں، متورع ہیں اور تمیں امید ہے کہ وہ اپنی تکمیل کر لیں گے اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی اس شرط سے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی تکمیل سے غافل نہ ہوں۔ فرمایا ہاں جو آپ تینوں کی رائے ہے بہت مبارک ہے اور تکمیل کے لیے تم خود ان سے تاکید کے ساتھ کہہ دینا۔ سلسلہ کا قیام یوں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ ان تینوں صاحبوں نے جو تجویز کیا ہے اس میں برکت فرم اور جو اس میں ہم سے کوتا ہی ہوئی ہواں کو معاف فرم اور تمیں خلوص عطا فرم۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ جو لوگ اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ ہی بیعت فرمائیں۔ جس کی صورت یہ ہو کہ کپڑے کا ایک سرا حضرت کے ہاتھ میں اور بیعت ہونے والوں کو ایک شخص کلمات بیعت تلقین کرتا رہے۔ فرمایا نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت گرگیا ہوں، مجھے بہت تعجب ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ پھر اعلان کر دیا جائے کہ جو بیعت چاہیں وہ مولوی یوسف صاحب سے بیعت ہو جائیں، وہ حضرت سے ہی بیعت ہوگی۔ فرمایا ہاں مناسب ہے اور آپ تینوں کا ہاتھ اس پر ہوگا۔

تنبیہ: یہ تحریر بطور اول مسودے کے لکھی گئی اور حضرت کو قبل عصر نادی گئی۔ حضرت کی تصدیق کے بعد اس کو صاف کر دیا گیا۔

ظفر احمد عفان اللہ عنہ تھانوی

۲۰ رب جب ۶۳ھ مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۴۳ء بروز چہارشنبه

مکتوب نمبر ۱:

آخری گفتگو پچا جان نور اللہ مرقدہ عزیز یوسف مرحوم کے ساتھ

بدھ کے روز چار بجے کے قریب حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت واسعۃ و رفع درجات فی الآخرۃ والدُنیا و ارزقنا بہ و اتباع حق الحب و الاتباع۔ بندہ دلہنی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ آواز دی تو بندہ بالمیں جانب چہرہ انور کے متصل آبیٹھا۔ فرمایا حضرات کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا مولوی احتشام صاحب کے جھرے میں مشورہ فرمائے ہیں۔ فرمایا تم اس مشورہ میں شریک نہیں میں نے عرض کیا اگر جانب فرمادیں تو میں جائیں گوں۔ فرمایا تمہارے ہی متعلق تو مشورہ ہے اور تم اس میں شریک نہیں۔ خیر جب بلا کمیں تو چلے جانا۔ پھر فرمایا میر اتمہارا کھیل ہو کرنہ رہ جائے۔ اہل اللہ کی طرف سے جو چیز ملا کرتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا:

داد وے را قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد و یست

پھر ارشاد فرمایا کہ علماء کے لیے قصیدہ بردہ اور شیم الحبیب کا مطالعہ عظمت و احترام کے ساتھ کہ بغیر عظمت و شوق کے بے کار ہے۔ شیم الحبیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت منکشف ہو گی۔ اس کے بعد غالباً فرمایا قصیدہ سے تعلق پیدا ہو گا۔ پھر فرمایا آخر شب میں قرآن شریف پڑھنے کی دعوت دیتے رہنا اور اپنے لیے اس کی صورت پیدا ہونے تک تمنا رکھنا۔

فقط

### مکتب نمبر ۱۱:

عزیز ماجد علی بنام زکریا

مخدومنی و معظممنی حضرت اقدس دامت برکاتکم و متعنا اللہ و المسلمين  
بطول بقائلک و برکات انفاسک السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ،

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ دیگر احوال یہ ہیں کہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی، جس کو میں وہاں بیان نہ کر سکتا تھا۔ وہ بشارت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”زکریا یعنی (حضرت والا) رسالہ فضائل درود کی وجہ سے اپنے معاصرین پر سبقت لے گیا۔“

اس ناکارہ کو اس پر تعجب بھی ہوا کہ حضرت والا کی احادیث کی اور دین کی محنت کی اور بھی خدمات ہیں جو بہت اوپنجی ہیں۔ لیکن بعد کو اشکال رفع ہوا کہ دل میں یہ بات کہ رسالہ فضائل درود حضرت والا کے عشق نبوی کی دلیل ہے اور اس اعتبار سے بھی حضرت والا دوسروں پر سبقت لے گئے ہیں۔ نیز کافی عرصہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس ناکارہ کو یہ بشارت بھی ملی تھی کہ جمع

کے روز آپ کوئی مخصوص درود یا قصیدہ پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ درود یا قصیدہ اس ناکارہ کو بھی بتا دیجئے ممنون ہوں گا۔ نیز یہ بھی دریافت کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت زیادہ فضیلت کی بات ہے یا حالت کشف میں اسی طرح خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو زیادہ معتبر ہے یا علم کشف کی گفتگو زیادہ معتبر ہے۔ عید کے بعد علی گڑھ جانا ہوا تو یہاں لوگوں نے اس ناکارہ سے اس بات کی تحقیق چاہی کہ بھائی خالد صاحب کو کیا حضرت والا کی طرف سے اجازت بیعت ہو گئی ہے؟ چونکہ اس ناکارہ کو علم نہیں تھا، اس لیے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ اگر حضرت والا نے بھائی خالد صاحب کو اپنی طرف سے بیعت کی اجازت دے دی ہو تو مطلع فرمائیے۔ نیز میرٹھ میں احباب مولانا مسعود الہی صاحب کے پارے میں بھی احقر سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کو حضرت والا کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ان کو ہوتب بھی مطلع فرمائیے گا جواب کا انتظار ہے۔ دعاوں و توجیہات کی عاجزانہ درخواست ہے۔ خصوصاً دورہ حدیث کی تیکمیل کے لیے۔


## فقط

ناکارہ ماجد علی خاں جہاں نما جلی کوئی  
میرٹھ

(موصول احباب عنہ ۲۸ شوال)

اللہ تعالیٰ خواب کو میرے اور تمہارے لیے مبارک کرے۔ پسند آنے کے واسطے اوپنجی چیز ہونا ضروری نہیں۔ کسی رنڈی کے کتے کو پانی پلانا بھی پسند آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا اور اس کا معتبر ہونا احادیث صحیح سے ثابت ہے اور کشف میں احتمال غلطی کا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کا مدار صاحب کشف کی علوشان پر ہے۔ بندہ کا معمول جمعہ کے دن بعد عصر "اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِّ وَ عَلَى الْهُ وَسَلِّمْ" تسلیماً، آتی (۸۰) مرتبہ پڑھنے کا ۲۵۰، ۳۰ سال سے ہے۔ فضائل درود کی تالیف کے بعد سے اس کے اخیر کے درجاتی اور حضرت نانو توی کا بھی بھی سننے کی نوبت آ جاتی ہے۔ خالد کو اجازت نہیں مسعود الہی کو ہے۔

والسلام



## باب ششم

## چملہ جوں کی تفصیل

## حضرت کی ہمراہ کابی میں بندہ کا سب سے

پہلا سفر حج ۳۸ھ اور ساتھ جانے والے رفقاء:

یہ بات دراصل باب پنجم کا جزو اور تکملہ ہے جو شروع میں تو ایک ہی باب تھا۔ مگر جوں کی اہمیت اور حج کے زمانے کے واقعات کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو مستقل باب بنا کر اس کو گویا باب پنجم کا جزو بنادیا۔ اس سے کارکاسب سے پہلا حج ۳۸ھ میں حضرت اقدس مرشدی و مولائی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب توراللہ مرقدہ کی ہمراہ کابی میں ہوا۔ یہ حج اس ناکارہ کا جمۃ الاسلام اور حج فرض تھا۔ ۲، شعبان ۳۸ھ کو سہارنپور سے روانگی ہوئی۔ حضرت قدس سرہ کی اہلیہ محترمہ اور حاجی مقبول احمد صاحب کے علاوہ حضرت مولانا منظور احمد خاں صاحب سہارنپوری مدرس مظاہر علوم خادم خاص اور حضرت قدس سرہ کی اہلیہ کے برادرزادہ حاجی انس احمد صاحب انہمیو اور حضرت کے اخض الخدام مولوی محمد احراق صاحب بریلوی جن کا مستقل قیام سہارنپور میں تھا اور ہر سفر میں حضرت کے خصوصی خادم رہتے تھے اور میرے عزیز مولوی لطیف الرحمن کا ندھلوی جو حضرت قدس سرہ کے بعد ہمیشہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے۔ تیز میرے قربی رشتہ دار متولی طفیل احمد صاحب بھی ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی خادم سہارنپور سے اور رستے سے شریک ہوتے رہے۔ بمبی پہنچنے تک رفقاء کا مجمع دوسو ہو گیا تھا اور ہر شخص حضرت قدس سرہ کی ہمراہ کابی کی وجہ سے حضرت جی کے جہاز میں سفر کا منتمنی اور مشتاق تھا۔ اس میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جن کی دلداری حضرت کو مقصود تھی۔

حضرت اقدس سرہ کا رفقاء کی وجہ سے جہاز چھوڑ دینا:

جب بمبی پہنچے ایک جہاز تیار تھا مگر اس میں بیس پچیس ملکوں کی گنجائش تھی اور حضرت قدس سرہ اور ان کے مخصوص رفقاء اس میں آبھی سکتے تھے۔ مگر حضرت نے رفقاء کی دلداری کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر اس کے بعد والے جہاز جس کا نام زیارتی تھا کے تین سو لکٹ خرید والیے۔ کیونکہ بمبی کے قیام کے میں مجمع اور بھی بڑھ گیا تھا۔ جو جہاز اس وقت تیار تھا وہ بہت ہی بڑا اور آرام دہ تھا اور زیارتی بہت ہی چھوٹا اور تکلیف دہ تھا۔ بمبی کے احباب نے بہت ہی اصرار بھی فرمایا کہ موجودہ جہاز زیادہ

آرام دہ ہے مگر حضرت نے قبول نہ فرمایا بلکہ رفقاء کی ہی معیت کو ترجیح دی۔

### بسمی میں دیوبندیوں کے داخلوں کی ممانعت:

یہ زمانہ وہ تھا کہ بسمی میں علی الاعلان دیوبندیوں کا داخلہ سخت خطرناک تھا۔ اس سے پہلے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ پر بسمی میں حملہ بھی ہو چکا تھا اور حضرت سہارنپوری قدس سرہ کے ساتھ مجمع بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ اس لیے وہاں کے غریب میزبانوں نے کہ رو ساء تک ہم غرباء کی رسائی نہ تھی اور آج کل تو اس کا رد عمل مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ ہو رہا ہے کہ دیوبندیوں کو ہر وقت اصرار اور تقاضے بسمی آنے کے ہوتے رہتے ہیں۔ بہر حال وہاں کے غرباء میزبانوں نے حضرت اور ان کے رفقاء کا قیام بسمی سے پندرہ بیس میل دور ایک قبرستان میں کیا۔ خیسے وغیرہ لگائے گئے اور زیارتی جہاز کے انتظار میں بیس روز وہاں قیام ہوا۔ سہارنپور سے بسمی تک تو فتوحات کا وہ زور رہا کہ لا تعد ولا تحصی مٹھائیاں اور پھل اور قسم قسم کے کھانے۔

### سفر حج کے دوران کھانے کا انتظام:

بسمی پہنچ کر حضرت نے ہم مخصوص رفقاء کو جمع کر کے فرمایا کہ بھائی یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے اور رفقاء نے لکھا ہے کہ دو دو چار چار مل کر اپنا جوڑ ملا لو۔ بھائی طفیل احمد صاحب جن کا اور پرڈ کر آیا وہ سہارنپور ہی سے مجھ سے اصرار فرمائے تھے کہ میں ان کا پورے سفر میں مهمان بنوں اور ان سے زیادہ اصرار میرے عزیز ناموں لطیف الرحمن صاحب کا تھا۔ اس لیے کہ وہ پہلے سے متولی طفیل صاحب کے ساتھ ہو گئے تھے اور ان دونوں سے بڑھ کر متولی صاحب کے ملازم مل عبد العزیز جو کاندھلہ کے قریب ایک گاؤں کھنڈ راؤلی کا رہنے والا تھا اور متولی طفیل صاحب نے سفر کے لیے ملازم رکھ لیا تھا، وہ سہارنپور سے ہی میری خوشامد کر رہا تھا کہ اگر آپ میرے میاں صاحب کے ساتھ آجائیں تو میرا کھانا پکانے میں بڑا جی لگے گا۔ حضرت کے اس ارشاد پر خوشی حسب مراتب تینوں ہی کو ہوئی عبد العزیز بچارا کیا بولتا۔ ناموں لطیف نے حضرت سے کہا کہ بھائی طفیل شروع سے کہہ رہے ہیں مولوی زکریا کو کہ میرے ساتھ ہو جا۔ مگر یہ نہیں مانتا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ کوئی نہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا انتظام خود کرے۔ اس پر تینوں کے تینوں خوشی کے مارے پھولے نہ سائے اور میں چپ سہم گیا۔

اگلے دن صبح کو میں نے حاجی مقبول احمد صاحب کو جو حضرت قدس سرہ کے مدار لمبا م اور اندر و باہر کے کارکن تھے۔ ان کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے جس پر خفا ہوتے تھے اسے جہنم میں پہنچا دیتے تھے اور جس سے راضی ہوتے اسے عرشِ معلیٰ پر پہنچا دیتے۔ راضی اور ناراض بھی بہت جلد ہوتے۔

میں نے ان سے تخلیہ میں کہا کہ حاجی جی میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جیب میں سے چھ سو روپے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ اس زمانے میں حج کے سلسلہ میں چھ سو ایسے تھے جیسے آج کل ڈھانی ہزار کہ چھ سو روپے میں آدمی نہایت راحت سے مکہ، مدینہ، بحور، زمزم، تسبیح، رومال، مصلیٰ وغیرہ سب کام کر لیتا تھا۔ حاجی جی کو اس وقت اللہ کے فضل سے کچھ شفقت آرہی تھی بہت مسروت سے روپے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے اور فرمایا کہ تم جیسوں کے لیے مجھے ہرگز انکار نہیں۔ میں نے تو حضرت سے ایسے لوگوں کے متعلق انکار کیا تھا جو یہ کہے کہ میرا تو ایک بکس اور حضرت کے پچیس بکس اور پھر کشتی و مزدوروں کا کرایہ برابر کیوں؟ میں ہر ایک کا سامان الگ الگ کہاں تلواؤں گا۔ کہ کس کا کتنے سیر اور کتنے من ہے اور تیرے متعلق مجھے یقین ہے کہ میں تھے حساب بتلاوں گا بھی تو تو نے گا نہیں اور میں اپنا اور حضرت کا سارا محصول تیرے حساب میں لکھوادوں گا تو تھے خوشی ہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ جناب نے یہ فرمایا حساب وغیرہ مجھے نہیں چاہیے اور مجھے آپ ہرگز نہ دیں۔ مجھے تو ہمار پور جا کر یہ بتلا دیں کہ کتنا میرا حساب میں اور چلا اسی دن انشاء اللہ پیش کر دوں گا۔ حاجی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ اس کا تو مجھے تیرے کہے بغیر یقین ہے۔

اگلے دن شام کو حضرت قدس سرہ نے پوچھا کہ کیوں بھائی کس کا جوڑ کس سے بیٹھا لوگوں نے اپنے اپنے جوڑ بتلائے۔ ماموں اطیف نے کہا میں تو متولی طفیل کے ساتھ ہوں مگر مولوی زکریا نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ میں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ پہلی رات تو میں سہم گیا تھا آج میں بہت مطمئن تھا کہ قلعہ فتح کر چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں بھائی طفیل کے ساتھ ہو جاؤ جب یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ناکارہ گستاخ تو ساری عمر کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت کے ساتھ نہیں۔ میں تو حاجی مقبول صاحب کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنے سارے پیسے ان کے حوالے کر دیے اور انہوں نے قبول فرمائی۔ وہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے خوب وہ منتظر یاد ہے کہ حضرت قدس سرہ کا چہرہ مسروت سے دکنے لگا اور فرمایا کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ میں نے کہا جی حضرت، حضرت نے فرمایا کہ پھر مجھے کیا انکار ہے میں تو ان ہی کی وجہ سے اصرار کر رہا تھا۔ حاجی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مجھے انکار نہیں اور اپنی صبح والی تقریر پھر دہرا دی۔ حضرت قدس سرہ نے حاجی مقبول صاحب کی تصویب فرمائی کہ یہ تم نے یہ کہا اس کو تو حساب کا خیال بھی نہ آئے گا۔ اب ہم مستقل شریک دسترخوان ہو گئے اور آخر تک رہے۔

جہاز میں اور جدہ میں اتر کر اور مکہ مکرمہ میں تراویح:

اس دوران میں حضرت قدس سرہ راندیر بھی تشریف لے گئے تھے۔ مولوی اسحاق مرحوم ساتھ

تھے۔ ۲۸ شعبان کو بھی سے جہاز روائے ہوا اور بارہ دن میں دس رمضان کو جدہ پہنچا۔ دوسرے یا تیسرا دن کیم رمضان جہاز ہی میں شروع ہو گئی تھی۔ اس سے کارکو بھی جہاز میں دوران سر اور امتلاء بہت رہتا تھا اٹھنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ میرے حضرت قدس سرہ کو بھی امتلاء تو نہیں مگر دوران سرخوب رہتا اور پورے جہاز کے سفر میں رہتا۔ ۲۹ شعبان کو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ کیوں بھائی تراویح کا کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ دوران سر سے تو نہشاجا سکتا ہے مگر امتلاء کا درمیان تراویح میں کیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی کوئی بات نہیں تھی ہو گی وضو کر لینا۔ باوجود دوران سر اور ضعف و پیری کے اور زیان جہاز پونکہ چھوٹا تھا خوب حرکت کرتا تھا۔ اس کے باوجود ساری تراویح حضرت نے کھڑے ہو کر پڑھی۔ آٹھ رکعت میں آدھا پارہ حضرت قدس سرہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد کا پان پارہ بارہ رکعت میں یہ سے کار پڑھتا تھا۔

جده پہنچ کر سامان اٹارنے میں اور کشم وغیرہ کے جھگڑوں میں سب ہی تحک گئے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم نے نہایت غصہ میں مجھ سے فرمایا کہ عقیدت میں بڑے میاں کو لے کر کھڑے نہ ہو جانا پچھاں کے ضعف کا بھی خیال کر لینا۔ کیونکہ اس کا ذرخا کہ نہ معلوم سفر میں حاجی جی کہاں میراپتہ کاٹ دیں۔ ان کا حکم تھا کہ میں حضرت سے درخواست کروں کہ تراویح کی تو آج ہمت نہیں یہ تو مجھ سے نہ ہو سکا۔ لیکن جب حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ کیوں بھائی مولوی زکریا کیا حال ہے۔ میں نے حاجی صاحب کے ڈر کے مارے یوں عرض کر دیا کہ حضرت تھکان تو بہت ہے۔ لیکن میری ندامت اور قلق کی انتہاء نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت قدس سرہ نے پوری تراویح خوب اطمینان سے پڑھی۔ میں بار بار حضرت کو دیکھا رہا اور اپنے اوپر افسوس کرتا رہا کہ کیوں جواب دیا اور کئی بار خیال آیا کہ حضرت سے عرض کروں کہ حاجی صاحب کے حکم سے میں نے معدترت کی تھی۔ مگر مرحوم کے ڈر کے مارے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ نماز کے دوران دو تین مرتبہ حضرت کے قریب گیا بھی اور یوں عرض کرنے کو جی چاہا کہ حضرت کے ضعف کی وجہ سے عذر کیا تھا مگر حاجی صاحب کا خوف غالب رہا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ مگر ندامت اور قلق اب تک بھی ہے۔

جده ایک دن قیام کے بعد مکرہ پہنچے۔ شریف کا زمانہ تھا نہایت بد نظمی کا۔ ہم لوگوں نے جده سے مکہ تک کوئی اونٹ نہیں کیا بلکہ منی، عرفات میں کسی جگہ نہیں کیا۔ بلکہ حضرت قدس سرہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے اور بے فکری سے بھی اوہراؤہر بھی ہو جاتے تھے۔ میں شوق میں کچھ آگے بڑھ گیا۔ حضرت قدس سرہ نے بلا کر خوب ڈالا اور فرمایا کہ اونٹ کے ساتھ ساتھ رہو، ذرا اوہر اُدھر نہ ہو۔ پیشاپ وغیرہ کے واسطے بھی دور نہ جاؤ کہ بد و تم کو مار کر کپڑے وغیرہ سب اتار لے گا۔

مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت قدس سرہ نے حضرت مولانا محب الدین صاحب خلیفہ اجل اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ سے ملاقات فرمائی اور معاونت کیا۔ حضرت مولانا نے حضرت قدس سرہ سے فرمایا اجی مولانا، ارے مولانا! آپ کہاں آگئے۔ ہمارے یہاں تو قیامت کبریٰ آئے والا ہے۔ عمرہ کر کے گھرو اپس چلے جاؤ، ہمارے یہاں تو آگ برئے والا ہے۔

مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت قدس سرہ نے ایک نہایت عمدہ قاری صاحب کے پیچھے تراویح شروع کی قاری توفیق ان کا نام تھا۔ بہت ہی اچھا پڑھنے والے تھے۔ دوپارے حرم شریف میں روزانہ نتائے تھے۔ ان کے پیچھے جماعت کافی ہوتی۔ حضرت کا مصلی تو امام کے پیچھے ہوتا تھا اور چونکہ تینوں صفحیں بہت پہلے سے بھر جاتی تھیں اس لیے ہم لوگوں کو جگہ بہت پیچھے ملتی تھی۔ بالکل میرے پیچھے محاذات میں ایک لڑکا شافعی نہایت عمدہ اور نہایت تیز پڑھتا تھا۔ اس لیے یہاں کارہ قرآن تو اس کا مستتا تھا کہ وہ میرے بالکل قریب اور جھری الصوت تھا مگر کوئی وجود قاری توفیق کے ساتھ کرتا تھا۔

### حرمین شریفین میں تراویح کے واقعات:

اس زمانے میں حرمین شریفین میں عشاء کی نماز بجائے ڈیڑھ کے ڈھانی بجے ہوا کرتی تھی اور حرمین کے حضرات ہندوستان والوں پر بہت خغا ہوا کرتے تھے کہ یہ ہندی لوگ ایسے یوقوف ہیں کہ سارے سال تو مغرب و عشاء میں ان کے یہاں دو ڈھانی گھنٹے کا فصل ہوتا ہے اور رمضان میں صرف ڈیڑھ گھنٹے کا۔ کھانا کھایا اور تراویح کو چل دو۔ افطار کے بعد کھانا کھانے میں چائے وغیرہ پینے میں دو گھنٹے تو کم از کم چاہیں۔ اب تو ڈھانی گھنٹے کا فصل مکہ میں نہیں رہا۔

۸۹ کار رمضان شریف بھی اس ناکارہ نے حرمین شریفین میں گزارا۔ اب عشاء کی نماز ۲ بجے ہوتی ہے۔ حضرت قدس سرہ قاری توفیق کے پیچھے تراویح پڑھ کر جو تقریباً ساڑھے چار بجے عربی فارغ ہوتے تھے مکان تشریف لے جاتے تھے۔ ہم خدام مولانا منظور احمد صاحب، حاجی انس، یہاں کارہ اور مولوی اسحاق مرحوم حضرت قدس سرہ کو مکان پر پہنچا کر کپڑے نکال کر ایک لگنگی باندھ کر اور دوسروں لگنگی کا ندھر پر ڈال کر تعمیم عمرے کے احرام کے لیے چلے جاتے۔ سواری پر بھی نہیں گئے۔

ایک دفعہ عربی گدھے پر سوار ہونے کا شوق ہوا۔ نہایت ہی خوبصورت اور آنکھیں ہر نیوں کی آنکھوں کی مانند نہایت حسین اور اور پر نہایت خوش نمایاں رنگ کی دھاریاں۔ مگر وہاں کا یہ دستور تھا کہ حاجی کو گدھے پر بٹھا کر گدھے کا مالک اس کے ایک ڈنڈا مار دیتا۔ ساتھ جانے کا دستور نہیں تھا۔ نہ اس میں لگام اور نہ چار جامہ وہ گدھے اس قدر سدھے ہوئے سنجیدہ کہ باب العمرہ سے جو ایک دوڑ لگاتے تھے تو مسجد تعمیم پر جا کر سانس لیتے تھے۔ چاہے سوار ان کے اوپر ہو اور چاہے گر جائے۔ آدھہ گھنٹہ وہاں پھر کروہ گدھے سیدھے باب العمرہ پر واپس آ جاتے تھے۔

ایک دفعہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان پر سواری کا شوق ہوا تو پانچ سات منٹ ہم گدھے پر رہے اس کے بعد اس نے تو مسافت پوری کر دی لی۔ چونکہ لڑکپن تھا۔ بھاگنے دوڑنے کا شوق تھا اس لیے گھنٹے سوا گھنٹے میں واپس آ کر طواف و سعی کر کے بال تو روز روز کہاں ہوتے تھے دو چار قرش میں سر پر استرا پھرواتے۔ گھر آ کر کپڑے پہننے سحری کھاتے اور صبح کی نماز پڑھ کر جو سوتے تو قبل ظہر ہی اٹھتے۔ رمضان کی رات کا جا گنا اسی سال سے شروع ہوا ہے۔ بڑے مزے اور لطف سے رمضان گزرتا رہا۔

### ایک عربی کا حضرت کی دعوت کرنا اور اس کا دلچسپ قصہ:

ایک دن ایک ملکی عرب کے یہاں حضرت قدس سرہ کی دعوت ہوئی، ہم لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم سے کیا واسطہ، حاجی صاحب نے گھر میں اطلاع کر دی ہو گی اور حاجی صاحب نے گھر میں اطلاع نہیں کی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے دعوت ہی کی خبر نہیں ہوئی۔ بہر حال اماں جی نے سب کا کھانا پکوالیا اور قبل مغرب دعوت کا کھانا۔ ماشاء اللہ عربوں کی دعوت تھی خوان پر خوان گھر آگئے اور حاجی جی کا غصہ اور پارہ آسمان پر چڑھ گیا۔ خوب ناراض ہوئے۔ کھانے کو تو سب تیار ہو جاتے ہیں اتنی زبان بلاتے ہوئے بھی بوجھ معلوم ہوتا تھا اور ان سے اماں جی کم خفا ہوئیں۔ ارے مجھ بڑھیا کا خیال کر لیتے۔ گرمی میں روزے میں پکائے میں بھی وقت اور پکوانے میں بھی وقت ہے۔ حضرت قدس سرہ نے کچھ نہیں فرمایا۔ حاجی صاحب مرحوم اور اماں جی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ یہ کل کو باسی ہو گا۔ اس کو روزے دار کیے کل کو کھائیں گے۔ مغرب کے بعد کچھ کھایا اور کچھ دعوت کا حضرت نے دوسرے لوگوں کو دلوایا۔ مگر پھر بھی بہت تھا۔ حسب معمول عمرے سے فراغ پر ہم نے سحری کھائی۔ اماں جی نے معمول کے موافق دے دیا۔ ہم نے کھالیا میں نے حاجی انیس صاحب سے کہا کہ اور لاو۔ وہ اوپر لینے گئے۔ اماں جی نے کہا کہ دعوت کا کھانا بہت مزے کا لگا۔ انہوں نے اور تھوڑا سادے دیا۔ ہم نے اس کو ختم کر کے کہا کہ اور لاو۔ بھائی انیس محروم تھے وہی لا یا کرتے تھے۔ وہ اور لینے گئے۔ اماں جی نے فرمایا کہ آج تو ہاضم بہت ہی کھل رہا ہے۔ بھائی انیس مرحوم بھی ان ہی کے بھانجے تھے۔ کہنے لگے کہ خالہ اچھی طرح سے دے دو بار بار آنا پڑتا ہے وہ زکریا نہیں مانتا، اماں جی نے فرمایا کیا بات ہے تمہارے ساتھ اور کوئی ہے۔ حاجی انیس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ وقت تھوڑا ہے جلدی دے دو۔ اماں جی نے اور دے دیا۔ بھائی انیس مرحوم بھی ان ہی کے بھانجے تھے۔

کچھ مزہ آرہا تھا اور مجھے سب سے زیادہ کہ مغرب کے وقت ڈانٹ سن رہے تھے۔ اماں جی نے فرمایا کہ یہاں کچھ نہیں رہا اور پکانے کا بھی وقت نہیں۔ اماں جی کی اور بھائی انہیں کی اچھی خاصی لڑائی ہو گئی کہ اسی پر خفا ہو رہی تھیں لا اُب دو۔ صبح کو حاجی مقبول نے مطالبہ کیا کہ ارے رات تم نے کیا کیا کہیں چھپا کر رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ چھپا کر کس کے واسطے رکھتے کوئی جو رو بیٹھی تھی یہاں۔ حضرت قدس سرہ کے یہاں مقدمہ پیش ہوا۔ اماں جی نے فرمایا کہ رات کو لڑکوں نے معلوم نہیں کیا کیا۔ گھر کا اور دعوت کا سب کھالیا۔ انہیں اور مانگنے آیا تھا میں نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے اپنے قرب خاص سے نوازے بہت ہی شفقت سے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے روز بھوکے ہی رہتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ اللہ کا فضل ہے۔ روزانہ سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ ہمارا لڑکپن ہے دو وقت کا ایک وقت کھالیں تو بھی گرانی نہیں ہوتی۔ دو وقت نہ بھی ملے تب بھی کوئی بیتا بی نہیں ہوتی۔ مگر اماں جی اور حاجی جی کی اخیر تک سمجھ میں نہ آیا کہ اس رات کو لڑکوں نے کیا کیا۔

### ہم لوگوں کی مدینہ پاک حاضری اور سفری داستان:

اسی سفر میں ملکہ مکرمہ میں عید الفطر کی صبح کو مولانا محمد حسین جبشی ثم المکی یکے از خلفاء حضرت سیدی و مرشدی قدس سرہ کی درخواست پر حدیث مسلسل یوم العید کی اجازت حضرت قدس سرہ نے عطا فرمائی۔ قراءت اس سے کارنے کی تھی۔ رمضان المبارک کے بعد حضرت اقدس نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ میں تو مدینہ منورہ کچھ طویل قیام کے ارادہ سے آیا تھا۔ مگر مولانا محب الدین صاحب تو مجھے تجھ تک قیام کی بھی اجازت نہیں دیتے فوراً واپس جانے کا تقاضہ فرمارہے ہیں۔ میری حاضری تو مدینہ منورہ کئی دفعہ ہو چکی اور قیام کی اب گنجائش نہیں ہے۔ تم لوگوں کا پہلا سفر ہے معلوم نہیں کہ پھر مدینہ حاضری ہو یا نہ ہو تم مدینے ہواؤ اور حضرت نے ہم چاروں کا سامان اور پیے وغیرہ تو وہیں الحاج علی جان مرحوم کی دوکان پر جمع کر دیے۔ میرے پیے تو حاجی مقبول صاحب مرحوم کے پاس تھے اور ہم لوگوں کو بارہ دن جانے کے اور بارہ دن واپسی کے اور تین دن مدینہ پاک قیام کے حساب سے دال چاول ہمارے ساتھ کر دیے اور چار آنہ یومیہ کے حساب سے چوبیس یوم کی جمال کی بخشش اور دس روپے مزید دلوادیے۔ میرے پاس کچھ اپنے بھی تھے۔ چونکہ انتہائی بد امنی کا زمانہ تھا۔ راستے نہایت خطرناک اور مخدوش تھے خوب لوٹ مار راستے میں ہوتی تھی۔ اس لیے بہت ہی قلیل حاج مدینہ منورہ گئے۔ ہمارے بد و کے تین اوٹ تھے دو ہم چاروں کے اور ایک اوٹ سہارنپور کے پٹھانپورہ محلہ کی ایک عورت اور اس کے خاوند کا تھا، ہم اس کو شیبہ کے نام سے پکارا

کرتے تھے نام یاد نہیں۔ تین اوٹ آنھے کے خان صاحبان حاجی رفیق محمد اور ان کے رفقاء کے تھے، تین اوٹ حسن پور کے خان صاحبان عبدالوحید خاں وغیرہ کے تھے اور دو یا تین اوٹ حاجی نظام الدین صاحب جاذم والے کاپوری یکے از خدام حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے تھے۔ یہ گیارہ بارہ اوٹوں کا قافلہ ہمارا تھا۔ اسی طرح پندرہ بیس اوٹوں کے قافلے اور بھی دس بارہ تھے۔ چونکہ سلطانی راستہ بہت مخدوش تھا اور شیرے اس راست پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پڑے رہتے تھے۔ اس لیے اس سال قافلے بجائے سیدھے راستے کے جدہ ہو کر سمندر کے کنارے جبل غارہ کے اوپر کو گئے تھے۔ یہ پہاڑ نہایت ہی خطرناک اور مخدوش تھا، اب تک اس کے تصور سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ایک جانب تو اس کے پہاڑ آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ دوسری جانب اس کے غار تحت الشہی تک اس میں ایک چھوٹی سی شاہراہ (بیٹا) پر کو ایک ایک اوٹ جمال نکیل پکڑ کر لے چلتا تھا کہ اگر ذرا اس کا پاؤں لغوش کھائے تو تحت الشہی میں گرے اور اوٹ کا پتہ بھی نہ چلے اور سواریاں ساری پیدل دودو اوٹوں کے درمیانی فاصلے میں چلتی تھیں۔

یہ حصہ تو بہت ہی خطرناک تھا جو مدینہ پاک سے تین منزلہ پہلے تھا۔ اس پہاڑ سے کچھ پہلے سارے شغدف اُتار دیے گئے تھے۔ اوٹوں کی پشتوں پر سامان یا نہ دیا تھا اور اسی پر جہاں کھلا راستہ ملتا حاجی سوار ہو جاتے اور جہاں کوئی چڑھائی وغیرہ آتی اتر جاتے۔ یہ منزل تو بہت ہی دشوار گزار تھی لیکن بہت محفوظ کہ اتنے آدمی خود اس جگہ نہ پہنچے دور سے کسی کون دیکھ سکتا تھا معلوم ہوا کہ حضور اقدس کا سفر بھرت بھی اسی راستے ہوا تھا۔ غارہ کی منزل سے نکلنے کے بعد کھلا میدان آگیا تھا جس میں اوٹ حسب معمول رات کو چلتے تھے مگر چونکہ شغدف وغیرہ پہاڑ سے پہلے اُتار دیے گئے تھے اوٹوں پر سامان کے اوپر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اسی لیے ذرا سی نیند کے جھونکے میں سواریاں اوٹ پر سے آم کے ٹپکے کی طرح سے خوب گرتی رہتی تھیں۔ یہ ناکارہ تورات کو اوٹ پر سواری نہ ہوتا تھا مگر دوسروں کے لیے یہ مشکل تھی کہ دن میں دھوپ کی تمازت اور کسی قسم کا سایہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں کو دن میں بھی سونے کی نوبت نہ آتی تھی۔ اس مجبوری کو اوٹوں پر بیٹھنا پڑتا تھا اور خوب گرتے تھے۔ اس سے کاروہ زمانہ صحت کی عمدگی کے اعتبار سے ایسا تھا کہ گرمی سردی دلوں کا احساس نہ ہوتا تھا۔ میں منزل پر پہنچ کر اول وقت ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ کر مٹھنے کے ریت پر خوب سوتا تھا۔ اس وقت تو بھی اول وقت نماز پڑھ کر سو جاتے تھے۔ مگر اوروں کی مصیبت یہ تھی کہ جہاں دھوپ میں تمازت آتی وہ جاگ جاتے اور میں تقریباً ہندوستانی گیارہ بارہ بجے کے درمیان اٹھتا۔ میرے پیٹے سے میرے پیچے کاریت اس قدر بھیگ جاتا کہ لگتا کسی نے پانی ڈال رکھا ہے۔ واپسی پر چونکہ احرام کی وجہ سے بدن پر کپڑا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا اس لیے گرمی

کی وجہ سے ایسے دھا پڑ پڑ گئے تھے جو بلا مبالغہ کبوتر کے انڈوں کے برابر ہوتے تھے۔ میں نے تو اس مدینہ کے سفر میں کسی دن کچھ زی نہیں کھائی۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی ہر منزل پر ایک دنبہ خرید لیتے تھے۔ جو ایک یادو م吉دی کا آ جاتا تھا۔ اس زمانہ میں م吉دی وہاں کا ایک عام سکر تھا جیسے اس زمانے میں ریال ہوتا ہے۔ خریدتے ہی آبھے کے جملہ احباب چونکہ مشاق شکاری تھے وہ اس کو دس پندرہ منٹ میں ذبح کر کے کھال نکال کر بوٹیاں کر لیتے تھے۔ اور کھال کی بد و کودے دیتے تھے۔ وہ بد و کھال لے کر اس قدر خوش ہوتا اُچھلتا کو دتا لوگوں کو دکھاتا پھرتا اور دنبہ کی بوٹیاں فوراً چار جگہ تقسیم ہو جاتیں۔ چاروں دسترخوان پر جن کا اوپر ڈکر آیا یعنی ہمارا، آبھے والوں کا، حسن پور والوں کا اور کانپور والوں کا اور لوگ تو اترتے ہی کچھ زی پکاتے اور اس میں سے کھاتے اور دنبہ پکنے کے بعد روٹی پکا کر رات کے واسطے ساتھ لے لیتے۔ لیکن یہ ناکارہ کچھ زی نہ کھاتا تھا۔ اپنے دنبہ میں سے ایک دو بولی کھا کر بقیہ ٹینوں دسترخوان کا دنبہ چکھتا کہ ہر ایک کو اصرار اور اشتیاق تھا۔ چونکہ حضرت قدس سرہ نے چلتے وقت مکہ سے اس سیہ کار کو قافلہ کا امیر بنادیا تھا۔ اس لیے چاروں جماعتوں کے یہاں جا کر ان کی خیر خبر لینا ان کی یا ان سے جمال کو کچھ شکایت ہوا س کو سننا اور اس کا تصفیہ کرنا۔ اسی میں کچھ کھانا پینا اس سیہ کار کا مشغله تھا۔ مولوی لطیف الرحمن مر حوم میرے عزیز بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے میرے دونوں ساتھیوں مولا نامنظور احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور حاجی انجیس مر حوم کو بہکایا کہ ہم لوگ تو پکاویں اور یہ امیر صاحب یوں ہی ٹھیلتے پھرتے ہیں، ایک دن ان سے بھی پکوانا چاہیے۔ مولا نامنظور احمد نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا امیر ہے چنان چنیں ہے۔ سب کی خیر خبر لیتا ہے یہ بھی تو ایک کام ہے۔ اللہ ان کو جزاۓ خیر دے بہت ہی سمجھایا مگر وہ دونوں راضی نہ ہوئے۔

ایک دن انہوں نے متفقہ طور پر مجھ سے کہا کہ حضرت، امیر صاحب آپ کو بھی تو کچھ پکانا چاہیے، میں نے کہا بڑے شوق سے مگر مجھے پکانا نہیں آتا۔ ماموں لطیف نے کہا کہ ہم نے ساری عمر باور پھی گری کی ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ تم سے بہتر پکانے والا اس جمع میں کوئی نہیں ہے طباخ بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ واقعہ بھی تھا مر حوم کا قیام اس زمانہ میں سہارنپور ہی میں تھا، پکانے کے تہایت شوقین اور تہایت لذیذ کھانے پکاتے تھے۔ چھلی، کوفتے، پلاو۔ سہارنپور میں شوقیہ بہت مرتبہ ان سے پکوانی مگر اس دن ان کو غصہ آرہا تھا کہنے لگے کہ میں نے باور پھی کی ملازمت آج تک کہیں نہیں کی۔ تھوڑی اسی تو تو میں میں کے بعد میں نے کہا کہ لڑائی کی بات نہیں۔ تم لوگ بتاتے رہو ہم پکائیں گے۔ مر حوم نے کہا ہم نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا کہ جانے دو۔ لکڑیاں بیچنے والی تو ہر قافلہ والوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ پھر وہ کاچو لہا بنا کر اور

لکڑیاں اس میں رکھ کر دیا سلامی اس میں لگائی۔ بھلا دیا سلامی سے لکڑی کیسے جل سکتی ہے۔ ہم نے تین چار دیا سلامیاں چھوٹک دیں۔

وہ شیبہ جس کا اونٹ ہمارے ساتھ تھا اس کی بڑھیا بیوی اپنے میاں سے کہنے لگی کہ ان مولانا صاحب کو آگ جلانا بالکل نہیں آتی تو جلا دے۔ میرے محترم دونوں بزرگ اس پر بگڑ پڑے کہ تو نے ہماری آگ بھی جلانی؟ اس نے کہا کہ تم کو تو جلانی آتی ہے۔ ہمارے ان مولانا صاحب کو آتی نہیں۔ اس بڑھیا نے اس بوڑھے سے کہا کہ ارے نہیں میرے چولہے کی ساری لکڑیاں ان کے چولہے میں رکھا۔ اس کا چولہا خوب جل رہا تھا۔ میں نے اپنے چولہے کی لکڑیاں نکال کر ان کے چولہے کی طرف ڈال دیں اور دیکھی میں پانی خوب بھر کر ہم نے پوچھا کہ کچھڑی کتنی پڑے گی وہ دونوں خوب ناراض ہوئے کہ جان جان کر باڈلا بتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نقصان ہو گا میں تو پکاروں گا۔ مولانا منظور احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اٹھ کر میری دیکھی میں سے آدھا پانی لوٹے میں ڈالا۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس بھری دیکھی میں کچھڑی ڈالی تو پانی نکل کر آگ بجھا جاوے گی وہ بدھا اور بڑھیا بھی خوب نہیں رہے تھے اور ان کے ہنسنے پر میرے دونوں محترم موسوں کو خوب غصہ آرہا تھا۔ مولانا منظور احمد صاحب نے فرمایا کہ دلوپیں بھر کر کچھڑی کی ڈال دو اور پھر ایک لپنک کی بھر کے اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ بوڑھا بولا کہ ابھی مولوی صاحب خراب ہو جائے گی۔ ہم نے کہا تو بتا دے۔ اس نے چٹکی نمک لے کر ذرا سا ڈال دیا۔ حاجی انہیں صاحب کوزور سے بولنے کی عادت بہت تھی۔ کہنے لگے کہ بھی تو نے ہماری ہانڈی کی بھی خبری۔ بقیہ تینوں دسترخوان بھی قریب قریب تھے۔ پہلے تو آبھی کے پیھان لمبے لمبے قدا اور لمبی لمبی لامبھیاں لے کر آئے کہ ارے شخشو! تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپس کی بات ہے جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو ہمارا بھی امیر بنایا ہے ان کا اکیلے کا نہیں۔ دیکھو بھی شخشو! اگر ہمارے امیر کی شان میں گستاخی کی تو ہم سہ پھوڑ دیں گے اور ان لوگوں کو واقعی غصہ آگیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھوا میر صاحب، اگر تم نے آج سے ان کے یہاں روٹی کھائی تو آپ کی بھی خیر نہیں۔ اتنے میں یکے بعد دیگرے حسن بورا اور کانپور والے بھی آگے انہوں نے متانت اور تہذیب سے گفتگو کی۔ مضمون ایک ہی تھا ان سے تو یہ کہا کہ تم نے ہمارے امیر صاحب کو چنان چیز کہا اور مجھ سے اصرار کیا کہ آج سے کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے سے بھی کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاتا ہوں، باقی میں اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا مطالبہ صحیح ہے مجھے پکانے میں شریک ہوتا چاہیے مگر میں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ بدؤں سے لڑنا بھی ان کا کام

ہے وہ میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ بہر حال بڑی خوشامد کے بعد ان سب کو واپس کیا۔ میرا جمال فرج اللہ تام طائف کا رہنے والا میرے ہم عمر لڑ کا تھا۔ پہلے ہی دن سے اس سے دوستی ہو گئی وہ چار آنے فی نفر بخشش لاتا اور میرے پاس امانت رکھواتا۔ میں اس سے کہتا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کا جب (تربوز) خرید لا، چونکہ قافی نہیں تھے اس لیے راستے کی چیزیں بڑی ستی تھیں اور تربوز خربوزہ راستے میں خوب ملتے تھے۔ وہ ہر منزل پر کئی کئی تربوز اور خربوزے خرید لاتا اور ہم سب رفقاء اور ادھر ادھر کے آدمی مل کر کھاتے۔ اس جمال کو مجھ سے محبت حد سے زیادہ ہو گئی تھی۔ میں اکثر اخیر کی منزاویں میں پاؤں چلتا تھا۔ ایک مرتبہ پاؤں پر کاشا چبھ گیا اور وہ ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ اس جمال کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ رورہا تھا اور بدؤں کو نکھنڈی لے کر یکے بعد دیگرے بلاتا اور روکر یہ کہتا تھا کہ یہ کاشا اس کے پاؤں میں نہیں بلکہ میرے دل میں چھڑ رہا ہے۔ جلدی نکالو۔

سارے سفر میں اس کی امانت جو مجھ پر قرض تھا ۷۲ مجيدی ہو گئے تھے۔ میں تو مطمئن تھا کہ مکہ جا کر ادا کر دوں گا۔ چونکہ لا قانونی دور تھا اور جب حاجی یوں کہتے کہ ہم واپسی پر تمہاری شریف حسین سے شکایت کریں گے تو یہ وہ کہتے کہ ”من شریف؟ انا شریف“ (شریف کون ہے شریف تو میں ہوں) اس لیے جب واپسی پر مکہ قریب ہوا تو پھر حاجیوں نے زور دکھانا شروع کیا کہ ہم حکومت سے شکایت کریں گے۔ ہندی سفارت خانے میں جاؤ ان سب کو پکڑ داؤ۔ ان سب کو ڈر کے مارے سارے اوٹ والے قافی کو عشاء کے بعد مکہ پہنچا کر اپنے اپنے اوٹ لے کر ایسے فرار ہوئے کہ کسی کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں بھی فرج اللہ کو اس کے قرضہ کی وجہ سے اور انعام دینے کی وجہ سے بہت تلاش کرتا رہا، مگر آج تک اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس کا قرضہ مدرسہ میں لقطہ کے نام سے تقدیق بھی کر چکا ہوں اور اس کو اب تک خوب یاد کرتا ہوں۔

### مددیہ پاک میں بجائے تین دن کے ایک ماہ قیام کرنا:

پہلے لکھواچکا ہوں کہ جبل غائزہ سے پہلے سارے ف Gundf رکھ دیے تھے۔ مگر جو شخص بدؤ کو پانچ اشرفی دیتا اس کا شغدف تو وہ لے جانے پر تیار تھے۔ ایک یادو کے سوا کوئی شخص پانچ اشرفیاں دینے پر تیار نہ ہوا۔ میرا جمال بہت ہی شدید اصرار کرتا رہا ہے تمہارا شغدف بلا معاوضہ جائے گا۔ میں نے زبردستی اوٹ پر سے اُتار لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اکیلے کا شغدف جائے، مجھے اس میں ساتھیوں سے ندامت ہوتی ہے اور سب کا لے جانا واقعی خطرناک تھا۔ ایک دو شغدف کو اس طرح پر کہ ایک جمال تو اوٹ کو پکڑے اور ایک دو شغدف کو پکڑیں جا سکتا تھا۔ ہم لوگ اول شوال میں مکہ سے چل کر بیس شوال کے قریب مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ مدینہ پاک

میں قیام کی صرف تین دن کی اجازت تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی مسکھرنا چاہے تو اپنے بدوکور ارضی کرے اور ایک اشتر فی روزانہ فی نفر جمال کو دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی کیا انتہا ہے ہمارے مدینہ پہنچنے پر ہمارے قافلہ کا ایک اونٹ مر گیا۔ زمانہ چونکہ بے اطمینانی اور بد اعتمادی کا تھا اس لیے بدوں کو وہاں قرض دمل سکا حکومت بھی اس وقت بدوں کی خدمت کرنے سے معدود تھی۔ بدوہم سے کہتے تھے کہ اگر تم لوگ ہم کو قرض دے دو مکہ جا کر ادا کر دیں گے تو ہم اونٹ خرید لیں گے، ہمارے پاس پیے نہیں اور میں ان سے یہ کہتا کہ ہمیں تو ہمارے شیخ نے صرف تین دن کے کھانے کا سامان دیا تھا۔ اب یا تو تم لوگ لے چلو یا ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ بے چارے خوشامد کرتے اور ہم اللہ معاف کرے ان کو ڈاٹ دیتے آٹھ دس دن میں ایک مرتبہ امیر مدینہ کے پاس بھی شکایت لے کر پہنچ جاتے وہ ایک بالاخانے پر چار پانچ بدوہمیت عمدہ مشلیح پہنچنے ہوئے برابر برابر بیٹھے تھے اور ہماری شکایت پر معدورت کرتے کہ تمہارے بدوکا اونٹ مر گیا اس کو کہیں قرض نہیں ملتا۔ تم کو تکلیف تو ہو رہی ہے۔ مگر مدینہ کی تکلیف اجر سے خالی نہیں۔ اللہ کے احسانات کی کیا انتہا ہے کہ بجائے تین دن کے ایک ماہ کے قریب مدینہ پاک میں قیام رہا اور پانچ گنی روزانہ دینے کے بجائے بمالوں کو خوب ڈاٹ اور امراء مدینہ کی طرف سے خوشامدی مزید برآں ہوتی رہیں۔

آخر دنی قعدہ میں جب حج کا وقت بہت ہی نگ رہ گیا تو اسی رو سیانے روضۃ القدس پر حاضر ہو کر واپسی کی اجازت چاہی اور عرض کیا کہ ساتھیوں میں سے بہت سے حج بدل والے ہیں۔ اگر حج نہ مل سکا تو ان ساتھیوں کو بڑی دقت ہوگی۔ روضۃ القدس پر درخواست پیش کرتے ہی معلوم ہوا کہ بدو کو کہیں سے پیے قرض مل گئے وہ اونٹ کی تلاش میں ہے۔ کل کو اونٹ مل جائے گا پرسوں کو واپسی ہے۔

### بندہ کے پاس مولانا شیر محمد صاحب کا امانت رکھوانا اور اس پر میری شرائط:

ای وقت مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا شیر محمد صاحب گھونکی (سنده پاکستان) والے جو آخر میں مہاجر مدینہ بن کر وہیں جنت البقیع میں مدفن ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ واسعۃ۔ حضرت حکیم الامم کے مخلص خدام اور میرے والد صاحب کے مخلص دوست مدینہ آئے ہوئے ہیں اور کل سے مجھ کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ مجھ کو دو دن سے تلاش کر رہے ہیں۔ مل کر پڑ گئے اور فرمایا کہ کل سے تم کو تلاش کر رہا ہوں۔ ہمارا قافلہ پرسوں سے آیا ہوا ہے، ہم ایک مصیبت میں پھنس رہے ہیں وہ یہ کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم لوگ اپنے شقد فون پر قائمین بندھوالائے تاکہ دھوپ کی تماثیل سے امن رہے جب سے یہاں آئے ہیں ہمارا قافلہ تو رو سا کامشہور ہو رہا ہے اور

تمہارے متعلق پرسوں سے ہر شخص کی زبان سے یہ سن رہا ہوں کہ ایک ہندی قافلہ فقیروں کا پڑا ہوا ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ ہر بچہ بڑے کی زبان پر تمہارے متعلق یہی ہے اور ہمارے متعلق ہر شخص کی زبان پر روسا کا قافلہ مشہور ہو رہا ہے۔ ہم کو اپنی جانوں کا خطرہ ہے ہمارے پاس بہت سی اشرفیاں ہیں اللہ کے واسطے ان کو تو اپنے پاس رکھ لے ملکہ جا کر لے لوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے خطرہ آپ کے لیے ہے سب ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر کسی کوشش نہیں ہو سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے ان کو اپنے تکیے میں سی لو میں نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ بدوارستہ کے درمیان میں تکیوں پر کھو دامارتے ہیں اگر ان کو ذرا بھی شبہ ہو گیا تو گنیوں کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں۔ انہوں نے بہت ہی خوشامد کی اللہ کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ اس غربت کی حالت میں مالک نے وہ مدد فرمائی۔ بڑے اصرار کے بعد میں نے تین شرطوں کے ساتھ قبول کر لیا۔

نمبر امکہ میں ادا نہیں کروں گا۔ ہندوستان پہنچ کر چار ماہ میں ادا کروں گا۔

نمبر ۲ یہ کہ اشرفیاں نہیں لوں گا ان کے ہندی نوٹ بنا کر آپ مجھے دیجئے۔

نمبر ۳ مکہ میں حضرت کو اس کی اطلاع نہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے تینوں شرطوں کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور مجھے سات آٹھ ہزار کے نوٹ ہندی لا کر دے دیے۔

میں ان کو جیب میں ڈال کر اول اپنے رفقاء کے پاس اور پھر آبھے، کان پور، حسن پور والوں کے پاس گیا کہ بھائی دیکھو پرسوں کی روائی ٹے ہو گئی۔ تمہیں بھجو ریس خریدنے کے واسطے جتنے پیسے چاہیں لے لو۔ اول تو میرے ساتھیوں نے میرا مذاق اڑایا کہ مدینہ پاک میں بھی ایسی بناوٹی باتیں کرتے ہو۔ مگر جب میں نے توٹوں کا گٹھان کمال کر سامنے کیا تو ہر شخص پوچھنے لگا کہ یہ کہاں سے آئے۔ میں نے کہا کہ تم کو اگر چاہیں تو بتاؤ ورنہ میں دوسروں پر احسان رکھوں۔ چنانچہ میں نے اور میرے رفقاء نے چار سو پانچ سو کی بھجو ریس خریدیں اور حضرت مدینی قدس سرہ کے برادر معظم حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے توسط سے تجارت کے اونٹوں پر براہ راست پہنچ دیں اور بقیہ رقم دوسرے رفقاء پر جس نے جو مانگا ہزار دو ہزار دو شرطوں کے ساتھ ان کو قرض دیا۔ ایک تو یہ کہ مکہ میں حضرت قدس سرہ کو خبر نہ ہو، دوسرے ہندوستان پہنچ کر تین ماہ کے اندر اندر مجھے ادا کر دیے جائیں۔

### مولانا سید احمد صاحب کی فیاضیاں:

حضرت قدس سرہ کو حاجی امیں صاحب کے ذریعہ کچھ پتہ چلا۔ تفصیل حاجی امیں کو بھی معلوم نہ تھیں۔ مگر حضرت قدس سرہ نے جواب طلب نہ فرمایا۔ ہمارے مدینہ سے چند روز قبل حضرت

مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی طویل جلاوطنی کے بعد جس کا ذکر پہلے آچکا ہے مدینہ پاک آئے تھے۔ ان کی وجہ سے ہم چاروں کا قیام ان کے اس ذاتی مکان میں تھا۔ جس کو انہوں نے اور ان کے والد صاحب اور حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ بہت ہی خوشما اور پُر فضائی کمرے پر ابرا اور ہر کمرے میں مستقل کتوں، اندر کے صحن میں تھجوروں کے درخت جن پر رطب آ رہی تھیں۔ حضرت مولانا احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی فیاضی کا تو گیا پوچھنا۔ وہ اپنی بے سروسامانی کی حالت میں علی الصباح ایک رطب کی قرض خرید کر میرے کمرے میں رکھ دیتے اور ہم لوگ شام تک اس کو ختم کر دیتے۔ دونوں وقت نہایت لذیذ کھانے بازار سے خرید کر لاتے اور اپنے دست مبارک سے اس میں مرچیں اور ٹھیڈی ڈال کر خوب بھوتتے، بڑے اصرار سے کھلاتے۔ تازہ پیسر دونوں وقت کی چائے وودھ کی۔ غرض مدینہ پاک کے اس ایک ماہ قیام میں ہم چاروں کونہ کچھ خریدنا پڑا۔ آخر ڈیقعدہ میں مدینہ پاک سے چل کر بارہ دن میں جہاں تک یاد ہے ۲۴ ذی الحجه کو مکہ پہنچے۔ یہی تاریخ سید الکوئین فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ججۃ الوداع میں مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی ہے۔

حج کے بعد حضرت مولانا محبت الدین صاحب قدس سرہ کے شدید اصرار کے باوجود ایک ماہ کے قریب مکہ میں قیام رہا اور محرم کے دوسرا عشرينے میں روانہ ہو کر دو تین دن بمبی میں قیام کے بعد ۸ صفر ۱۳۹۵ھ میں حضرت قدس سرہ کی ہمراکابی میں سہار پور پہنچنا ہوا اور اس کے بعد وہ حرمین شریفین میں شریف حسین کی یغاوت اور سعودی حکومت کا قیام ہوا جس میں بہت قتل عام ہوا۔

اس سفر میں ایک عجوبہ بھی پیش آیا۔ حضرت قدس سرہ کو مناظر ہر علوم کے ساتھ گویا عشق تھا۔ ہر نوع کی فلاج و بہبود ہر وقت ملحوظ خاطر تھی۔ خاص طور سے کتب خانے کے لیے کوئی نادر کتاب کہیں مل جاتی تو حضرت مدرسہ کے لیے اس کے حصول کی بہت ہی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اسی سفر میں مدرسہ کے لیے صحیح الاعشی خرید کر لائے تھے جو اسی زمانے میں چھپی تھی اور مکہ مکرمہ میں تازہ پہنچی تھی اور ہندوستان میں کہیں نہیں آئی تھی۔ اسی سفر میں حضرت قدس سرہ الحاج عبد اللہ عبید اللہ علی جان والوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ ان کے یہاں مصنف عبدالرزاق کا قلمی نسخہ تھا۔ حضرت قدس سرہ نے مدرسہ کے لیے اس کے خرید نے کی خواہش فرمائی۔ انہوں نے سو (۱۰۰) گنی اس کی قیمت بتائی۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی حضرت کی رعایت سے ہے۔ ان کے پاس سے اٹھ کر جب باہر نکلے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی اجازت لے لیں کہ ہم لوگ اس کو نقل کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ واپسی کے چند دن باقی ہیں اتنے میں کیے نقل ہو گی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت انشاء اللہ ضرور ہو جائے گی۔ آپ اجازت تو لے لیں۔ حضرت

نے فرمایا کہ بہت دشوار ہے وقت ہی کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت لے تو لیں۔ حضرت وہیں سے واپس ہوئے اور ان سے نقل کی اجازت مانگی۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دس بارہ دن واپسی کے رہ گئے ہیں کیوں انکار کریں، یہ کہہ دیا کہ بڑے شوق سے نقل کرائیں۔

### حضرت نور اللہ مرقدہ کامدرسہ سے تعلق:

میں نے اس کو لا کر جلدی جلد توڑی اور اس کا زیادہ حصہ اپنے ذمہ اور بقیہ متولی طفیل صاحب کاندھلوی، مولانا منظور احمد صاحب، بھائی افس صاحب اور مولوی اسحاق، مولوی عبدالجید تھانوی، قاری عبدالعزیز مدرس تجوید مظاہر علوم، مولوی لطیف الرحمن، مولوی جبیب احمد نارنولی وغیرہم کے ذمہ تقسیم کر دیا جو اس سفر میں ساتھ تھے۔ صبح سے لے کر ظہر تک ہم لوگ اس کو نقل کرتے اور عصر سے مغرب تک میں اور حضرت قدس سرہ اس کا مقابلہ کیا کرتے۔ دس پندرہ دن میں نقل ہو گئی۔ ہندوستان واپسی کے ایک دو دن پہلے اس کی جلد بخوا کر حضرت قدس سرہ کے ساتھ حاجی عبید اللہ صاحب کے مکان پر حاضری ہوئی اور وہ کتاب واپس کی۔ انہوں نے کتاب لے کر کہا کہ حضرت میں تو پہلے ہی عرض کرنے کو تھا وقت بہت تھوڑا ہے اس میں کیسے نقل ہو سکتی ہے۔ حضرت قدس سرہ نے اس سے کارکی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جزاۓ خیر دے، انہوں نے نقل کر لی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت پوری نقل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا، جی ہاں اللہ کا شکر ہے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور ان کو یقین بھی نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ حضرت وہ نقل میں ضرور دیکھیوں گا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی لاتا ہوں۔ میں لے کر ان کو دکھانے لایا۔ اتنا ضرور تھا کہ کئی خط تھے اور جلت میں خوش خط بھی نہ لکھی جاسکی۔ مگر دس بارہ دن میں دونوں جلدیں پوری ہو گئیں تھیں۔

### دوسرा اور تیسرا

### پنڈہ کا حضرت قدس سرہ کی ہمراہی میں دوسرا حج اور واپسی پر تیسرا حج:

اس سے کارکا ۲۳، ۲۵، ۳۸ھ میں میرے آقا میرے مرشد حضرت قدس سرہ کی ہمراہی میں ہوا۔ میرے حضرت کی ہمیشہ سے تمنا مدد یہ پاک میں موت کی تھی۔ ۳۸ھ میں بھی اسی تمنا میں تشریف لے گئے تھے مگر مولانا محب الدین صاحب کے اصرار سے واپس آنا پڑا۔ اس مرتبہ بھی حضرت قدس سرہ طویل قیام کے ارادہ سے تشریف لے گئے اور مدرسہ سے ڈیڑھ سال کی رخصت لی۔ چونکہ حضرت قدس سرہ کا طویل قیام کا ارادہ تھا اور اس سے کارکی ملازمت کے علاوہ قرض کا بار بھی تھا

اور وہ بچیاں والدہ ہارون اور والدہ زبیر پیدا ہو چکی تھیں۔ ان سب کی خورد و توش کا بھی انتظام تھا۔ اس لیے میرے اور حضرت قدس سرہ دونوں کے ذہن میں اس ناکارہ کا جانا نہیں تھا، اسی لیے میرے اور حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مراجعہ نے اپنی غیبت کے جوانظمات لکھوائے اس میں حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ناظم اور اس سیدہ کارکو صدر مدرس بنادیا۔ یہ تحریر میری لکھی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت مہتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تھی۔ مگر چونکہ ڈاک کا اعلق مجھے ہی سے تھا۔ ہر وقت کے مجرہ کی آمد و رفت بھی تھی اور وہ میرے ہی کاغذات میں رکھی ہوئی بھی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو راز میں بھی نہیں سمجھا اور پڑھ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر کہ مجھے صدر مدرس بنایا گیا ہے میرے ہوش اڑ گئے۔ حضرت اوپر پیشاب کے لیے تشریف لے گئے اور یہ ناکارہ پیچے پیچے پیچے لوٹا لے کر پہنچا۔

### حضرت کا سفر حیدر آباد اور ایک ہفتہ قیام:

میں نے عرض کیا کہ بذل کا کیا ہوگا۔ حضرت نے بہت ہی فکر اور سوچ سے فرمایا، فکر تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ تمہارے بغیر تو میں لکھ بھی نہیں سکتا۔ جس کی تفصیل پہلے گزرنگی۔ اس ناکارہ کی ہم رکابی طے ہو گئی اور چونکہ حیدر آباد کے احباب کا حضرت قدس سرہ پر بہت دونوں سے اصرار تھا کہ حیدر آباد دو چار دن کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس لیے قرار پایا کہ امام جی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حاجی مقبول اور سب رفقاء سہار پور سے سید ہے بمبی جائیں اور حضرت قدس سرہ ایک ہفتہ کے لیے حیدر آباد ہو کر جائیں۔

یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ ایک خادم کا حضرت کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور چونکہ فرست کلاس کا سفر تھا۔ اس وقت میں سہار پور سے بمبی تک کا کرایہ گیارہ بارہ روپے تھا اور سہار پور سے حیدر آباد کا کرایہ فرست کلاس چونٹھ روپے تھا۔ میں جلدی سے بول پڑا کہ حضرت کی ہمراکابی میں میرانام لکھ دو۔ امام جی وغیرہ سارا قافلہ سہار پور سے بمبی ۲۳ شوال پنجشنبہ ۲۹ کو روانہ ہوا اور چونکہ حضرت قدس سرہ کو حیدر آباد ایک ہفتہ قیام کرنا تھا اس لیے وہ ایک ہفتہ قبل ۱۶ شوال پنجشنبہ مطابق ۱۲۹ اپریل ۱۹۷۴ء کو حیدر آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت قدس سرہ کا اور اس سیدہ کارکاٹک تو فرست کلاس کا تھا اور مولوی زکریا قدوسی مرحوم کا سروٹ کا۔

### اگلے دن اس ناکارہ کی روانگی حیدر آباد اور میل کے ایشیانوں کا فریضہ:

اہل مدرسہ سے خوب الوداعی معاشرے ہوئے۔ راستے میں بھی ایشیان تک خوب ہوئے اور ایشیان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ چونکہ حضرت قدس سرہ گویا عمر بھر کے واسطے الوداع فرمائے تھے اس

لیے نہ صرف قرب و جوار بلکہ دُور دُور کا مجع الوداع کے واسطے آیا ہوا تھا اور سارا اشیش ڈٹ رہا تھا۔ سب سے رخصت ہو لیے اور گارڈ نے سینی بھی دے دی جب یاد آیا کہ حضرت قدس سرہ کا خاص بکس جس میں ساری امانتیں اور سب کے کرائے اور غالباً کچھ خصوصی سامان حیدر آباد لے جانے کا بھی تھا اور وہ عمومی سامان کے ساتھ اشیش پر پہلے سے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ بہت فہرست میں باشان تھا۔ تجویز یہ تھی کہ وہ حضرت قدس سرہ کے ساتھ فتن میں رکھا جائے گا، اس میں رکھنا بھول گئے۔ عین وقت میں یہ ناکارہ اور مولوی قدوسی مرحوم اتاردیے گئے کہ کل کو اسی گاڑی سے صندوق لے کر چلیں۔ وہی تک تو حضرت قدس سرہ کے ساتھ جانے والے بہت ہو گئے تھے۔ فرست میں بھی اور تحرڈ میں بھی لیکن اس کے بعد حیدر آباد تک حضرت کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔

جب میں اشیش سے پیدل مدرسہ آرہا تھا اور ہزاروں کا مجع حضرت کو رخصت کر کے واپس آ رہا تھا۔ اشیش سے مدرسہ تک وہ گالیاں نہیں لا تعدد لا تھضی۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی کیسے مکار ہیں۔ دیکھو یہ ریل پر سب سے معافہ کر رہا تھا۔ ”جب نہیں کہا گیا کہ میں نہیں جا رہا۔“ ابے فلاں، ابے یہ آگے آگے جو مولوی جا رہا ہے ”دیکھو کیسا دعا باز ہے۔“ اس وقت تو ہر ایک سے مصافحہ کر رہا تھا۔ مجھ سے بھی میسوں نے پوچھا کہ ”جی آپ تو حج کو جارہے تھے؟“ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ صندوق رہ گیا کہ خواہ منواہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا تھا۔ بعضوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی کچھ کام یاد آگیا۔ بعضوں سے کہا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، تو نے کیوں معافہ کیا؟

غرض مدرسہ تک خوب لتاڑ پڑی اور اگلے دن تک بھی لتاڑ پڑتی رہی۔ اگلے دن یہ ناکارہ صندوق لے کر اسی شام کے چار بجے کے ایک پرلیس سے جو اس زمانہ میں بھوپال کو جاتی تھی روائہ ہوا۔ یہ ناکارہ مع بکس کے فرست کلاس میں اور مولوی قدوسی مرحوم سروٹ میں۔ بکس کی وجہ سے مجھے بھی اکیلے ڈر لگ رہا تھا کہ فرست میں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ منمار تک تو ایک پرلیس سے چانا ہوا۔ وہاں سے حیدر آباد تک ریاستی ریل میں جو چھوٹی لائن سہارنپور تا شاہدرہ سے بھی چھوٹی تھی سوار ہوئے، مگر تیز وہ اس سے بہت چلتی تھی۔ میں فرست کلاس میں پاؤں پھیلائے پڑا ہوا تھا اور ہر اشیش پر سر اٹھا کر اشیش کی سیر کرتا تو عجیب منظر دیکھا۔ ہر اشیش پر پھیس تیس آدمی فرست کلاس کے سامنے رکوع تک تھنگ کے دو توں ہاتھوں سے سلام کر رہے تھے۔ میں بھی ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ یہاں فرست کلاس کے مسافروں کے ساتھ یہی ہوتا ہو گا۔

گاڑی میں تو میں اکیلا تھا۔ وہاں حضرت مولانا نصر اللہ کے بڑے صاحبزادے مولوی محمود صاحب مرحوم چندر فقاء کے ساتھ مجھے لینے آئے۔ وہاں بھی یہی منظر ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ وہ بہت بنتے، کہنے لگے ایک بہت بڑے افسر کا تبادلہ ہوا ہے اور اس کا اسی گاڑی سے آنا

ٹے تھا۔ اس کے استقبال کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور اس سے واقف تھیں۔ ان میں بھی چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں۔ کوئی تو کہتا کہ افسر صاحب یہی ہیں اور کوئی کہتا یہ تو مولوی صاحب ہیں افسر ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر منوار تا حیدر آباد کی سلامی کی شرح معلوم ہوتی۔

ایک ہفتہ تک حیدر آباد میں جانی میاں جو حیدر آباد کے معروف لوگوں میں اور ہمارے سب اکابر سے خصوصی تعلق رکھنے والوں میں تھے۔ دارالعلوم کی شوری کے مجرب بھی تھے۔ ان کے ہاں قیام رہا۔ حد سے زیادہ حضرت قدس سرہ کی وجہ سے انہوں نے مدارات اور حاضر پیش کیں۔ میرے عزیز مولوی اور لیں صاحب کا ندھلوی حال شیخ الشفیر جامعہ اشرفہ لاہور مولوی فیض الدین صاحب وکیل کے یہاں ان کو عربی پڑھانے پر ملازم تھے اور خالی اوقات میں آصفیہ کے کتب خانہ میں اپنی تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے۔ وکیل صاحب کے یہاں بھی مولوی اور لیں کی وجہ سے میرا تقریباً روزانہ ہی جانا ہوتا تھا، وہ بھی بڑی خاطر کرتے تھے۔ وہاں کے احباب کا اصرار حضرت قدس سرہ کی نظام صاحب سے ملاقات پر ہوا۔ حضرت قدس سرہ نے یہ فرمادیا کہ میر اصرف ایک ہفتہ قیام ہے، اس کے بعد بسمیٰ جانا ضروری ہے کہ میرے سب رفقاء اس وقت تک بسمیٰ پہنچ جائیں گے۔ اس میں اشکال یہ ہوا کہ اگر نظام صاحب کے یہاں معروضہ ملاقات کا پیش کیا گیا اور نظام صاحب نے وقت ایک ہفتہ کے بعد کا مقرر کر دیا تو اس کو چھوڑ کر بسمیٰ جانا مناسب ہوگا۔ اس لیے ملاقات کی درخواست کی رائے تو ملتی ہو گئی۔ البتہ حضرت قدس سرہ نے بذل الجہود کی جلد اول اور ثانی جن کی نہایت خوبصورت جلدیں سہارنپور میں بنوار کھی تھیں اور ان کے شروع میں نہایت مطلا حسین مطبوعہ کاغذ نظام صاحب کے نام کا لگوار کھا تھا بھیجیں۔ اس کی بنابر نظام صاحب کے یہاں سے دو تین دفعہ خاصاً (یعنی دعویٰ کھانا) بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آیا۔ کھانا تو کچھ معمولی ہی ساتھا مگر اس کے برتن وغیرہ خوان اور خوان پوش وغیرہ بہت زریں۔ معلوم ہوا کہ نظام صاحب خود بھی ایسا ہی سادہ کھانا کھاتے ہیں۔

بہر حال ایک ہفتہ قیام کے بعد ۲۵ شوال شنبہ کی صبح ۹ بجے حیدر آباد سے روانہ ہو کر یک شنبہ کی صبح بسمیٰ پہنچ اور بسمیٰ سے ۷ ذی قعده پنجشنبہ ۳۲ مطابق ۲۰ مئی ۱۹۲۶ء کو جدہ نامی جہاز سے روانہ ہو کر ۱۴ کو کامران پہنچے جہاں ۲۳ گھنٹے کا قرنطینہ تھا۔ چونکہ کئی دن پانی میں گزرے تھے اس لیے خشکی پر بڑا ہی لطف آیا۔ کھلامیدان سمندر کی ٹھنڈی ہوا۔ ریت پر بڑی ٹیکھی نیند آئی اور تو کوئی چیز اس وقت یاد نہیں، انڈے مرجیاں بہت ہی کثرت سے تھیں۔ میں نے تو صرف انڈے ہی لے کر اور رفقاء کے یہاں فرائی پان میں کڑکڑا کر خوب انڈے کھائے، انڈے تو ایک پیسے کے کٹی آتے تھے، مرجیاں خوب یاد ہیں کہ دودو آنہ کی آتی تھیں۔ میں عدد تو حاجی مقبول صاحب نے حضرت قدس سرہ کے

وسترخوان کے لیے لیں اور تمیں عدد متولی جلیل کاندھلوی مرحوم نے لیں۔ اسی طرح بہت سے رفقاء نے میں سے کم لینا تو کسی کایا دنیں پچاس تک لیں اور ان سب کو ذبح کر کے نمک ڈال کر بغیر پانی کے کھی میں بھون کر رکھ لیں۔ کھی بھی بہت ستا تھا اور جده تک اور بعض نے مکہ تک تھوڑی تھوڑی اس میں سے لے کر پانی مصالحت ڈال کر پکاتے رہے اور کھاتے رہے۔ اس سے کار کے فرائض میں سے توہر و سترخوان کا نمک چکھنا ضروری تھا۔ ہر ایک سترخوان پر مرغی کی ایک دونالگیں میرے لیے مخصوص ہوتیں۔ چونکہ حضرت قدس سرہ مستقل قیام کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے اس لیے سامان بہت سارا تھا۔ جده جا کر بعد رضورت مختصر سامان مکہ کے لیے حضرت نے رکھا اور باقی سارا سامان جده میں مطوف کے وکیل کے ذریعہ سے جده کے تجارت کے سامان کے ساتھ براہ راست مدینہ منورہ بھیج دیا۔

### سفر خرچ کی میزان:

اس سے کار کی بھی سنوا! ۳۸ھ کے سفر میں بہت مختصر سامان تھا۔ یعنی ایک ڈبل زین کا تکیہ کا بہت بڑا غلاف اس میں تین چار جوڑے کپڑے کے ایک چادر دو کپڑے احرام کے ایک دونالگی زائد بس یہ سامان بجائے روئی کے غلاف کے اندر تھا۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ میں بھی ڈیڑھ سال قیام کے ارادہ سے گیا تھا۔ اس لیے ایک بکس بھی میرے ساتھ تھا جس میں سات آٹھ جوڑے۔ لگیاں، تو لیے اور نہ معلوم کیا کیا۔ میرے سفر جاڑ کی کاپی میں بالتفصیل لکھا ہوا ہے۔ ایک بستہ بہت بڑا سارا ترپال میں بندھا ہوا۔ جس میں لحاف بچھونا، رضائی، کبل اور اس میں دو تکتے وہی ۳۸ھ جیسے۔

جب یہ طے ہوا کہ یہاں کا رہ حضرت کے ساتھ ایک ہفتہ کے لیے حیدر آباد جائے گا تو ۳۸ھ کے قاعدہ کے موافق ایک تکیہ کا غلاف جس میں دو جوڑے دونالگیاں ایک سالی ہوئی اور ایک بغیر سالی ہوئی اور ایک مصلی نما گدیلہ ایک رسی میں باندھ کر یہ سامان تو اپنے ساتھ رکھا اور اپنا بستہ اور بکس جانے سے کئی دن قبل بذریعہ بلڈی ریل میں بھیجی بھیج دیا۔ جب یہاں کا رہ حیدر آباد پہنچا تو اس خیال سے کہ جہاز میں کیا ضرورت پیش آئے گی۔ اپنا حیدر آباد والا سامان اپنے ساتھ رکھا اور ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ مضبوط تسلی کی ڈوریوں سے بندھی ہوئی تھی جہاز کے گودام (نیچے کے حصے) میں ڈلوا دیئے اور جده پہنچنے کے بعد حضرت قدس سرہ کے فال تو سامان کے ساتھ اپنا ٹرنک اور بستہ بھی حضرت کے سامان میں رکھوادیا۔ تاجریوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے بالخصوص حج کے زمانے کی مشغولی میں، حضرت قدس سرہ کا یہ سامان جس میں ٹرنک اور بستہ بھی تھا۔ ربع الاول میں مدینہ پاک پہنچا۔ روز ارادہ کرتا تھا کہ ٹرنک کو اور بستہ کو کھولوں۔ مگر کاہلی اور مشغولیت اور سب سے اہم یہ ہے کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے کہ انہوں نے میرے مجرے میں

بہترین گدے اور لحاف پہلے سے بچا رکھے تھے کمبل وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس ناکارہ کو اپنا سامان کھولنے کی نوبت نہ آئی اور جب ۲۵ میں اس سید کارگی واپسی ہوئی تو میں نے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں یہ کہہ کر خواں کر آیا تھا کہ جب اس سامان کی اب تک ضرورت پیش نہ آئی تو اس بوجھ کو لے جا کر کیا کروں گا۔ آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو میرے لیے موجب عزت، پسند نہ آئے تو جس کو چاہے تقسیم کر دو۔ یہ تو میں نے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا کوئی چیز خود بھی رکھی یا رسول کو دی۔ البتہ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کے مدرسین اور طلبہ کو کچھ دے دیا تھا اور یہ ناکارہ اپنا وہی حیدر آباد والا سامان لے کر ۲۷ میں واپس آگیا۔ البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ ۲۸ میں جب یہ ناکارہ روانہ ہوا تو چھ سو روپے میرے پاس تھے اور جب سہارپور واپس پہنچا تو میرے سفر خرچ کی میزان اٹھارہ سو روپے تھی جو مولانا شیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قرض سے ملی تھی اور جب ۲۹ میں یہاں سے روانہ ہوا تو میرے پاس سفر خرچ اٹھارہ سو روپے تھا۔ لیکن محرم ۱۴۳۶ میں واپس ہوا تو میری میزان خرچ اڑتا ہیں سو روپے تھے جس میں کچھ نذرانے بھی تھے اور کچھ حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ نے یہاں دہلی وغیرہ کے بعض احباب کے پاس سامان منگانے کے لیے کچھ رقوم دی تھیں۔ یہ پتہ نہیں یہ سارے پیے کا ہے میں خرچ ہوئے۔ جبکہ اس سارے سال میں مجھے اپنے پاس سے ایک دن بھی کھانا نہیں پڑا اس لیے کہ جاتے ہوئے حضرت قدس سرہ کا مہمان تھا اور مدینہ کے قیام میں حضرت کے ساتھ ساتھ مولانا سید احمد صاحب کا بھی مہمان تھا اور دونوں کا مہمان ہونا جب معلوم ہوا جب ایک دن مجھے بخار آیا تو میرے لیے موگنگ کی کچھزی میرے کمرے میں حضرت قدس سرہ کے دولت کده سے الگ آئی اور حضرت مولانا کے مکان سے الگ آئی۔

کچھزی پر ایک قصہ یاد آگیا۔ اماں جی اور حاجی مقبول صاحب کو کچھزی کا بہت شوق تھا۔ سہارپور کے قیام میں بھی سردی میں حضرت قدس سرہ کے مکان پر اکثر پکتی تھی اور جس دن پکتی حضرت حاجی صاحب کی طرف سے آدمی پر آدمی اور کتب خانہ میں جہاں حضرت بذل لکھوانے جایا کرتے تھے کہ گھر بلایا ہے۔ حضرت فرماتے کہ آرہا ہوں۔ تیرے چوتھے تقاضہ پر حضرت یہ کہہ کر اٹھتے کہ کچھزی کی بھوگی اسی کی مصیبت آ رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ کچھزی پکا کر تم کھالیا کرو میرا حرج نہ کیا کرو۔ میں اپنے وقت پر آ کر روتی کھالوں گا۔ مدینہ پاک میں بھی سردی میں کچھزی خوب کی اور جب کھانے پر کچھزی آئی تو مولانا سید احمد صاحب جلدی سے اٹھتے اور پر کی منزل میں تشریف لے جاتے جہاں ان کا زنانہ مکان تھا اور بہت بڑے پیالہ میں گھنی گرم کر کے

لاتے اور ایک دم اس کو کھڑی کی رکابی میں الٹ دیتے اور فرماتے کہ اس کا نام کھی چری ہے اور کھی اس میں شور بے کی طرح بہہ جاتا۔ حضرت بھی ناراضی کا اظہار فرماتے اور میں بھی ان کے سر ہوتا کہ آپ نے کھانے کے قابل نہیں چھوڑی۔ اوپر کے حصہ کو تو ہم کھایتے اور یہی کا حصہ جس میں بھی کا شور با بہتا ہوا ہوتا ملا اللہ بندا، ملائذ یہ کہ یہ دونوں خادم بھی اس وقت میں ساتھ تھے ان کے حوالہ کر رہتے۔ کہ اس میں کھڑی اور ملا کر کھالیں۔ ان کے تو بہت مزے آتے کھی بہتی کھڑی کھاتے۔ کھڑی کا پہنچنے سے شوق تھا اور نہ حضرت کو تھا۔

بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے کامران میں ایک شب قیام کے بعد ۱۸ ذی قعده کو جدہ کو روانگی ہوئی اور تیرے دن ۲۱ کو جدہ پہنچے۔ دوشب وہاں قیام رہا اور وہاں سے ۲۵ اونٹوں پر مکہ مکرہ حاضری ہوئی۔ مکہ مکرہ میں باب ابراہیم کے سامنے ایک گلی تھی اس گلی میں کئی مکانات بہت بوسیدہ تھے۔ اس زمانے تک مکہ مکرہ اور مدینہ پاک کے سارے ہی مکانات بوسیدہ خستہ حال پر اپنی وضع کے تھے۔ باب ابراہیم کی اس گلی میں دو تین مکان تھے۔ اس میں سے ایک مکان جو کسی بیوہ کا تھا ۳۸ھ میں بھی یہی مکان کرایہ کے لیے لیا گیا تھا۔ جو حضرت کے معلم سید مصطفیٰ نے پہلے سے لے رکھا تھا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی مکان کرایہ پر لیا۔ اس کی دو منزلیں تھیں یہی کی منزل میں ہم خدام کا قیام تھا اور اوپر کی منزل میں حضرت اور امام جی رحمہما اللہ تعالیٰ کا۔ ۳۸ھ اور ۳۹ھ کے دونوں سفروں میں ہم خدام نے تجہیز کوئی اونٹ وغیرہ کیا تھا اور نہ مکہ سے منی عرفات کی آمد و رفت کے لیے حضرت قدس سرہ اور امام جی کے اونٹ کے ہمراہ ہمارا سفر پیدا ہوتا تھا۔ پڑے لطف کا سفر تھا۔ اب تک خوب یاد آتا ہے۔ عرفات کے میدان میں دو چھوٹے چھوٹے خیمے ایک زیادہ چھوٹا جس کو چھولداری کہتے تھے، جس میں امام جی اور ان کی خادمہ رحمتی کاندھلوی ملائذ یہ کی بیوی تھیں اور ایک بڑا خیمہ جس میں حضرت قدس سرہ اور ہم سب خدام، حضرت قدس سرہ کا عرفات کے میدان میں تن تھا و عادوں میں حفاظ اور دیکھ کر مشغول رہنا خوب یاد ہے اور ہم خدام بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی سفر میں حضرت کی برکت سے خانہ کعبہ کی داخلی بھی نصیب ہوئی کہ شیخی صاحب نے تعلقات کی وجہ سے مخصوص خدام کے لیے کعبہ شریف کو کھولا تھا۔ ۲۶ ذی الحجه یوم چہارشنبہ بعد عصر ۹ بجے عربی مکہ مکرہ سے مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہوئی۔ اہل عرب اکثر غروب کے تین گھنٹے قبل عصر پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ غروب بارہ پر ہوتا ہے اس سفر کی تفاصیل یہ ناکارہ اکمال اشیم کے مقدمہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہے۔

محرم دو شنبہ ۲۵ھ کو مدینہ پاک میں داخل ہوئے اور مدرسہ شرعیہ قدیم میں (اب تو مدرسہ شرعیہ بالکل بدل گیا) اترے اور اس کے قریب ہی حضرت مولانا سید احمد صاحب نے ایک مکان کرایہ پر لے رکھا تھا، جس کی تین منزلیں تھیں۔ سب سے تھانی منزل مولانا سید احمد صاحب کی مردانی منزل تھی اور اپر کی دو زنانی۔ لیکن حضرت قدس سرہ کی تشریف بری کے بعد دوسری منزل کی حضرت کی تالیف کے لیے خالی کردی اور اپنی مستورات کو اپر پہنچا دیا۔ اسی اپر کی منزل میں مولانا مرحوم کا ایک بکری خانہ بھی تھا، جس میں بہت سی بکریاں بندھی رہتی تھیں۔ حضرت کے وہاں کے قیام کے تفصیلی حالات امکال الشیم کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں، اس کا اعادہ یہاں تکاری محض ہوگا۔ جس کا دل چاہے اس میں دلکھے لے، میرے پچا جان بھی اس سفر میں حضرت قدس سرہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور ان کا ارادہ وہاں طویل قیام کا تھا، مگر روضہ اقدس سے واپسی کا اشارہ ہوا کہ تم سے کام لینا ہے۔ اس کی تفاصیل علی میاں پچا جان نور اللہ مرقدہ کی سوانح میں اس ناکارہ کی روایات سے بہت تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

پچا جان قدس سرہ اپنا حج فرض ۳۲ھ میں کر چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے ۳۲ھ کا حج میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف سے کیا اور یہ ناکارہ اپنا حج فرض ۳۸ھ میں کر چکا تھا اس لیے میں نے ۳۲ھ کا حج اپنی والدہ کی طرف سے کیا اور ۳۵ھ کا مدینہ سے واپسی پر اپنے والد صاحب کی طرف سے کیا۔ وہاں کے قیام میں اشراق کی نماز کے بعد سے ہندوستانی ۱۱ بجے تک حضرت قدس سرہ نہایت یکسوئی کے ساتھ بذل الجہود کے املاع میں مشغول رہتے۔

### حضرت قدس سرہ کی توجہ اور شفقت کا ایک قصہ:

یہ ناکارہ نا بلکار لغویات میں بچپن سے لے کر اس پیری تک ہمیشہ ہی بتلا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ نہایت توجہ سے املاع کر رہے تھے اور یہ سی کارہاتھوں سے تو لکھر رہا تھا اور دل سے نہ معلوم کس خرافات میں لگ رہا تھا۔ حضرت قدس سرہ نے املاع کرتے کرتے نہایت جوش سے فرمایا:

”من بو مشغول و تو باعمرو زید“

اب تک بھی وہ منظر یاد ہے اور ہمیشہ ہی یاد رہے گا کہ حضرت کے حضرت کے ارشاد پر مجھے ایک دم پسینہ آگیا اور بہت ہی سوچنے پر بھی اس وقت یاد نہ آیا کہ میں کس خرافات میں لگ رہا تھا۔ حضرت قدس سرہ یہ الفاظ فرمائ کر پھر املاع کرانے لگے۔ اس ارشاد مبارک کے فرماتے وقت نہ تو کتاب پر سے سر مبارک اٹھایا۔ فتح الباری سے عبارت لکھواتے رہے۔ عبارت کے درمیان ہی ارشاد فرمایا۔ اللہ میرے حضرت قدس سرہ کو بہت ہی درج عطا فرمائے کہ حضرت نے اپنی توجہ شفقت الاطاف

میں کبھی کرنے فرمائی۔ کاش کہ یہ یہ کارکسی قابل ہوتا۔

میرے حضرت قدس سرہ کا معمول بلا طلب کسی کو اور ادا شغال کچھ بتانے کا نہیں تھا، جس کی تفصیل بھی اکمال کے مقدمہ میں گزر چکی ہے۔ لیکن یہ یہ کار مدنیہ پاک کے اس قیام میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے پیچھے نماز کے لیے حاضر ہو رہا تھا۔ وہ ان غوات کے قریب پہنچ کر حضرت کھڑے ہو گئے اور پیچھے منہ کر کے اس یہ کار کو بلا طلب ارشاد فرمایا کہ پاس انفاس کر لیا کرو۔ مگر انہوں کے بھی کچھ نہ کر کے دیا۔

ہندوستان کے قیام میں تو (۹) سال اور کچھ مہینوں میں بذل الحجود کی سائز ہے تین جلدیں لکھی گئیں اور مدنیہ پاک میں ۸ ماہ میں ڈیڑھ جلد پوری ہو گئی اور ۲۱ شعبان ۲۵ھ یوم چہارشنبہ بوقت ۹ بجے ہندی بذل الحجود کا اختتام ہوا اور حضرت کو اتنی سرت اس کی تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور ۲۳ شعبان جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد مدرسہ شریعہ میں حضرت قدس سرہ نے بڑی طویل و عریض دعوت علماء مدنیہ کی گی۔ جس کے دعوت نامے بھی طبع کرائے۔ وہ توعوت نامہ بھی اکمال الشیم کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں مدنیہ طیبہ کی برکات کا تو کیا پوچھنا۔ یہ ناکارہ او جز المساک کی ڈیڑھ جلد کا مسودہ مدنیہ پاک کے چند ماہ کے قیام میں لکھ لایا تھا اور سائز ہے چار جلد ہندوستان میں تیس (۳۰) سال میں پوری ہو گیں۔ مدنیہ پاک سے ۱۶ ذی القعده ۲۵ھ کو روانگی ہوئی۔ ایک عجیب بات اس وقت پیش آئی۔ معلوم نہیں لکھنے کی ہے یا نہیں۔ روختہ اقدس پر الوداعی سلام کے وقت بے اختیار بے ارادہ زبان سے یہ لفظ بار بار نکل رہا تھا کہ حضور جلدی بلا لیں۔

### مدنیہ پاک سے واپسی اور اونٹوں کا لاری سے بد کتنا:

ظہر کے بعد مدنیہ پاک سے روانگی ہوئی۔ اس وقت تک کوئی لاری مدنیہ پاک نہیں پہنچی تھی۔ میں اور حضرت اقدس رائے پوری دونوں حضرت مولانا سید احمد صاحب کی مدد سے اس تحقیقات میں تھے کہ لاری کب آنے والی ہے۔ جس کی خبر کئی مہینے سے سن رہے تھے۔ حضرت قدس سرہ نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ روانگی کی کوئی تاریخ طے ہوئی میرے منہ سے نکل گیا کہ حضرت لاری کا انتظار ہے، اس کے آنے کی خبر میں سن رہے ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا، نہیں جی اونٹوں ہی پر جاؤ سنت ہے۔ اس پر اونٹوں کی تیاری ہوئی۔ اونٹوں پر ظہر کے بعد چل کر گھنٹہ سو گھنٹہ میں باب العبر یہ تک پہنچے تو سامنے سے لاری آرہی تھی۔ غریب اونٹوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا۔ لاری والے نے زور سے ہارن بجا یا اور دام کئی دفعہ بجا یا۔ اس پر اونٹ جو بد کے ہیں اور شتر بے مہار کی مثل صادق آئی ہے کہ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے کوئی

اُدھر کو۔ ان کو بھاگتے دیکھ کر لاری والے نے ہارن تیز کر دیا۔ جس پر اونٹوں میں اور بھی بیجان پیدا ہوا۔ سارے شغوف اونٹوں پر سے خوب گرے۔

حاجی احمد خاں صاحب راج پوری بھی مع اہلیہ کے ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنے شغوف کو اس قدر بچا کر کھا تھا کہ تعزیہ بنارکھا تھا۔ جگہ جگہ اس میں سامان رکھنے کے باتات کی جیسیں اگر کھی تھیں، وہ اتنا توٹا کہ اس کی لکڑیاں بھی الگ الگ ہو گئیں۔ سارے قافلے نے باب العبر یہ کے باہر پڑا اُذالا اور یہ ناکارہ مغرب کے بعد مدرسہ شرعیہ واپس گیا۔ جس وقت یہ ناکارہ مدرسہ شرعیہ کے سامنے باب الجیدی سے آگے بڑھا تو حضرت قدس سرہ عشاء کی نماز کے بعد دولت کدے پرواپس جا رہے تھے۔ مولا ناسید احمد لاثین لیے ہوئے حضرت کے پیچے پیچے جا رہے تھے۔

اس ناکارہ نے مولا ناصر حوم کو زور سے آواز دی۔ ”علی رسلک ایها الشیخ السید احمد“ وہ میری آواز پہچان کر ایک دم کھڑے ہوئے اور حضرت قدس سرہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں دوڑ کر حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا خیر تھے۔ میں نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت تو اندر تشریف لے گئے اور یہ ناکارہ اور مولا ناسید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ساری رات مدرسہ شرعیہ کی چھت کے اوپر شب عید منانے میں مشغول رہے، نہ خود سویا نہ مولا ناکوسونے دیا۔ اگلے دن ظہر کے بعد واپسی ہوئی۔

دوسرے دن بہت ہی کوشش کی کہ روضۃ القدس پر جلد حاضری کی درخواست کروں مگر آور دھمی آمد نہ تھی۔ میرے حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ ساتھ تھے۔ میرے مرشد حضرت سہار پوری قدس سرہ نے الائمه من قریش کہہ کر کوامیر اور اس امارت کو جتنا حضرت اقدس رائے پوری نے سمجھایا کسی اور نہیں سمجھایا اور اس سیدہ کارنے بھی اپنی حماقت سے اپنی امارت کا بہت ہی زور دکھایا۔ حضرت رائے پوری کے ساتھ ان کے خدام بھائی خلیل، محمد علی، وغیرہ مستعد جوان تھے۔ وہ حضرت کا شغوف بدوؤں سے نہیں بندھواتے تھے، خود اس قدر مضبوط باندھتے تھے کہ ذرا حرکت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت کے رفقاء میں ایک رئیس بھی تھے۔ ان کو یہ شکایت تھی کہ میرا شغوف ایسا نہیں باندھا جاتا جیسا حضرت کا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ خدام کو جتنا اہتمام حضرت کا ہو گا اتنا میرا یا آپ کا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ وہ احباب حضرت قدس سرہ کی وجہ سے اس ناکارہ کا شغوف تو حضرت جیسا ہی باندھتے تھے مگر ان رئیس صاحب کی خاطر میں نے اپنا نام بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا۔ دو تین منزل تو وہ خفا ہوتے رہے اور میں سمجھاتا رہا۔

چوہنی منزل پر میں نے شور مچا کر ”اوگف الاول“ کہا۔ جس کا مطلب تھا کہ سب سے اگلے اونٹ کو روک دو کہ قافلہ جب ہی رک سکتا تھا۔ جب پہلا اونٹ رک کے اور بدوؤں کا یہی جملہ معروف تھا۔ جب قافلہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا۔ بحیثیت امیر میں حکم دیتا ہوں کہ حضرت مولا نا عبد القادر

صاحب اپنے اوٹ سے اتر کر فلاں صاحب کے اوٹ پر سوار ہو جائیں اور فلاں صاحب حضرت کے اوٹ پر۔ حضرت فوراً اپنے اوٹ سے اتر گئے اور فلاں صاحب نے اترنے سے انکار کیا۔ اس ناکارہ نے قافلہ کو چلنے کا حکم دے دیا اور حضرت قدس سے عرض کیا کہ آپ پیدل چلیں۔ حضرت قدس سرہ تھوڑی دیر پیدل چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان رجیس صاحب نے بڑی خوشامد و منت سماجت کی اور عہد کیا کہ آیندہ بالکل شکایت نہیں کروں گا۔ اس پر اس ناکارہ نے قافلہ رکوا کر حضرت کو سوار کرایا۔ اسی سفر کے منتها پر دولا کھر غیوں کا قصہ پیش آیا جو پہلے گزر چکا ہے اور بھی کئی بڑے واقعات اس مبارک سفر میں پیش آئے، کہاں تک لکھوا یا جائے۔

### بندہ کی قافلہ امارت:

اس کے بعد ناکارہ کے دوسرا حج باوجود تیاری اور ارادہ کے مقدار نہ تھے۔ پہلا حج تو ۱۹ھ میں حضرت رائے پوری قدس سرہ کی معیت میں، حضرت قدس سرہ کا یہ سفر اس ناکارہ کی معیت ہی کی وجہ سے طے ہوا تھا۔ حضرت قدس سرہ پاکستان کے طویل سفر سے واپس تشریف لائے اور آتے کے بعد فرمایا کہ اس سفر میں تم بہت یاد آئے، اس لیے کہ اس سفر میں ہوائی جہاز میں کثرت سے بیٹھنا ہوا اور جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھتا تو تم خوب یاد آتے کہ یہ سواری تو تمہارے لیے مناسب ہے، مگر میں سوچتا رہا کہ پاکستان آنا تو تمہارا ناممکن اور ہندوستان میں بھی ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں۔ تم کو ہوائی جہاز سے مکملے چلوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور۔ سامانِ سفر مکمل ہو گیا، تیاری پختہ ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی سے ہوائی جہاز حدود مصر کے اوپر سے گزرتا تھا اور بھی اور کراچی میں انفلوئزا کی وبا عام چھیل گئی اور خوب شہرت ہو گئی۔ عین جہازوں کی روائی کے وقت حکومت مصر نے اعلان کر دیا کہ بھی اور کراچی کا کوئی جہاز ہماری حدود کے اوپر سے پرواہ نہیں کر سکتا۔ حضرت قدس سرہ کے ارادہ سفر کی وجہ سے رائے پور اور قریب و جوار کے لوگوں نے بھی حج کا ارادہ کر لیا۔ جب ہوائی جہاز کا التواء ہوا تو اس سے کارتے معیت سے عذر کر دیا کہ بھری سفر کا میرا دماغ متحمل نہیں ہے۔ پہلے دوسروں میں بھی دورانِ سر اور امتلاء بہت زیادہ رہ چکا تھا اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہ حج تو تمہاری ہی وجہ سے طے ہوا تھا، ملتوی تو میں بھی کر دیتا، مگر میرے التوءے سے ان لوگوں کا بھی ملتوی ہو جائے گا جن پر فرض ہے، اس لیے مجھے تو ان کی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ قلق تو اس سے کارکو بھی بہت رہا اور حضرت قدس سرہ کو خوب رہا۔ مگر بھری سفر کا واقعی مجھے تھل نہیں ہے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے علی میاں سے بھی اس سفر میں عین وقت پر یعنی شوال میں معیت کی

خواہش فرمائی اور علی میاں نے کچھ مصارف کی حیثیت سے تامل ظاہر کیا۔ میں نے کہا کہ لا جوں والا قوت پیسوں کا خیال نہیں کیا کرتے۔ میں نے تو دونوں حج قرض سے ہی کیے ہیں۔ علی میاں نے کہا قرض میرے بس کا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ:

تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

میں تو اپنی ایک لڑکی شاکرہ مرحومہ کا حج بدلتجویز کر دیا اور جب ہی قرض لے کے مولانا کور قم بھی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ ان کے احسانات بھی اس سیہ کار پر لاتعد ولا تحصی ہیں۔ مولانا نے حج بدلت تو مرحومہ کا کیا تھی لیکن خطوط سے بھی معلوم ہوا اور زبانی بھی کہا کہ حج سے فراغ کے بعد سے مصر روانگی تک مرحومہ کی طرف سے بہت سے عمرے بھی کیے۔ مگر حضرت قدس سرہ کی ہمدرکابی میں اس مرتبہ حج شکر نے کافتن اب تک ہے۔ میرے حضرت رائے پوری کے احسانات کا نہ شمار نہ احصار، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان ان کا بدلہ مرحمت فرمادے۔

جب حضرت اس سفر حج سے واپس لائے تو ارشاد فرمایا کہ سارے سفر میں یہ سوچتا رہا کہ تمہارے واسطے کوئی ایسی چیز لے کر جاؤں جس سے تمہارا واقعی جی خوش ہو۔ مشکل، مصلی اور کئی چیزیں ذہن میں آئیں، مگر میں ہر چیز کے متعلق یہ سوچتا رہا کہ میری خاطر تم اظہار مسرت تو بہت کرو گے مگر تمہارا دل خوش نہ ہوگا۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے مسجد نبوی سے عمرے کا احرام تمہاری طرف سے باندھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت خود ہی ارشاد فرمادیں کہ اس احسان عظیم کے برابر کوئی دوسرا ہدیہ ہو سکتا ہے؟ عمرہ اور پھر آپ کا اور وہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاء اللہ میرے لیے تو یہی ایک چیز کافی ہے۔

### حضرت رائے پوری کا ہدیہ عمرہ بندہ کے لیے:

حضرت نور اللہ مرقدہ کے اس احسان اور اخلاص و محبت کی برکت کہ اس کے بعد سے جو احباب کی طرف سے اس سیہ کار کی جانب سے جو عمروں کا سلسلہ بندھا ہے تو بڑھتا ہی چلا گیا۔ بعض سالوں میں تو ملکی مدنی اور آفاقی احباب کی طرف سے سو سو عمروں سے زائد کی اطلاعیں ملیں اور اب تو دس بارہ برس سے عمروں کے ساتھ حج بدلت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اور بعض سنین میں دس دس بارہ بارہ حج بدلت کی اطلاعیں ملیں اور ان سب کا ثواب ”من سنتہ حسنة فللہ اجرها واجر من عمل بھا حدیث کی بناء پر حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو مل رہا ہے اور میرا بھی حضرت کے عمرے کے بعد یہ مستقل معمول بن گیا کہ جانے والے احباب سے خاص یہ

فرماش کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ہدیہ، مصلی، رُومال، سُج وغیرہ ہرگز نہ لائیں۔ بعض بے تکلف دوستوں کے اس قسم کے ہدایاتختی سے ان کو واپس کر دیے۔ میرا ہدیہ مکہ مکرمہ کا طواف و عمرہ ہے اور مدینہ پاک کا روختہ اقدس پر صلوٰۃ وسلام ہے۔ میرے نزدیک اصل ہدایا یہی ہیں اور رُومال و مصلی وغیرہ تو لغو اور بے کار ہیں اور اب تو ہماری بد قسمی سے اس سے بھی معاملہ اوپر ہو گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ہدایا گھڑیاں اور ریڈ یو وغیرہ بن گئے ہیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

عرفات کے موقع پر آندھی، طوفانی بارش اور حضرت رائے پوری کی کرامت:

والی اللہ علیہ السلام میں اپنے بعض رسائل میں پہلے بھی لکھا ہوں اور اب بھی لکھواتا ہوں کہ اس ناکارہ کے لیے اور پرند کو رشدہ اشیاء ہی ہدایا ہیں، یہ لغویات میرے نزدیک ہدایا نہیں ہیں اور ایک رنج وہ واقعہ بھی اس سال کے حج کے متعلق سوچتا رہا کہ لکھواؤں یا نہیں کہ اسال عرفات کے موقع پر اس زور کی آندھی اور طوفانی بارش ہوئی کہ خیمه بھی اکھڑ گئے۔ حاج کو اولے اور بارش کی بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے تقریباً آدھ گھنٹہ قبل حکماً اپنے رفقاء کو لا ریوں میں سوار کر دیا اور ساتھیوں کو تعجب بھی ہوا کہ ابھی سے لا ریوں میں بیٹھنے کا حکم کیوں ہے۔ لیکن جب بارش اور اولوں کی بھرمار اور خیموں کا گرتادیکھا تب حضرت کی کرامت کا حال معلوم ہوا۔ بعد میں سُننے میں آیا کہ اس دن عرفات میں بھی ریڈ یو پر گانا ہوتا رہا۔ ایسی حالت میں اگر آفات نہ آئیں تو کیا آئے۔ آسمانی اور ارضی حوادث کا رونا تو ہم ہر وقت روتے ہیں، مگر یہ بھی نہ سوچا کہ:

”اے باد صبا ایں ہمہ آوردة ت“

رمضان ۹۰ھ میں مشرقی پاکستان کے طوفانوں سے حالات:

اسی رمضان ۹۰ھ میں مشرقی پاکستان میں جولزہ خیز طوفان آیا، جس کے سُننے اور نقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اس کا جو پس منظر معلوم ہوا تو بجز اس کے اور کیا کہا جائے کہ اللہ کی رحمت امت کے حال پر شامل ہے کہ معمولی عذاب پر قناعت فرمائیتے ہیں۔ ورنہ تو ہم لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے خطوط سے اس وقت طوفان کی جو خبریں معلوم ہوئیں، ان کا لکھوانا اور سننا دونوں بہت مشکل ہے۔ بہت سے خطوط میں سے دو مکتب عزیزم الحاج مولوی احسان الحق جو تبلیغی جماعت کے ساتھ اس طوفان کی خبر پر مشرقی پاکستان گئے اور الحاج صغیر احمد صاحب لاہوری جنہوں نے مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے حالات نقل کیے، ان میں سے چند واقعات نقل کر رہا ہوں۔

۱۱، ۱۲ رمضان کی درمیانی شب میں جو کہ شب جمعہ تھی ۱۲ بجے کے قریب نہایت شدت کی آواز اور اس کے ساتھ سمندر کا پانی بانسوں اور پاچھل کر اس زور سے آبادیوں پر سے گزر اک کچھ انتہا نہیں۔ پہلے ڈیرہ سو میل کی رفتار سے تیز آندھی، جس میں خوفناک آوازیں بھی تھیں چلی۔ پانی سمندر کا بعض جگہ پچیس میں فٹ تک ہو گیا تھا۔ پانی اول تو نمکین پھر سخت گرم اور سے بارش، جس کا ہر قطرہ جنم میں سوئی کی طرح چھپتا تھا۔ آتے وقت پانی کی رفتار کم تھی۔ لیکن جاتے وقت اس میں بلا کی طاقت اور زور تھا۔ سب کچھ ہی بہا کر لے گیا۔ انسان کیا بڑے بڑے درخت بھی بہا کر لے گیا۔ لاکھوں انسان کروزوں جانور ڈیرہ گھنے میں ختم ہو گئے۔ بچنے والوں میں مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم۔ بچ تو معلوم ہوتا ہے سارے ہی ختم ہو گئے۔ رہ جانے والے بھی ہوش و حواس گم کر بیٹھے اور اپنے باتھوں سے اپنے بچوں کو پانی میں پھینکنا پڑا۔ نفسانی کا قیامت والا منتظر تھا۔ البتہ جن گھروں میں تعلیم و تبلیغ ہوتی تھی یا جو اس وقت ذکر و دعاء میں لگ گئے اور اس افراتفری کے عالم میں بھی سحری اور نماز فخر کا خیال رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچا دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پڑوں کے گھر میں تیرہ فٹ پانی اور اس گھر میں دو تین فٹ پانی۔ ساری مسجدیں پانی میں ڈوب گئیں، لیکن جس میں ساتھی (یعنی رفقاء، جماعت تبلیغ) ذکر و دعاء میں مشغول تھے اس کے اندر پانی گیا ہی نہیں۔ غرض کہ ایسی ایسی غیبی نصرتیں ہوئیں کہ ان کی وجہ سے اس طوفان کے بعد ساتھیوں کے ایمان میں اضافہ ہوا جبکہ اوروں کے تو ہوش و حواس گم اور ان کی زبانوں پر کفریہ کلمات تک آگئے۔ صرف کام کرنے والے ساتھی ہی لاشوں کو دفن کرنے میں لگے۔

حضرت! ساری امت مسلمہ ہی کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ طوفان آیا۔ لیکن معلوم ہوا کہ ان سیلا بزدہ علاقوں میں پہلے جو کلمات، دینی لباس، علماء، ڈاڑھی، روزہ، شعائر اسلام کا استہزا و تفحیک کے بارے میں زبانوں پر آئے تھے، ان کو نقل کرتے ہوئے بھی ڈرگلتا ہے۔ اللہ کی شان کہ جس علاقہ میں حفاظتی بند لگایا تھا، اس علاقے میں اسی بند سے ٹکرا کر پانی اور علاقوں سے زیادہ او تجا ہو گیا اور اسی میں سب سے زیادہ بتائی آئی۔ زیادہ تر وہ علاقے متاثر ہوئے جہاں زانی، شرابی اور اس سے بڑھ کر بھی جو کچھ اور برائی ہو سکتی تھی اس کے مرتكب رہا کرتے تھے۔ اس بستی میں ایک موذن صاحب کا گھرانہ نو (۹) افراد پر مشتمل رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے مکان کی چھت (چھپر) پر بیٹھے گئے۔ پانی آیا اس نے چھپر کو اور اٹھایا اور وودرختوں کی ٹھیںیوں کے پنج میں پھسا دیا۔ اس طرح سے وہ بالکل محفوظ رہے۔ متاثر ہونے والوں کا بیان بھی مختلف معلوم ہوتا ہے کہ حب حال پانی نے معاملہ کیا۔ کہتے ہیں پانی اس قدر سرد تھا کہ اس کی خلی نے مارڈا۔ کچھ کہتے ہیں، پانی اس قدر گرم تھا کہ اس کی گرمی نے مارڈا اور کچھ کہتے ہیں کہ پانی میں چکر یا اسی قوت تھی

کہ اس نے اپنی لپیٹ میں لے کر اٹھا اٹھا کر پنجا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حج جس کے نہ کرنے کا قلق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ۲۷ ہو گا حج ہے۔ عزیزم حضرت الحاج مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے کہ وہ میری درخواست پر میری سب بچیوں کو حج کو لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزاۓ خیر عطا فرمائے اور بلند درجات عطا فرمائے اور اس سفر میں حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مدنی بھی تشریف لے گئے تھے اور بمبئی سے ایک ہی جہاز سے حضرت قدس سرہ اور مولانا محمد یوسف صاحب کا ساتھ ہوا۔ میں نے بھی اس سفر میں جانے کا ارادہ کر رکھا تھا، لیکن بحری کی تو میری ہمت نہ تھی اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن صاحب کا اس سال ہوا جہاز سے جانا پہلے سے طے شدہ تھا۔ میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا جہاز سے چلا جاؤں گا اور ہوا جہاز ہی سے واپس آجائوں گا۔ حضرت مدینی کے ساتھ حج میں شریک ہو جاؤں گا۔ وقت بھی زائد خرچ نہ ہو گا اور کچھ دقت بھی نہ ہو گی۔ لیکن حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی طبیعت ناساز تھی اور مستورات کے قافلہ کی رانگی کے بعد اور زیادہ خراب ہو گئی۔ بیہت میں گا گنرو والی کوٹھی میں قیام تھا۔ اس سیدہ کار کا معمول روزانہ سبق پڑھا کر عصر کے بعد بیہت جا کر علی الصباح واپسی کا تھا اور حضرت کی طبیعت روز افزول خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے ایک دن حضرت سے عرض کیا کہ مولوی یوسف صاحب کے بعد سے نظام الدین جانے کی ضرورت ہو رہی ہے۔ اجازت ہو تو ایک دورات کے لیے نظام الدین ہواؤں۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پیچھے مر گیا تو میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا۔ اس فقرے پر اس سیدہ کار نے جہاز کا تو ارادہ ہی ملتُوی کر دیا کہ جب دہلی کی اجازت پر یہ جواب ہے تو جہاز کی اجازت سے طبیعت پر بہت ہی اثر ہو گا۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت بیہت سے سہار پور منتقل ہوئے اور مدرسہ میں قیام ہوا۔ بقیدِ عید کی نماز بھی یہاں مدرسہ ہی میں پڑھی اور جب یہ قافلہ واپس آیا تو حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ نے بہت ہی رنج و قلق کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جہاز میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تمہارا بھی ارادہ تھا۔ اگر جانے سے پہلے معلوم ہو جاتا تو زبردستی تم کو اپنے ساتھ لے لیتا۔ میں نے پوری بات عرض کر دی کہ طیارہ سے ارادہ تھا۔ مگر حضرت رائے پوری کی شدتِ علالت اور فقرہ کی وجہ سے حاضری نہ ہو سکی۔ قلق مجھے بھی بہت ہے کہ حضرت کے ساتھ حج نصیب ہو جاتا۔

بندہ کا چوتھا حج اور تیسرا سفر جہاز:

۸۴۵ ہی میں ہے۔ یہ بھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہے۔

عزیزم مرحوم رجب سے اس پر مصر تھے کہ میں ان کی ہمکاری میں حج کو جاؤں اور میں اپنے امراض و اعذار اور تالیفی مشاغل کی وجہ سے انکار کرتا رہا۔ جتنا میر انکار ہوتا اس سے زیادہ عزیز موصوف کا اصرار ہوتا۔ شوال میں میرے ایک دہلوی مخلص محسن نے میرے رفیق سفر الحاج ابو الحسن صدیقی سے یہ کہا کہ حضرت دہلوی حج کو جا رہے ہیں۔ اگر شیخ بھی ان کے ساتھ جائیں تو تمہارا اور ان کا کرایہ میرے ذمے۔ حالانکہ ان کو مولانا یوسف صاحب کے اصرار اور میرے انکار کی خبر بھی نہ تھی۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے زیادہ شدید اصرار کرنے والا ابو الحسن پیدا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کو من جانب اللہ سمجھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات پیش آئی کہ میرا پاک پاسپورٹ مولانا یوسف صاحب کے مخلص مہمان نے ایک دن میں بنوادیا اور وہ مقدر سے کچھ دنوں کے بعد کھو بھی گیا۔ مگر مولانا یوسف صاحب کے تصرف سے وہ ایسی جگہ سے ملا جہاں کئی مرتبہ تلاش کیا جا چکا تھا۔ لیکن میں اپنے واقعی اعذار کی بنا پر مغدرت ہی کرتا رہا۔ عزیزم مرحوم نے یہ کہا کہ میرا پہلا حج اپنے والد صاحب (میرے پچاچان) کے ساتھ ہوا تھا اور دوسرا حج حضرت مدینی کی معیت میں ہوا۔ مجھے ایک سرپرست کی ضرورت سے میں نے کہا کہ اب تو تم ماشاء اللہ خود سرپرست ہو۔ مرحوم کے دلائل نے تو مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ لیکن جب ایک مرتبہ اس نے بہت ہی خوشامد سے یہ لفظ کہا کہ：“بھائی جی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں اور ارادہ فرمائی لیں۔” میں نے کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے ان محسن صاحب کے کرایہ کو بھی شدت سے انکار کر دیا تھا لیکن وہ اصرار ہی کرتے رہے اور ایک مرتبہ سہار پور کی آمد پر میرے شدید انکار کے باوجود وہ عشاء کے وقت میرے بستر کے نیچے پائچ ہزار کے نوٹ رکھ گئے اور عزیزم ابو الحسن کو اطلاع کر گئے کہ وہ بستر کے نیچے رکھے ہیں۔ وہاں سے انٹھا لینا۔ اب تو متھیں ہی ہو گیا۔

چنانچہ ۶ ذی قعده مطابق ۲۱ مارچ ۶۳ء شنبہ کی صبح کو حاجی عظیم اللہ فیصل الدین کی کار میں جلال آباد تھا نہ بھون جھجن جھانہ ہوتے ہوئے بعد مغرب نظام الدین وہی پہنچے اور وہاں سے ۰۶۰ ذی قعده چہارشنبہ کی صبح کو فریضی میل سے بمبی روایت ہوئے۔ جمعرات کی صبح کو بمبی پہنچے اور بہت سے احباب کے شدید اصرار تھے کہ ہمارے یہاں قیام ہو۔ مگر اس کے باوجود مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سید کار کی وجہ سے حاجی دوست محمد صاحب کی کالوئی میں قیام تجویز کیا کہ وہ ہوائی اڈہ سے قریب اور شہر سے بارہ میل دور ہے تاکہ بجوم اس سید کار کے اوپر زیادہ نہ رہے۔ موصوف بار بار دن رات شہر جاتے تھے اور وہاں سے طعام و نوم کے لیے میری قیام گاہ پر آتے تھے۔ البتہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد عام اجتماع میں جو جامع مسجد بمبی میں تھا یہ ناکارہ بھی شریک ہوا اور وہاں سے ۱۲ ذی قعده اتوار کی صبح کو آٹھ بجے ہوائی جہاز سے چل کر ہندوستانی ڈیڑھ بجے جدہ پہنچے۔ الحاج

ارشد مرحوم ہم لوگوں کو اپنی کار میں لے کر سید ہے اپنے مکان چلے گئے۔ مکی احباب کشم میں پھنسنے رہے۔ مگر محمد اللہ کوئی زیادہ دیر اس میں نہ لگی۔ عزیزم ابو الحسن مولوی ہارون حافظ صدقیق، مولوی الیاس مرحوم نیرانوی پہلے سے بھری جہاز سے جدہ پہنچ گئے تھے۔ مطار پران سے ملاقات ہوئی۔ عزیز سعدی سلمہ سے اس وقت تک میری جان پہچان نہ تھی ماموں یا میں سے خوب تھی۔ مگر عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مولانا یوسف صاحب سے لپٹنے کے بعد تخلیہ میں کچھ گفتگو کر کے بظاہر نظام طے کر کے جلدی ہی مکہ چلے گئے۔ بعد عصر چل کر بعد مغرب مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا۔ مغرب مدرسہ صولتیہ میں پڑھی اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ رہا۔ جدہ میں بہت سی کار میں جمع ہو گئی تھیں۔ ہر شخص کا اصرار تھا کہ اس سے کار کو اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کو اپنی کار میں لے کر جائے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عزیز مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو بھائی ارشد صاحب کی کار میں ہوں اور یہنا کارہ اور عزیز انم مولانا انعام الحسن، مولوی ہارون، بھائی شمسیم کی کار میں مولانا سلیم صاحب کے ساتھ ہوں۔ عشاء حرم شریف میں پڑھی۔ اس کے بعد کھانا کھایا یہ پہلے بھی کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ اس ناکارہ کوئی میں سونا جمع میں بہت مشکل ہے۔ اس لیے جب بھی عمرہ کا احرام باندھا، چاہے کتنی ہی وقت ہو اور تاخیر ہو سرمنڈا کراور پا جامہ پہن کر جب لیشتا ہوں حج کی تو البتہ مجبوری ہے۔ بہر حال بڑے جمع کے ساتھ عمرہ کیا۔ مدرسہ صولتیہ کے حضرات نے اپنی کتب حدیث و تفسیر کا اختتام ہم لوگوں کی آمد پر موقوف کر کھا تھا، پہنچنے سے دو تین روز بعد اختتام کتب کا جلسہ کیا۔ جس میں ہم لوگوں سے کتب حدیث کی ایک ایک کتاب ختم کرائی۔

### منی میں راوی:

مکہ ۸ ذی الحجه یوم دوشنبہ کو منی روائی ہوئی۔ عزیز مولانا محمد یوسف صاحب مرحوم کے سابق مطوف سید سلیمان ہاشم تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی سال سے ہمارے مطوف سید مکی مرزا قی تجویز ہوئے۔ جو اس کے بعد سے اب تک ہر حج و عمرے کے رہے۔ بڑے ہی نیک بزرگ، خدمت گار اور فیاض ہیں۔ ان کی دعوتیں بھی بڑی زور دار ہوتی ہیں۔ ۱۳ ذی الحجه کو منی سے واپسی ہوئی۔

### علماء عرب سے ملاقاتیں:

مدرسہ صولتیہ کے دیوان میں جہاں اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی اور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نور اللہ مرقد ہما کا قیام رہتا تھا، بھائی سلیم کی شفقتوں کی وجہ سے وہاں اس ناکارہ کا قیام تجویز ہوا اور اس کے برابر کے دوسرے دیوان میں عزیزم مولانا محمد یوسف صاحب

اور مولانا انعام ہارون وغیرہ تھے۔ اس لیے کارکنام اور جزو کو کب کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا تھا اور بہت عرصہ کے بعد جانا ہوا تھا اس لیے مکمل، طائف، خجد، جدہ، مدینہ پاک کے علماء و رؤسائے بہت ہی کثرت سے ملاقات کی غرض سے آتے تھے اور یہ ناکارہ بحمدیماری اپنے دیوان میں روپوش پڑا رہتا تھا اور ان آئے والوں کو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خوب وصول فرماتے دوڑھانی گھنٹاں کے سامنے خوب زوردار تقریر فرماتے اور جب دیکھتے کہ اب سامعین اُکتا نے کو ہیں تو میرے پاس چکے سے آدمی بھیجتے کہ ان کے انتظار کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے میں لے کر آ رہا ہوں، میں اجازت دے دیتا اور دس منٹ میں عزیزم مرحوم ان سے فرمادیتے کہ آپ کو بھی بڑی دری ہو گئی۔ حضرت شیخ کی طبیعت بھی ناساز ہے وہ بے چارے سب چلے جاتے اور رات کو کھانے پر عزیز موصوف مجھے خوب جتایا کرتے کہ بھائی جی میں نے ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی، میں ان کی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کو لایا ہوں۔ بھائی جی یہ لوگ بھی میرے پاس بھی نہ آتے آپ کی برکت سے ہی یہ لوگ میری کن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مختلف عنوانات سے یہ مضمون بار بار دھراتے تھے اور اس میں مجھے انکار نہیں کہ اس سفر کے دوران بہت ہی خواص کا جمیع آثار ہا۔ نام تو اس ناکارہ کا تھا لیکن حقیقت میں برکت اسی مرحوم کی تھی۔ اس لیے کہ یہ ناکارہ تو اس کے بعد ۸۶ھ میں بھی گیا اور پھر ۸۹ھ میں تو تقریباً سال بھر رہا مگر مدد و دعے چند کے علاوہ ۸۳ھ والوں میں سے شاید ایک دو ہی آئے ہوں گے۔

### مدرسہ شرعیہ میں قیام:

۲۷ ذی الحجه ۹۴ء شنبہ کی صبح کو مکہ مکرمہ سے چل کر ظہر بدرا میں پڑھی۔ ملک عبدالحق صاحب کی پک اپ میں روانگی ہوئی، وہ چلانے کے ماشاء اللہ ضرب المشل ماہر ہیں۔ مکی مرزا قی نے اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے مستورہ میں ہماری دعوت کا بہت زوردار انتظام کر کھا تھا اور مستورہ سے پہلے یہ مسئلہ زیر بحث تھا۔ میری اور مولانا یوسف کی رائے یہ تھی کہ سید ہے چلیں اور ظہر بدرا میں پڑھیں اور باقیہ رفقاء کی رائے یہ تھی کہ مکی مرزا قی کی دعوت کی وجہ سے مستورہ میں کھانا کھا کر ظہر پڑھیں اور پھر آرام کریں اور عصر بدرا کر پڑھیں۔ جب مستورہ قریب آیا میں نے ملک عبدالحق صاحب سے کہا کہ کسی کی نہ سننا تیز چلاو۔ ملک صاحب کی گاڑی میں پیچھے سے خوب شور ہوتا رہا اور مکی مرزا قی بھی سڑک پر دونوں ہاتھوں سے روکنے کا اشارہ کرتے رہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارہ سے ان کو بھی آگے چلنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بیچارے دعوت کا سارا سامان جس میں بیس پچھلیاں بھی تلی ہوئی تھیں اور قسم قسم کے پھل کیا اتر بوز وغیرہ اپنی کار میں لے کر بدرا پہنچے

وہاں ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ اس لیے ہم نے اولاً اپنی ظہر کی نماز پڑھی اور پھر کھانا کھا کر گہوہ خانہ کی چار پائیوں پر آرام کیا۔ عصر کے بعد شہداء بدرا کے مزارات کی زیارت کی۔ مغرب کی نماز مسجد عریش میں پڑھی وہاں معلوم ہوا کہ یہ مسجد مغرب کے فوراً بعد بند ہو جاتی ہے، عشاء اور فجر میں نہیں کھاتی۔ مگر مغرب کی نماز پڑھتے ہی جو مولانا یوسف صاحب نے پڑھائی تھی عربی اور اردو میں مولانا موصوف کی تقریر کا اعلان ہوا۔ حجاز میں عام طور پر مغرب سے ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء ہو جاتی ہے یہ سارے جزاں کا مستقل وقت ہے۔ لیکن مولانا مرحوم نے تین گھنٹے مسلسل تقریر فرمائی اس کے بعد اسی مسجد میں عشاء پڑھی۔ عشاء کے بعد کچھ لوگ مسجد ہی میں سوئے اور کچھ لوگ گہوہ خانہ میں واپس آ کر کی مرزوقی کی دوپہر کی دعوت کا بقیہ اور کچھ مزید اضافہ بھی ملکی مرزوقی نے کر دیا تھا وہ خوب کھایا اور کچھ مسجد عریش والوں کے لیے بھیج دیا۔ میرے حضرت اقدس سرہ کو ہمیشہ بدرا جانے کی تمنا رہی، مگر اس وقت تک مدینہ سے بدرا تک کوئی راستہ نہ تھا۔ اونٹوں پر پھاڑوں سے گزرتے ہوئے تین دن میں بدرا پہنچنا ہوتا تھا اور اب تو اللہ کے فضل سے صرف دو گھنٹے میں کارپیچ جاتی ہے۔

۲۸ ذی الحجه کی صبح کو مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ عزیز گرامی قادر و منزلت مولانا الحاج محمد اسعد سلمہ مدینی ابن حضرت شیخ الاسلام مولانا مدینی قدس سرہ جو اس سال کے حج میں شریک تھے اور اس سیدہ کار سے پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے مدرسہ شرعیہ کے تھانی حصہ میں برابر برابر جو دو کرے ہیں ان میں سے بڑا کمرہ اس سیدہ کار کے لیے اور چھوٹا مولانا یوسف صاحب کے لیے تجویز کر کھا تھا اور دونوں کو سید حبیب صاحب اور ان کے والد ماجد سید محمود صاحب مدینہ پشم کی سعی و برکت سے عروض بنارکھا تھا اور عزیز مولانا اسعد سلمہ بہت دری سے ہمارے انتظار میں بھی تھے۔ حالانکہ بدرا سے ہم نے ایک آدمی بھیج دیا تھا کہ قیام مدرسہ شرعیہ میں ہتھیا ہو گا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ ہی سے مدینہ منورہ کے بہت سے احباب نے اپنے اپنے مکان مولانا یوسف صاحب کے لیے خالی کر کھے تھے اور کئی رباط والوں کا بھی اصرار تھا۔ میں نے مولانا یوسف صاحب سے اپنی راحت کی وجہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے راحت شرعیہ میں ہے اور تمہارے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سو کا مجمع ہے تم اپنا قیام کسی بڑے مکان میں تجویز کرلو۔ مگر مرحوم کو واقعی اس سیدہ کار سے محبت اور اس سے زیادہ غلط حسن ظن کی وجہ سے بہت عقیدت تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا قیام تو آپ ہی کے ساتھ رہے گا اور مجھے ایک جگہ تو نہیں آ سکتا اس کو تو متفرق ہی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ کچھ احباب مدرسہ شرعیہ رہے گا اور مسجدی منزل پر اور کچھ متفرق طور پر دوسرے مکانوں میں پھرائے گئے۔ البتہ عزیز مولانا اسعد سلمہ سے ان کی رائے کے خلاف میں نے یہ کہہ کر مولانا یوسف کے پاس لوگوں کی آمد زیادہ رہے گی اور بڑا کمرہ دروازہ سے اقرب بھی ہے۔ مجھے بڑے مجرے میں دو قسمیں ہوں گی۔ ایک یہ

کہ بیت الحلاع دور ہو گا اور دوسرے یہ کہ ہر آنے والا پہلے میرے چھرے میں جائے گا اس لیے میں نے اور مولا نا یوسف صاحب نے چھروں کا تبادلہ کر لیا۔ میں نے مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم مواجهہ شریف پر حاضر ہواؤ۔ میں نا بکار کسی وقت اقدام عالیہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پہلی دفعہ حاضری تو تیرے ہی ساتھ ہو گی عزیزم مولا نا الحاج اسعد سلمہ نے بھی اصرار فرمایا کہ میں صحیح سے آپ کے انتظار میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے اس رو سیاہ کو بھی مواجهہ شریف پر حاضر ہونا پڑا، ورنہ میں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ چاہتا تھا کہ اقدام عالیہ ہی کی جانب سے صلوٰۃ وسلام کر لوں گا۔ بیس دن قیام کے بعد مولا نا یوسف صاحب نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ اس لیے کہ ان کو مکرمہ اور طائف کے دو اجتماعوں میں شرکت کرنی تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ طائف جاتا میرے بس کا نہیں۔ آپ تشریف لے جائیں اور مولا نا انعام کریم صاحب مجھ پر اصرار کر رہے ہیں کہ میں تجھے جدہ سے ہوائی جہاز کی روانگی سے ایک دن قبل جدہ پہنچا دوں گا۔ بھائی سید حبیب صاحب نے بھی اس کی پرزور تائید کی۔ مگر مولا نا یوسف صاحب نے اس سے کار کے ہمراہ چلنے پر اصرار فرمایا اور یہ قرار پایا کہ کچھ دن وہ اپنی روانگی موت خر کریں اور کچھ میں مقدم کروں۔ اس لیے یکم صفر ۸۲ھ مطابق ۱۳ جون ۱۹۶۲ء شنبہ کو مدینہ پاک سے علی الصباح چل کر ظہر جدہ میں پڑھی اور بعد عصر وہاں سے چل کر مغرب مسجد حدبیہ میں پڑھی اور عشاء کے قریب مکہ مکرمہ حاضری ہوئی اور اپنی عادت کے موافق رات ہی میں عمرہ سے فراغت ہوئی۔

وہاں پہنچنے کے بعد بھائی سلیم، الحاج ماسٹر محمود اور مکہ کے بہت سے حضرات نے شدید اصرار اس پر گیا کہ زکریا طائف ہرگز نہ جائے گا کہ سڑک اس قدر خراب ہے کہ اس کے جھٹکے کا تحلیل زکریا سے نہیں ہو سکتا۔ ان سب نے مجھے براہ راست بھی ختنی سے الگ الگ منع کیا اور مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر اور بھی شدید اصرار کیا کہ تم کیسا ظلم کر رہے ہو کہ اس کو ایسی حالت میں لے جا رہے ہو۔

مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں ظہر کے بعد لینا ہوا تھا بھائی سلیم صاحب بہت اہتمام سے مستقل اسی بات کے لیے اترے اور بیٹھتے ہی کہا میں نے سنا آپ بھی طائف تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ضرور تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرمائے گئے بھائی جی اس کا بالکل ارادہ نہ کریں۔ بہت ہی خراب راستہ ہے خدا نخواست کوئی تکلیف ہو گئی تو کیا ہو گا اور حرم شریف کی لاکھوں نمازیں جائیں گی۔ مگر جب مجھ سے وہ مایوس ہو گئے تو باہر جا کر عزیزم مولا نا یوسف کے سر ہو گئے۔ عزیز موصوف بھی میرے پاس آیا۔ بھائی جی طائف کو تو سب ہی منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پیارے اگر تو مجھے مدینہ چھوڑ آتا تو تیرا احسان ہوتا لیکن مکہ میں نہیں رہنے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ

میں ہوگی مجھ پر یورش اور تو ہونے کا نہیں۔ یہ ساری بلا مجھ پر رہے گی۔

### بندہ کا طائف میں تبلیغی سفر:

۸ صفر مطابق ۲۰ جون شنبہ کی صبح کو طائف کی روائی ہوئی دو گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ وہاں بڑے اہتمام اجتماع کے ہو رہے تھے۔ ایک اجتماع مسجد عباس میں ہوا۔ دو اجتماع بخاریوں کی دو مساجد میں ہوئے۔ ۱۰ صفر مطابق ۲۲ جون کی صبح کو واپسی ہوئی۔ واپسی پر توبہ سے پہلے عزیز شیم نے اظہار میرت مبارکباد دی۔ پھر بھائی سلیم نے کہا کہ بھائی کرامتوں سے لڑنا ہمارے بس کا نہیں اور پھر ہر شخص نے آکر بہت ہی تجہب و حیرت کا اظہار کیا۔

### جده میں تبلیغی اجتماع:

معلوم یہ ہوا کہ امیر فیصل صاحب پہلی دفعہ طائف جانے والے تھے اس واسطے ان کی وجہ سے ڈاننا میٹ کے ذریعہ دن رات پھاڑ توڑے گئے اور سڑک اس قدر تازہ بتازہ تارکوں کی تھی اور اس پر ریت بچھا ہوا تھا کہ کہیں اونچ پنج نہیں تھی۔ واپسی میں مکہ مکرمہ اور جده میں بھی اجتماعات ہوئے۔ عزیز مولانا یوسف صاحب کی توہر گفتگو تقریبی جو مسلسل گھنٹوں ہوتی رہتی تھی۔ جہاں وہ بیٹھتے وہیں اجتماع ہو جاتا۔ ۲۳ جون کو بعد عصر مکہ سے چل کر مغرب مسجد حدیبیہ میں پڑھ کر عشاء کے وقت جده پہنچے۔ ایک دن وہاں قیام میں بھی بڑا زور دار اجتماع میمنوں کی مسجد میں ہوا۔ انہیں کے محلہ میں قیام تھا۔

### واپسی از جده برائے پاکستان اور وہاں کے اسفار کے مختصر حالات:

۲۵ جون کو جده سے بذریعہ طیارہ کر اپنی پہنچ اور ۲۹ جون کو کراچی سے لائل پور، کیم جولاںی بروز بدھ کی شام کو وہاں سے سرگودھا۔ چوبیس گھنٹے میں قیام کے بعد ۲ جولاںی کو عصر کی نماز کے بعد ڈہلیاں حاضری ہوئی۔ ۶ جولاںی دو شنبہ کی صبح کو وہاں سے چل کر دو پھر کوتلانگ پہنچے، وہاں جزل حق نواز صاحب نے پہلے سے اونچے دکام اور اونچے طبقے کے احباب کو خاص طور سے مدعو کر کھا تھا۔ کھانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر ہم سب تو سونے کے ارادہ سے لیٹ گئے اور مولانا یوسف صاحب عصر تک اس مجمع سے گفتگو میں مشغول رہے۔ اول وقت عصر پڑھ کر مغرب را ولپنڈی میں پڑھی، وہاں سے ۱۰ جولاںی کی صبح کو لا ہور پہنچے۔ شاہی مسجد میں جمع کے بعد پہلے سے اجتماع کا اعلان تھا۔ مولانا یوسف صاحب تو عصر تک وہاں رہے اور یہ ناکارہ شروع ہی سے بلال پارک کی مسجد میں جولاہور کی تبلیغی جماعت کی مرکزی جگہ ہے پہنچ گیا تھا، وہیں جمعہ پڑھا، وہیں شام تک آرام کیا، وہیں مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فارغ ہو کر پہنچ گئے۔ شنبہ کی صبح کو لا ہور کے

عربی مدارس میں بذریعہ کارائیک گشت کیا۔ احباب سے ملاقاتیں ہوئیں شنبہ کی شام کو رائے و مذہ جو سارے مغربی پاکستان کا تبلیغی مرکز ہے پہنچے اور اگلے دن لا ہور واپسی ہوئی۔ جناب الحاج الحافظ صوفی عبدالجید صاحب کا شروع ہی سے اصرار سرائے مغل لے جانے پر تھا اور احباب ویزانہ ہونے کا عذر کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت ہی کوشش کر کے ویزا حاصل کیا اور منگل کی صبح کو سرائے مغل گئے عصر کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی۔ ۱۶ جولائی پنجشنبہ کو سواد و بیجے لا ہور سے چل کر ساڑھے تین پر دہلی پالم کے اڈہ پر پہنچے۔

۱۹ جولائی اتوار کی صبح کو دہلی سے چل کر کاندھلہ میں چائے متولی ریاض الاسلام صاحب کے باغ میں پی اور چونکہ عزیز الیاس صاحب مرحوم جو ہم سے پہلے اپنی بیماری کی وجہ سے حافظ صدیق کے ساتھ مدینہ سے روانہ کیا جا چکا تھا اور دہلی پہنچ کر اس کی علاالت کی شدت کی خبر سنی تھی، اس لیے عزیز مولانا انعام الحسن صاحب کی تجویز پروہ اور مولانا یوسف اور یہنا کارہ، بھائی شیخ سم کی اور اطفال شاہد زیر وغیرہ جو استقبال کے لیے دہلی گئے ہوئے تھے دو کاروں میں تیرانہ عزیز الیاس کی عیادت کو گئے۔ متولی ریاض نے کھانا بہت تیار کرا رکھا تھا ان کا اصرار تھا کہ ان کے باغ میں کھانا کھائیں۔ میں نے ان کا کھانا ساتھ لیا اور کچھ عزیز الیاس مرحوم نے جلدی جلدی تیار کرایا کھانا نیز ان میں کھایا اور حضرت مدنی قدس سرہ کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے مغرب دارالطلبہ جدید کی مسجد میں پڑھی۔ مغرب کے بعد اول مولانا یوسف نے تقریر کی اور پھر عشاء تک مصافی ہوئے اور مسجد مذکور میں عشاء پڑھ کر گھر پہنچے اور اگلے دن دو شنبہ کی صبح کو گنگوہ اور شام کو واپسی اور منگل کی صبح کو رائے پور جا کر شام کو واپسی اور دوسرے دن ۲۳ جولائی چہارشنبہ کی صبح کو کاندھلہ جا کر ۲۴ جولائی پنجشنبہ کی دوپہر کو زکریا کی واپسی سہار پور کو ہوئی اور عزیز مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظام الدین کو۔ مجھے خوب یاد ہے الوداعی معاشرت کے وقت عزیز مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت روتے ہوئے آنسو پڑھ رہی تھی فرمایا کہ چار ماہ کی ہر وقت کی رفاقت کے بعد آج جدا ہی ہو رہی ہے۔ رحمہ اللہ درحمۃ واسعۃ۔

### اختتام سفر:

اس سفر میں تبلیغی اجتماع اور تمام اطراف و جوانب کے ممالک کے مبلغین کا اجتماع اور جملہ جماں کی گردیدگی دیکھ کر مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان اور قانون بنانے کے تھے کہ ہر تیرے سال حج پر حاضری ہوگی اور شیخ الحدیث بھی ساتھ ہوا کریں گے اور اس ضابطہ کے موافق ۸۵ھ کو جانا گویا طے شدہ تھا۔ لیکن ۲۹ ذی قعده ۸۷ھ جمعہ کو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا

لاہور میں حادثہ انتقال ہو گیا۔ جس کی وجہ سے ۸۵ھ کا حج ملتوی کرنا پڑا کہ نظام الدین کی ضروریات بہت بڑھ گئیں تھیں اور بجائے اس کے ۸۶ھ میں مولانا انعام الحسن صاحب کی زیر قیادت چوتھا سفر حجاز ہوا۔

## یہ میرا پانچواں حج ہے

### احباب کا اصرار سفر حج کا:

اس سیدہ کارنے اس سال بالکل ارادہ اپنے امراض و اعذار کی وجہ سے نہیں کر رکھا تھا۔ لیکن برادرم الحاج مولانا محمد سلیم علی نے ماہ مبارک میں خواب دیکھا کہ یہ سیدہ کارمکہ پہنچا اور جبل الی فتبیس پر قیام کیا۔ انہوں نے خود ہی تعبیر یہ لی کہ چونکہ اس سال مولانا انعام الحسن صاحب اور مولوی ہارون آر ہے ہیں اور شیخ پر کوئی تقاضہ یہاں سے نہیں گیا۔ انہوں نے عزیزم الحاج محمد شمسیم کو رمضان ہی میں جدہ بھیجا اور اس ناکارہ کا ویزا نکٹ وغیرہ سب ایک دو دن میں تیار کر کر نظام الدین بھیج دیے۔ مجھے اس سے گرانی بھی ہوئی کہ بغیر استفسار محض خواب پر یہ بنیاد قائم کر لی ہے۔ میں نے ان کو بھی معدود ری کا خط لکھ دیا اور مولانا انعام صاحب کے اصرار پر تو پہلے سے انکار کر رکھا تھا۔ لیکن چونکہ مولانا یوسف صاحب کے بعد مولانا انعام کا یہ پہلا حج تھا۔ اس لیے مولانا موصوف اور پاکی احباب تبلیغ کا اصرار تھا کہ زکریا کو اس سال ضرور ساتھ لائیں۔

اہل بسمی نے مولانا محمد عمر صاحب پالپوری کے پاس دہلی تا بسمی کے دو نکٹ ہوائی جہاز کے میرے اور میرے رفیق سفر الحاج ابو الحسن کے بھیج کرتا اور شیلیفون سے شدید اصرار کر رکھا تھا کہ زکریا کو ضرور ساتھ لائیں اس لیے کہ اس کا بسمی آنا بغیر سفر حج کے دشوار ہے۔ میں نے بسمی کے نکٹ کو واپس کرنے کا بہت تقاضہ لکھا تھا۔ مگر مولانا انعام الحسن نے اس کے واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر نہ جانا ہوا تو صرف اتنا ہی ہو گا کہ دو نکٹ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ناکارہ چونکہ نہ جانا طے کیے ہوئے تھا اس لیے ۷ ذی القعده ۸۶ھ مطابق ۱۸ افروری ۱۹۰۷ء شنبہ کی صبح کو بذریعہ کار عزیزان مولانا انعام صاحب اور مولوی ہارون کی مشایعت کے لیے دہلی گیا۔ چونکہ صرف دو دن کے لیے گیا تھا اس لیے نہ تو کوئی سامان ساتھ تھا اور نہ کوئی کپڑا اور غیرہ ساتھ تھا، نہ یہاں گھروالوں کو اس ناکارہ کے حج کے لیے جانے کی کوئی اطلاع تھی۔ عزیز ابو الحسن بھی میرے ساتھ دہلی تک گیا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اتوار، پیر دو دن سب ہی کے اصرار میرے سفر حجاز پر ہوتے رہے اور میں بھی بار بار استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابو الحسن علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصرار ہوا، مجھے

اطمینان تھا کہ میرا پاسپورٹ بھی گم ہے، لیکن وہاں کے احباب نے ڈاکٹر سید محمود ایم پی کی وساطت سے میرے پاسپورٹ کی گشتنگی کی درخواست اور اس کی جگہ نیا پاسپورٹ بھی ایک ہی دن میں حاصل کر لیا، اس کو بھی تائید غیری اور طلب سمجھا۔ اس لیے منگل ۱۰ اذیقعدہ کو عین ان حضرات کی روانگی کے وقت میں نے جانے کا ارادہ کر رہی تھی اور کار میں ہوائی اڈے کے لیے بیٹھ گیا اور اڈہ پر میرے محترم عزیز مولانا الحاج سید احمد مدینی اور جناب الحاج عبدالرشید صاحب خورجی ایس پی صاحب اپنی کار لے کر پہنچ گئے۔ اس لیے کہ عزیز موصوف کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کو علی الصباح دہلی پہنچ کر میرا بارا دھج روانہ ہونا معلوم ہوا تو وہ اسی وقت ہوائی اڈے پہنچ گئے اور وہاں عزیز موصوف نے ایس پی صاحب کی وساطت سے اس کی بھی اجازت حاصل کر لی اسی کار میں جہاز پر سوار کرائیں گے۔

چونکہ اس سے کار کایہ سفر بلا ارادہ ہوا اور میرے گھروالوں کو بھی میری روانگی کا حال رات کو ان لوگوں سے معلوم ہوا جو رات کو دہلی تک پہنچا کر واپس آئے تھے۔ اس لیے عزیز مولانا الحاج ابو الحسن سلمہ بھی ساتھ نہ جا سکا۔ دوسرے دن اس نے پاسپورٹ ویزا اور غیرہ کی سعی کی اور سفیر سعودی عرب مقیم دہلی کو اللہ بہت ہی جزاۓ خیر عطا فرمائے انہوں نے یہ کہ ابو الحسن زکریا کا خادم ہے، ساتھ جانے سے رہ گیا۔ فوراً ویزا دے دیا۔ وہ رات کو سہار پورا آیا اور اپنے یہاں سے اپنا سامان مختصر ساتھ لے کر دوسرے دن بذریعہ ریل بمبی چلا گیا اور چونکہ ہمارا ہوائی جہاز روانہ ہو چکا تھا اور اس کا ہوائی جہاز کا نکٹ بھی نہ تھا اس لیے وہ بھریں کے راستے سے بھائی جیل حیدر آبادی رفقاء کے ساتھ بعد میں مکہ مکرمہ پہنچا۔

### بمبی میں مولانا وصی اللہ صاحب کے مستقر پران کی زیارت کے لیے حاضری:

ہمارا طیارہ دہلی سے ۲۱ فروری کو  $9\frac{1}{2}$  بجے چل کر  $11\frac{1}{2}$  بمبی پہنچا۔ اترتے ہی اول حضرت مولانا وصی اللہ صاحب کے مستقر پران لی زیارت کے لیے سب گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مولانا آج ہی صبح اس جگہ سے کسی دوسری جگہ ناراض ہو کر منتقل ہو گئے جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کا لیکشن کا زمانہ تھا۔ کسی صاحب نے اخبار میں چھاپ دیا کہ مولانا فلاں صاحب کے حامی ہیں۔ فریق مخالف نے اس کی پر زور تردید کی۔ مولانا مر جوم کو اس پر غصہ آیا کہ غلط طور پر ان کے نام کا لیکشن والے استعمال کر رہے ہیں اس لیے مولانا کے سابقہ مستقر سے دوسرے مستقر پر حاضر ہوئے۔ مولانا مر جوم بہت ہی شفقت اور محبت سے ملے اور باصرار سورپے ہدیہ سیمیہ کے طور پر مرحمت فرمائے۔ ۲۳ فروری جمعرات کی صبح کوے بجے بمبی سے طیارہ روانہ ہوا۔ کراچی پچاس منٹ اور ظہر ان آؤ ہنگشہ اور ریاض

چچاں منٹ کھہرتے ہوئے ظہر کے بعد عربی ۷ بجے کے قریب جدہ پہنچے۔

قدوالی صاحب سفیر ہند متعین جدہ کو عزیزم بھائی شیم کے ذریعہ سے زکریا کی آمد کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی کار لے کر مطار پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزاً خیر عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے اس سفر میں بہت سی راحتیں پہنچیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے راحت و آرام سے رکھے۔ مطار سے ہم سب کو اپنی کار میں بٹھا کر کشم کے سامنے روکا۔ یہ ناکارہ کار میں بیٹھا رہا عزیزم مولانا انعام، ہارون کشم میں گئے۔ مگر سفیر صاحب کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ درپنہیں لگی۔ چند منٹ میں فارغ ہو کر آگئے اور سفیر صاحب کے مکان پر جا کر بعد ظہر کھانا کھایا۔ اس کے بعد عصر حدیبیہ میں پڑھتے ہوئے مغرب کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

### روانگی مدینہ طیبہ اور عبد العزیز ساعاتی کے مکان پر قیام:

رات کو عمرے سے فراغت کے بعد حب سابق شنبہ کے روز صحیح کو مدرسہ صولتیہ کی کتب حدیث و تفسیر کا اختتام کرایا۔ ۲۱ ذی الحجه کو مغرب سے پہلے مکہ سے چل کر مغرب حدیبیہ میں پڑھی، عشاء کی اذان کے قریب جدہ پہنچ اور مسجد بن لادن جو آج کل تبلیغی مرکز ہے اس کے قریب حافظ محمد رمضان صاحب کے مکان میں قیام ہوا۔ پہلے دن مسجد حنفی میں اجتماع ہوا اور دوسرے دن مسجد پلنی میں بعد مغرب اجتماع ہوا اور یہ مسجد عرصہ سے تبلیغی مرکز تھا۔ ۲۲ ذی الحجه پیر کے روز شام کو اسی مسجد میں عربوں کا بڑا اجتماع ہوا۔ منگل کے روز اشراق کے وقت مدینہ طیبہ کے لیے روانگی طے تھی۔ مگر ملک عبد الحق صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ایک گھنٹہ انتظار کے بعد دو کاریں فی کارنوے ریال کرایہ کر کے عربی ۳ بجے مدینہ پاک کو روانگی ہوئی۔ ظہر کے وقت بدر پہنچ اور شب کو قیام کے بعد بدھ کی صبح کو عربی ۱۲ ۱/۲ بجے چل کر ۳ بجے مدینہ پاک حاضری ہوئی۔

جدہ سے مدینہ ۲۲۲ کلومیٹر ہے اور بدر سے ۱۳۹ کلومیٹر ہے اور چونکہ مدینہ پاک میں اس سیہ کار کی اطلاع پہلے سے نہیں تھی اور مدرسہ شرعیہ جاج سے پڑھ گیا تھا۔ اس لیے مکہ ہی سے عبد العزیز ساعاتی کے مکان میں قیام طے ہو گیا تھا۔ جوانہوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے کراہیہ پر نہیں دیا تھا اور بہت بڑا انقصان گوارا کیا تھا۔ یہ مکان صوفی اقبال کی رباط کے بالکل قریب تھا۔ اس لیے ناکارہ کا قیام تو صوفی اقبال صاحب کے مکان میں اور دوسرے حضرات کا جو دوسو کے قریب تھے، الحاج عبد العزیز ساعاتی کے مکان میں قیام ہوا۔ وہاں پہنچنے کے بعد الحاج سید محمود صاحب کا اور ان سے بڑھ کر مولانا انعام کو اصرار ہوا کہ مدرسہ شرعیہ خالی ہو گیا۔ وہاں منتقل ہو جائیں۔ مگر ان سے وعدہ ہو چکا تھا۔ اس لیے بڑی ندامت کے ساتھ سید صاحب سے مغذرت کر دی جس کا

قلق ہے۔ سید صاحب کے یہاں پہلے سفر میں بھی زور دار دعویٰ میں ہوئیں۔ پہلے سفر میں بڑے اہتمام سے سید صاحب نے ایک عصرانہ اپنے باغ میں دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اصرار فرمایا مگر معذرت کرنی پڑی کہ مسجد بیوی کی نماز زیادہ اعتمد ہے۔

۱۲۲ اپریل ۶ء ہندی ۱۱ محرم ۸۷ھ شنبہ کی صبح کی نماز کے بعد مدینہ پاک سے ملک عبد الحق کی گاڑی میں روانگی ہوئی۔ مگر وہ شروع ہی سے خراب تھی رابغ پہنچ کر اس نے بالکل جواب دے دیا۔ براہ راست مکہ کی گاڑی کی تلاش میں رہے، نہ ملنے پر مجبوراً مغرب سے ایک گھنٹہ قبل جده کی کار کرایہ پر لی۔ مغرب کی نماز راستے میں پڑھی اور بعد مغرب جده پہنچے اور وہاں سے مکہ کے لیے کار کرایہ کر کے وہاں سے چلے اور عشاء کے ایک گھنٹہ بعد مکہ مکر مہ میں حاضری ہوئی۔ رات ہی کو عمرہ ادا کیا۔

یہ عمرہ حضرت مرشدی سہارنپوری قدس سرہ کی طرف سے کیا تھا اور اس سے پہلا تmutع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تھا۔ ۱۲۲ اپریل چہارشنبہ کی صبح کو ملک عبد الحق کی گاڑی میں مکہ سے چل کر جده پہنچے۔ چونکہ قدوالی صاحب کا شدید اصرار پہلے سے تھا۔ مکہ میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے اصرار فرمایا کہ ہندوستان جاتے ہوئے قیام میرے یہاں ہو گا۔ اس لیے سید ہے ان کے مکان پر گئے کہ ان کو پہلے سے اطلاع تھی۔ مگر وہ کسی ہواںی جہاز کی روانگی کے سلسلہ میں مطار گئے ہوئے تھے۔ ان کے مکان پر جا کر سب سو گئے۔ وہ عربی ۶ بجے کے قریب واپس آئے۔ ذکریا سورہاتھا اور مولوی انعام صاحب جاگ رہے تھے۔ عربی ۷ بجے اٹھنے پر نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور مسجد بن لادن مرکز تبلیغ کے قریب حافظ رمضان کے مکان پر پہنچے۔ جہاں ہم سب رفقاء کا سامان صبح سے جمع ہو رہا تھا۔ وہاں سے قبل مغرب مطار کی مسجد میں پہنچے۔ قدوالی صاحب کا اصرار تھا کہ میں قیام گاہ ہی پر آرام کروں۔ وہ جہاز کی پرواز سے پانچ منٹ پہلے مجھے وہاں سے سوار کر کے سید ہے ہواںی جہاز پر پہنچا دیں گے۔ مگر ذکریا نے قبول نہیں کیا۔ جملہ رفقاء مع اصحاب صولتیہ مغرب سے قبل مطار کی مسجد میں پہنچ گئے۔ البتہ وہاں سے اور سب رفقاء تو مختصر سنتیں پڑھ کر طیارہ پر پہنچ گئے۔ قدوالی صاحب نے ذکریا کو شدت سے منع کر دیا کہ سب کے ساتھ جانے میں بہت دقت ہو گی۔ بڑی دیر لگے گی۔ میں جہاز کی پرواز سے دو تین منٹ پہلے سید ہے یہاں سے سوار کر کے بالا بالا جہاز پر پہنچا دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ ان کو بہت ہی جزاۓ خیر دے کہ مجھے مسجد سے بٹھا کر ایک منٹ میں ہواںی جہاز کی سیڑھی پر پہنچا دیا۔

### والپسی از حجاز پاگ براہ پاکستان:

مولانا انعام الحسن صاحب عزیز ہارون ابوالحسن بھی اسی کار میں تھے اور عربی ڈیڑھ بجے یعنی مغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد طیارہ نے پرواز کی اور پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے شب کے کراچی کے مطار پر پہنچے۔ اسی وقت حاجی فرید الدین صاحب کی برکت سے کہ وہ کراچی کے ہوائی اڈہ کی بہت اونچی شخصیت ہیں۔ ان کی برکت سے زکریا اور ابوالحسن بھائی یوسف رنگ والوں کی کار میں کمی مسجد پہنچ گئے۔ بقیہ حضرات دوسری کاروں میں تقریباً ایک گھنٹہ بعد پہنچے۔ زکریا تو پہنچ کر اپنی جماعت کر کے کھانے کو انکار کر کے سو گیا۔ بقیہ نے آکر نماز ڈھنڈ کر کھانا کھایا۔ جمعرات کا سارا دن ہجوم میں گزرا۔ جموعہ کی صحیح کو مفتی شفیع کے مدرسہ میں جا کر ایک گھنٹہ قیام کے بعد کمی مسجد واپس آئے۔ پہلے سے طیارہ کی اطلاع ۱۱ ۱/۲ پر پرواز کی تھی۔ کمی مسجد پہنچ کر اول ۱۰ ۱/۲ بجے کی پھر ۱۰ ۱/۲ بجے کی اطلاع ملی، کیونکہ بارش کا سلسلہ خوب تھا جو کراچی میں صحیح سے اور دہلی میں دو روز پہلے سے چل رہا تھا اس لیے عام خیال تھا کہ طیارہ ۱۱ ۱/۲ بجے سے بھی زیادہ موخر ہو گا اس لیے سب مطمئن تھے۔

مطار سے ٹیلیفون پر معلوم ہوا کہ ۱۰ ۱/۲ بجے جا رہا ہے تو نہایت عجلت میں مطار پر پہنچے۔ زکریا کے متعلق پہلے یہ طے تھا کہ حاجی فرید الدین صاحب عین وقت پر طیارہ پر پہنچا دیں گے۔ مگر طیارہ کی تقدیم کی وجہ سے جزو صاحب کی کار میں مطار پر پہنچ اور مطار والوں کی کرسی پران کے عملہ کی مدد سے طیارہ پر پہنچے۔ زکریا کی کرسی کی وجہ سے طیارہ میں دس منٹ کی تاخیر بھی ہوئی کہ مطار سے سارے بڑے چھوٹے شہر سن کر جمع ہو گئے۔ پاکستانی دس نج کر چالیس منٹ پر طیارہ نے پرواز کی اور وقت مقررہ سے ۲۰ منٹ پہلے کراچی کے وقت سے ۱۲ نج کر دس منٹ پر اور دہلی کے وقت سے بارہ نج کر چالیس منٹ پر پالم کے اڈہ پر پہنچ گئے۔ زکریا معاں اطفال و ابوالحسن، حاجی نصیر الدین علی گڑھ کی کار میں ایک بجے نظام الدین مسجد پہنچے۔ مگر ڈرائیور ناواقف تھا۔ اس لیے راستہ میں دیر لگی اور مولانا انعام الحسن صاحب مطار پر دعاء کر اکر زکریا کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچے۔ بقیہ رفقاء آہستہ آہستہ ۲ بجے تک پہنچتے رہے۔

### والپسی در سہاپور:

نظام الدین کے احباب نے دو دن پہلے سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جمعہ بجائے ڈیڑھ بجے کے ڈھائی بجے ہو گا۔ اس لیے سب نماز میں شریک ہو گئے اور طے ہوا کہ اتوار کی صحیح کو حضرت میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دیتے عصر سہار پورا دار الطبلہ جدید کی مسجد میں پڑھی جائے، لیکن دونوں مزاروں پر حاضری دیتے ہوئے ۱۱ ۱/۲ بجے سہار پور پہنچ

گئے۔ اس لیے کہ جنوم کے ڈر سے نظام الدین سے اپنی جماعت علیحدہ کر کے چیکے سے روانہ ہو گئے تھے۔ ۱۱½ بجے دارالطلبہ قدیم میں ناظم صاحب سے ملاقات کے بعد مدرسہ قدیم میں تھوڑی دیر نہ ہرنے کے بعد مکان آئے اور چونکہ عام اطلاع عصر کے وقت دارالطلبہ جدید کی تھی، اس لیے مخصوص لوگوں سے ملاقات تو ظہر کے بعد ہوتی رہی، لیکن عمومی ملاقات اور مصافحہ دارالطلبہ جدید میں عصر کے بعد سے مغرب تک ہوئے۔ لیکن مغرب کے بعد بھی جدید جنوم آیا۔ اس لیے مغرب کے بعد بھی ایک گھنٹہ تک ہوئے۔

پیر کی صحیح کو علی گڑھ کی کار میں اول گنگوہ اور وہاں سے واپسی پر ابوالحسن کے اصرار پر اسلامیہ اسکول میں پرنسپل وغیرہ سے مصافحہ کرتے ہوئے سوا گیارہ پر گھر پہنچے، پہلے سے پیر کے دن گنگوہ سے واپسی پر رائے پور کا وعدہ فرمایا تھا مگر کچھ کاروں کی گڑڑی کی وجہ سے رائے پور کا ندھلہ دونوں ملتوی ہوئے اور شام کو ۲۷ بجے مولانا انعام الحسن صاحب سید ہے دہلی چلے گئے۔ کاندھلہ کے جملہ رجال تو نظام الدین پہنچ گئے تھے اور مستورات ساری سہار پور آگئیں۔ اس لیے پیر کی شب زکریا نے بخاری شریف کا سبق شروع کر دیا۔ جس کی افتتاح ۲۷ شوال چہارشنبہ کو جانے سے پہلے ہو چکی تھی۔

اس کے بعد مجوزہ قانون کے موافق ۸۸ھ کا حج طے تھا۔ اس سے کارکا افریقہ کے احباب کے پاس سے ملک آگیا جو مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ کے ساتھ آیا تھا۔ معطی صاحب کا نام تو مجھے معلوم نہیں، اللہ ان کو بہت ہی جزاۓ خیر دے۔ اس مرتبہ بھی اس سے کارکی طرف سے تو اپنے امراض کی وجہ سے تکاسل ہی تھا اور چونکہ امراض کی کثرت کی وجہ سے بخاری شریف کا سبق بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے زکریا کا اصرار تھا کہ اگر جائیں تو ایک دوسال قیام کریں جلد وابس نہ آئیں اور میرا یہ مقولہ بہت ہی مشہور ہو گیا کہ ”اگر جاؤں تو آؤں کیوں اور آؤں تو جاؤں کیوں“۔ اس لیے کہ اپنی ناکارگی، گندگیوں کی وجہ سے وہاں کے قیام کی اہلیت نہیں اور امراض و اعذار کی وجہ سے تدریس و تالیف کا موقع نہیں رہا اور مولانا انعام الحسن صاحب بھی اس خوف سے کہ وابس آنے میں پاؤں نہ ملے، لے جانے میں متاثل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نظام الدین کے مسائل بھی پیش آئے کہ جن کی وجہ سے وہاں کے احباب مولانا انعام الحسن صاحب کی غیبت میں اس ناکارہ کا قیام سہار پور اور وقتاً فوقاً قتل نظام الدین جاتے رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ علی میاں بھی ان کے بہت زور کے حامی تھے اور میرے جانے کے مخالف۔ لیکن چونکہ مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ کا جانا طے ہو چکا تھا، اس لیے وہ زکریا سے الوداعی ملاقات کے لیے ۲۳ شوال کو سہار پور آئے۔ دارالطلبہ جدید کی دارالحدیث جناب الحاج حکیم محمد ایوب صاحب نے اپنے اہتمام سے بہت ہی ذوق و شوق سے بنوائی تھی۔

ان کا اصرار تھا کہ زکر یا اس کا افتتاح کرے۔ اس لیے ۲۵ شوال چہارشنبہ کی صبح کو مولوی یوسف صاحب سے اول الحدیث اُسلسل یا لا ولیتہ پڑھوائی۔ پھر زکر یا نے بخاری شریف کی پہلی حدیث حفظ پڑھی۔ کیونکہ آنکھوں میں نزول آب تھا اور پڑھ کر یہ کہا کہ بھائی تقریر تو اس کی بہت لمبی چوڑی ہے۔ وہ تو مولا نا یوسف صاحب کریں گے، تبرکاتِ اسم اللہ میں نے کرادی ہے۔

اس کے بعد مولا نا انعام الحسن صاحب نے عزیزان زیر، شاہد کا نکاح ہر ایک کی بہن سے مہر فاطمی پر پڑھایا اور آدھے گھنٹہ تک خوب دعا میں کرامیں اور نکاح میں بجائے چھوہاروں کے پنڈ کھجوریں تقسیم ہوئیں۔ ظہر کے بعد عزیزان مولا نا انعام الحسن وہارون اپنی گاڑی میں دبلي چلے گئے۔ ۱۳ ذی القعده ۸۸ھ مطابق ۲۹ فروری کے دن عزیزان مولا نا انعام الحسن وہارون کے جہاز کی روانگی ۹ بجے طختی۔ اس لیے ۸ بجے مطار پر پہنچ گئے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بسمی جانے والا جہاز بھی کلکتہ کھڑا ہے۔ وہاں سے آ کر پھر بسمی جائے گا۔ اس واسطے مولا نا محمد عمر صاحب نے مطار پر ایک لمبی تقریر شروع کر دی۔ جس میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نقد ایک جماعت مشایعت کرنے والوں میں سے بسمی پیدل جانے کے لیے تیار ہو گئی جو وہیں سے روانہ ہوئی۔ ۱۲ ۱/۲ پر جہاز آیا اور ۱۲ نجح کر ۵ منٹ پر پرواز کی اور ۳ بجے بخیریت بسمی پہنچ گئے۔

عزیزان مطار سے اتر کر حاجی دوست محمد صاحب کے یہاں گئے اور دوسرے دن شہر میں منتقل ہو گئے۔ بہت زور شور کے اجتماعات جامع مسجد وغیرہ میں ہوتے رہے۔ ان اجتماعات کی نظیر پہلے سفروں میں نہیں ہوئی۔ منگل کی دو پھر کو ۱۱ ۱/۲ بجے چل کر کراچی پہنچ۔ ۱۲ ۱/۲ گھنٹہ وہاں قیام رہا۔ ظہر پڑھ کر روانہ ہوئے، عصر ریاض میں پڑھی اور مغرب جدہ کے ہوائی اڈہ پر اور سفیر ہند قدی و ای صاحب کے ہاں چائے پی۔ وہ بار بار زکر یا کے نہ جانے پر اظہار افسوس کرتے رہے اور یہ کہ دل بچھ گیا اور ہمیشہ سعدی کے یہاں کھانا کھا کر عشاء حدیبیہ میں پڑھ کر سعدی کے گھر ۵ بجے عربی پہنچے۔ اس نے پہلے سے بہت زور باندھ رکھے تھے اور دستر خوان پڑتا ہوا تھا کہ بھائی سلیم کا ڈاٹ کا شیلیفون پہنچا کہ یہاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیے بیٹھے ہیں، تم کہاں لیے پھر رہے ہو۔ سعدی تو اللہ اس کو بہت بلند عطا فرمائے لقہ پھوڑ کر اٹھ گیا۔ بقیہ سب نے دودو چار چار لقے کھائے۔ پھر جا کر سلیم کے یہاں کھانا کھایا۔ لیکن بھائی سلیم صاحب بالکل ساکت رہے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ تیرے نہ آنے کی وجہ سے ان کو قلق تھا۔ اگلے دن سے اپنے مشاغل اجتماعات میں مشغول ہو گئے۔ ترکوں، افریقیوں وغیرہ ہر ملک کے الگ الگ اجتماعات ہوئے۔ نجح سے فراغ پر ۱۳ امارچ مطابق ۲۳ ذی الحجه کو مدینہ کے لیے روانہ ہوئے شب کو بدرومیں قیام کے بعد صبح جمعہ کو مدینہ پاک پہنچے۔

### جہاز پاک میں سیاہ کی تفصیلات:

اس سال مکہ مکرمہ میں انتہائی طوفانی بارش ۲۲ ذی قعده مطابق ۲۲ جنوری چہارشنبہ کی صبح کو ہوئی مکہ مکرمہ پر نہایت ابر مسلط تھا۔ ظہر سے دو گھنٹے قبل اس زور کی بارش شروع ہوئی کہ راستے سب بند ہو گئے۔ موڑیں سیاہ میں پتوں کی طرح بہہ گئیں۔ کاریں اوپر تلے ڈنس گئیں۔ حرم شریف میں پاپ کعبہ سے دو بالشت اور پرانی پہنچ گیا اور حرم شریف کی مٹی اور گنکریوں کی وجہ سے پانی کے سب مخرج بند ہو گئے۔ سابق مقام ابراہیم کا صرف چاند نظر آ رہا تھا۔ زمزم شریف کا کنوں بالکل اٹ گیا۔ بہت سی لاشیں اس میں گریں۔ زمزیوں کے جو خلوے حرم جدید کے پیچے تھے لوگوں نے اس کے اندر کے دروازے بند کر رکھے تھے وہ سب انتقال کر گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ حرم شریف میں ظہر کی نہ عمومی نماز ہوئی نہ اذان۔ مغرب تک پانی بھر گیا اور مکبرہ پر جو چند آدمی محبوس تھے انہوں نے ہی وہاں اذان کیا اور وہیں نماز پڑھی۔

معلوم ہوا کہ جدہ میں اس سے دُنی بارش رہی۔ مکہ سے آمدہ خطوط بالخصوص عزیز سعدی کے بہت ہی تفصیلات سے اور در دانگیز واقعات سے لبریز آتے رہے۔ معلوم ہیں ان خطوط کے پڑھنے سے علی میاں پر کیا اثر ہوا کہ انہوں نے اس سے کار پر جلد مکہ جانے پر تقاضا کیا اور بہت بلبلہ کر اس پر اصرار کیا کہ دعا کرو میرے چلنے کی بھی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے یہاں اضطراری دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ بلا وہم و مگان جامعہ مدینہ پاک کا ایک اجتماع حکومت نے طے کیا۔ جس میں علی میاں کو خاص طور سے مدعو کرنے کے احکام جاری کیے گئے اور ان کے رفیق کے ٹکٹ بھی آگئے اور زکریا پر ساتھ چلنے کا شدید اصرار کیا۔ زکریا نے دو شرطوں سے قبول کیا۔ اول یہ کہ اتنے حضرات نظام الدین واپس نہ آئیں اتنے نہیں جاتا۔ دوسرا یہ کہ جس جہاز سے آپ تشریف لے جائیں گے اس میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے کہ وہاں آپ کا زور دار استقبال ہو گا اور آپ ہر ایک سے اس سیاہ کار کا تعارف کرائیں گے۔

### واپسی مولا نا انعام الحسن صاحب از جہاز:

علی میاں نے پہلی شرط قبول کر لی اور دوسری شرط کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آپ کا تعارف کسی سے نہیں کراؤں گا۔ عزیزان کی مدینہ واپسی ۱۵ اپریل مطابق ۷ اگسٹ ۱۸۹۴ھ ہندی شنبہ کے دن ہو کر دو تین مکہ اور دو دن جدہ قیام کے بعد ۱۱ اپریل کو جدہ سے سعودی جہاز میں جو صرف کراچی تک آتا ہے روانہ ہوئے اور وہاں سے ۱۲ اپریل کو جمنی جہاز سے ۲ بجے دہلی پہنچے۔ چونکہ زکریا کا مجوزہ سفر ۱۴ اپریل کا ان کی واپسی کی خبر پر طے ہو گیا تھا۔ اس لیے سہارنپور کی جملہ مستورات کو ایک مستقل

لاری دوسرو پے میں نظام الدین تک کرایہ کر کے اس سے یہ بھی شرط کر لی تھی کہ کاندھلہ کی مستورات کو متولی ریاض کے باعث سے بٹھا لے۔ یہ مستورات مع اطفال ۲۵ محرم مطابق ۱۱۳ اپریل یکشنبہ کو سہارنپور سے علی الصباح چل کر کاندھلہ کی مستورات کو لیتی ہوئی شام کو نظام الدین پہنچ گئیں۔ زکریا کا چونکہ مجوزہ سفر قریب تھا اس لیے وہ نہیں گیا۔

### بندہ کی روانگی حجاز پاک ۸۹ھ بمعیت علی میاں وغیرہ:

۱۱۳ اپریل کو اڑہ پر اتنا بجوم تھا کہ نظام الدین کے جو بچے ہوائی جہاز پر استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں نہ مل سکے نظام الدین واپس آ کر ملے۔ عزیزان مولانا انعام وہارون وغیرہ نظام الدین کے احباب جماعت ۱۱۸ اپریل کو جمعہ کے بعد زکریا سے ملنے آئے اور دو شنبہ کو واپس چلے گئے اور ۵ صفر ۸۹ھ مطابق ۲۳ اپریل ۶۹ء چہارشنبہ کی صبح اذان کے بعد اپنی جماعت کر کے یہ نیت صوم علی گڑھ والوں کی کار میں گنگوہ مزار پر حاضر ہوئے نظام الدین پہنچا۔ اللہ سے دعاء کی تھی کہ یہ سفر سہارنپور سے مدینہ کی بہت صوم باوضو پورا ہو جائے۔ اللہ نے اپنے فضل سے پورا فرمادیا۔ ورنہ پیشتاب کی کثرت سے ہوائی جہاز میں بہت ہی فکر تھا کہ پیشتاب کے بعد معاوضو کرنے میں بھی نہ معلوم کتنے میل گزر جائیں گے۔ مگر اللہ نے کرم فرمایا۔ انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ فلله الحمد والمنة۔

علی میاں بھی روانگی سے ایک دن پہلے مع مولوی سعید الرحمن و مولوی معین اللہ وہی پہنچ گئے تھے۔ ۱۲۶ اپریل مطابق ۸ صفر ۸۹ھ یوم شنبہ کو لکھنؤی حضرات کی معیت میں زکریا ابو الحسن ۹ نج کر ۲۰ منٹ پر وہی سے چل کر ۰۱۰ نج کر ۵۵ منٹ پر سبھی کے ہوائی اڈہ پر پہنچے وہاں مطار پر علی میاں نے بہت طویل دعاء کرائی اور مطار پر عزیز عبد الرحیم متلا اور بہت سے احباب سورت و گجرات وغیرہ کے ملے۔ عزیز عبد الرحیم آئندہ مکہ کے سفر میں میرے ساتھ رہا۔ قیام حاجی دوست محمد صاحب کی کالوں میں ہوا۔ زکریا شہر میں نہیں گیا البتہ علی میاں متعدد جگہوں پر احباب کے اصرار پر گئے اور ۲۹ اپریل سہ شنبہ ۱۱ ۱/۲ بجے سبھی سے چل کر ظہر کراچی کے مطار پر تقریباً ایک ہزار کے مجمع کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد چل کر قبل مغرب جدہ پہنچے اور مطار کی مسجد میں مغرب پڑھ کر حدیبیہ میں عشاء عزیز عبد الرحیم کے اقتداء میں پڑھی اور وہاں سے صولتیہ جا کر کھانے سے فراغ کے بعد عمرہ سے فراغ حاصل کیا اور عمرہ سے فراغ کے بعد مخصوص رفقاء کے ساتھ عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر چلا گیا۔

اس پورے آٹھ ماہ قیام میں اس آمد کے علاوہ جو رمضان المبارک میں یا رمضان کے بعد ہندوستان واپسی کے لیے ہوئی مستقل معمول یہی رہا کہ عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر یہ ناکارہ

مع اپنے مخصوص احباب قاضی عبدالقدار صاحب، عبدالرحیم، یوسف وغیرہ عمرہ کر کے عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر جا کر رات کو سوتے اور وہاں سے حرم شریف میں صحیح کی نماز پڑھنے کے بعد واپس سعدی کے یہاں جاتے تھے اور وہاں سے عربی ۲ بجے کے قریب ناشستہ سے فراغ پر مدرسہ صولتیہ آ جاتے تھے۔ وہاں آ کر ایک گھنٹہ صلوٰۃ صحنی اور ۵ بجے تک ڈاک اور ملاقات خصوصی اور تخلیہ وغیرہ کے بعد ۵ بجے حرم شریف آتے اور ظہر سے فراغ پر مدرسہ صولتیہ واپس جا کر یہاں کارہ تو لیٹ جاتا تھا بقیہ جملہ رفقاء کھانے سے فراغ پر لیٹتے تھے اس ناکارہ کا معمول سالہا سال سے ایک وقت کھانے کا ہے جو ہندوستان میں ہمیشہ صحیح کارہ اور جاز میں ہر سفر میں ہمیشہ عشاء کے بعد کارہ کر عشاء پڑھ کر صولتیہ میں کھانے سے فراغ پر عمرہ یا طواف سے فراغ پر سعدی سلمہ کے یہاں جاتے تھے۔ ملک عبدالحق صاحب اور ان کے صاحبزادے عزیز م عبدالحفیظ کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ملک صاحب نے اس سید کارہ کے مکہ پہنچنے سے پہلے ایک پک اپ (گاڑی) مستقل پندرہ ہزار روپیاں میں خرید کر اس سید کارہ کے حوالہ کر دی تھی۔ جو مکہ مکرہ میں اور مدینہ منورہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتی تھی اور ان کے صاحبزادے بلند اقبال عزیز م مولوی عبدالحفیظ سلمہ دونوں جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہے اور نمازوں میں یا کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ مجھے لیے لیے پھرتے تھے میں نے ہر چند کوشش کی کہ کم از کم پیسوں کے دام مجھے سے لے لیں۔ مگر ملک صاحب نے اس کو بھی قبول نہ کیا۔ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ عموماً آسی گاڑی میں آنا ہوا اور اس راستے میں ملک صاحب خود چلاتے تھے۔ ان کو اپنی گاڑی کے چلانے میں بہت مشق ہے مکہ سے مدینہ اکثر ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے کے درمیان میں پہنچ جاتے تھے۔

حر میں شریفین کے قیام میں عصر کے بعد سے گیارہ بجے تک عمومی مجلس ہوتی جس میں مقامی اور آفاقی لوگ ملاقات کے لیے کرم فرماتے رہتے تھے۔ گیارہ بجے پیشاب وضو سے فراغ پر ہر دو شبک مقامین کی مسجد میں حاضری ہوتی تھی اور مغرب سے عشاء تک وہیں مسجد میں قیام ہوتا اور عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر مکہ مکرہ میں پانچ بجے تک ڈاک یا کسی کتاب کا سننا تھا۔ علی میاں بھی دہلی سے جدہ تک اس سید کارہ کے ساتھ رہے جدہ پہنچ کر یہاں کارہ مکہ مکرہ میں چلا گیا۔ جیسا کہ اوپر نظام گزر را اور علی میاں تو جامعہ مدینہ کے اجتماع میں شرکت کی غرض سے گئے تھے اور اس کا اجلاس ایک دن پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اس لیے وہ شب کو جدہ میں الحاج نور ولی صاحب کے مکان پر نہ ہر کر منگل کی صحیح کو طیارہ سے آدھ گھنٹہ میں مدینہ پاک پہنچ گئے۔

یہاں کارہ مع اپنے مخصوص رفقاء کے ۱۵ مسی کی صحیح کو ملک عبدالحق صاحب کی گاڑی میں صحیح ساڑھے دس بجے عربی چل کر مدینہ پاک ظہر کے وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ظہر سے

پہلے غسل سے فراغ ہوا۔ مسجدِ نبوی میں حاضری ہوئی۔

روزوں کا سلسلہ سہارنپور سے شروع ہو گیا تھا اور باوجود سفر اور گرمی کے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی جو صرف اللہ کا احسان و کرم و فضل تھا۔ اس لیے ۸ مئی سے ”صیام شہرین“ متتابعین تو بہ من اللہ“ کی نیت کر لی اور احباب و اکابر کے شدید اصرار کے باوجود خبر کے سفر تک اس کا سلسلہ رہا۔ چونکہ علی میاں کو اپنی آنکھ دکھانے اور احباب کے اصرار پر لندن جانا تھا اس لیے ۲۵ مئی کو زکریا علی میاں وغیرہ مکمل کر مدد و اپیس ہوئے۔ علی میاں صاحب ۶ جون جمعہ کی نماز کے بعد لندن جانے والے تھے۔ اس لیے زکریا معاجم رفقا کے ۵ جون جمعرات کو مدینہ کے لیے واپس ہوئے اور رات بدر میں گزار کر جمعہ کے دن مدینہ پاک حاضری ہوئی اور ۱۱ جون کو تبلیغ کا مہمان اجتماع مدینہ پاک کا پہلے سے طے تھا اور زکریا کی وجہ سے اگلے ماہ جولائی کا اجتماع بھی مدینہ میں طے ہوا۔ زکریا نے اصرار بھی کیا کہ اپنے معمول کے مطابق جہاں کا دستور ہے وہاں طے کر لو یہنا کارہ وہاں ہی چلا جائے گا مگر ان لوگوں نے مدینہ پاک ہی میں طے کیا کہ ۹ جولائی کو ہوگا۔

### تبليغی سفر:

اللہ تعالیٰ کے احسانات متزايدہ میں جو اس سفر میں روزافزوں رہے ایک فضل و احسان یہ بھی رہا کہ اس سفر کے جملہ تبلیغی اجتماعات میں خبر، بنویں، طائف، مکہ، جده وغیرہ میں ناکارہ کی شرکت ہوتی تھی۔ سہ روزہ تبلیغی اجتماع خبر کا طے ہوا اور زکریا نے بھی اپنی شرکت پر اصرار کیا۔ مگر احباب نے شدت سے انکار کیا کہ وہاں بھلی نہیں اور گرمی شدید ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سفر میں باوجود قدیم و جدید امراض کے صحبت بہت اچھی رہی۔ اس لیے ۱۲ جولائی کو حرم شریف میں صبح کی نماز پڑھ کر خبر کے لیے روانہ ہوئے۔ عربی ڈیڑھ بجے خبر پہنچے۔ جماعت کا قیام مسجد علی میں طے ہوا اور ناکارہ کے لیے شدید انکار کے باوجود مسجد سوق کے قریب ایک مکان تجویز ہوا جو درحقیقت ایک اسکول تھا اور آج کل گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے خالی تھا۔ بھائی محمد علی صاحب مکہ بھلی والے اور الحاج عبدالحفيظ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے ایک فیکشہ والوں سے بات کر کے تین دن کے لیے ان سے چار سوریاں میں اپنی بنائی ہوئی بھلی مستعاری جوان کی فیکشہ میں جاری تھی اور اس نے یہ کہہ کر جوتا وغیرہ بھلی کا سامان تم لائے ہو وہ کرانے کے بدله میں میرے لیے چھوڑ دو۔ مقاصہ کر لیا۔

### شہداء خبر کی زیارت اور وہاں دل بستگی و کشش:

اجماعات مسجد علی اور دوسری مساجد میں ہوتے رہے۔ جن کی تفاصیل میرے روز نامچے میں

ہے۔ ان میں سپہ کارکی بھی شرکت ہوتی رہی۔ مسجد علی کے قریب بلا کسی دیوار وغیرہ کے جنگل میں شہداء خیبر کی قبور تھیں۔ ان پر حاضری ہوئی۔ جتنی کشش اور دل لشگی ان قبور پر تھی اتنی حریمین کے کسی قبرستان میں نہیں ہوئی۔ اس پر بڑی حیرت بھی ہوئی اور کئی دن تک اس کا اثر بھی رہا۔ اکابر ہند علی میاں، مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ سے بندے نے اس کی وجہ دریافت کی کہ بقیع اور جنت العلی میں اتنی کشش نہیں جتنی یہاں ہوئی۔ مدینہ پاک کے کئی ماہ قیام میں ان قبور پر بار بار جانے کا تقاضہ رہا۔ ان اکابر نے جاذبیت کی وجہ مختلف بتائیں۔ اس یہ کارکے خیال میں یہ ہے کہ وہاں کے حاضر ہونے والے بہت کم ہیں، حاضری کی نوبت دور ہونے اور جنگل کی وجہ سے کم آتی ہے۔ اس لیے وہاں کی مقدس ارواح کی توجہ آنے والوں کی طرف زیادہ ہوئی۔ ۱۵ جولائی کو خیبر سے واپسی ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ ہر اجتماع میں اور تبلیغی اگثت میں یہ ناکارہ شرکت کا وعدہ کر چکا تھا اس لیے ۱۲ اگست مطابق ۷ اجدادی الاولی ہندی شنبہ کو بعد عصر زکر یا نیکسی میں اور باقیہ رفقاء ملک صاحب کی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ عزیز یوسف متلا اسی دن صبح کو مع اپنے رفقاء کے لندن سے جدہ ہوتے ہوئے مدینہ پاک پہنچا تھا۔ حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو جدہ میں ہمارے مکہ آنے کی اطلاع عمل جائے مگر اطلاع نہ مل سکی، اس لیے وہ مستقل نیکسی کر کے مدینہ سے پھر ہمارے ساتھ مکہ واپس آئے۔ یہ ناکارہ مع رفقاء عربی رات کے سعدی کے مکان پہنچ رکھانے سے اور نماز سے فراغ پر ساڑھے چار بجے حرم پہنچے۔

### سفر طائف:

عمرے سے فراغ کے بعد سعدی کے گھر واپس ہوئے اور بدھ کی صبح کو بذریعہ نیکسی اور ملک صاحب کی گاڑی میں  $2\frac{1}{2}$  بجے عربی مکہ سے چل کر  $3\frac{1}{2}$  بجے طائف پہنچ گئے۔ تین دن وہاں قیام رہا مختلف اجتماعات ہوئے۔ جس میں مولانا سعید خان صاحب الحاج فضل عظیم وغیرہ نے تقاریر کیں اور جمعہ کے دن  $3\frac{1}{2}$  بجے مسجد عباس میں پہنچ چونکہ ملک فیصل صاحب بھی اس زمانے میں طائف تھے اور وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے مسجد کے چاروں طرف دور تک غصین پھرہ رہتا تھا اور کوئی کار مسجد کے دروازہ تک نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن یہ ناکارہ اقبال خلجمی صاحب کی کار میں تھا۔ انہوں نے فوجیوں سے خوشامد کر کے مسجد تک لے جانے کی اجازت لے لی۔

ملک صاحب کے آتے ہی خطبہ کی اذان شروع ہو گئی۔ ملک صاحب اس دروازہ سے آئے جو امام کے قریب قبلہ کی جانب تھا۔ وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی چلے گئے۔ امام نے خطبہ بہت ہی مختصر پڑھا۔ حالانکہ حجاز میں عام طور پر خطبے بہت لمبے ہوتے ہیں اور نماز میں بہت مختصر۔ عزیزم مولوی

اس اعیل بدات نے جو میرے بعد بھریں کے راستہ مکہ پہنچے تھے انہوں نے بیان کیا کہ الخبر میں خطبہ تو ایک گھنٹہ ہوا اور نماز تین منٹ۔

بہر حال ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مزار پر دریتک حاضری کی اپنے مستقر پر واپس آئے اور عصر کی نماز پڑھ کر جس نیکسی میں یہاں کارہ گیا تھا اس سے حتیٰ و عدہ عصر طائف میں پڑھنے کا ہو بھی گیا تھا اور بہت ہی گرویدگی کا اس نے اظہار بھی کیا تھا اور موعدہ وقت پر پہنچ بھی گیا۔ لیکن اتنے ہم لوگوں کا مسجد سے سامان نیکسی تک آیا اس کو کسی اور نے زیادہ کرایہ دے کر اپنے لیے طے کر لیا۔ ہم نے ہر چند وعدے یاد دلانے لیکن سواق نے صفائی سے کہہ دیا کہ انہوں نے کرایہ زیادہ دے دیا۔ **فَالْيَٰ اللّٰهُ الْمُشْتَكٰ**۔

### مکہ مکرمہ میں حاضری:

اس لیے جملہ رفقاء انفر ملک عبد الحق کی گاڑی میں بھر گئے اور بہت اندیشہ تھا کہ یہ گاڑی راستے میں جواب دے گی۔ لیکن اللہ کے فضل سے عصر کے بعد چل کر مغرب میدان عرفات جبل رحمت پر پڑھی۔ بڑا ہی دل لگا میدان صاف تھا سکون کا وقت تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ دو تین گھنٹے رات کے یہاں گزاروں مگر قاضی عبد القادر صاحب وغیرہ رفقاء کے اصرار پر پون بجے یہاں سے چل کر ایک بجے مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کے بازاروں میں اتنی دیر لگی کہ ۱ ½ بجے مدرسہ صولتیہ ہوتے ہوئے حرم میں پہنچے اور عمرہ سے فراغ پر عزیز سعدی کے یہاں پہنچے وہاں کھانا وغیرہ کھایا۔

### سفر بیرون:

دو دن مکہ میں قائم کے بعد بیرون کا سر روزہ اجتماع تجویز تھا چونکہ عزیز عبد الرحیم سلمہ کی طبیعت خیر سے خراب ہوئی تھی اور عالت بڑھتی ہی چلی گئی۔ طائف میں خاص طور سے خراب رہی۔ طائف میں تو اس سے کارکی طبیعت بھی بہت ہی خراب رہی۔ نہ کچھ کھانے کی نوبت آئی نہ نیندا چھی طرح آئی۔ حرارت کا سلسہ بھی جاری رہا۔ وہاں کے بچلوں کے بہت سے اصرار ہوئے۔ خاص طور سے برشوی کے متعلق بہت اصرار رہا کہ بہت سے لوگ لے کر آئے۔ مگر ایک بھی چکھنے کی نوبت نہ آئی۔ حالانکہ حجاز مقدس کے اس آٹھ ماہ قیام میں طبیعت بہت اچھی رہی عزیز عبد الرحیم کی بیماری کی وجہ سے مولانا سعید خان صاحب نے یہ طے کیا کہ وہ مکہ سے جدہ ہو کر بیرون پہنچیں کہ عزیز عبد الرحیم کو طیارہ پر سوار کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات دو شنبہ ۱۱، اگست مطابق ۲۶ جمادی الاولی ہندی کو صبح ملک صاحب کی گاڑی میں روانہ ہو گئے اور ہم لوگ اسی دن مسجد حرام میں عصر پڑھ کر بذریعہ نیکسی بیرون روانہ ہوئے۔ مگر ہمارا سواق بہت ہی حقہ اور چائے کا شو قین تھا۔ اس لیے وہ

آدھ گھنٹہ جدہ کے مفرق پر اور آدھ گھنٹہ بدر کے مفرق پر چائے اور حقدہ میں مشغول رہا۔ یہ حضرات مولوی سعید خان صاحب وغیرہ عصر کے وقت یہ نوع پہنچ گئے تھے۔ عشاء کے بعد دیر تک انتظار کر کے یہ ہماری تلاش میں چلے۔ مگر جدہ میں ملاقات ہو گئی۔ یہ نوع کے امام بہت ہی غلط قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمادے۔

یہاں کے قیام میں مجھلیاں بہت ہی ارزال عجیب لمبی چوڑی میں ایک مجھلی غالباً ۱۵ الکلو کی تھی۔ جس میں کاشا بہت کم، سارے مجھ نے صح و شام دونوں وقت اسی کا شور با پیا بدھ کی صح کو زکر یا عزیز یوسف متلاکی وجہ سے ٹیکسی میں کہ یوسف کو بدر کی سیر کرانی تھی کہ اس کی پہلی حاضری تھی روانہ ہوئے۔ یقین رفقاء ملک صاحب کی گاڑی میں ۱۲ ۱/۲ پر بدر پہنچے۔

### جدہ کے اجتماع میں شرکت:

وہاں سے ۲ بجے چل کر ۳ ۱/۲ پر مدرسہ شرعیہ پہنچے۔ طائف میں دمام اور جدہ کے ماہانہ تبلیغی اجتماعات طے ہو گئے تھے اور دونوں جگہ کے احباب نے زکریا سے شرکت کا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ لیکن عبدالرحیم توروانہ ہو چکا تھا اور ابو الحسن کو دمام سے سہارنپور جانا تھا اور اسماعیل یوسف کا ویزا وہاں کا نہیں تھا۔ کسی رفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے زکریا کو دمام کا سفر ملتوی کرنا پڑا البتہ جدہ کے ماہانہ اجتماع میں شرکت ہوئی۔

۲۸ ستمبر مطابق ۱۴ ارجب یکشنبہ کی صحیح کونماز کے بعد مسجد نبوی سے حضرت اقدس سہارنپوری قدس سرہ کی طرف سے احرام باندھ کر ملک صاحب کی گاڑی میں مکد کے لیے روانگی ہوئی۔ مگر اب تک کہ معمول کے خلاف کہ اس سفر میں کئی دفعہ مکد مدینہ کے درمیان میں آمد و رفت ہوئی۔ لیکن دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر آج خلاف معمول گاڑی کے چلتے ہی دوران سر شروع ہوا۔ بدر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے بدر تک پہنچا گاڑی روک کر تھوڑی دریز میں پر لیٹا لیموں وغیرہ کھائے لیکن امتلاء اور دوران سرگیا نہیں۔ بہت مشقت کے ساتھ ۵ بجے مدرسہ صولتیہ پہنچے دو دن مکہ قیام کے بعد بدھ کی صحیح کو جملہ رفقاء اور بعد عصر زکریا جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں بیعت الشجرہ کی جگہ پر آدھ گھنٹہ قیام کیا۔ جو مسجد حدیبیہ سے آگے بڑھ کر تقریباً آدھ میل پر باعث میں جانب واقع ہے۔ وہاں چل کر جدہ میں مغرب کی نماز مسجد بن لادن میں پڑھی۔ وہاں دو دن اجتماع ہوتے رہے اور جمعہ کی صحیح کو شوری سے فراغ پر ۲ بجے عربی چل کر مسجد حرام میں جمعہ کی نماز ادا کی اور شنبہ کو مدینہ پاک واپسی ہوئی۔

حاضری مکہ مکرہ بمعیت علی میاں:

علی میاں اور منظور صاحب رابطہ کے اجتماع کی شرکت کے لیے، اکتوبر میکم شعبان ہندی سے شنبہ کو مکہ مکرہ پہنچ تھے اور ۱۴۲۶ء کتوبر مطابق ۳ شعبان کو رابطہ کے اجتماعات سے فارغ ہو کر مدینہ پاک پہنچ گئے تھے اور ۹ نومبر ۱۹۷۹ء شعبان عربی اور ۲۷ ہندی یکشنبہ کو صبح ۲، ۳، ۴ بجے عربی علی میاں کے ساتھ مدینہ پاک سے چلے۔ چونکہ اس مرتبہ رابطہ عالم اسلام کی گاڑی علی میاں کے ساتھ رہتی ان کے اصرار پر یہ ناکارہ بھی رابطہ کی گاڑی میں  $\frac{1}{2} ۱۰$  بجے صولتیہ پہنچ اور اپنی عصر پڑھی۔ بقیہ رفقاء ڈاکٹر اسماعیل اور ملک صاحب کی گاڑی میں مغرب سے عشاء تک حسب معمول حرم میں قیام رہا اور عشاء اطمینان سے پڑھنے کے بعد مدرسہ صولتیہ واپس پہنچ۔

تراویح مکہ مکرہ:

تو ایک دم گلوں کی آواز شروع ہو گئی، حالانکہ وہاں دستور قدیم کے موافق یہ ناگیا تھا کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد گلوں کی آواز آئے تو آدھ گھنٹہ بعد تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے۔ مگر ہم لوگ آواز سنتے ہی پیشہ وضو سے فارغ ہو کر مسجد حرام میں پہنچ تو دور رکعت تراویح کی ہو چکی تھیں۔

حر میں شریفین میں معمول یہ ہے کہ دو حافظل کرتراویح پڑھاتے ہیں ہر امام آدھا پارہ پڑھتا ہے۔ اس ناکارہ کا معمول تراویح اور کھانے سے فراغ پر یہ تھا کہ تعمیم جا کر روزانہ عمرہ کرتا۔ علی میاں بھی ساتھ ہوتے اور اکثر وہ دن میں ہی عمرہ سے فارغ ہو جاتے تھے۔ ۱۵ دن مکہ مکرہ میں قیام رہا۔

واپسی مدینہ طیبہ از مکہ مکرہ در رمضان:

۱۴ نومبر مطابق ۱۵ ار مصان المبارک چہارشنبہ کو زکریا مکہ مکرہ سے مدینہ پاک روانہ ہوا اور علی میاں اور مولوی منظور ایک دن پہلے مکہ سے جدہ آچکے تھے اور اپنارہ پندرھوں پارہ تراویح میں خود پڑھا اور سفیر ہند کے یہاں دعوت ہوئی اور ۱۵ ار مصان ۱۴ نومبر کو ہندوستان واپس ہوئے۔

مکہ مکرہ میں پندرہ ہویں شب میں پارہ نمبر ۱۵ اہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی پارہ پڑھا جاتا ہے اور رمضان ہمیشہ ۲۹ کا ہوتا ہے لیکن اعلان ہمیشہ چاند کا دیر میں ہوتا ہے تراویح کے بعد پارہ نمبر ۳۰ ہو کر پھر چاند کا اعلان ہوتا ہے لیکن مدینہ پاک میں ۲۹ نومبر آن پاک ختم ہوتا ہے۔ وہاں بھی دو حافظل پڑھتے ہیں۔ لیکن سو ہویں شب میں وہاں پارہ نمبر کے اہوا لہذا ہم لوگوں نے اپنا پارہ نمبر ۱۶ (کیسویں شب امام حرم کی تراویح ختم کے بعد) کے چار رکعت ہم سب نے امام حرم کے پیچھے نفل پڑھی تھی) عزیز یوسف متلا کے اقتداء میں اپنے مختلف میں پڑھیں۔ ۲۰ رمضان کی شام

سے اعتکاف کیا۔ باب عمر رضی اللہ عنہ کے قریب مختلف تھا۔ ۲۹ کا چاند ہوا۔ عشاء کے فرضوں کے بعد قاضی صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں اعلان کیا کہ شہادت شرعیہ سے روایت ثابت ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا۔ منگل کو عید ہوئی۔

### روانگی از مدینہ طیبہ برائے ہندو پاک:

پہلے سے ۲ شوال کی واپسی تجویز تھی۔ لیکن تبلیغی اجتماع اس ماہ بھی اس ناکارہ کی وجہ سے مدینہ میں ہی رکھا گیا تھا۔ اس وجہ سے تین دن اجتماع میں گزرے اور عربی یے شوال مطابق ۱۵ دسمبر کو مدینہ سے مکہ مکرمہ کے لیے واپسی ہوئی۔ اس مرتبہ شب کا قیام بجائے سعدی کے صولتیہ میں ہوا کہ سردی شروع ہو گئی تھی۔ ۲۱ دسمبر یکشنبہ کو بعد عصر مکہ سے جده کے لیے روانگی ہوئی۔ عین مغرب کے وقت جده پہنچے۔ ۲۲ دسمبر کی صبح کو سعودی جہاز سے ۲ بجے عربی چل کر ۳ بجے دو پہر کو کراچی پہنچے، ائمہ پورٹ کی مسجد میں ظہر پڑھی۔ موجودین سے مصافی کر کے حاجی فرید الدین کی گاڑی میں مکی مسجد پہنچے۔ ائمہ پورٹ کا مجمع جو کئی ہزار تھا عصر تک مکی مسجد پہنچا۔ عصر سے مغرب تک روزانہ مصافنوں کا سلسہ چلتا جو مغرب کے وقت بغیر تماہی کے بند ہو جاتا۔ مغرب کے بعد بیعت کا سلسہ رہتا۔

۲۶ دسمبر جمعہ کی شام کو عشاء کے بعد ۸ بجے طیارہ سے چل کر ۹ ½ بجے لاہور پہنچے۔ بلاں پارک کی مسجد میں قیام ہوا۔ اتوار کی صبح کو ۱۱ ½ بذریعہ کار چل کر ۱۲ ½ بجے رائے گوئٹ پہنچے چکر اور امتلاء اور دورانِ سرخوب رہا۔ بھائی افضل کے مکان پر مالٹے کا عرق پینے سے قہ ہوئی۔ یہاں بھی مجمع بہت زیادہ رہا۔ ۲ جنوری ۰۷ء جمعہ کے دن مطابق ۲۲ شوال ۸۹ھ جمعہ کی نماز کے بعد گیارہ کاریں اور دو لاریوں کے ساتھ لائل پور روانگی ہوئی۔ راستے میں عصر کی نماز سرانے مغل میں صوفی صاحب کے مزار پر پڑھی۔ وہاں سے فراغ پر مغرب کے وقت لائل پور پہنچے۔ جماعت ہو رہی تھی۔ زکریا کو امتلاء اور چکر کی شدت ایسی ہوئی کہ جاتے ہی لیٹ گیا اور آدھ گھنٹہ بعد اپنی جماعت کی۔ شنبہ کو لائل پور میں قیام رہا۔ دو پہر کو جناب الحاج الحافظ مولا ناعبد العزیز صاحب مکملوی سرگودھا سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اس ناکارہ نے آمد پر اظہار افسوس بھی کیا کہ کل کوتومیں آپ کے یہاں حاضر ہو رہا تھا۔ عصر کے وقت سرگودھا والوں چلے گئے۔ ۳ جنوری اتوار کو ۱۱ بجے سرگودھا روانہ ہوئے۔ راستے میں زینت مل نیز پہلوان ابراہیم کے کارخانہ پر چند منٹ قیام کے بعد چینیوٹ کے مدرسہ میں پھر تے ہوئے سرگودھا پہنچے۔ مدرسہ کے ناظم ہمارا انتظار کر کے سرگودھا جا چکے تھے۔ اس لیے مدرسہ میں قیام کی نوبت نہیں آئی۔ سرگودھا میں ظہر کے بعد حافظ صاحب کے یہاں کھانا کھایا۔ زکریا نے اس سفر میں دن میں ناشستہ اور کھانے میں شرکت نہیں کی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکروں کی وجہ

سے تاخیر سے ظہر پڑھی۔ حافظ صاحب نے بھی زکریا کے ساتھ پانچوں نمازیں گھر ہی پر پڑھیں اور امامت کرائی۔ دو شنبہ کی صبح کو روانگی طے تھی۔ مگر کھانے پر حافظ صاحب نے بہت اصرار کیا اور سارے مجمع کی بہت زور دار دعوت کی۔ جس میں پلاو زردہ کے علاوہ خوب مختلف انواع کے کھانے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر سارا مجمع ڈھنڈیاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ عصر کے قریب وہاں پہنچے۔ زکریا حافظ صاحب کے یہاں سے اپنے ساتھ پلاو لایا تھا۔ وہاں جا کر گرم کر کے کھایا۔

۱۰ جنوری کو مولوی عبدالجلیل کے ایک بچہ کا زکریا نے قرآن ختم کرایا۔ شیرینی بھی زکریا نے تقسیم کرائی اور بڑے بڑے کے ابراہیم کا نکاح ان کے بھائی رفیق کی بڑی سے حافظ عبدالعزیز صاحب نے مہر فاطمی پر پڑھایا۔ اسی دن بعد ظہر وہاں سے چل کر عصر جھاوریاں میں (قاضی عبدال قادر صاحب کے مکان پر) پڑھی۔ اتوار کی صبح کو ناشتے کے بعد وہاں سے چل کر عصر کے وقت را ولپنڈی پہنچے۔ قریشی صاحب کی مسجد میں قیام طے تھا۔ لیکن چند وجہ سے اس مکان میں قیام ہوا، جس میں عزیز مولا نا یوسف صاحب کے ساتھ قیام ہوا تھا۔ ۱۰ جنوری دو شنبہ کو اپنی ظہر پڑھ کر بذریعہ طیارہ برآہ لا ہو ر عصر کے وقت کراچی پہنچے۔ وہاں سے ۱۹ جنوری دو شنبہ کو طیارہ کے لیے حاجی فرید کی گاڑی میں روانگی ہوئی۔

جہاز بجائے ۱۰ ۱/۲ بجے کے ۱۱ بجے روانہ ہو کر سوابارہ بجے اور ہندی پون بجے ولی پالم اڈہ پر پہنچے۔ بہت بڑا مجمع تھا۔ علی میاں، مولا نا منظور، یونس سلیم صاحب طیارہ پر موجود تھے۔ حضرات نظام الدین بھوپالی کے اجتماع میں گئے ہوئے تھے۔ طیارہ پر اول بھائی شفیع صاحب نے مولا نا عمران خان صاحب کا شدید اصرار و تقاضا کہ مجھ کو طیارہ سے یافرست کلاس سے اسی وقت بھوپال بھیج دیں۔ میرا بھی عرصہ سے بہت جی چاہ رہا تھا کہ ہر سال مولا نا کا اصرار ہوتا تھا، لیکن اڈہ پر لکھنؤ علی گڑھ، بہار، بنگال کا تقریباً پانچ ہزار کا مجمع تھا۔ ان سے بغیر ملے بھی جانا مشکل تھا اور وہ اجتماع کا آخری دن بھی تھا۔ البتہ شاہ یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ کی زیارت ضرور ہو جاتی، مگر مجمع کی کثرت مانع ہوئی۔ مولا نا انعام الحسن صاحب نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر زکریا بھوپال نہ آئے تو بذریعہ تاریخیوں سے اطلاع کر دی جائے۔ چنانچہ اسی وقت اطلاع کر دی گئی۔ اس کے جواب میں ان کا شیلیفون آیا کہ وہ منگل کو بذریعہ طیارہ پہنچ رہے ہیں، چنانچہ وہ منگل کی شام کو عشاء کے قریب پہنچ گئے اور کلکتہ اور بہار کے احباب بدھ کی صبح کو رسیل سے۔ منگل کا دن عورتوں کے اجتماع کا تھا۔ جس میں مولوی انعام کی شرکت ضروری تھی، مگر نہ ہو سکی۔ فیال لاسف۔

### واپسی از دہلی:

۱۲ ذی القعده مطابق ۲۱ جنوری بدھ کا دن نظام الدین گمراہ، حضرات کی صبح کو  $8\frac{1}{2}$  بجے علی گڑھ والوں کی کار میں نظام الدین سے چل کر حضرت میرٹھی اور حضرت مدینی کے مزار پر حاضر ہوتے ہوئے اسلامیہ اسکول تین بجے پہنچے۔ اس لیے کہ زکریا نے دہلی سے ابوالحسن کو اس کے اسکول کی وجہ سے پہنچا ہی کوہہار پور پہنچ دیا تھا۔ مگر نبیح صاحب اور پرنسپل صاحب نے بدھ کے دن ابوالحسن کو واپس کر دیا کہ زکریا کو لے کر سیدھا اسکول پہنچ اور یہ دن بکار اسکول شمار ہو گا۔ اس لیے بالا بالا اسکو ل گیا۔  $3\frac{1}{2}$  بجے وہاں سے چل کر مدرس قدیم کی مسجد میں تحفہ الشکر کے بعد خصوصی احباب سے ملاقات ہوئی۔ عصر کی نماز حب تجویز و اعلان دارالطلبہ جدید میں پڑھی۔ جمعہ کے دن مولانا صاحب مولوی عبد اللہ، مولوی محمد عمر وغیرہ دس نفر عشاء کے بعد بدھ ریعہ ریل پہنچ کے ان کی کار میں نظام الدین کی مستورات جمعہ کے وقت پہنچ گئیں تھیں۔ اگلے دن گنگوہ حاضری ہوئی اور عصر کے بعد واپسی ہوئی۔ ظہر کے قریب قاری طیب صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ مگر اس ناکارہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہمارے ہمارے پور پہنچنے سے پہلے ہی واپس چلے گئے۔ اس لیے تجویز ہوا کہ یکشنبہ کو بجائے جھنچھانہ اور لوہاری کے دیوبند چلیں۔ لیکن رات ہی کو بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ کہیں بھی جانا نہ ہو سکا۔ پیر کے دن حضرات نظام الدین بارش ہی میں دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔

اس سفر میں اللہ کے احسانات اتنے لا تعداد ولا تحصی ہوئے کہ اپنی بدائع مالیاں ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ مبشرات اس سے کارکوت و کم اور اس سے کار کے متعلق مقامی اور دین دار کو بہت ہی کثرت سے ہوئے۔ ایک بات میرا بھی لکھوانے کو جو چاہ گیا۔

۱۳ء میں اس سے کارنے اپنی یادداشت کے واسطے ایک رسالہ ججۃ الوداع کے سلسلہ میں لکھا تھا۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو مسلسل متن کی صورت میں لکھا تھا اور شرح اور میں السطور میں مختلف روایات کے درمیان جمع اور مختلف مذاہب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ طباعت کا کبھی خیال بھی ن آیا اور کبھی اگر کسی نے کہا بھی تو اس کو انکار کر دیا۔ مگر مدینہ پاک کی اس حاضری میں شعبان میں بار بار بلا کسی وجہ کے یہ داعیہ پیدا ہوتا رہا کہ ہندوستان واپسی ہو تو اس کو طبع کیا جائے۔ چنانچہ واپسی ہوتے ہی ذی القعده میں اس کا سنتا شروع کیا۔ اس لیے یہ ناکارہ نزول آب کی وجہ سے خود دیکھنے سے معذور ہو گیا تھا۔ یہاں آکر احباب نے بھی اس کی طباعت پر اصرار کیا اور ۲۶ ربیع الثانی پنجشنبہ کو اس کا سنتا اور تبیض پوری ہوئی۔ میں تو بے فکر ہو گیا تھا۔

اس سفر کے مبشرات میں سے ایک بشارت اور جزء حجۃ الوداع وال عمرات کی تالیف:


مگر ۳ جمادی الاول بدھ کی دو پہر کو خواب دیکھا۔ کہ ”کوئی شخص کہہ رہا ہے جس کو میں بصورت رجل سمجھ رہا ہوں کہ حجۃ الوداع کے تکملہ میں حضور کے عمرے ضرور لکھنے چاہئیں اور میں نے خواب ہی میں خود لکھنا شروع کر دیا اور حصرانہ کی دو حدیثیں جامع الطريق طریق مکہ اور اصح بہکہ کہاست پر خواب ہی میں کلام لکھ لیا۔“

جائے کے پندرہ دن تک سوچ و فکر میں رہا۔

شوق جاذب اور اعدار مانع اکابر کے اصرار پرے ا جمادی الاولی چہارشنبہ کی صبح کو بسم اللہ کرہی دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ۱۵ ارجب ۹۰ھ کو مکمل ہو گیا اور اس کے اختتام سے قبل الحاج مولوی سلیمان افریقی نے جو گزشتہ سال مدینہ منورہ میں بھی میرے ساتھ رہے یہ خواب دیکھا کہ ”ان کو زیارت مدینہ پاک کا اشتیاق ہو رہا ہے اور وہاں کی حاضری کے شوق میں چل رہے ہیں۔ جب اس سیہ کار کے مکان کے قریب پہنچے تو میرے مخلص مولوی یونس صاحب مدرس حدیث مظاہر علوم میرے گھر سے نکل رہے تھے۔ ان کے دریافت کرنے پر کہ کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ مدینہ پاک جا رہا ہوں۔ مولوی یونس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچے گھر میں تشریف فرمائیں۔“

”جب وہ کچے گھر میں آئے تو دیکھا کہ سید الکوئین فخر الانبیاء والمرسلین اس چار پائی پر لیٹے ہیں جس پر یہ ناکارہ لیٹتا ہے اور یہ سیہ کار چار پائی کے قریب بیٹھا ہوا جزء حجۃ الوداع سنارہاتھا۔ مولوی سلیمان نے سلام کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور حضور مصافحہ فرمائ کر بھی جزء حجۃ الوداع سننے میں مشغول ہو گئے۔“

صلی اللہ علیہ والہ وسلم تسلیماً کثیراً۔ فللہ الحمد والمنة۔



# آپ پر نسبت

## بادشاہی نسبت

جس میں

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدینی سرہ نے تقسیمِ ہند کے اہم واقعات، اکابرِ سلسلہ کے متفرق حالات، نسبت کی اقسام اور خلافت و بیعت سے متعلق اہم مضامین درج کرائے ہیں۔

ناشر

مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی نمبر ۲ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِہِ الْکَرِیمِ ط

جیسا کہ اس سے پہلے نمبروں میں گزر چکا کہ اس کے ہر حصہ  
کے اندر دو باب تجویز کیے گئے ہیں، اسی طرح اس حصہ میں بھی  
دو باب ہیں، پہلے باب میں تقسیم ہند سے متعلق عبرت آموز واقعات  
اور مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے معمولات اور دوسرے  
باب میں اکابر مشائخ کے متفرق حالات اور نسبت صوفیہ کی اقسام  
اور طریق باطن سے متعلق اہم مضامین درج کیے گئے ہیں۔

اس سلسلہ کا آخری مضمون بہت ہی اہم ہے اور نہایت ہی  
اہتمام سے مطالعہ اور محفوظ رکھنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے  
فضل و کرم سے ان مضامین کو دوستوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔

محمد زکریا عفی عنہ  
۲۹ شوال ۱۴۹۵

### تقسیم ہند

تقسیم ہند کا زور و شور تو کئی سال سے روز افزول تھا، دن ورات جلے جلوں نعرے اور شور و شب ہر وقت رہتا تھا، کانگریس کا پلہ اس نوع میں زیادہ غالب تھا اور مسلم لیگ کا مغلوب تھا، جو شخص مسلم لیگ سے ذرا بھی تعلق رکھتا یا کانگریس کے ساتھ خصوصی تعلق کا اظہارتہ کرتا تو ٹوڈی، انگریزوں کا نمک خوار اور ان کا پھٹو، غلام کے نعروں سے علی الاعلان مطعون کیا جاتا اور کانگریس والے مسلم لیگ کی نگاہوں میں کانگریس کے غلام اور ان کے زخرید وغیرہ وغیرہ الفاظ سے یاد کیے جاتے۔ ایک دوسرے کی تفسیق تحلیل ایسی برملہ ہو رہی تھی کہ کچھ انتہائیں۔ اسی سے متاثر ہو کر اس ناکار نے رسالہ "الاعتدال" لکھا تھا جو دونوں طبقوں میں پسند کیا گیا۔ حضرت مدینی قدس سرہ کے سفری بیگ میں تو مستقل رہتا تھا اور حضرت تھانوی قدس سرہ، کی مجلس میں بھی اس کا ذکر نہ کرہا۔ میں نے سماں کریم صحیح الفاظ نہیں پہنچے۔ اس لیے نقل نہیں کرتا۔ البتہ دونوں طبقہ کے شجیدہ حضرات، اکابر سیاستدانوں نے بہت پسندیدگی کا اظہار کیا اور سینکڑوں خطوط اس کے سلسلہ میں آتے رہے۔ یہ ناکارہ پیچا جان نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد سے عزیز مولا ناجمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصرار پر اکثر پورا رمضان نظام الدین اعتکاف میں گزارتا تھا، لیکن ۶۷ھ کے رمضان کا نصف حصہ سہار پور گزارا۔ لیکن ایسا نیعہ پاکستان لے کر رہیں گے، مرکر لیں گے، مارکر لیں گے، خون سے لیں گے، ہر جلوں کا نعرہ تھا۔ لیکن رمضان کی راتوں میں تراویح کے بعد سے لے کر سحر تک یہ نعرے کا نوں میں پڑتے رہتے تھے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے منع کرایا اور بار بار کہلوایا کہ رمضان مبارک کی یہ راتیں اجابت دعاء کی ہیں، اس کے درمیان میں تم پاکستان ضرور مانگو، مگر مار کر، مار کر خون سے نہ مانگو۔ لیکن ایک جوش اور نمار سوار تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنی اولاد اور مال کو بد دعا میں نہ دیا کرو۔ اللہ جل شانہ کے لیے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو مانگو وہ ملتا ہے "فَإِن لَّهُ سَاعَاتٌ لَا يَرْدِفُ فِيهِنَ سَانِلَا" یہ مضمون متعدد الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ مشکوہ شریف میں بروایت مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ اپنے نفوں پر بد دعا میں نہ کرو اور اپنے مال و اولاد پر بد دعا میں نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعاء ایسے وقت میں ہو جس میں اللہ جل شانہ تمہاری دعا میں قبول فرمائے۔ عورتوں میں یہ مرض بہت ہی زیادہ ہے کہ بچوں کے روئے، پریشان کرنے والے تو وہ ان بچوں کو بد دعا میں دیتی ہیں کہ تو مر جا، گز جا اور

جب وہ بددعاں میں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر خود ہی روئی پھرتی ہیں۔

### ماثور دعاؤں کی اہمیت:

میں تو دعاؤں میں بھی ہمیشہ اسیق کے اندر اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں کہ دعا میں بھی ما ثور و منقول مانگا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں کوئی دین و دنیا کی ضرورت ایسی نہیں چھوڑی جس کو مانگ کر بتایا نہ گیا ہو، ایک قصہ غیر متعلق سا اس کے مناسب لکھواتا ہوں جو بڑوں سے بار بار ستا اور میں بھی اپنے اسیق میں کثرت سے اس کو نقل کرتا ہوں کہ دعا میں اپنے الفاظ میں نہ مانگا کرو، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں مانگا کرو، ایک تو محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی مالک کے یہاں قدر بہت زیادہ ہے اور وہ الفاظ اس قدر جامع ہوتے ہیں کہ ان میں مقصد پورا ہو جاتا ہے۔

قصہ یہ ہے کہ ایک گاؤں کا کوئی ڈوم تھا، پیدل چلا جا رہا تھا، راستہ میں تھک گیا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ یا اللہ ایک گھوڑا چاپے اور بے تحاشہ اضطرار کے ساتھ یہی دعا مانگ رہا تھا اور آخر میں بے وقوف نے غصہ میں آ کر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ گھوڑا نہیں تو گھوڑے کا بچہ ہی دے دے، مالک کے یہاں اضطراری دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، میرا اپنی ذات کے لیے بھی بیسیوں دفعہ کا یہ تجربہ ہے کہ جو دعا اضطراری طور پر مانگی گئی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس گاؤں کا جمنان اپنی گھوڑی پر سوار آ رہا تھا اس کی گھوڑی راستہ میں بیا گئی اور بچہ کو لے جانا اُس کے لیے مصیبت بن رہا تھا، اُس نے گاؤں کے اس ڈوم کو دیکھ کر آواز دی ”اوڈوم کے“ اس گھوڑی کے بچہ کو اپنے کا ندھر ہے پرانھا لے۔ وہ بے چارہ چلنے سے معدود رہ کا ہوا تھا، بہت ہی حسرت سے کہنے لگا کہ ”یا اللہ مانگی تھی تلے کو مل گئی اور پر کو۔“

اس لیے میں اپنے دوستوں سے بہت اہتمام سے اور ان کے توسط سے ان کی مستورات سے تاکید کرتا ہوں کہ غصہ کے اندر اپنی اولاد کو مارتوجتنا چاہے لیں مگر بددعا میں نہ دیا کریں۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ما ثور دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔

### تقسیم کا اثر دین اور علم پر:

بہر حال یگیوں کی دعا میں قبول ہوئیں اور ہندوستان تقسیم ہوا، لیکن وہی ہوا جو رمضان المبارک کی راتوں میں مانگا تھا، مارکر، مرکر اور خون بہا کر پاکستان لیا، اس زمانے کے بھی واقعات بڑے اہم اور بہت کثرت سے ہیں، میرے دو اکابر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا محدث نور اللہ مرقد ہما مختلف الرائے تھے اور جو لوگ دونوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے

لیے مشکل مسئلہ تھا، مولوی منفعت علی صاحب و کیل مرحوم جن کا تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہو کر کراچی میں انتقال ہوا اللہم اغفرہ وارحمہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے مخصوص شاگرد تھے، ان کا مد کردہ طلب علم کے سلسلہ میں پہلے گزر چکا ہے۔ ابتداء میرے والد صاحب کے نہایت معتقد اور مخلص دوست اور اس وجہ سے مجھ سے بھی بے حد بے تکلف اور خصوصی تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے اور حضرت کے مخصوص خدام میں شامل ہو گئے سہار پور کی مسلم لیگ کے روح رواں اور غالباً صدر بھی رہے، مسلم لیگ میں بڑا غلو رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ایک پرچہ لکھا کہ میں کسی اشاعت یا بیان کے واسطے نہیں پوچھتا صرف اپنی طہانیت قلب اور اس تعلق کی وجہ سے جو مولا نا مرحوم (میرے والد صاحب) کو مجھ سے رہا ہے تقسیم کے بارے میں تیری رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بہت راز میں ہے کسی سے کہوں گا نہیں۔ بہت مختصر الفاظ میں تحریر فرمادیں۔ میرا دل تو چاہا کہ ان کو یہ لکھ دوں کہ زبانی گفتگو کرو مگر میں نے سوچا کہ زبانی میں نہ معلوم میری طرف سے کیا تجھیں اور کیا لائق کریں۔

میں نے ان کو مختصر الفاظ میں لکھا کہ یہ ناکارہ سیاست سے بالکل واقف نہیں، اس کو سیاسی حضرات جانیں، لیکن اتنا میرے ذہن میں ضرور ہے کہ دو آبے یعنی گنگا جمنا کا درمیانی حصہ جو حضرت گنگوہی، نانوتوی اور تھانوی کی برکات سے دین اور علم و سلوک و تقویٰ کا مرکز بنانا ہوا ہے کہ دنیا میں آج اس کی نظیر نہیں وہاں تو یہ برکات صرف تلوار کے زور سے مٹا دی جائیں گی اور جو حصہ پاکستان کا تجویز ہے اس میں ان اکابر کی نظیر ہے نہ پیدا ہو سکتی ہے، جن سے مرکز دینیہ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ اس نمونے کے قائم ہو سکیں۔

چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دیوبند اور سہار پور کے مدارس کی صورت تو اگرچہ باقی ہے مگر پنجاب، سندھ، بنگال وغیرہ کے طلبہ کی آمد یہاں بند ہو گئی اور ان کے علاوہ مشرقی پنجاب کے سینکڑوں مدارس جو نہایت ہی اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ حضرت رائے پوری اور ان کے مرشد اعلیٰ حضرت رائے پوری دنوں کی برکات سے دین کا کام انجام دے رہے تھے وہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ فالی اللہ المشتکی۔

### دورانِ قیام نظام الدین کے تقسیم کے موقع کے واقعات تلاشی وغیرہ:

اس ناکارہ کا معمول پچاچان نور اللہ مرقدہ کے بعد سے اکثر پورا رمضان نظام الدین گزارنے کا تھا۔ جیسا کہ ابھی لکھوا چکا ہوں۔ تقسیم والے سال حسب معمول ۲۹ شعبان ۱۴۶۷ھ مطابق ۱۹ جولائی ۲۰۰۷ء بروز شنبہ دبلي روane ہوا اور بعد ظہر دبلي پہنچا اور عصر کے وقت نظام الدین پہنچا۔ چونکہ

۲۹ تاریخ تھی اس لیے حب معمول عصر کی نماز پڑھ کر ایک ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت سے پچھا جان کے مختلف میں بیٹھ گیا۔ اسی رمضان المبارک کی ۲۷ شبِ قدر میں ۱۲ بجے ۱۵ اگست کو مجوزہ تقسیم کا اعلان ہوا اور اس شب میں مولانا منظور نعmani نے خوب زور دار دعا میں رورو کر کر انہیں کہ ان کا قیام بھی اس زمانے میں نظام الدین میں تھا اور بھی بہت سے اہل خیر حضرات کا قیام اس رمضان میں وہاں رہا۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نے بھی یہ رمضان وہیں گزارا۔ کشت و خون، قتل و غارت گری، لوٹ مار کا سلسلہ بنگال، بہار میں تو کئی ماہ پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا اور روز افزود تھا۔ تقسیم کے بعد ہندو پاک میں وہ خون کی ندیاں بھیں کہ الامان والحفیظ، ان کی تفصیل نہ تو میرا موضوع ہے اور نہ اس کی ہمت ہے۔ قرآن شریف اور احادیث پاک میں قیامت اور حشر کا جو منظر پڑھا تھا:

**”يَوْمَ يَفْرُّ الْمَرءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبِتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ أُمْرٍ ظُلِمُوا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ“**

(ترجمہ) ”یاد کرو اس دن کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں پاپا اور بیوی اور اولاد سے اور ہر شخص کے لیے ایک خاص حالت ہوگی، جس کی وجہ سے وہ ہر شخص سے بے تعلق ہو گا۔“ یہ سب منظرا پنی آنکھوں سے دیکھے۔ نظام الدین سے اپیشل تبادلہ آبادی کے سلسلہ میں مغرب کے بعد روانہ ہوا کرتا تھا اور ظہر کے بعد نظام الدین کی مسجد اس قدر بھر جاتی تھی کہ مسجد کے باہر بھی دور دوستک آدمی ہی آدمی ہوتے تھے اور عصر کے بعد بالکل خالی ہو جاتی اور ایک ہو کا عالم ہوتا تھا۔ اپیشل کی روائی کے بعد اسی (۸۰) آسی (۸۰) شیرخوار بچے اپیشل پر پائے گئے جن کو ان کے ماں پاپ اپیشل پر چھوڑ کر ریل میں سوار ہو گئے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ان بچوں کو کہاں چھوڑ رہے ہو تو وہ نہایت بیدردی سے جواب دیتے کہ اگر صحیح سلامت پاکستان پہنچ گئے تو وہاں اور پیدا ہو جائیں گے۔ اس بوجھ کو کہاں اٹھائیں گے۔ اپیشل پر فوجی پہرہ بھی ہوتا تھا اور تھیاروں سے مسلح ہوتے تھے۔ مگر:

وہی قاتل وہی مجرم وہی منصف  
اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر

دونوں طرف کی ہوا اس قدر خراب تھی کہ جو پولیس والے محافظ بن کر بیہاں یا وہاں جاتے تو پیش قدمی نہ ہی مگر چشم پوشی خوب کرتے تھے چنانچہ اپیشل پر خوب حملے، لوٹ مار ہوتی۔ ۲۲ ستمبر کو جانے والا اپیشل آٹھ دن میں لا ہور پہنچا اور اس پر خوب قتل و غارت ہوا۔ گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں اپنے اپنے گھروں میں بلا کسی انتظام کے ویسے ہی چھوڑ جاتے تھے خواہ بھوکے

مریں یا کوئی دوسرا درندہ کھا جائے۔ جو دیندار گھلاتے تھے وہ نظام الدین کے تبلیغی مرکز میں چھوڑ جاتے تھے۔ چار ماہ تک تقریباً یہ ناکارہ بھی نظام الدین میں گویا مجبوس رہا۔ دہلی سے راشن لانا تو مصیبت عظیم تھا۔ یہ جانور کاٹ کاٹ کر بغیر روٹی غلہ کے بغیر عید کی طرح سے کھائے۔ کیونکہ دہلی کے راستے بالکل مخدوش اور مسدود تھے اور راشن بزری منڈی میں ملتا تھا۔ جہاں سکھ ہی سکھ تھے۔ کسی کی بھی ہمت ہم لوگوں میں سے وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی۔ مگر ہمارے الحاج با بوا یا ز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی ہمت اور قوت عطا فرمائے وہ اسی حال میں وہاں سے راشن لایا کرتے تھے۔ مگر راشن پندرہ آدمیوں کا اور مستقل رہنے والا مجمع پانچ سو کے قریب تھا۔ لیکن یہوں کے لیے وہ راشن کام دے دیتا تھا۔ ان کے اس طرح جانے پر سب لوگ حیرت کرتے تھے۔

ایک دفعہ وہ بزری منڈی سے راشن لے کر نظام الدین آرہے تھے وہاں سے ایک تانگہ لیا۔ اس میں ایک بابو جی اور تین سکھ۔ دہلی سے نکل کر ان سکھوں نے کہا کہ تو ہمارے بیچ میں کیسے بیٹھ گیا اور اگر ہم تجھ کو ختم کر دیں تو پھر کیا ہو۔ انہوں نے نہایت جوش اور جرأت و بے باکی سے یہ کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں مار سکتے اور ہمت ہو تو مار کر دکھلا دو۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ آپس میں کچھ اشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینیں سوت کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں مار سکتے؟ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے تم میرے مارنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے اور اشارے بھی کرتے رہے۔ ان سے اترتے وقت پوچھا کہ تم وہ چیز بتا دو کیا ہے۔ بابو جی نے کہا وہ چیز بتانے کی نہیں ہے اور باقی تم دیکھ چکے کہ تم لوگ باوجود ارادے کے مجھے مارنے سکے اس ناکارہ نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو مجھے ایک دعا بتا رکھی ہے۔

”اللَّهُمَّ إِنَا نَجْعَلُكَ فِي نُخُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ“ میں یہ پڑھتا تھا۔ میں یہ سوچتا ہی رہا کہ بتانے والے پتواس کا کچھ اثر نہ ہوا اور یہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت ہی غیرت آئی۔ اعتقاد کی قوت کی بات ہے۔ واقعی ہے اس میں نہ ذرا تردید ہے اور نہ ذرا شک کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کام میں اس سے زیادہ قدرت اور قوت ہے۔ بشرطیکہ ہم میں جوش ایمانی ہو۔ میں پہلے کسی جگہ لکھوا چکا ہوں کہ میرے چھا جان نے ایک بیمار کے لیے ایک دعا لکھ کر مجھے حکم فرمایا تھا کہ فلاں شخص پر یہ دعا پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس سے اگر وہ اچھا نہ ہو تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ اس موقع پر تو واقعی قرآن پاک اور احادیث کی دعاوں کا اس قدر تحریر ہوا کہ کوئی حد نہیں۔ اللہ جل شانہ اس زمانے کا سما اعتقاد اور دعاوں پر یقین بغیر فساد و ہنگامہ کے اب بھی نصیب فرمادے تو اس کا کرم ہے۔ میرا اپنا بھی بہت سی چیزوں کا تحریر ہے۔ تلاشی مکان کی اور

مسجد بنگلہ کی اس زمانے میں خوب ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ بہت بڑی گورکھا فوج بھیاروں سے مسلح نہ معلوم ان بیچاروں کو کیا غلط روایات پہنچی تھیں کہ وہ سب آئے یہ سیاہ کار مسجد میں تھا۔ ”وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَصِرُونَ“ یہ آیت اتنی کثرت سے زبان پر بے اختیار جاری ہوئی کہ تعجب ہوا۔ دس پندرہ آدمی اور نیچے چھتوں پرتلاشی لیتے رہے۔ مگر کسی چیز کو چھیڑا تک نہیں۔ معلوم نہیں کہ نظر نہیں آئی یا کوئی اور بیات پیش آئی۔ کئی مرتبہ نظام الدین کی مسجد بنگلہ (مرکز تبلیغ) پر حملہ کی موثق روایات سنن میں آئیں۔ مگر ہر مرتبہ میں اللہ جل شانہ تے اس قد رمد و فرمائی کہ مغرب کے وقت سے جو بارش اور اولوں کا زور شروع ہوتا تھا تو سارے راستے مسدود ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہنسنے میں آیا تھا۔ اللہ جانے کیا حقیقت تھی۔ ایک فسادیوں کا ہجوم بھوگل کی طرف سے حملہ کے لیے آیا۔ لیکن ایک دم ہی بھاگ گیا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بیات پیش آئی انہوں نے کہا کہ یہاں کے زندہ تو زندہ مردے بھی لڑتے رہتے ہیں اور مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ جب ہم مسجد بنگلہ کے قریب پہنچ تو قبروں سے مردے اٹھتے ہوئے نظر آئے اس لیے ہم واپس ہو گئے۔ یہ میں نے ایک ہی قصہ لکھوا�ا۔ اس قسم کے بہت سے قصے ہیں معلوم نہیں کہ یہ قصے لکھوانے کے بھی ہیں یا نہیں۔

جب یہ ناکارہ اخیر شعبان میں نظام الدین گیا تو گرمی کا زمانہ تھا۔ صرف ایک کرتہ، پا چمامہ لگی ساتھ تھی۔ اس زمانے میں میر اوستور بھی تھا کہ جمعہ کے دن لگنی باندھ کر دھونے والوں کو کثیرے دے دیے اور دھونے والے آپس میں لڑتے بھی خوب تھے کہ کون دھوئے اس لیے بھی کوئی اشکال نہ ہوتا تھا و تین گھنٹے میں سوکھ گئے تو پہن لیے۔ اس لیے استعمال کا کوئی کپڑا ان تین کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ چار ماہ وہاں محبوس رہنا پڑا۔ اس میں خوب سردی آگئی، کپڑا خریدنے کا کہاں موقع تھا کہ دہلی آتا تو بہت خطرناک تھا میرے مخلص دوست صوفی اقبال ہوشیار پوری شم الباکستانی ثم المدنی بھی میرے ساتھ محبوس تھے وہ میری سردی کو محسوس کر کے ایک فوجی سے دوری پے میں ایک سوئٹر خرید کر لائے تھے۔ میں سوئٹر پہننے کا نہایت مخالف تھا، بلکہ مجھے اس سے نفرت تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی نہ پہنا اور نہ اپنے بچوں کو پہنا�ا۔ مگر مجبوری سب کچھ کر دیتی ہے۔ میں نے اس کو پندرہ برس تک پہنا۔ اس کے بعد میرے ایک دوست مر جوم وہ کئی سال سے مجھے سے مصروف تھے کہ اس سوئٹر کا قصور معاف کر دو اور یہ بطور تبرک مجھے دے دو میں اس کو اپنے کفن میں رکھوں گا اور میں ان سے یہ کہتا کہ دوری پے کا جب مجھے اور ملے گا تب دوں گا۔ مگر دوری پے کا کہیں نہیں ملتا تھا۔ پندرہ برس کے بعد انہوں نے ایک نیا سوئٹر مجھے لا کر دیا اور کہا واقعی دوری پے کا لایا ہوں۔ مجھے یقین

تو نہ آیا۔ مگر میں نے دو روپے اور اپنا سوئٹران کے جواں لے کر دیے۔ اس کے بعد سے اپنے قدیم لباس روپی کی کمری گویا چھوٹ ہی گئی اور پھر تو سوئٹر علماء حضرات کے طبقہ میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ایک عجیب واقعہ اس زمانے میں پیش آیا۔ میرا معمول ہمیشہ ۲۹ شعبان کو جا کر پورے ماہ کا اعتکاف کر کے نظام الدین میں عید کی نماز سویرے سے پڑھ کر وہاں چلنے کا تھا اور شام تک سہار پور پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اس سال کچھ توہنگا میں کی خبروں سے اور کچھ عزیز ہارون سلمہ کی والدہ کی شدت علاالت کی وجہ سے کہ اس کی حالت ایسی تھی کہ ہر روز گویا آخری دن تھا۔ مجھے دو تین دن کی تاخیر ہوئی، یہاں سب کو بہت فکر ہوئی۔ میرے عزیز الحاج ماسٹر محمود الحسن صاحب کا نذر حلوی جو اس زمانے میں اسلامیہ اسکول میں سینڈ ماسٹر تھے اور بھی کبھی پہلی بھی ہوتے تھے جن کی سفارش کا قصہ امتحان کے سلسلہ میں پہلے بھی لکھوا پکا ہوں وہ بھی میری تاخیر کی وجہ سے میرے حال کی تحقیق کرنے کے لیے نظام الدین پہنچ اور ان کے ساتھ میرا مغلص دوست اور حضرت مدینی قدس سرہ کا جانشیر مولوی عبدالجید مرحوم جلالوی بھی تھا جو میرے یہاں مستقل رہتا تھا۔ بہت ہی محبت و اخلاص والا تھا، اس کی حضرت مدینی کی جانشیری کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جب وہ افواہ بھی یہ سن لیتا کہ حضرت دیوبند یا لکھنؤ سے رات کو آنے والے ہیں تو رات پھر اشیش پر گزارتا اور ہر گاڑی دیکھتا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزاً خیر دے۔ جب حضرت قدس سرہ کے اشیش پر آنے کے بعد اگر دو گاڑیوں میں ایک گھنٹہ کا بھی فصل ہوتا تو وہ واپسی کا تانگہ اشیش سے کر کے مجھے سوتے ہوئے گواٹھاتا اور یوں کہتا کہ حضرت تشریف لے آئے گاڑی میں اتنی دیر ہے میں واپسی کا تانگہ لے آیا ہوں۔ پھر مجھے نہ جانے کا کیا غدر تھا۔

ایک دفعہ مرحوم کی میں تو حمافت ہی کہوں گا مگر محبت میں جماقتیں ہو، ہی جاتی ہیں رات کو حضرت مدینی قدس سرہ تشریف لائے اور دوسری گاڑی میں ایک گھنٹہ کا فصل تھا۔ اس نے تانگہ والے سے کہا کہ جلدی چل، آنا جانا ہے، جو تو کہے گا وہ دوں گا۔ تانگہ والے نے ایک روپیہ بتایا، اس نے کہا کہ میں ایک کی جگہ پانچ دوں گا جلدی لے چل۔ وہ تانگہ والا پانچ منٹ میں میرے گھر لا یا اور گھوڑا اپسینہ پسینہ ہو رہا تھا بلکہ ہونک رہا تھا مجھے بہت ہی غصہ آیا اور غصہ میں جی چاہا کہ جانے سے انکار کر دوں۔ مگر حضرت قدس سرہ کو چونکہ وہ لانے کی اطلاع کر کے آیا تھا۔ اس لیے جانا پڑا اور روپے بھی مجھے بھگلتا پڑے۔

بھائی محمود اور مولوی عبدالجید صاحب ۳ شوال کو میری خبر لینے کے واسطے ساڑھے چار بجے والے ایک پریس سے دلی پہنچے۔ گھورا گھاری تو اس گاڑی پر بھی ہوئی اور ان کے ڈبے کو بھی فسادیوں نے گھورا اور نعرے بھی لگائے۔ اس کے بعد جو گاڑی چھبیس سے سہار پور سے چلی اس پر

دورالہ کے اشیش پر قتل عام ہوا اور اس کے بعد سے سہار پور تا دہلی کا راستہ گویا بالکل بند ہو گیا۔ حضرت مدینی قدس سرہ جب دیوبند سے دہلی جاتے اور بار بار جانا پڑتا تھا تو دیوبند سے سہار پور آتے یہاں سے مراد آباد جاتے۔ وہاں سے مختلف راستوں سے دہلی آتے جو راستے فی الجملہ نسبتاً مامون تھے۔ عزیز عبدالجید مرحوم کے نام کے ساتھ اس کا اور قصہ حمافقت کا لکھوا دوں۔ نظام الدین کے چار ماہہ جس میں پان بالکل نہیں ملتا تھا۔ عزیز ان مولوی یوسف و انعام اور بہت سے مقیمین پان کے مجھ سے بھی زیادہ عادی تھے۔ لیکن پان شملتے کی وجہ سے چھالیہ چونا کتنا کھایتے تھے۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا اس لیے تقریباً چھوٹ ہی گیا تھا۔ عزیز عبدالجید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور مجھے بھی۔ اس نے پانچ روپے میں ایک دیکی پان ایک سکھ سے دہلی سے منگایا تھا۔ اس پر مجھے تاگہ والے قصے سے بھی زیادہ رنج و قلق ہوا۔ مگر ”حب الشئ یعنی و یصم“ جب بھائی محمود صاحب کو اس پان کی خبر ہوئی تو انہوں نے مولوی عبدالجید مرحوم کے ہاتھ سے لے لیا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزاً خیر دے کر نہ خود کھایا کی اور کو دیا۔ میں نے بہت ہی اصرار کیا کہ مولوی یوسف صاحب کو آدھا پان دے دو مگر وہ نہ مانے اور پان کے ذرا ذرا سے تعویز کے سے نکڑے کر کے اس پر کھا چونا لگا کر دو تین نکڑی روزانہ مجھے کھلاتے تھے۔ شاید آٹھ دن میں ختم کیا۔ گویا پانچ روپے وصول کر دیے۔ چونکہ ڈاک بھی اس زمانے میں بند ہو گئی تھی، آمد و رفت کا توڑ کر ہی کیا، اس لیے میرے ایک داماڈ مولوی سعید الرحمن مرحوم کا کاندھلہ میں انتقال ہوا۔ اس کی اطلاع مجھے دو ماہ بعد ملی۔

ایک صاحب جن کا نام لکھنا مناسب نہیں، تقسیم سے بہت پہلے حضرت اقدس رائے پوری شانی قدس سرہ سے بیعت تھے اور پیالہ میں ملازم تھے۔ ان کی رائے پور کشتہ سے حاضری ہوتی تھی اور جب وہ رائے پور جاتے تو راستے میں ایک شب میرے پاس ضرور قیام فرماتے۔ ایک مرتبہ رائے پور جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فلاں اسکول میں ملازم تھا۔ تیری ”حکایات صحابہ“ پڑھ کر میں نے اسکول سے استغفاء دے دیا۔ مجھے بہت ہی غصہ آیا، اس لیے کہ میں تاوق تکید دوسری صورت معاش کی پیدائش ہواستغفاء دینے کا بہت مخالف ہوں، میں نے ان سے کہا کہ ”حکایات صحابہ“ میں کہیں بھی اس قسم کا مضمون نہیں مل سکتا، آپ کتاب لائیے اور مجھے دکھائیے کہ کہاں لکھا ہے۔ جب میں نے زور اور ڈاٹ کر کہا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو نہیں لکھا مگر مجھ پر اس کا یہی اثر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ چھپ میری کتاب سے یہ اثر ہوا کم از کم مجھ سے دریافت تو کر لیتے۔ ابھی واپس جاؤ اور استغفاء واپس لو، انہوں نے کہا کہ استغفاء تو منظور ہو چکا ہے اب واپسی کی کوئی شکل نہیں، ان کو چونکہ تبلیغ سے اور نظام الدین سے بھی تعلق تھا اس لیے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ رائے پور جاؤ، آٹھ دس دن قیام کے بعد نظام الدین چلے جانا اور وہیں

مستقل قیام کرنا اور ہر ماہ میں چار پانچ یوم کے لیے رائے پور آ جایا کرو اور حضرت رائے پوری سے بھی میرا یہ مشورہ نقل کر دینا۔ حضرت رائے پوری قدس سرہ کا زمانہ دیکھنے والے تو بھی ہزاروں موجود ہیں کہ حضرت قدس سرہ کے یہاں اس سے کارکی رائے اگر حضرت کی رائے کے خلاف بھی ہوئی تب بھی وہ اس پر اس قدر پسندیدگی کا اظہار فرماتے کہ گویا یہی حضرت کی بھی رائے ہے۔ حضرت نے اس تجویز کو معلوم نہیں دل سے یا میری دلداری سے بہت پسند فرمایا، ان کا عرصہ تک یہی معمول رہا۔ تقسیم کے زمانے میں وہ بھی نظام الدین میں محبوس تھے۔

اس زمانے کا عام دستور یہ تھا الاما شاء اللہ کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو کوئی پاکستان جانے کی اجازت مانگتا تو خود اس پر ناراض ہوتے اور فرماتے کہ تم موت سے ڈر کر جاتے ہو، موت کا وقت مقرر ہے، وہ نہ ہندوستانیوں کو چھوڑے گی نہ پاکستانیوں کو اور اس سے کار سے جو اجازت لیتا، میں خوشی سے اس کو اجازت دے دیتا۔ اس زمانے میں نظام الدین کی مسجد جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ظہر سے بھرنا شروع ہوئی اور عصر تک خالی ہو جاتی کہ اپنیش مغرب کے بعد روانہ ہوتی تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ممبر پر تقریر کرتے رہتے اور اللہ پر اعتماد موت کے ڈر سے فرار کی ندامت وغیرہ امور کو بہت ہی جوش سے بیان فرمایا کرتے تھے اور جب کسی ضرورت سے مولانا مرحوم نمبر سے اُتر جاتے تو یہ مولوی صاحب موصوف فوراً نمبر پر پہنچ جاتے اور مولانا مرحوم سے بھی زیادہ زور دار انداز میں ان کے مضمون کو واضح کرتے اور پاکستان نہ جانے پر زور دیتے اور جب مولانا مرحوم آتے تو یہ صاحب نمبر سے اُتر جاتے۔

ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب ظہر کی نماز پڑھتے ہی کسی ضرورت سے گئے اور ان صاحب نے فوراً نمبر پر جا کر نہایت شدت سے حسب معمول تقریر شروع کی میں بھی مولوی یوسف مرحوم کے حجرے میں بیٹھا سن رہا تھا اور مولانا یوسف صاحب مرحوم جب نمبر پر پہنچ گئے تو یہ صاحب نمبر سے اُتر کر فوراً حجرے میں آئے اور آتے ہی مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمادیں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ابھی تو کتنے زور شور سے تقریر کی اور اب پاکستان جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنی عادت کے موافق کہہ دیا کہ شوق سے چلے جائیں۔ کہنے لگے میں حضرت جی (مولانا محمد یوسف صاحب) کی زبان سے اجازت چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ میری اجازت حضرت جی ہی کی اجازت ہے۔ شوق سے چلے جاؤ، انہوں نے نہایت زور سے اور بہت بھرائی ہوئی صورت میں یوں کہا کہ حضرت آج ہی اپنیش سے جانا ہے اور حضرت جی کی زبان سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے مولانا یوسف صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ ایک منٹ کو میری ایک بات سن لیں تقریر ختم نہ کریں۔ وہ مرحوم میرے اس نوع

کے نازیبا احکام کو بہت وقت اور دل سے قبول کیا کرتے تھے، وہ لوگوں سے کہہ کر بیٹھے رہیں میں ابھی آتا ہوں، بھائی جی نے بلا یا ہے ایک دم نمبر سے اتر کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جانا چاہتے ہیں میں نے ان کو اپنی اور تمہاری طرف سے اجازت دے دی۔ مگر یہ تمہاری زبان سے اجازت مانگتے ہیں۔ مرحوم نے بہت ہی غصہ سے کہا کہ بھائی جی کی اجازت کے بعد میری اجازت کی کیا ضرورت ہے شوق سے چلے چاؤ۔ اس کے بعد مرحوم اپنی تقریر میں چلے گئے اور ان صاحب سے میں نے کہا کہ اللہ حافظ!

وہ اسی وقت نظام الدین کے بہت سے خواص کو بہت اہتمام سے جمع کر کے مسجد سے باہر نیم کا درخت ہے اس کے پیچے لے گئے جہاں بابو یا ز صاحب کا ہوٹل ہے اور جا کر بہت زوردار تقریر جتنی اور پر مسجد میں نمبر پر لوگوں کو روکنے کے لیے کر رہے تھے اس سے زیادہ زوردار اب لوگوں کو جانے پر آمادہ کرنے کے لیے کی اور کہا کہ حضرت جی (مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) تو حضرت شیخ کی وجہ سے مجبور ہیں اور حضرت شیخ محض شہادت کے شوق میں یہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں اب دین کا کام کوئی نہیں ہو سکتا اور ان قبروں کی پرستش یا حفاظت ہمارا کام نہیں ہے۔ بہت ہی انہوں نے ترغیبیں دیں مگر خواص میں سے تو کوئی راضی نہ ہوا، عوام کچھ ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ یہ مسئلہ بھی تین چار ماہ تک بہت ہی معرکہ الاراء رہا کہ پاکستان جانے والے احباب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی شدید اصرار کرتے تھے، بعض اکابر تو روزانہ پچیس تیس ہوائی جہاز لے کر آتے کہ مولانا محمد یوسف صاحب کو مع ان کے گھروالوں کے لے جائیں، ان کا اصرار تھا کہ مسلمان بکثرت وہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب کا وہاں جانا ان کی دینی اصلاح کی خاطر بہت ضروری ہے، نیز اس وقت یہاں کی جو متزل حلالت تھی اور یوپی و دہلی کا جو عام اخلاق ہو رہا تھا اس کی وجہ سے یہاں دینی کام کی امید یہ کم معلوم ہوتی تھیں، مگر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جواب تھا کہا اگر بھائی جی تشریف لے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ورنہ نہیں۔ ان کی وجہ سے اس سے کار پر بھی ہر وقت یورش رہتی۔

دہلی اور اس کے علاوہ کے احباب ہر وقت مصر رہتے کہ یہاں کارہ بھی جلد پاکستان جانے کا فیصلہ کر لے اور میرا صرف ایک جواب تھا کہ میں جب تک اپنے دو بزرگ حضرت اقدس مولانا مدینی و مولانا رائے پوری تور اللہ مرقد ہما سے مشورہ نہ کرلوں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ ان دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ ایک پرچہ لکھ دیں، ہم ان دونوں بزرگوں سے اجازت منگالیں گے۔ میں کہتا تھا کہ میں اجازت کو نہیں کہا مشورے کو کہا ہے اور وہ زبانی ہو سکتا ہے۔ جب بھی مقدر ہو گا

دونوں سے زبانی بات کر کے رائے قائم کر سکتا ہوں۔ میرے بعض اعزہ کا بھی بہت بی شدت سے میرے اور مولانا محمد یوسف صاحب کے جانے پر اصرار تھا مگر مجھ سے کہنے کی تو ان لوگوں میں بہت نہیں پڑتی تھی، لیکن ان جانے والے دوستوں کے ذریعہ سے بہت اصرار کرتے تھے۔ یہ بھی ہر وقت کا ایک مستقل معرکہ تھا اور راستے ہر طرف کے مسدود تھے۔ اس لیے حضرات شیخین مولانا مدینی مولانا رائے پوری نور اللہ مرقد ہما سے بات کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔

محرم ۱۴۷۵ھ کے شروع میں میرے مخلص محسن مولوی نصیر الدین سلمہ جو میری دلختی ہوئی رُگ سے خوب واقف تھے، انہوں نے ایک پرچہ مجھے لکھا جو بڑی مشکلات سے دستی پہنچا۔ جس میں انہوں نے لکھا کہ ”اوجز المالک جلد رابع کے لیے کاتب مل گیا ہے اور میں نے کام شروع کر دیا ہے اور اس میں آپ کی ضرورت ہے۔“ اوجز جلد رابع کی طباعت تقسیم سے پہلے شروع ہو چکی تھی، میرا بہت ساروپیہ اس کی کتابت اور طباعت کے کاغذ میں خرچ ہو چکا تھا، لیکن تقسیم کے ہنگامے نے اس سب کو غیر بود کر دیا تھا۔ جس کا مجھے بہت قلق تھا اور حالات کے پیش نظر یہ امید بھی نہ تھی کہ اس کی طباعت ہو سکے گی۔ مولوی نصیر کے اس خط پر جو انہوں نے محسن دھوکے سے صرف میرے بلانے کے لیے لکھا تھا مجھے واپسی کا تقاضا ہو گیا اور میں نے عزیزم مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے واپسی کی اجازت مانگی۔ مجھے ان کے الفاظ جب یاد آتے ہیں جب ہی چھپتے ہیں۔

انہوں نے آبدیدہ ہو کر کہا بھائی جی! آپ اس حال میں مجھے چھوڑ کر جائیں گے۔ اس وقت میں ایک دوسری مرحلہ نظام الدین سے دبلي منتقل ہونے کا بھی تھا۔ اس میں حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیش پیش تھے اور بھی ماران میں انہوں نے کئی مکان زنانہ، مردانہ، جماعتوں کے قیام کے واسطے تجویز کر کر تھے اور مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے حافظ صاحب موصوف کے خصوصی تعلقات تھے اس لیے وہ ان پر بہت زور دیتے تھے کہ ہم سب کو دبلي منتقل کر دیں۔ مولانا مرحوم بھی ہم لوگوں کی حفاظت کی خاطر حافظ صاحب کے ہم خیال تھے۔ مگر جتنی شدت حافظ صاحب کو تھی ان کو نہیں تھی، لیکن حافظ صاحب کے شدید اصرار پر مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے کئی مرتبہ سرکاری ترک لے کر ہم لوگوں کو دبلي جانے کے واسطے نظام الدین پہنچے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے منتقل ہونے کی بالکل نہ تھی۔ کہتے تھے کہ اگر اس کو خالی کر دیا اور اس پر پناہ گزینوں نے قبضہ کر لیا تو پھر یہاں سے منتقل ہونا مشکل ہو جائے گا پناہ گزینوں کا بھی ہر وقت یہاں ہجوم رہتا تھا اور وہ بھی یہاں کے رہنے والوں کو خوب ڈراستے دھمکاتے تھے۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب اس اشکال میں مولانا یوسف کے ساتھ تھے کہ دوبارہ قبضہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس

مرحلہ پر بھی یہنا کارہ عزیز موصوف کی پشت پناہ بنا ہوا تھا اور حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب تو بہت اصرار سے حکم فرماتے تھے۔ لیکن اس سیہ کار پر زیادہ زور نہیں دیتے تھے۔ عزیز مرحوم نے میری واپسی کے ارادہ پر بھی کہا کہ آپ کی تشریف بری کے بعد ایسا نہ ہو کہ حافظ صاحب وہی منتقل ہونے پر بھی اصرار فرمادیں۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ تم میری غیبت میں زور سے کہہ سکتے ہو کہ اتنے زکر یا اجازت نہ دے، میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایک عجیب بات بڑی حیرت کی تھی جواب تک سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ یہ کہ شوال ذی قعده میں اس قدر نجوسٹ درود یوار پر چھار ہی تھی کہ ان کو دیکھ کر بھی ڈر لگتا تھا بہت ہی سوچا کرتا تھا کہ یہ سیاہی کس چیز کی ہے۔ وہاں تو میں نے کبھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا البتہ حضرت اقدس رائے پوری سے واپسی پر تذکرہ کیا لیکن شروع ذی الحجه سے وہ سیاہی دفعہ کم ہوئی اور بقید کے بعد سے انوارات محسوس ہونے لگے۔ میں نے عزیز مولانا یوسف صاحب مرحوم کو اس کی وجہ سے اطمینان دلایا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں مطمئن رہو۔ ظلمت و نور کا تو میں نے اظہار نہ کیا۔ لیکن مرحوم کو اطمینان خوب دلایا۔

۲۸ ذی الحجه ۲۶ھ مطابق ۱۲ نومبر ۱۹۷۴ء کو حضرت مدینی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ دیوبند سے روانہ ہو کر شب کو مظفر نگر میں قیام فرمادی کہ وہ پھر کو بڑی وقت سے وہی پہنچے۔ وہاں گاندھی جی، جواہر لال نہرو نے اس پر بہت قلق اور اظہار افسوس کیا کہ آپ اس قدر مشقت اور تکلیف اٹھا کر تشریف لائے ہیں آپ اطلاع کر دیا کریں سرکاری ٹرک آپ کو لایا کرے گا وہی لے جایا کرے گا اور اس وقت بھی ان لوگوں نے حضرت قدس سرہ کے لیے ایک سرکاری ٹرک تجویز کیا۔ جو حضرت کو دیوبند لے جائے اور چار فوجی گور کھا اس پر تھیاروں سے مسلح حفاظت کے لیے مقرر ہوئے۔

حضرت قدس سرہ نے اس ناکارہ کو نظام الدین اطلاع کرائی کہ میں سرکاری ٹرک میں فوجی پہرے کے ساتھ دیوبند چارہ ہوں، تمہاری مستورات (جو سب نظام الدین، والدہ ہارون کی شدت علالت کی وجہ سے ۲۱ شعبان ۲۶ھ گئی ہوئی تھیں اور وہاں ہی مجبوس تھیں) کو اس وقت میرے ساتھ جانے میں سہولت رہے گی میں تو پہلے ہی سے آنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ مستورات کی آمد کے لیے اس سے زیادہ آسان صورت کوئی نہ تھی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی طیب خاطر سے نہیں بلکہ قلق سے سب کو اجازت دے دی اور ۳ محرم ۱۹۷۴ھ مطابق ۱۷ نومبر ۱۹۷۴ء دوشنبہ کی صبح کو حضرت نے اپنا ٹرک نظام الدین بھیج دیا اور زکریا مع مستورات مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے طرفین کے آبدیدہ نگاہوں کے ساتھ رخصت ہو کر سوار ہو گئے۔ وہ ٹرک چاروں طرف سے پردوں سے بند تھا اور چاروں کونوں پر چار گور کھا مسلح کھڑے ہوئے تھے۔ آگے کے حصہ میں حضرت اقدس مدینی قدس سرہ اور عزیز مولوی عبد الجید مرحوم اور عالی

جناب محمود علی خاں صاحب رئیس کیلاش پور جو اتفاق سے دہلی گئے ہوئے تھے اپنی ریوالور کے ساتھ آگے بیٹھے تھے اور یہاں کارہ مستورات کے ساتھ پیچھے تھا۔ نوبجے دہلی سے چل کر میل کے قریب پہنچ تھے کہ دفعہ ٹرک خراب ہو گیا۔ بہت ہی دقت اور مشقت سے اس کو دھکے لگائے۔ مستورات کو اتنا مشکل تھا، لیکن حضرت مدینی قدس سرہ نے پاوجود اپنے ضعف و پیری کے بدلتی قوت سے زیادہ اپنی روحانی قوتوں کے ذریعہ اس کو نفس نشیں دھکلیا۔ حضرت ہی کی برکت سے وہ چل سکا ورنہ اس قدر سخت وزنی تھا کہ ہم چند ضعفاء کے قابو کا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے دھکلنے سے وہ ذرا بھی جنبش نہ کرتا۔ حضرت قدس سرہ کے زور سے ہی وہ حرکت کرتا تھا۔ بہت مشکل سے پانچ چھ گھنٹے میں سوتا تک پہنچا۔ وہاں ایک مدرسہ بیکوں کا تھا۔ گاؤں والے اور مدرسہ والے حضرت قدس کو دیکھ کر بے حد خوش ہونے اور وہ لوگ اپنے یہاں سے مکنی، چاول، وغیرہ جس قسم کی بھی ان کے یہاں روٹیاں تھیں اور ساگ وغیرہ لے کر آئے، چونکہ میرے ساتھ عورتیں تھیں اس لیے مدرسہ کا ایک حصہ خالی کر کے مستورات کو پہنچایا اور میں اور حضرت قدس سرہ مسجد میں چلے گئے اور فوجی ٹرک کو درست کرتے رہے۔ شیلیفون تو وہاں کوئی تھا نہیں۔ ایک فوجی گاڑی ادھر سے جاتی ہوئی ملی۔ ان فوجیوں نے ان کے ذریعہ کوئی پیام بھی بھیجا۔ مغرب کے بعد وہ ٹرک درست ہوا۔ انہوں نے چلنے کا تقاضا کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ مستورات ہیں بے وقت جانے میں وقت ہے۔ اب صحیح کو چلیں گے۔ مگر وہ فوجی گور کھے کہاں مانتے، زیادہ اصرار کیا تو جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی۔ کھانا کھایا ٹرک میں چونکہ چاروں طرف پر وہ تھا اور چاروں کونے پر فوجی تھے۔ اس لیے راستہ محمد اللہ کسی نے تعریض نہیں کیا۔ مظفر نگر آ کر حضرت قدس سرہ نے ایک حکیم صاحب کے مکان پر ٹرک نٹھرا کر مجھ سے یہ فرمایا کہ دیوبند میرے جانے کے بعد یہ آگے نہیں جائیں گے۔ تم کو مستورات کی وجہ سے وقت ہو گی۔ میں مظفر نگر سے دیوبند دن میں آسانی سے چلا جاؤں گا۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے ان حکیم صاحب کے مکان پر خوب زنگیریں بنا لیں میرے سامنے تو کواز کھلائیں۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ تم کو دیر ہو رہی ہے اور فوجی لوگوں کو بھی خوب تقاضا ہو رہا تھا۔ اس لیے مظفر نگر سے براہ رہ کی سہار پور صحیح کے چار بجے پہنچے۔ اس لیے کہ دیوبند تا سہار پور کی پختہ سڑک اس وقت تک نہیں نی تھی۔ ذکر یا، مولوی عبدالجید مرحوم اور عالی جناب محمود علی خاں صاحب مع اپنے ریوالور کے تھے۔ کیلاش پور پر میں نے عرض کیا کہ آپ اُتر جائیں۔ مگر اللہ ان کو بہت جزاً خیر عطا فرمائے انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں یقیناً راحت ہے کہ میں اپنے گھر پر سے گزر رہا ہوں مگر میں آپ کو تھا نہیں جانے دوں گا۔ وہ میرے ساتھ سہار پور تشریف لائے۔ کرفیو مظفر نگر میں بھی لگا ہوا تھا اور سہار پنچھو میں بھی تھا اور مظفر نگر و سہار پور دونوں جگہیں بلیک

آوت بھی تھا، کوئی بھل نہیں چل رہی تھی۔ مکان پر بالکل اندر ہیرا پایا۔ ٹرک والوں نے اور فوجیوں نے مکان پر پہنچنے کے بعد جلد اترنے کا تقاضہ کیا۔ مولوی عبدالجید مرحوم گھر میں آئے تو سب کواڑ مردانہ زنانہ، اندر باہر سے کھلے پڑے تھے۔ وہ یہ سب متظر دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگا کہ حضرت یہاں تو کوئی نہیں سب پاکستان چلے گئے۔ کیونکہ ڈاک کا سلسلہ بھی تقریباً کئی ماہ سے بند تھا اس لیے ایک کا دوسرا کوپتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مولوی نصیر الدین کے مکان کے اندر کی طرف زنجیر لگ رہی تھی مولوی عبدالجید مرحوم نے خوب زنجیر بجائی۔ آوازیں دیں اور میں نے بھی خوب آوازیں دیں۔ مگر وہاں سے زنجیر نہ کھلی اور نہ آواز کا جواب دیا۔ تین چار منٹ ہی اس بھاگ دوڑ میں گزرے ہوں گے کہ ٹرک والوں نے ہمارا سامان اٹاتا کر نیچے ڈال دیا اور مستورات سے تقاضا کیا کہ جلد اتر جاؤ۔ میں نے ان کو کتب خانہ کے چبوترے پر بٹھایا۔ اندر ہرے میں یہ بھی پستہ چلا کہ کیا اتر اکیار ہا اور یہ بھی فکر تھا کہ مقامی پولیس کر فیو کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہونے پر نہ ستائے۔ خان صاحب بھی اسی ٹرک میں سہارنپور والے مکان میں چلے گئے جو بازار میں تھا اور ٹرک والے کا راستہ بھی ادھر ہی کو تھا۔

دس پندرہ منٹ تک میرے اور مولوی عبدالجید کے شور کرنے پر مولوی نصیر نے اپنے دروازہ کا ذرا سا کواڑ کھول کر اندر جھاناکا اور میں نے ڈانت کر کہا کہ اللہ کے بندے کو اڑ تو کھول میں زکریا ہوں۔ اس پر اس نے دونوں کواڑ کھولے۔ سلام کیا میں نے کہا کہ جلدی لاٹین لاو وہ لیکے بعد دیگرے دولاٹین جلا کر لائے۔ ایک لاٹین لے کر مولوی عبدالجید مرحوم مکان میں آئے اور بہت ڈرتے ڈرتے مکان کو سب کو اندر باہر اور پریچے پاخانہ وغیرہ دیکھا کہ کہیں کوئی آدمی تو نہیں۔ دوسری لاٹین سے اول مستورات کو میں نے گھر میں پہنچایا پھر میں نے مولوی نصیر نے اور مولوی عبدالجید مرحوم نے جلدی جلدی وہاں سے سامان اٹھوایا۔ مکان کے دروازے میں سب کو جمع کیا اور مولوی نصیر سے مطالبہ بھی کیا کہ یہ سارے کواڑ کیوں کھلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد لگانا یاد نہیں رہا اور مغرب کے بعد کر فیو ہو گیا۔ میں نے ان سے کہایا تو کوئی عذر نہیں۔ جب یہاں کوئی تھا ہی نہیں تو یہ کیوں کھلے صحیح کی نماز میں جب یہنا کارہ مسجد میں گیا تو اولاد محلہ میں اور پھر سارے شہر میں میری واپسی کا ایسا شور چا اور ایسے زور دار اونچے اونچے فقرے سے کہ مجھے بھی گیدڑ کی طرح سے اپنے پری ہونے کا شہر ہونے لگا۔ ہمارے محلہ کے بہت سے لوگ اور اس کے ساتھ شہر کے بھی بہت سے احباب پاکستان جانے کے لیے ان کمپوں میں پہنچ چکے تھے جو کچھری کے پل سے اتر کر کثرت سے لگے ہوئے تھے۔

میری واپسی پر سب سے پہلے شیخ اظہار احمد تاجر چوب جو میرے بہت مختلف روست اور ان کے

والد جو اس وقت حیات تھے وہ بھی بڑے تاجر چوب تھے اپنے گھر والوں کو میں اپنے سارے سامان کے کھمپ سے واپس لے آئے اور میں نے سنا کہ شام تک دوسرا دمی ایک دوسرے کو دیکھ کر واپس ہو گئے۔ مجھے سفر کی تکان کا مرض تو ساری عمر سے ہے اور یہ سفر تو بڑی مشقت سے گزرا تھا اس لیے یہاں آکر کر شدید بخار ہوا۔ حضرت القدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ میری بیماری کی اطلاع سن کر اگلے دن چہارشنبہ کی صبح کو تشریف لائے اور تین دن قیام فرمایا اور شنبہ کی صبح کو واپس تشریف لے گئے۔ ۱۷ محرم ۱۴۰۷ھ دو شنبہ کی صبح کو حضرت مدینی قدس سرہ ڈبڑھ بجے تشریف لائے اور کار میں گنگوہ تشریف لے گئے۔ حضرت رائے پوری قدس سرہ بھی دو شنبہ کی صبح کو حضرت مدینی کی آمد کی خبر پر دو شنبہ کی صبح کو ہی تشریف لے آئے تھے مگر حضرت مدینی اٹیشن سے سید ہے گنگوہ تشریف لے گئے۔ اس لیے نظام سفر واپسی کا معلوم نہ ہو سکا۔ اس لیے حضرت رائے پوری قدس سرہ حضرت مدینی کا دن بھر انتظار فرمائے کہ بعد عصر واپس تشریف لے گئے۔ مغرب بعد حضرت واپس تشریف لائے اور حضرت رائے پوری کی آمد و انتظار و واپسی کا حال معلوم ہوا تو علی الصباح یہست تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جب معلوم ہوا کہ حضرت تو رائے پور جا چکے تو پچھے پچھے رائے پور تشریف لے گئے اور دونوں اکابر عصر سے پہلے سہار پور تشریف لائے اور بعد مغرب وہ معمر کتاب الاراء مشورہ ہوا جس کا بہت سی جگہ اس زمانے میں رسائل و اخبارات میں ذکر آیا تھا۔ علی میاں نے بھی حضرت رائے پوری کی سوانح میں اس کا ذکر کیا ہے میں دہلی سے واپسی پر حضرت مدینی قدس سرہ سے اور سہار پور آمد پر حضرت رائے پوری سے عرض کر چکا تھا کہ دہلی میں بہت زور اصرار میرے اور عزیز یوسف کے پاکستان چلنے پر رہا۔ مگر میں آپ دونوں حضرات کے مشورے پر اپنے سفر کو معلق کیے ہوئے ہوں اور عزیز یوسف کا سفر مجھ پر موقوف ہے۔ رائے پور میں اسی دن حضرت القدس رائے پوری بھی اشارۃ اس قسم کا ذکر کر چکے تھے۔ کہ پنجاب والوں کا مجھ پر زور رہا مگر میں نے حضرت والا اور حضرت شیخ کے مشورے پر موقوف کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ دونوں حضرات مشترک طور پر واپس تشریف لائے اور بعد مغرب کچھ گھر میں یہ سید کا رہا اور دونوں اکابر مشورے کے لیے جمع ہوئے اور اس کی ابتداء حضرت رائے پوری نے اس عنوان سے کی گئی حضرت! (خطاب حضرت مدینی کو تھا) اپنے سے تعلق رکھنے والے تو سارے مشرقی اور مغربی پنجاب کے تھے اور حضرت قدس سرہ (اعلیٰ حضرت رائے پوری) کے متعلقین بھی زیادہ تر ان ہی دو جگہ کے تھے۔ مشرقی تو سارا مغربی کی طرف منتقل ہو گیا، ان سب حضرات کا بہت اصرار ہو رہا تھا کہ میں بھی پاکستان چلا جاؤں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن صاحب بھی حضرت القدس رائے پوری کو پاکی مسلمانوں کی ضرورتوں کا بار بار احساس دلاتے تھے اور خود اپنا جانا بھی حضرت رائے پوری کی تشریف بری پر محظوظ کیے ہوئے

تھے اور یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ میرا تو مکان بھی مغربی میں ہے اور ان سب مظلومین کی ولداری بھی اسی میں ہے۔ شروع رمضان ہی سے ان کا اصرار ہو رہا ہے مگر آپ دونوں حضرات کے مشورے پر میں نے معلق کر رکھا ہے۔ یہاں تو پھر بھی اللہ کے فضل سے اہل اللہ ہیں مگر وہاں اللہ اللہ کرنے والوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ اجز گئے اور تقریباً حضرت کی گفتگو کا رخ یہ تھا کہ وہاں قیام ضروری ہے۔ اس سب کو سن کر حضرت مدینی قدس سرہ نے ایک ٹھنڈا سائس بھرا اور آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ ہماری اسکیم توفیل ہو گئی۔ ورنہ نہ تو یہ قتل و غارت ہوتا اور نہ یہ تبادلہ آبادی ہوتا۔

حضرت مدینی کا فارمولہ یہ تھا کہ صوبے سب آزاد ہوں، داخلی امور میں سب خود مختار، خارجی امور، فوج، ڈاکخانہ وغیرہ سب مرکز کے تحت۔ مرکز میں ہندو مسلم سب برابر ہوں گے۔ ۲۵، ۲۵ اور ۰۱ جملہ قلیتیں، گاندھی جی نے اس کو منظور کر لیا تھا مگر مسٹر جناح نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر ہماری تجویز مان لیتے تو نہ کشت و خون کی نوبت آتی اور نہ تبادلہ آبادی کی۔ اب میں تو کسی کو بھی جانے سے نہیں روکتا۔ اگرچہ میراوطن مدینہ ہے اور محمود وہاں بُلا نے پر اصرار بھی کر رہا ہے۔ مگر ہندوستانی مسلمانوں کو اس بے سروسامانی اور دہشت اور قتل و غارت گری میں چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ اور جسے اپنی جان و مال، عزت و آبرودین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں پر شارکرنی ہو وہ یہاں پھرے اور جس کو جمل نہ ہو وہ ضرور جائے۔

### حضرت مدینی و رائے پوری کے مشورہ سے ہندوستان سے منتقل قیام کا فیصلہ

حضرت قدس سرہ کے اس ارشاد پر میں جلدی سے بول پڑا کہ میں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ حضرت اقدس رائے پوری نے فرمایا کہ تم دونوں کو چھوڑ کر میرا جانا بھی مشکل ہے۔ میں نے تو اس گفتگو کو کسی سے نقل نہیں کیا اور توقع ان حضرات سے بھی معلوم نہیں ہوئی، لیکن عشاء کی نماز پڑھتے ہی عمومی شور ہر شخص کی زبان پر سنا کہ اکابر ثلاثہ کا فیصلہ یہاں رہنے کا ہو گیا ہے اور پھر ان ہی دونوں بزرگوں کی برکت تھی اور اصل تو اللہ ہی کا انعام و احسان تھا کہ ایک دن پہلے جو لوگ تشوش میں تھے وہ اگلے دن اطمینان کی سی باتیں کر رہے تھے۔ یہ زمانہ بھی قیامت کی یاد کو بہت ہی تازہ کر رہا تھا اور دنیا کی بے شابی ہر شخص پر ایسی مسلط تھی کہ بڑے بڑے قسمی برتن تابنے، لوہے کے بہت ہی معمولی پیسوں میں فروخت ہوئے۔ دہلی میں نیلام ہوتے تھے اور تابنے کے برتن بلا مبالغہ دو ڈھانی آتے سیر فروخت ہوتے۔ رئیس لوگ اپنی کاروں میں نظام الدین ایشلوں میں سوار ہونے کے لیے جاتے اور کارائیشن پر چھوڑ کر میل میں سوار ہو جاتے۔ مولا نا حفظ الرحمن نے کئی

مرتبہ افسوس سے فرمایا کہ یہ لوگ سڑکوں پر عمدہ کاریں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر جمیعیہ کو دی جائیں تو ان کو فروخت کر کے جمیعیہ کے کام میں لاایا جا سکتا ہے۔ اب اس طرح لاوارثی مال کو کیا کام میں لاایا جائے۔ لاقانونیت اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس کے قصے بھی بہت ہی ناقابل تحریر ہیں۔

حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب کی صاحبزادی اپنے خاوند کے ساتھ روہتک میں رہتی تھیں، حاملہ تھیں، روہتک والوں کا پیدل اخراج وہاں کے حکام نے تجویز کر دیا۔ حضرت حافظ صاحب نے اپنے تعلقات کی وسعت اور مولا نا حفظ الرحمن صاحب کی مدد سے جواہر لال سے یہ بھی لکھا دیا کہ ان کی لڑکی کو پیدل والی جماعت سے مستثنی کر دیا جائے، مگر روہتک کے تھانیدار نے اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں کا جواہر لال میں ہوں۔ مجھے اس وقت ۳۸ کا حج خوب یاد آتا تھا جس کی تفصیل پہلے گزر چکی کہ جب کوئی حاجی کسی بدود کی شکایت کسی مقوم سے کرتا اور یہ کہتا کہ میں مکہ جا کر شریف سے شکایت کروں گا تو ان کا مقولہ تھا ”من شریف؟ انا شریف“ (شریف کون ہے، میں شریف ہوں) اس زمانے میں دہلی میں مولا نا حفظ الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، سارے دن دہلی کے فساد زدہ علاقوں میں نہایت بے جگہی سے پھرتے تھے۔ مسلمانوں کو دلاسدیتے اور گالیاں سننتے، مگر اللہ ان کو مراتب عالیہ نصیب فرمائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خصل اور برداشت خوب عطا فرمایا تھا اور ان سے بڑھ کر میرے حضرت مدینی قدس سرہ تھے۔ سارے ہندوستان کا اس خطرے کے زمانے میں دورہ فرماتے اور مصائب پر ان کا اجر نہیں تھا، بڑے لابے لابے دورے حضرت کے مسلمانوں کو جمانے کے سلسلہ میں ہوئے۔ ایک چیز پر مجھے بہت ہی رشک آیا، نہایت شدید مخالفت معاند لیگی جنہوں نے حضرت نور اللہ مرقدہ کو منہ درمنہ بہت کچھ کہا اور سنایا، حضرت ان کو بھی بہت ہی تسلی کے خطوط تحریر فرماتے اور خود جا کر ان کو دلاسدیتے اور ایسی گفتگو فرماتے جیسے یہ حضرت کا بہت ہی معین و مددگار ہے۔

مجھے دو آبے کے متعدد لیگیوں کے متعلق خود سننے کی اور حضرت قدس سرہ کے گرامی نامے دیکھنے کی نوبت آئی کہ گھبرا کیں نہیں انشاء اللہ حالات کسی وقت سازگار ہوں گے، آپ کو جو تکلیف پیش آئے مجھے لکھیں میں انشاء اللہ ہر نوع کی مدد کروں گا، بعض لیگیوں کی سفارش کے لیے ہندو حکام کے پاس بھی تشریف لے گئے، جن کے نام میں لکھوانا نہیں چاہتا، مگر حضرت کے علوشان کی داد ہمیشہ دوں گا کہ جن لوگوں نے حضرت کی شان میں غائبانہ اور منہ درمنہ سخت الفاظ کہے حضرت نے ان کی سفارشیں اور اس بات تک کی ضمانتیں لیں کہ اب یہ لوگ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، مگر لیگی حضرات کو اس پر بھی اعتماد نہ ہوا اور نہ حضرت کی اس سفارش کی قدر فرمائی اور پاکستان چلے

گئے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات سے نوازے اس زمانے میں حضرت قدس سرہ پر تاثر بہت تھا  
بس اوقات تقریروں میں کسی کسی بھی بھی ہو جاتے تھے:  
وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے  
کہ جو منزل بہ منزل اپنی محنت رائیگاں دیکھے

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً



## متفرقات

یہ بات بہت بھی طویل ہے۔ اگرچہ اس کا اجمال بھی علی گزہ میں ہو چکا تھا، مگر اس کی تبیخ اور تفصیل باقی ہے اور چونکہ اس سے کار کے سفر حج اور اس سے زیادہ سفر بھرت کی خبریں نامعلوم ہر سال کہاں سے پھیل جاتی ہیں، حالانکہ بھرت کے متعلق میں ہر سال تحریر اتفیر اخبارات کے ذریعہ سے بھی لوگوں کو مطلع کرتا رہا ہوں کہ میرا بائبل کل بھرت کا ارادہ نہیں ہے اور نہ بھرت اتنی آسان ہے۔ سید الکوئین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”فَإِن شَانَ الْهِجْرَةُ شَدِيدٌ“ الحدیث روایہ ابو داؤد۔ بھرت کا معاملہ بڑا اخت ہے اور آج کل تو سعودی قوانین ایسے سخت ہیں کہ اگر کوئی بھرت کرنا بھی چاہے تو بہت دشوار ہے۔ مگر معلوم نہیں کہ کس بناء پر اس ناکارہ کی بھرت ہر سال پھیلتی رہتی ہے اور اکثر جمادی الثانی سے، ورنہ شوال سے تو اس قسم کے لوگوں کا ہجوم بڑھتا رہتا ہے جو ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آج کل بھی بہت بڑا ہجوم اسی سلسلہ میں ہو رہا ہے، اس لیے توقع نہیں کہ اس سفر سے پہلے یہ باب پورا ہو جائے۔ البتہ واقعات لکھنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز کاتبین میں سے کوئی پورا کر دے تو کرم ہو گا، ورنہ جتنا ہو جائے اس کو طبع کر دوں گا۔ یہ واقعات جو اس باب میں آرہے ہیں وہ سب غیر مرتب اور مختلف مضامین اور مختلف احباب کے ہیں اس لیے نمبر وار لکھواتا ہوں۔

### اکابر مدارس کا اہتمام اور مال وقف کی اہمیت:

(۱) مجھے اپنے اکابر کے طرز عمل اور ان سے ورش میں جو چیزیں ہے وہ مدارس کا اہتمام، اوقاف کے مال کی اہمیت، جس کے متعلق آپ بیتی نمبر ایں بھی کئی واقعات لکھوا چکا ہوں اور اس تحریر میں بھی اپنے حضرت قدس سرہ کا یہ مقولہ لکھوا چکا ہوں کہ مجھ سے تعلق کا مدار تو میرے مدرسے سے تعلق پر ہے، جس کو میرے مدرسے کے ساتھ جتنا تعلق ہے اتنا ہی مجھ سے ہے اور اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کا مقولہ بھی پہلے آچکا ہے کہ مجھے مدارس کی سرپرستی سے جتنا ذرگلتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں لگتا، طویل مضمون آپ بیتی نمبر ایں گزر چکا ہے۔ نیز اپنے والد صاحب قدس سرہ کا معمول بھی مدرسے کے متعلق آپ بیتی نمبر ایں لکھوا چکا ہوں کہ وہ اپنا سالن سردی میں مدرسے کے حمام کے سامنے رکھا کرتے تھے، نہ حمام کے اندر ہوتا نہ اس کی آگ نکال کر اس پر ہوتا اور اس

انفاس پر چندہ کے نام سے سردی کے مہینے میں دو تین روپے جمع کرتے تھے اور بھی اکابر کے احتیاط کے سلسلہ میں قصے وہاں گزر چکے ہیں اس لیے سب سے اول اپنے عزیزوں کو اپنے دوستوں کو اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو اس کی نصیحت اور اس کی وصیت کرتا ہوں کہ مدرسے کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مدرسے کے اوقات کا بہت ہی اہتمام کریں، یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کون ٹوک سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والا اور اس پر ٹوکنے والا بڑا خت ہے جس کے یہاں نہ کوئی سفارش چلے گی نہ کوئی وکالت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس سے کارنے مخصوص مالک کے فضل سے اوقات اس باقی کی وہ پابندی کی جس پر پرستان نے بھی تحریر استجواب لکھا ہے۔

### منظارِ علوم کی ماہانہ تقسیم کے نقشہ کی ترتیب:

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میر بھی قدس سرہ کے ذمہ ان کی سرپرستی کے زمانے میں مدرسین کے اس باقی اور خوادنگی کے نقشوں کی نگرانی تھی۔ ماہانہ دستخط نگرانی کے تو صدر مدرس کے ہوتے تھے لیکن سال کے درمیان میں اور سال کے ختم پر ایک دو مرتبہ وہ بھی نقشوں کو ملاحظہ کرتے تھے اور ہر مرتبہ اس سے کار کے نقشہ پر نصاب کی ماہانہ پابندی پر پسندیدگی اور مبارکباد لکھ کر جایا کرتے تھے۔ اگر وہ نقشے اب بھی دفتر مدرسہ میں ہوں گے تو ان پر تحریر ضرور ملے گی۔ ماہانہ تعلیم کی پابندی بھی بہت اہم ہے۔

منظارِ علوم کا خصوصی امتیاز حضرت قدس سرہ کے زمانے میں اور حضرت کے وصال کے چند سال بعد تک یہ رہا کہ تعلیم میں استواری، اعتدال خوب ہوتا تھا۔ حضرت قدس سرہ اس کے شدید مخالف تھے کہ شروع سال میں لمبی لمبی تقریروں میں وقت ضائع کیا جائے اور آخر سال میں رمضانی حافظ کی طرح ففرختم کرایا جائے۔ اس پر متعدد مرتبہ میرے حضرت نے اکابر مدرسین کو جمع میں ڈائش کر مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ کتاب کے شروع میں طول دیا جائے اور آخر میں دورہ چلا دیا جائے۔ حضرت قدس سرہ کے زمانے میں کوئی کتاب خارج یارات کو نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بھی حضرت بہت مخالف تھے۔ کہ طلبہ کو مطالعہ کا وقت کب ملے گا؟ مگر اب تو "چشم بد دوز" مدرسے کے گھنٹوں میں سبق کم ہوتے ہیں اور خارج میں زیادہ۔ اگر کسی کتاب کے متعلق اہتمام سے غور کیا جائے گا تو ایک تہائی مدرسے کے گھنٹوں میں ملے گی اور دو تہائی خارج اوقات میں پڑھا کر پوری کی گئی ہوگی۔ فالی اللہ المشکی حضرت قدس سرہ کے وصال کے کئی سال بعد تک حضرت کا اثر باقی رہا۔ لیکن چند سال بعد جب اس میں اخبطاط دیکھا گیا تو اس سے کارنے اور مولانا عبد الرحمن صاحب کا ملپوری سابق صدر مدرسہ نے مل کر اور حضرت قدس سرہ کے زمانے کے پانچ سالہ ماہانہ نقشے

سامنے رکھ کر ایک نقشہ مرتب کیا تھا جواب مدرسہ کے نصاب کے نام سے حالات مدرسہ میں طبع شدہ ہے۔ ہم دونوں نے بہت غور و خوض کے بعد پانچ سالہ نقشوں کو بہت اہتمام سے دیکھنے کے بعد خود بھی حضرت قدس سرہ کے زمانے میں کئی سال پڑھایا تھا۔ اس لیے ہر گھنٹے کی کتابوں کو ایک ہوں یادو، جس طرح حضرت کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی اس کو نو حصوں پر تقسیم کر کے دو حصے پہلی سہ ماہی کے اور تین حصے دوسری سہ ماہی اور چار حصے تیسری سہ ماہی کے اور پھر ہر سہ ماہی کے مقررہ حصوں کو تین تین ماہ پر علی التناسیب تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن پہلی سہ ماہی کا حصہ علی التساوی تقسیم کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ ذی قعده میں بالکل ابتداء ہونے کی وجہ سے تقریباً بھی ہوتی ہے۔ ذی الحجه میں عید کی تعطیل آتی ہے اور محرم کا آخری ہفتہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔

بہر حال میں اپنے دوستوں کو اس کی تاکید کرتا ہوں کہ مدرسہ کا کوئی مال، یا تعلیمی حق تم پر باقی نہ رہے اور تمہارے جتنے حقوق بھی مدرسہ پر رہ جائیں ان کو غیرمت سمجھو کیونکہ مدرسہ کے جتنے حقوق تم پر رہ جائیں گے ان کی ادائیگی بڑی مہنگی ہوگی اور تمہارے حقوق جتنے مدرسہ پر رہ جائیں گے اس کا معاوضہ تم کو بڑا قیمتی ملے گا۔ میرے بہت سے مخلص دوست و عزیز جن سے مجھے انتہائی تعلق اور محبت تھی ان سے مدرسہ کے حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے مجھے بہت ہی تکدر اور فراق رہا۔ اس کے بال مقابل میرے کئی دوست ایسے ہیں جن سے ابتداء میں مجھے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ بے تعلق تھی مدرسہ کے کام میں اہتمام اور احتیاط سے وہ میرے محبوب دوست بن گئے۔

### قاری سعید مرحوم سے تعلق:

قاری مفتی سعید احمد صاحب جن کی ولادت عید الاضحیٰ کے دن صحیح صادق کے وقت، سن میں مرحوم کو تردد تھا کہ ۲۰ھ تھی یا ۲۱ھ تھی کئی وفديہ کہا کہ صحیح سن اجزاہ میں کہیں لکھا ہوا ہے۔ مگر باوجود تلاش کے ملائم، عزیزم مولوی اطہر نے بتایا کہ مجھ سے انہوں نے ایک وقت اپنی عمر ۵۵ سال بتائی تھی۔ اس لیے اس حساب سے پیدائش ۲۲ھ ہوتی ہے۔ یہی رسم المفتی کے حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے۔ ابتدائی تعلیم قرآن پاک حافظ محمد حسین صاحب سے پڑھا، جس پر ان کو ناز بھی تھا اور ابتدائی فارسی عربی بھی اجزاہ میں پڑھی۔ شوال ۳۶ھ میں مدرسہ مظاہر علوم میں آئے۔ ابتدائی کتب عربی اس سے کار سے پڑھیں اور جملہ کتب کی تکمیل ابتداء ۳۳ھ میں مدرسہ کے استاذ قراءت ہوئے اور انتہاء ۳۷ھ میں نائب مفتی مقرر کیے گئے پھر مفتی اعظم بھی ۵۲ھ میں ہو گئے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں ان کے متعدد اسماق میرے پاس تھے۔ اجزاہ کے کئی طلب آئے ہوئے تھے، چونکہ قاری صاحب اپنے کو جناب الحاج حافظ محمد حسین صاحب جن کا حال پہلے آچکا ہے ان کا

خاص شاگرد ہونے کی وجہ سے اونچا مجھتے تھے اور صاحزادگی کی بوجھی کچھ موجود تھی اور یہ بارہا میری آپ بیتی نمبر ایں اور اس رسالہ میں بھی گزر چکا ہے کہ والد صاحب کے جو توں کی بدولت مجھے صاحزادگی سے نفرت ہو گئی تھی، اس لیے مرحوم مجھے خفار ہتے تھے اور میں مرحوم سے۔ ۷۲ھ میں جب وہ نائب مفتی ہو گئے اور یہ ناکارہ حجاز سے واپسی پر اپنے خیال میں کچھ اونچا آدمی بن کر آیا تھا تو میں نے مرحوم سے درخواست کی کہ بعد ظہر میرا ایک سیپارہ قرآن پاک کار رمضان میں سن لیا کریں، انہوں نے بہت صفائی سے کہہ دیا کہ وہ مدرسہ کا وقت ہے کہ اس زمانے میں غیر رمضان کی طرح رمضان میں بھی دفتر اور افقاء دونوں کا وقت صحیح و شام ہوتا تھا، اگر ناظم صاحب فرمادیں گے تو سنوں گا ورنہ نہیں۔ ناظم صاحب (حضرت مولانا عبداللطیف صاحب) کی جو شفقتیں اس سیپارہ کار پر تھیں ان کے لحاظ سے اس میں ذرا تأمل نہ تھا کہ میں ان سے عرض کروں اور وہ بہت زور سے حکم نامہ جاری فرمادیں۔ لیکن مجھے مرحوم کا یہ جواب بہت ہی اچھا معلوم ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ جزاک اللہ تم نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ اس کے چند ماہ کے بعد ایک قصہ پیش آیا کہ یہ ناکارہ اور ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مدرسہ عربیہ اجراء کے سرپرست تھے اور سالانہ جلسہ میں بڑے اہتمام سے جایا کرتے تھے۔ اس سال اتفاق سے میں تو پہلے ہی عذر کر چکا تھا، حضرت ناظم صاحب کا ارادہ بہت پختہ تشریف لے جانے کا تھا۔ مگر عین وقت پر ناظم صاحب کو بھی عذر پیش آگیا، انہوں نے مجھے مسحورہ فرمایا۔

میں نے کہا کہ قاری سعید احمد وہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ ان کو ایک تحریر میری اور اپنی طرف سے لکھ دیں میں بھی دستخط کر دوں گا کہ وہ ہم دونوں کی طرف سے نیابت وہاں کے امور طے کر آئیں۔ ناظم صاحب نے بہت پسند فرمایا۔ مگر قاری صاحب نے فرمایا کہ میں تو وہاں گھر کا آدمی ہوں کسی دوسرے کو تجویز کر دو۔ میں نے کہا کہ کوئی دوسرا اندر ونی حالات سے واقف نہیں۔ نہ معلوم کیا طے کر کے آئے تم حالات سے واقف ہو تم ہی مناسب ہو۔ وہ حکماً چلے گئے اس ناکارہ کی صحت و قوت اس زمانے میں بہت اچھی تھی اور حضرت قدس سرہ کے ارشادات کی بنا پر مدرسہ کے ہر کام کا مگر اس بھی میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اگرچہ براہ راست احکام کبھی جاری نہیں کیے۔ بلکہ جس کے متعلق جو کچھ لکھنا یا کہنا ہوتا وہ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وساطت سے ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ احمدقوں نے یہاں تک بھی لکھا اور شائع کیا کہ ناظم مدرسہ تو یہ ناکارہ ہے، ناظم صاحب میرے کاتب اور میرے مشی ہیں۔ ”معاذ اللہ“۔ بہر حال میں چند ماہ بعد اپنی کسی غرض سے مدرسہ کے کتب خانہ میں گیا اور اپنی عادت کے موافق کہ میں جب بھی کتب خانہ میں جاتا تو مدرسین کی حاضری کا رجسٹر بھی بہت غور سے دیکھ کر آتا اور اس میں کوئی افراط و تفریط

دیکھتا تو اول کتب خانے والوں سے استفسار کرتا اور اگر ضرورت ہوتی تو حضرت ناظم صاحب سے تفریط و تفصیر پر تحریری مطالبه کرتا۔ اس دن میں نے رجسٹر میں قاری سعید احمد صاحب کی ان ایام کی رخصت دیکھی۔ میں نے کتب خانے والوں سے دریافت کیا کہ قاری سعید احمد مرحوم ہمارے بھیجے ہوئے بکار مدرسہ اجراء گئے ہیں ان کی رخصت کیوں ہے۔ کتب خانے والوں نے کہا کہ انہوں نے خود اپنی رخصت لکھوائی ہے۔ میں نے کتب خانے سے واپسی پر راستہ میں قاری سعید احمد مرحوم سے مطالبه کیا۔ ان کا مستقل قیام اس زمانے میں اس کمرے میں رہتا تھا جو آج کل مہماں خانہ ہے دفتر مدرسہ کے دروازے کی چھت پر ہے اور وہی اس زمانے میں دارالاقباء بھی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بکار مدرسے گئے تھے آپ نے رخصت کیوں لکھوائی۔

مجھے اپنا مطالبه اور ان کا جواب اور اپنا جواب الجواب خوب یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا گھر بھی تو وہیں ہے، بہر حال میں اپنے گھر بھی گیا تھا۔ مجھے اپنے الفاظ خوب یاد ہیں۔ میں نے کہا کہ تو تو بڑا چھالونڈ انکلاں کل سے دوپہر کی روٹی میرے ساتھ کھایا کر۔ اللہ اس مرحوم کو بہت ہی بلند مراتب عطا فرمائے ترقیات سے نوازے میری اس پیشکش کو ایسا نبھایا کہ جب تک وہ اپنے مرض الوصال میں چار پانی پر سے اٹھنے سے معدود رہ ہو گئے بھی بھی دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کانہ چھوڑا بلکہ ان کے ذاتی مہماں بھی اگر آ جاتے ان کا بھی کھانا گھر سے منگا کر میرے ساتھ ہی ان کو کھلاتے تھے اور میرے جو مہماں خصوصی آتے تھے ان کے ساتھ شام کو بھی بجائے میرے وہ ہی میز بانی کرتے تھے اور تعلق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور پھر تو میرے سفر و حضر کے مصاحب بن گئے اور انہوں نے بہت ہی حق دوستی ادا کیا مرحوم کے لیے بہت ہی دعا میں کرتا ہوں۔ مرحوم بہت عرصہ تک شدید بیمار رہے۔ تقریباً ایک سال تک مختلف امراض اور سحر بھی تجویز کیا گیا اور ۲۷۴ صفر ۱۹۷۶ء ہی روز پنجشنبہ بوقت نماز فجر کو انتقال فرمایا۔ اللہم اغفر له وارحمة واعلى درجاته

مرحوم کا ایک معمول بہت اہتمام کے ساتھ یہ بھی تھا کہ عید الفطر کی صبح کو مدرسہ قدیم سے صبح کی نماز پڑھا کر پہلے اس ناکارہ کے مکان پر آتے اور وہاں بھجور سے افطار اور چائے وغیرہ پینے کے بعد اور اسی دوران میں ان کے گھر سے بہت مزیدار پلاو بھی آ جاتی تھی۔ اس کو بھی اسی مجلس میں ہم لوگ لقمہ لقمہ کر کے ختم کر دیتے اس سے نمٹ کر وہ اپنے گھر جاتے تھے۔ یکم شوال ۱۹۷۶ء کو مرحوم کا ایک دستی پر چہ میرے نام آیا کہ ۱۹۷۸ء سے اب تک ۲۸ سال کے عرصہ میں کوئی عید ایسی نہیں گزری کہ میں نے نماز صبح کے بعد آپ کے یہاں حاضری نہ دی، افسوس ہوا کہ آج میں اپنی شدید بیماری کی وجہ سے حاضری سے محروم ہوں، مجھے اس کا جس قدر افسوس ہے اس کا آپ کو بھی علم ہو گا۔ میں اس پر چہ کو پڑھ کر بیتاب ہو گیا اور اسی وقت عید سے پہلے مرحوم سے مل کر آیا اور مرحوم خوب مل کر

رویا اور مجھے بھی رُلا یا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ اس کی خوبیاں اگر لکھوں تو مستقل ایک دفتر چاہیے۔ میرے رائے پور کے سفر کا تو آخر زمانہ میں مستقل رفیق بن گیا تھا اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی بہت ہی شفقت ہو گئی تھی۔ اگر مرحوم کے بغیر جانا ہوتا تو حضرت دریافت فرماتے کہ تمہارے دوست نہیں آئے۔ جب حضرت مولانا اشfaq احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت رائے پوری نے اپنے مدرسہ کے لیے ایک مستقل نظام بنانا چاہا اور اس کے سرپرستوں کی ایک کمیٹی مستقل بنائی اس میں قاری صاحب مرحوم کو بھی سرپرستوں میں لکھا تھا۔ مگر وہ نظام نہ چل سکا۔

### مولانا عبدالطیف سے تعلق اور ان کے چند واقعات:

(۲)..... اسی طرح سے حضرت الحاج استاذی المکرم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ ناظم مدرسہ جن کا ذکر خیر میرے اساتذہ میں بھی گزر چکا ہے مجھے ان سے ابتدائی محبت تعلق تو اپنے ابتدائی شاگردی کے زمانے میں ہو گیا تھا مگر ۲۵ھ کے بعد جب یہاں کارہ مشیر ناظم بنا اس وقت سے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال تک بڑھتا ہی رہا۔ حتیٰ کہ انتقال کے قریب جب حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قاری سعید مرحوم سے خانگی امور میں ایک وصیت نامہ لکھوا یا تو قاری صاحب کے ہاتھ میرے پاس بھیجا کر اس کو میری زندگی میں کسی پر ظاہر نہ کریں میرے بعد اس وصیت پر عمل کرنا اور کرانا آپ کے ذمہ ہے۔ خانگی امور میں بھی بہت کثرت سے مشورہ فرمایا کرتے تھے اور اہلیہ محترمہ کو بعض مرتبہ اس سے کارکی وساطت سے تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور اہلیہ محترمہ بھی بعض مرتبہ اس سے کارکے واسطے سے بعض امور ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے منوایا کرتی تھیں۔ چنانچہ عبدالرؤف سلمہ کے نکاح کے موقعے پر کئی امور اس قسم کے پیش آئے جو اہلیہ محترمہ کو بھی خوب یاد ہوں گے اور اس ناکارہ کے تعلق کا اضافہ مدرسہ ہی کے تعلق کی وجہ سے ہوا تھا کہ ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ خیال نہ ہوا کہ میں ناظم مدرسہ ہوں یا محصل چندہ ہوں، یادربان، نہ اس کا خیال کبھی ہوا کہ یہ مدرسہ کا وقت ہے یا نہیں۔ طالب علم دو پھر میں عصر کے بعد مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب بھی درخواست لے جاتا فوراً اس کو ملاحظہ فرماتے اور حکم تحریر فرماتے۔ میں اپنی بد خلقی سے بسا اوقات طالب علم سے لڑپڑتا کہ درخواست کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے مگر وہ کبھی نہیں فرماتے تھے۔ نہایت اہتمام سے مطلع میں بہت کثرت سے تشریف لے جاتے اور اکثر ایک خوراک معاونت کے لیے خرید فرماتے اور وہیں آدھی چوتھائی روٹی کھا کر روٹی سالن کا معائنہ فرمانے کے بعد بقیہ وہیں کسی مشی یا طباخ کو دے دیتے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام

ناظم مطین کا ہے روٹی سالن بغیر قیمت کے کبھی نہ چکھتے حالانکہ وہ چکھنا بضرورت مدرسہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی نانوں پر گلوبھی اور گز کی چاشنی کبھی اپنے پاس سے اور کبھی کسی کو ترغیب دے کر ڈلواتے تھے۔ ڈپٹی عبدالرحیم صاحب ڈپٹی نہر جمن شرقی بڑے ہی مخلاص اور بڑے نیک بزرگ حضرت مرشدی قدس سرہ کی تعییں حکم میں وہ ہمارے مطین کے آنریوی گمراہ بھی رہے۔ دونوں وقت مدرسہ میں جا کر حساب کی جائیج کیا کرتے تھے۔ ہر ماہ کے شروع میں جنس اپنے سامنے تلواتے تھے، ذرا سی کمی، زیادتی پر سخت مطالبہ فرماتے۔ مجال نہ تھی کہ گوشوارہ میں دو دن کی تاخیر ہو لے۔ مطین کا حساب ان کی نگرانی کے زمانے میں جتنا صاف قابلِ رشک رہا اس سے پہلے کبھی ہوا اور ان کے بعد اور نہ آئندہ کی امید۔ اس مکان میں کرایہ پر رہتے تھے جو میرے مکان کے متصل ہے اور اب گاؤڑہ یورڈنگ کے نام سے مشہور ہے، مجھ پر بھی بہت ہی شفیق اور مہربان تھے اور بہت محبت فرمایا کرتے تھے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائش کر کے من دو من مچھلیاں منگوایا کرتے تھے اور اس دن مطین میں مچھلی اور چاول پکتے تھے۔ حضرت ناظم صاحب کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ سردی کے موسم میں شاہجم کا میٹھا اچار ڈالتے تھے بار بار خود ڈالتے تھے اور سب مدرسین کے ہاں تقسیم فرماتے تھے اور کبھی کبھی اس سے کار کو بھی حکم فرماتے تھے کہ تمہارے لیے میٹھا اچار ڈالنا ہے۔ میں اس زمانے میں میٹھا اچار بالکل نہیں کھاتا تھا۔ پانی کا ترش اچار کھاتا تھا ان کی خوشنودی کی وجہ سے میں بھی عرض کرتا کہ پانچ سات دھڑی شاہجم کا مصالحہ لکھواد سمجھے اور مولوی نصیر کو پرچہ دے دیا کرتا۔ حضرت ناظم صاحب بہت ہی شوق سے بناتے تھے میں ایک چوتھائی ان کی خدمت میں پیش کرتا اور کچھ گھر بھیجا تھا اور باقی میرے دوست بھی کچھ کم نہ تھے۔ اس جگہ تو یہ لکھوانا تھا کہ کبھی کبھی سردی کے موسم میں ایک دو دفعہ بلکہ زائد بھی دوستوں سے تحریک کر کے کئی کئی من شاہجم منگا کر کئی کئی مٹکوں میں اچار ڈالتے اور جب دس بارہ دن میں تیار ہو جاتا تو سارا دارالطلبہ مہک جاتا تھا اور اس کی تیاری پر مطین سے کھڑی پکواتے اور سب طلبہ کو کھڑی کے ساتھ دو دو مین میں قتلے اچار کے دیتے۔ مرحوم کو بھنگلی کی نگرانی کرنے میں بھی بھی عارضہ آیا۔ بھنگلی کے ساتھ جا کر پا خانہ کماتے وقت ڈانٹ پلاتے کہ یہاں پانی نہیں ڈالا، یہاں فناکل نہیں ڈالا، کبھی یہ خیال نہیں فرمایا کہ یہ کام درباں کا ہے۔ بھنگلی کی نگرانی درباں کے ذمے ہے میرا کام نہیں۔ لوٹے جو مدرسہ میں آتے ان کو اپنے سامنے گنواتے۔ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ لوٹے گنوانا میرا کام نہیں، ناظم صاحب کو کبھی اس کا وہم بھی نہیں گزرا کہ مدرسہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم۔ صبح کی نماز کے بعد سے رات کو دس گیارہ بجے تک وہ گویا ہر وقت مدرسہ کے ملازم تھے۔ جہاں تغیر ہوتی روزانہ وہاں تشریف لے جاتے، کبھی بھی یہ واہم نہیں گزرا کہ یہ کام ناظم مالیات کا ہے، جب کبھی اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ

سے کہیں کا سفر فرماتے ہوئے اہتمام سے اپنے ساتھ "رسید ہی" مدرسہ کے اشتہارات، معائش جات، ساتھ لے کر جاتے، کبھی یہ واجہ بھی نہیں ہوا کہ میں محصل چند نہیں ہوں اور نہ اس کا خیال آیا کہ میں تو رخصت پر جا رہا ہوں۔ جب کہ کسی دعوت یا تقریب میں جاتے تو میرے حضرت مرشدی کے اتباع میں ان کو متوجہ فرماتے کہ بھائی اپنی تقریب میں ہمارے مدرسے کو ضرور یاد رکھنا۔ حضرت ناظم صاحب کی ان ہی اداؤں نے مجھے زمانہ طالب علمی ہی سے اپنا گرویدہ بنار کھا تھا۔ کہ وہ اپنے باضابطہ مدرسہ کے ناظم ہونے سے پہلے ہی سے مدرسہ کی خیر خواہی میں منہک تھے۔

ایک مرتبہ حاجی مقبول احمد صاحب نے جن کا ذکر خیر پہلے بھی آپ کا مجھ سے محبت بھی فرماتے تھے اور بلا وجد خفا بھی ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے (میری طرف اشارہ کر کے) کہ مجھ کو اس سے بڑی محبت ہے مگر مجھے اس کی اس بات پر غصہ آؤے کہ یہ مولوی عبداللطیف کے ساتھ یوں کیوں ہو گیا "لحظہ کحمی دمد کدمی" بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ میرے خلاف ناظم صاحب کو ان کے عزیزوں نے بہت سخت خط لکھے۔ ناظم صاحب نے بھی ان کا سخت جواب لکھا اور پھر لکھ کر اصل خط مع اپنے جواب کے لئے کر میرے پاس آئے کہ فلاں نے خط لکھا تھا میں نے یہ جواب دیا۔ میں عرض کرتا حضرت آپ کا جواب زیادہ سخت ہے فرمانے لگے کہ تم نے اس کی بد تیزی نہیں دیکھی کہ یہ لفظ اس نے تمہارے متعلق لکھ دیا۔ کیا لکھوں جس کا حال بھی شروع کرتا ہوں تعلق اور محبوتوں کے سینکڑوں واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میں تو نہایت عجلت میں چند نہ موڑ لکھوار ہا ہوں۔

### مدرسہ کی رخصت کا قانون:

(۳)..... مدرسہ کے معاملات میں ایک چیز بڑے تجربے میں آئی۔ اب تو اس میں کمی ہے جس کی وجہ میں اکابر مدرسہ اور کام کرنے والوں میں اخلاق کی کمی سمجھ رہا ہوں۔ لیکن میری ابتدائی مدرسی بلکہ انتہائی طالب علمی کے زمانے میں ایک چیز کا خوب تجربہ ہوا اور ایسا کہ حد نہیں۔ مدرسہ کا قانون یہ ہے کہ بیماری کی چھٹی اس وقت لی جاتی ہے جب مدرسہ کا کام کرنے کی طاقت و وسعت نہ رہے اور مدرسہ کے کام میں وقت زیادہ ہونے لگے۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی بھی ملازم نے معمولی سی بیماری میں چھٹی لی مثلاً سر میں معمولی سادہ یا طبیعت میں کچھ اضطراب ہوا تو پھر وہ شخص اچھی طرح سے بیمار ہوئے بغیر نہیں رہا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ یہ مدرسہ کی حق تلفی کی سزا ہے یا "لاتスマر ضو افتمن ضوا" کا مظہر ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "بتکلف بیمارتہ بنو ورنہ حقیقتاً بیمار بن جاؤ گے" الحدیث۔ اس قسم کے واقعات بہت مشاہدہ میں آئے، نام تو لکھواتا نہیں، لیکن میں نے اپنے بے تکلف دوستوں کو ہمیشہ معمولی بیماری میں چھٹی لینے پر بھی ڈالنا

اور بعض مرتبہ پیش گئی بھی کردمی کہ یہ یکار ہو گا تیار ہو۔ اسی طرح مدرسہ کے سلسلے میں ایک تجربہ اور ہوا جس کے واقعات تو اس ۲۲ سالہ قیام مدرسہ میں کہ میں رجب ۲۸ھ میں آیا اور اب شوال ۹۰ھ ہے بہت کثرت سے دیکھے۔

### مدرسہ کی حق تلفی کا خمیازہ:

جن لوگوں نے مدرسہ کے مال میں کوئی خیانت کی یا کوئی مدرسہ کے حقوق میں زیادہ کوتا ہی کی وہ یا تو یماری میں مبتلا ہوا یا کسی مقدمہ میں پھنسا۔ یا پھر اس کے یہاں چوری ہوئی۔ میرے ایک بہت ہی مخلص اور بزرگ ایک جگہ ملازم تھے اور ڈیڑھ سور و پے تنخواہ تھی وہ پانچ سو یا سات سو تنخواہ پر بہت دور دراز تشریف لے گئے۔ ان کی تشریف بری کے تقریباً سال بھر بعد ان کے مکان پر چوری ہوئی اور زیر دست نقصان ہوا اللہ مجھے معاف فرمائے میں تو گستاخ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ حادثہ سے رنج ایک فطری چیز ہے مگر اس حادثہ پر بجائے تعزیت کے مبارکباد دوں گا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تحریک مال کے لیے اتنی دور کا سفر کرنا آپ کی شان کے مناسب نہ تھا۔ آپ دینی حیثیت سے بہت اونچی جگہ تھے۔ جس کی موجودہ جگہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کا میرے پاس بڑے عتاب کا خط آیا کہ اس حادثہ فاجعہ پر ہر ایک نے رنج و غم تعزیت اظہار ہمدردی اور غم میں شرکت کی، مگر آپ نے مبارک باد کی میں نے پھر لکھا کہ میں نے تو خط کے شروع میں ہی لکھ دیا تھا۔ کہ رنج فطری چیز ہے ہونا ہی چاہیے۔ مگر آپ کی شان کے مناسب نہ تھا کہ اہم دینی خدمت کو آپ نے چھوڑا اور بڑی تنخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اس قصہ کو اگر چہ نمبر کے شروع حصے سے زیادہ تاب نہیں مگر قریب ہی قریب ہے۔

(۲) ..... اللہ تعالیٰ کے انعامات تو لا تعدد ولا تحصی ہیں ان کا احصاء و شمار تو کسی طاقت بشری سے بھی ممکن نہیں۔ ایک واقعہ اور یاد آگیا جو تحدیث بالمعتمة کے ذیل میں ہونا چاہیے تھا۔ مگر وہاں ذہن میں نہیں رہا۔ سہارنپور کے قیام میں مالک نے ہمیشہ ہی دوستوں کو مجھ پر ایسا مسلط کر رکھا کہ اس ناکارہ کے نہلانے کے وقت بھی ابتدائے مدرسی سے ہی یا ایک دو سال بعد اتنے احباب جمع ہو جاتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں، روکتا ہوں اور خفا بھی ہوتا ہوں مگر غسل جمعہ میرا غسل میت ہی ہوتا ہے۔ بدن کو ملنے والے ہاتھ، کمر، پاؤں کو رکڑنے والے ہر ایک الگ الگ بہت سے ہو جاتے ہیں۔ ۲۲ھ میں جب یہ ناکارہ حضرت قدس سرہ کے ساتھ ایک سالہ قیام کے لیے گیا تو مدینہ منورہ حاضری پر ابتداء کچھ اجنبیتی تھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیادہ وسیع نہیں تھے۔

### مدینہ منورہ میں ایک ڈاکو کا مجھ سے تعلق:

میرے مدینہ منورہ پہنچنے پر ایک نہایت پہلوان بحیم شحم آدمی نہ معلوم مجھ پر کیوں مسلط ہو گیا۔ اجنبی آدمی جان نہ پہچان۔ مگر جمعہ کے دن زبردستی وہ میرے کپڑے لے کر دھوتا اور جمعہ کے روز اس قدر بے دردی سے غسل کے وقت بدن رکڑتا کہ ایک بھی دس پر غالب تھا۔ میں نے اس سے بارہا پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہمیشہ اس نے بھی جواب دیا کہ مستقل قیام کے لیے مدینہ پاک آیا ہوں۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، احسان کیا، اپنے حبیب پاک کے دربار میں قیام کی توفیق دی، لیکن جب میں ذیقعدہ میں واپس ہونے لگا تو ایک دو دن پہلے اس نے بھی کہا کہ میں بھی ہندوستان جا رہوں۔ میں نے بہت استجواب سے پوچھا کہ تو تو مستقل قیام کے لیے کہہ رہا تھا اب واپس جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بھی اپنا قصہ ہی نہیں سنایا، آپ نے کئی دفعہ پوچھا بھی، مگر مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ مجھ سے زیادہ نہ ذر جائیں۔ مجھے نکال نہ دیں۔

میں ریاست رام پور کا ایک مشہور ڈاکو ہوں کئی قتل کر چکا ہوں۔ مجھ پر قتل کا مقدمہ ہو گیا اور دارث میرے نام جاری ہو گیا۔ میں وہاں سے روپوش ہو کر یہاں آگیا۔ اللہ نے میری پچی توپ را قبول کر لی اور اپنے فضل سے آپ تک پہنچا دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے آگیا ہوں۔ کل میرے گھر سے خط آگیا کہ تیرا مقدمہ ختم ہو گیا اب شوق سے آجائے، اس لیے جا رہا ہوں۔ تم ہی سوچو کہ اس قصہ میں بھی مالک کا مجھ پر کتنا احسان تھا کہ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدینہ میں ہی پہنچا دیا اور جب آنے لگا تو اس کو معافی بھی مل گئی۔

”اللَّهُمَّ لَا أَحْصِنَ ثَنَاءً عَلَيْكَ انتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ رَبُّ أَعْنَى عَلَى“

ذکر ک و شکر ک و حسن عبادت ک۔“

### ماموں عثمان مرحوم کا ایک ولچپ واقعہ:

(۵)..... اسی کے مناسب ایک قصہ یاد آیا۔ میرے ایک ماموں تھے، پروفیسر حافظ محمد عثمان، میری والدہ کے حقیقی پچازاد بھائی، علی گڑھ میں پروفیسر تھے، غالباً ڈیڑھ ہزار تنخواہ تھی یا کچھ کم ہو گی۔ اس کے بعد پشاور منتقل ہو گئے تھے اور ریٹائر ہونے تک وہیں مقیم رہے، مرحوم کو مجھ سے بڑی ہی محبت تھی اور ان کے دوچھوٹے بھائی الحاج ماموں داؤ صاحب جو آج کل ایبٹ آباد کے مشہور وکلاء میں ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی الحاج ماموں حکیم یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکمل مکر مدارک کے ناظم مالیات ہیں۔ یکے بعد دیگرے ہر ایک مظاہر علوم کے فارغ التحصیل ہیں۔ ماموں عثمان صاحب مرحوم اس یہ کار اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور

پشاور کے قیام میں بھی تقسیم سے پہلے تک کاندھل آتے جاتے ہمار پور ضرور آتے اور چونکہ واقعی مجھ سے بہت محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے، اس لیے گھنٹوں مجھ سے مناظرے بھی کرتے تھے، ان کا اصرار تھا کہ عربی طلبہ کو عربی کے ساتھ انگریزی ضرور پڑھائی جائے تاکہ معاشی مشکلات سے بے فکری رہے، صرف عربی پڑھنے سے جو تنخوا ہیں ملتی ہیں وہ ناکافی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہ ناکارہ اس وقت بھی اور اب تک بھی عربی کے ساتھ انگریزی یا کسی دوسری تعلیم یادستکاری و صنعت کا بہت سخت مخالف ہے۔ اس لیے کہ تجربہ یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں اشتغال کے بعد عربی تعلیم میں بہت نقصان پہنچتا ہے۔ مگر مرحوم عربی پڑھنے والوں کی مالی بدحالی اور انگریزی پڑھنے والوں کی خوشحالی کو خوب بیان کرتے تھے، اسی بناء پر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ماموں داؤ دکوجس کی عربی علمی استعداد بہت عمدہ تھی اور مولانا عبدالرحمٰن صاحب سابق صدر مدرس مظاہر علوم نے بھی ۲۵ھ میں مجھے مدینہ پاک ان کے متعلق لکھا تھا کہ مولوی داؤ د بہت ذی استعداد ہیں چنان چنیں ہیں ان کو مدرسہ میں ضرور رکھا جائے۔ مگر عثمان مرحوم نے ان کو اپنے نظریہ کے موافق انگریزی پڑھا کر ہم سے کھو دیا، ماموں عثمان مرحوم ایک مرتبہ جمعہ کے دن تشریف لائے۔ بارہ بجے کے قریب مجھے غسل کرانے کے لیے ایک فوج مجھ پر مسلط ہو گئی، وہ بہت غور سے دیکھتے رہے، غسل کے بعد کہنے لگے کہ یہ ٹھاٹ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم فقیروں کے کیا ٹھاٹ ہیں، ٹھاٹ تو آپ رئیسوں کے ہیں جن کی تنخواہ ڈیڑھ ہزار روپے ہے، کہنے لگے کہ ہم کو نہلانے والے دو بھی نہیں ملتے یہاں دس لپٹ رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھانے میں شرکت ہوئی۔ اتفاق سے اس زمانے میں میرے باسیں ہاتھ کی انگلی میں کچھ نقل رہا تھا، اس پر پایی تو لگا ہوا نہیں تھا البتہ میر ہم لگا ہوا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں میرے دوست احباب کھانے سے فارغ ہوتے ہی پانی کا لوٹا سلسلہ بھی وغیرہ لے کر آتے اور میں ہاتھ پھیلا دیتا۔ ایک آدمی پانی ڈال دیتا اور دوسرا شخص صابن سے ہاتھ دھو دیتا اور تیسرا جلدی سے تو یہ سے ہاتھ پوچھ دیتا۔ کہنے لگے کہ مولوی زکریا! خدا کی قسم تعمیر کی بھی کوئی حد ہو، تم سے اپنا ہاتھ بھی نہیں دھلتا، وہ بھی خدام ہی دھوتے ہیں۔ میں نے کہا، ماموں جی! میں تو فقیر آدمی ہوں، میری تو ڈیڑھ ہزار تنخواہ بھی نہیں۔ آپ انگریزی پڑھنے ہوئے ہیں ڈیڑھ ہزار تنخواہ ہے، میں انگریزی سے تاواقف ہوں، بھلا میں آپ کی کیا حرص کر سکتا ہوں، فرمانے لگے کہ ایسی تیکی ڈیڑھ ہزار کی یہاں تو دو آدمی بھی ہاتھ دھلانے کے لیے نہیں ملتے۔ کہنے لگے مجھے تخلیہ میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ آج تو موقع نہیں ملے گا، بلکہ صبح کو اوپر کرہ میں چلیں وہاں بات ہو جائے گی۔

وہاں کمرے میں پہنچتے ہی ایک پنج بولا ہوا ملا۔ جو لکڑی کا بھی ہوتا ہے اور تا نے پیش کیا جبکی ہوتا ہے۔ ایک لانی سی ڈنڈی اور اس کی جڑ میں ہاتھ کی انگلیوں جیسے نشان ہوتے ہیں۔ کمر وغیرہ

کھجانے کے کام آتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہے، ”وَمَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْرِيٌ يَحْكُمُ بِهِ رَأْسَهُ كَذَا فِي الْمَشْكُوَةِ عَنِ الصَّحِيحِ“ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدری (چبھ) تھا جس سے سرمبارک کو کھجارتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ماموں عثمان کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کمر کھجانے کے لیے ہے، اگر کوئی خادم نہ ہو اور خود ہی کھجانا پڑ جائے تو اس سے مدد ملتی ہے۔ انہوں نے بہت غور سے اس کو اٹھا کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ پسند ہو تو آپ کی نذر ہے کہنے لگے کہ پسند تو ہے واقعی بڑی اچھی چیز ہے اور ہم جیسوں کے لیے تو بہت ضروری جن کے پاس خدام نہ ہوں، مگر تم سے لیتے ہوئے غیرت آتی ہے۔ میں نے کہا غیرت کی کوئی بات نہیں۔ میری ذریثہ ہزار روپے تنخوا نہیں ہے جس پر میں یہ کہوں کہ میں دوسری خریدلوں گا۔ لیکن قوی امید ہے کہ جس مالک نے یہ دی ہے وہ اور بھی دے دے گا۔ آپ اسے شوق سے لے جائیں۔ میں نے بہت ہی اصرار کیا مگر اپنا دل چاہنے کے باوجود نہ لے گئے، نہ معلوم کیا غیرت آئی۔ لیکن مرحوم کا یہ مناظرہ آخر تک رہا۔ ان کا وہی فقرہ مختلف عنوانات سے کہ دنیادار الاسباب ہے اور میرا وہی جواب کہ مقدار سے زیادہ کہیں نہیں مل سکتا۔ جس کی کچھ تفصیل آپ میتی نمبر ایں لکھوا چکا ہوں میں نے ان سے بارہ یہ بھی کہا آپ سے کہنے کی توبات نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمادے، تمہاری ذریثہ ہزار اور میری ضابطہ میں صرف ۳۵ روپے تنخوا ہے وہ بھی بھی ملتی ہے اور بھی نہیں، مگر آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں کہ الحمد للہ یہ ناکارہ مالی حیثیت اور راحت و آرام کے اعتبار سے آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہ تمہاری اور بات ہے، اس پر ہر ایک کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا اور بات ہے، اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ان سے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ آپ ہی سوچئے کہ ایک کتا آپ کے دروازے پر پڑ جائے، آپ کے مکان کی حفاظت کرے اور ہر آنے والے پر بھونک کر متذکر رہے تو کیا آپ کی غیرت تقاضہ کرے گی کہ اس کو کوئی مکڑانہ ڈالیں۔ آپ مجبور ہوں گے کہ دستِ خوان کی پنجی ہوئی روٹی، ہڈی اس کو ضرور ڈالیں۔ تو مالک الملک رب العالمین جس کے ایک لفظ ”گن“ میں دنیا کے سارے خزانے ہیں، اس کے دروازے پر کوئی شخص اس کے کام کی نیت سے اخلاص سے بغیر خود غرضی کے اس کے دین کی خدمت کے واسطے پڑ جائے، کیا وہ اپنے خدمت گاروں کو بھوکانگا رکھ سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کی غیرت تو تقاضہ نہ کرے کہ وہ کتابھوکارہ جائے اور اللہ جلالہ کی غیرت اس کا تقاضہ کر سکتی ہے کہ اس کے دین کی خدمت کرنے والا بھوکارہ جائے یہ ناممکن ہے اور جن اکابر کے یا

سید الکوتین صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کے واقعات ہوئے ہیں وہ اختیاری خود مانگے ہوئے ہیں اور عین محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو خود مصرح ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں ترمذی شریف مسند احمد کے حوالے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اُنقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھ سے یہ پیش کش فرمائی کہ ”اگر تم چاہو تو مکہ کے سارے جنگلوں، سکرتانوں کو سونا بنادیا جائے۔“ میں نے عرض کیا کہ ”یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن شکم سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن فاقہ کروں، تاکہ جس دن بھوکار ہوں آپ کے سامنے دست سوال پھیلاوں، عاجزی کروں اور آپ کو یاد کروں اور جس دن پیٹ بھر کر کھاؤں، اس دن تیر اشکرا دا کروں اور حمد و شنا کروں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے ”اللَّهُمَّ اجْعِلْ رِزْقَ الْمُحَمَّدِ قَوْتًا“ اے اللہ میری اولاد کی روزی بقدر کفایت عطا فرم۔ اسی دعاء کی وجہ سے سادات عموماً مالدار نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ مشکوٰۃ شریف کی دوسری طویل روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ ”اگر میں چاہوں تو سونے کے پھاڑ میرے ساتھ ہر جگہ پھر اکریں۔“ اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔

ایک قصہ میں نے پہلے بھی لکھوا�ا، جو میں نے اپنے والد صاحب سے میں میں مرتبہ سنائے مگر باوجود تنقیح کے مجھے اب تک نہیں ملا، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امام جی کو (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) جزاً خیر عطا فرمادے وہ ہمارا تو ناس مار گئیں لیکن اُمت کا بھلا کر گئیں۔ وہ یہ بد دعاء دے کر گئیں کہ ”اللہ ان علماء کی روزی پریشان کر دے“ اور اُمت کے لیے یقیناً بڑی خیر کی دعاء ہے۔ ہم مولویوں کو بے فکری اور اچھی طرح کھانے کو مل جائے تو ہم سید ہے منہ کسی سے بات بھی نہ کریں۔ ان مدرسوں کے چندوں کی بدولت ہر ایک سے خوشامد کرنی پڑتی ہے، فاسق و فاجر، ڈاڑھی مندوں کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے۔

### حافظ یوسف راپوری نور اللہ مرقدہ کا عجیب واقعہ:

(۶)..... یہ واقعات کسی خاص شخصیت سے متعلق یا کسی خاص مضمون کے ساتھ مرتب نہیں۔ کیف ماتفاق جو علی گڑھ میں چار پائی پر پڑے پڑے یاد آتے رہے توٹ کر اتارہا۔ حضرت الحاج حافظ محمد یوسف صاحب راپوری قدس سرہ ابن قطب الاقطاب سید شہداء زمانہ حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے مختصر حالات یہ تاکارہ ارشاد الملوك کی تمهید میں لکھوا چکا ہے۔ حافظ محمد یوسف صاحب بڑے اوچے لوگوں میں تھے۔ ”الولد سر لابیه“ کے سچے مصدق تھے۔ اپنے والد صاحب قدس سرہ کی طرح سے بڑے طریف خوش طبع، بھوپال میں تحصیل دار

رہے آخر میں رامپور تشریف لے آئے تھے۔ ایک دن میرے ماموں مولانا حافظ محمود صاحب نور اللہ مرقدہ سے جو قاریٰ محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم کے خسر تھے، ان کے لڑکپن میں فرمایا کرتے تھے کہ محمود ہمارے پاس کچھ چنگلے ہیں ہم سے پوچھ لینا، گھر بیٹھنے دوسروپے ملا کریں گے۔ اس زمانے کے دوسرا آج کل کے دس ہزار کے بقدر تھے۔ مجھے اپنے بچپن کا خوب یاد ہے کہ ایک پیسے کا سولہ گنڈے کوڑیوں کے آتے تھے یعنی ۶۲ عدد، کیونکہ ایک گنڈا چار عدد کوڑیوں کا ہوتا تھا۔ معمولی گھرانے والی عورتیں بچے کو ایک پیسہ دے کر یوں کہا کرتی تھیں کہ دو کوڑی کا نمک، دو کوڑی کی مرچیں، دو کا دھنیہ، ایک کی ہلڈی اور چار کوڑی کا گوشت۔ سول سترہ کوڑیوں میں یعنی ایک پیسہ کے چوتھائی حصہ میں گھر کی یہ سب چیزیں آجائی تھیں۔ حافظ محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

عصر کی نماز میں تکبیر ہو رہی تھی، صاف سے آگے کو منہ نکال کر فرمایا کہ ارے محمود ہماری بات یاد رکھنا کل کو ہمیں سفر میں جانا ہے۔ وہ سمجھے کہ گنگوہ یا جھنچھانہ وغیرہ جانا ہو گا کہ اس زمانے میں یہ اکابر کچھ سواریوں کے محتاج نہ تھے۔ لگنی کا ندھے پر اور لکڑی ہاتھ میں بس چلے چار ہے ہیں۔ لمبے لمبے سفر اسی طرح پیدل طرف میا کرتے تھے۔ تذکرہ الحلیل میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس نتم کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ اگلے روز حافظ صاحب نے گنگوہ، تھانہ بھون، جھنچھانہ، دیوبند وغیرہ خطوط تحریر فرمائے کہ آج سفر کا رادہ ہے، لوگ سمجھے کہ اکثر قرب و جوار میں بھی جاتے رہتے ہیں ممکن ہے کہ بھوپال کا ارادہ ہو گا یا کسی قریب جگہ کا۔ دوسرا دن عصر کی نماز جماعت سے پڑھی اور مسجد کے صحن کے سامنے ایک چار پائی پڑی تھی اور اس پر اکثر لیٹا بھی کرتے تھے، وہاں پہنچ کر گرہ نکلا، صرف لگنی بندھی ہوئی تھی قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے اور یہ جاؤ چا۔ نمازی مسجد سے نکل کر محل (حوالی) جو مسجد کے قریب بہت مشہور و معروف مکان اعزہ کے ہیں وہاں تک پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ مسجد کا موقع بھاگا ہوا گیا کہ چلو حافظ جی کو دیکھو کیا ہوا۔ جب سب والپیں آئے تو دیکھا کہ حضرت حافظ صاحب ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔

جس زمانے میں حضرت حافظ صاحب نور اللہ مرقدہ بھوپال میں تشریف فرماتے اس زمانے کے تصرفات کے قصے بھی بہت مشہور ہیں۔ اخفاء حال بہت تھا، دوسروں کے سامنے تجدب بھی نہیں پڑھتے تھے، ایک تقریب میں تشریف لے گئے بعض اعزہ کو خیال ہوا کہ آج حافظ صاحب کے معمولات دیکھنے کا موقع ملے گا، جب سب لیٹ گئے اور حافظ صاحب نے اندازہ کیا کہ یہ سب سو گئے ہوں گے تو چکے سے اُٹھے، لوٹا اُٹھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک صاحب جلدی سے چار پائی پر بیٹھے گئے۔ حافظ صاحب جلدی سے اپنی چار پائی پر لیٹ گئے، آدھے پون گھنٹے بعد یہی صورت

پیش آئی۔ حافظ صاحب پھر لیٹ گئے، تیسری دفعہ جب یہ قصہ پیش آیا تو ان صاحب کے پیٹ میں درد اس قدر شدید ہوا کہ تڑپ گئے۔ حافظ صاحب سے معانی مانگی اور جب وہ بہت بے قرار ہوا اور حافظ کو ترس آیا تو فرمایا کہ دوسروں گوستاخ کا یہی حشر ہوا کرتا ہے۔ جب حافظ صاحب بھوپال میں تحصیل دار تھے تو میرے نانا نور اللہ مرقدہ ان کا نام بھی حافظ محمد یوسف صاحب ہی تھا اپنے بچپن میں ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ بڑے قصے حضرت حافظ کے سنایا کرتے تھے اور بے تکلف بھی بہت تھے۔

ایک مجدوب بھوپال میں آیا، یہی اس کی شہرت اور خوارق و کشوف میں مشہور اور ہر شخص سے اس نے تمنا طاہر کی کہ میں حضرت حافظ صاحب سے تخلیہ میں دوبات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حافظ محمد یوسف صاحب کا نام حلوی تو ان سے کہہ سکتے ہیں اور کسی کو جرأت نہیں ہے۔ وہ نانا بابا کے پاس آئے، انہوں نے اپنے زور تعلق میں وعدہ فرمایا اور حضرت حافظ صاحب سے آکر کہا کہ ایک مجدوب صاحب چنان ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کو کس وقت بلاوں۔ حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ میں اس نالائق سے نہیں ملتا چاہتا۔ نانا بابا نے کہا کہ حضرت وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے آپ سے مل لیں گے۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ میں تو اس کے باپ کو بھی نظر نہیں آ سکتا جا بھاگ جا۔ نانا بابا نے معدودت کر دی، اس نے سب کی خوشامد بہت کی مگر حافظ صاحب نے قبول نہیں فرمائی۔

تاہے کہ میرے نانے ابا کو اللہ معااف فرمائے کہ بچپن میں ناج دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ حافظ صاحب کو خبر نہیں تھی اتفاق سے کسی نے شکایت کر دی۔ حضرت حافظ صاحب نے میرے نانا صاحب کو بیلا یا کہ میاں یوسف! ہم نے تاہے کہ تم کو ناج دیکھنے کا بہت شوق ہے اور آج تو تاہے کہ بہت ہی عمدہ ناچنے والی آئی ہے، دیکھو ناج یوں نہیں دیکھا کرتے کہ فقیروں کی طرح منہ الال کردیکھنے کھڑے ہو گئے اور اپنی جیب سے پانچ روپے نئے نکال کر ان کو دیے اور فرمایا کہ ناج دیکھنے کا دستور یہ کہ وہ جب سامنے آ کر تھری لگادے تو ایک روپیہ اس کی طرف پھینکو، پھر دیکھو کہ وہ کیسا تم کو گھوڑے گی اور جب تمہاری طرف آئے گی تو پھر تمہاری طرف ہی دیکھے گی۔ نانا بابا اس قدر خوش ہوئے کہ اجازت بھی ملی اور روپے بھی اور نماز عشاء کے بعد پہلے ہی سے جا کر اگلی صفحہ میں کھڑے ہو گئے۔ سارا میدان مجع سے لبریز اور اس کی آمد کا مشتاق تھا، تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ اس ناچنے والی کے پیٹ میں سخت درد ہے، حکیم، ڈاکٹر لیکھو دیکھیو خوب شروع ہوئی، رات بارہ بیجے تک سراپا اشتیاق اور دست پر دعاء۔ مگر ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔“ رات کو جب نانا بابا واپس لوئے تو حضرت آرام فرمانے چلے گئے تھے۔ صبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے

پیروں میں پھینکے اور عرض کیا کہ مجھے دیے ہی منع فرمادیتے، آپ نے اس بیچاری کو کیوں مارا۔ حضرت حافظ صاحب نے بطور تجسس عارفانہ کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ کو خبر نہیں کیا ہوا؟ آپ ہی نے تو اس غریب کو مارا۔ نانا ابا فرمایا کرتے تھے کہ اس دن سے ناج سے ایسی وحشت ہوئی کہ ناج کے نام سے بھی قہ ہوتی تھی۔ قصے تو بچپن میں ماموں محمود صاحب رامپوری سے اور نانا ابا سے خوب ہی نے۔ اس وقت کچھ اچھی طرح یاد بھی نہیں آرہے اور طول بھی ہوتا جا رہا ہے۔

### نانا ابا اور ان کے تعویذ

(۷).....میرے نانا صاحب کو تعویذ کا بہت ہی شوق تھا۔ حضرت حاجی صاحب گنگوہی قدس سرہ، حضرت شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی اور نہ معلوم کتنے نام بتایا کرتے تھے محض تعویذ سیکھنے کے لیے۔ ان اکابر کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ بعض تعویذ کی زکوٰۃ انہوں نے ساری رات دریا میں ایک پاؤں سے کھڑا ہو کر ادا کی اور بعض جگہ صرف ایک سیکھنے کے لیے کئی کمی دن سفر بھی اختیار کیے۔ ان کے تعویذ اور وظیفے بھی بڑے زور دار تھے۔ جو بیمار ایسا ہوتا کہ سارے تیماردار اس سے عاجز آچکے ہوں تو تیماردار کہتے کہ نانا ابا، بڑے ابا، دادا ابا، مختلف خطابات دے کر کہتے کہ اب تو وظیفہ پڑھ دو باقی سب عاجز آچکے ہیں۔ اول تو وہ ثال منول کرتے اور پھر سختی سے ڈانٹتے اور پھر جب بہت ہی اصرار ہوتا تو مریض کے قربی رشتہ داروں سے اجازت لیتے کہ پڑھ دوں؟ اور جب سب متفق اللسان ہو کر کہتے کہ پڑھ دیجئے تو بیٹھ کر پڑھتے، اس میں عجیب تاثیر میں نے خود دیکھی۔ یہ وظیفہ تقریباً تین گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن عموماً و گھنٹے بعد یا تو گھروالے کفن کے لیے آدمی بھیج دیتے یا مریض اپنے سہارے سے بیٹھ کر یہ کہتا کہ بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دے دو، ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔

ایک معرب کتاب الاراء وظیفہ چوری کے لیے بھی تھا۔ ہر چوری پر تو بھی نہیں پڑھتے تھے خواہ کوئی کتنا ہی اصرار کرے۔ بعض دفعہ تو درخواست کرنے والوں کو ڈانٹتے کہ اللہ نے اس کی روزی اسی میں رکھی تھی تو زبردستی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جس چوری کے متعلق ان کو بھی اہمیت پیدا ہو جاتی تو اس کے واسطے وہ بھی پڑھا کرتے تھے اور آس پاس جہاں شبہ ہوتا تو جاسوس مقرر کرتے کہ کسی کو دست جاری ہوئے یا نہیں اور جہاں معلوم ہوتا کہ فلاں کو دست لگ گئے وہاں چپکے سے پیام بھیجئے کہ اگر تو نے واقعی چوری کی ہے تو وہ چیز چپکے سے میرے پاس دے جائیں نام ظاہر نہیں کروں گا ورنہ جتنی چاہے دوائیاں اور دعا میں کر لے یا یاری دستوں سے مر جائے گا۔ وہ شخص چپکے سے بھیج دیتا اور دست بند ہو جاتے اور مالک کو ملا کر وہ چیز اس کو دے دیتے تھے اور وہ لوگ جتنا چاہے

اصرار کر لیتے کہ اس کا نام بتا دو، مگر وہ نام نہیں بتاتے تھے۔ ان کے اور بھی معرکۃ الاراء تعلیمیوں کے قصے ہیں۔ یہماری چونکہ کئی سال رہی اس لیے انہوں نے اپنی یہماری کے زمانے میں جب تین سال تقریباً ان کی یہماری کو گزر گئے میں اتفاق سے کاندھل گیا ہوا تھا۔ میری مستقل عادت ہمیشہ رہی کہ ایک ہی رات جاتا ہوا ایک ایک چکر اپنے سب رشتہ داروں کے یہاں حسب مرتب ضرور کیا کرتا۔ حسب مرتب کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو ایک دو منٹ اور کبھی پندرہ منٹ، آدھ گھنٹہ پڑھتا۔ میں جب نانا ابا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا میں تو مجھے بہت دنوں سے بہت ہی یاد کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ تعلیمیں کس محنت سے حاصل کیے اور کتنے مفید اور مجرب اور کار آمد ہیں۔ تیرے سوا تو میرا کسی کو دینے کو دل چاہتا نہیں۔ میرا یوں جی چاہتا ہے کہ تو ایک دو دن تھہر کر میری بیانیں مجھے سنادے، میں اس میں جو مجھے بتانا ہو گا بتاؤں گا۔ میں نے عرض کیا، جی نانا ابا میں حضرت سے ایک ہی دن کی اجازت لے کر آیا تھا۔ اس لیے اب تو نہیں تھہر سکتا آیندہ سفر میں انشاء اللہ دو دن کی اجازت لے کر آؤں گا۔

مجھے تعلیمیوں کا شوق اس وقت تو کیا اب تک بھی نہیں ہوا۔ وہ تو زمانہ میرے طلب علم کا تھا، مجھے نانا صاحب نور اللہ مرقدہ کے کہنے پر اس قدر بوجھ پڑا کہ اب تک بھی یاد ہے۔ میرا خیال تھا کہ طبیعت ناساز ہے، اگلے پھیرے تک چل دیں گے۔ میں تقریباً چھ سالت صینیے کے بعد گیا وہ حیات تھے، میں اس ڈر کے مارے ملنے بھی نہیں گیا۔ آئٹھ، تو صینیے کے بعد پھر دوبارہ کاندھلہ جاتا ہوا اور انہیں خبر ہو گئی کہ وہ بار بار پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بلا یا اور قلق کا اظہار کیا اور کہا کہ تو پہلے پھیرے میں مجھے سے مل کر بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا بہت عجلت میں آتا ہوا تھا اور اب بھی بہت جلدی میں آتا ہوا ہے اور اس واسطے دو تین دن قیام ضروری ہے۔ میں انشاء اللہ مستقل وقت لے کر واپس آؤں گا۔ ان کو اپنی اس بیانیں کا بہت ہی اہتمام تھا۔ مجھے تو قلق اب بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے تعلیمیوں سے بالکل ہی منابع نہیں۔ میرے تعلیمیوں کی ابتداء تو یہ ہے کہ میرے حضرت قدس سرہ کے ہاتھ میں رعش تھا، جب حضرت قدس سرہ سے کوئی شخص تعلیمیں مانگتا میں ہر وقت حاضر رہتا ہی تھا۔ حضرت ارشاد فرمادیتے، اس مرض کے مناسب کوئی قرآن کی آیت یاد کر دیتے۔ ابتداء تو یہی لکھ دو میں لکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کی برکت سے اس میں فائدہ دے دیتے۔ ابتداء تو یہی معمول رہا۔ مگر جب تعلیمیوں کی بھرمار ہو گئی تو بجائے قرآن پاک کی آیت یاد دیتے پاک کی دعاء کے کوئی اللہ کا پاک نام لکھ دیتا اور اللہ جل شانہ اپنے پاک ارشاد انا عند ظن عبدي بھی یعنی میں یہندہ کے ساتھ ہوں اس کے حسن ظن کا معاملہ کرتا ہوں، کی بتا پر اللہ تعالیٰ اس میں بھی فائدہ دے دیتے تھے اور اب تو کئی سال سے یہ سلسلہ بھی نزول آب کی وجہ سے بند ہو گیا۔ دوسرے

احباب ہی جو میں بتا دیتا ہوں لکھ دیتے ہیں۔ مجھے نانا با کے زمانے میں خبر نہیں تھی کہ یہ تعویذ وں والا مسئلہ بھی میرے پیچھے اس بڑی طرح پڑے گا، ورنہ دوچارا، ہم تعویذ سکھے ہی لیتا۔

### ایک بادشاہ اور کیمیا کا ایک عجیب قصہ:

(۸)..... ایک عجیب قصہ بڑی عبرت کا میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ سناء، ایک بادشاہ تھا۔ اس کو کیمیا کی دھت تھی اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے۔ اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑی سے بھی زیادہ کھو جاتا ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا جن کو اس کا چرخ کا تھا۔ جب ان کا راستے میں کہیں ساتھ ہو جاتا وہ قدموں پر نگاہ بھائے کبھی اوہر کبھی اُدھر دیکھتے جایا کرتے اور جہاں کہیں شبہ ہو جاتا وہاں کھڑے ہو کر اور بولوں کو دیر تک مل مل کر سونگھتے تھے۔ بادشاہ بھی اسی فکر میں ہر وقت رہتا۔ وزراء کا ناطقہ بند رکھتا۔ ایک وزیر نے کہا کہ حضور اتنے متفلکر رہتے ہیں، حضور کی سلطنت میں تو فلاں سقہ فلاں جگہ رہتا ہے بڑا ماہر ہے اسے خوب بنانی آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا ہماری سلطنت میں اس کا جانتے والا ہے اور ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ چار ستری بھیج دیے کہ اس سقے کو پکڑ لاؤ۔ سقہ پیش ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، لگنوتا بندھا ہوا بدن پر، بجائے کرتے کے ایک گاڑھے کی کمری بہت پھٹی ہوئی۔ بادشاہ کو اس کی صورت دیکھتے ہی بہت نفرت ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تھے کیمیا بنانی آتی ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا ”حضور تو بادشاہ ہیں، سمجھدار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں، اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا یہ حال ہوتا جو حضور دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی کوئی محل ایسا ہی بناتا جیسا حضور کا ہے۔“ بات معقول تھی بادشاہ کی بھی سمجھ میں آگئی، چھوڑ دیا اور اس وزیر کو بُلا کر ڈاشا۔ وزیر نے قسم کھائی کہ حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے، اسے خوب آتی ہے۔ بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے پردازیا، بدن پر بھی ہوتا کہ پہچانا نہ جائے اور اس وزیر کو ساتھ لے کر سقد کے گھر پہنچا، جب اس نے گھر کا رُشان بتایا وزیر کو چلتا کر دیا۔ ”حب الشیء یعنی ویصم“ چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جب وہ سقد گھر سے نکلا یہ بیٹھا رہا۔ جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگا بڑے میاں آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو تو بڑی دقت ہوگی، میں تو گھر سے فال تومارا مارا پھرتا ہوں، اگر آپ مجھے ٹھکانے بتا دیں تو میں ہی گھروں میں پانی ڈال آیا کروں، سقہ نے کہا نہیں بھائی میری توروزی اسی میں ہے تو اپنا کام کر۔ کہنے لگا بڑے میاں تم مجھے کچھا پچھے ہی بہت لگے ہو، میں تو تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ مانگنے کا نہیں، نہ مجھے روٹی چاپیے اور نہ پچھو۔

شام کو سقہ نے جب وہ روٹیاں مانگ کر لایا، بادشاہ کی تواضع کی مگر اس نے انکار کر دیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں، غمزدہ ہوں، پریشان ہوں، میں تو کئی کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں، سقہ نے بڑے اصرار سے دو چار لقمہ کھلانے۔ (یہاں پھر میں وہی کہوں گا جو ابھی ماموں عثمان کے قصہ میں کہہ کے آیا، ایک سقہ کی غیرت نے تو تقاضہ نہ کیا کہ ایک آدمی اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھالے، مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ ہمیں بھوکا مار دے، البتہ اتنا فرق ہے سقہ عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے وہو کہ میں آگیا۔ مالک عالم الغیب ہے اسے حقیقت حال معلوم ہے کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر رہا ہے اور کون دھوکہ کر رہا ہے۔)

غرض بادشاہ نے سقہ کی بہت ہی خدمت کی۔ دن بھر اس کا پانی بھرتا، رات کو جب سقہ لیتا اس کا خوب بدن دباتا، ہٹا کتنا جوان، قوی، سقہ کو بھی پانچ سات دن میں وہ مزا آیا کہ لطف ہی آگیا۔ دو تین مہینے سقہ نے خوب ٹنلا خوشامد کی کچھ کھالے، کچھ پیے مقرر کر لے۔ بادشاہ نے کہا۔ اجی میاں مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں، مجھے تو تم اچھے لگتے ہو۔ میں تو راستے میں بیٹھ گیا تھا، تمہاری صورت مجھے کچھ اچھی لگی۔ اگلا شعر تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنًا۔ مگر واقعہ کے مناسب تھا یاد آگیا:

گرے میری نظروں سے خوبان عالم  
پسند آگئی تیری صورت کچھ ایسی  
دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا  
مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں  
گورے کالے پر نہیں موقوف  
دل کے آنے کے طریقے نزالے ہیں  
دید لیلی کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور  
میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشہ ان کا

غرض بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سقہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھاپے میں عاشق زار کہاں سے پیدا ہو گیا۔ کبھی کہتا، ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دو میں دھولاوں، ارے بھائی میں تو خود دھولوں گا، اجی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے، ان میں جو میں ڈھونڈتا۔ خوب پڑھے پر چھیت چھیت کر صاف کرتا۔ کچھ پیے تو ضرور ساتھ ہوں گے۔ بڑھے کو جھانسے دے کر کچھ ادھر ادھر سے کھا لیتا مگر بڑھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور زہد کا زور دکھاتا۔ چار پانچ

مہینے بعد بڑھے نے کہا۔ ”ارے لوٹے مجھے کیمیا آتا ہے، بادشاہ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا۔ میں (خت گالی دے کر) اس کو بھی انکار کر آیا۔ تجھے ضرور بتاؤں گا۔“ بادشاہ کی جان میں جان تو آگئی۔ مگر زبان سے اتنی تختی سے انکار کیا کہ کیمیاء کی ایسی کی تیسی، مجھے تو تمہاری محبت نے مار رکھا ہے۔ آٹھ دس دن تک سقدہ اصرار کرتا رہا۔ بادشاہ انکار کرتا رہا۔ ایک دن بڑھے نے کہا، میں بڑھا ہو گیا ہوں یہ الم (علم) میرے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ کسی اور کوتو میں بتانے کا نہیں تجھے ضرور بتاؤں گا۔ بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے مجھے بھی تجھے سے محبت ہو گئی ہے۔ اگرچہ تو نے مجھے اپنا حال تو بتایا نہیں، کون ہے کہاں سے آیا ہے؟

ابا جی کیا اپنا حال بتاؤں۔ لاوارثی ہوں، یونہی مارا مارا پھرتا ہوں، گھر بھی بھول بھال گیا کہ کہاں تھا، اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنالو (غرض میں تو آدمی گدھے کو بھی باپ بنالیتا ہے یہ تو بہر حال آدمی تھا) ایک صبح ہی صبح سقدہ بادشاہ کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف گیا اور پھیس تیس بوٹیاں اس کو دکھا میں اور اسی سے توڑواں میں اور گھر آ کر اسی سے کیمیا بنوائی۔ بادشاہ تو اس پر مر ہی رہا تھا، خوب غور سے دیکھا اور رات ہی کو بھاگ گیا۔ اگلے دن سقدہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ ”کمخت بہت ہی دھوکہ باز تھا، بے ایمان، یوں کہے تھا مجھے تجھے سے محبت ہے۔ انجان آدمی سے تو بھی منہ نہ لگائے۔“

اپنے تخت پر پہنچ کر ان ہی سنتر یوں کو بھیجا وہ پکڑ لائے بادشاہ نے پوچھا ارے سقے نا تجھے کیمیا آتی ہے۔ ابی میاں آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا، مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارا مارا پھرتا۔ مگر پانچ چھ مہینے جس نے پاؤں دبائے ہوں وہ کہاں چھپ سکے تھا۔ سقدہ اس کے منہ کو گھورتا رہا۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی پہچان لیا۔ سقدہ نے کہا میاں خوب پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سقدہ نے کہا میاں کیمیا تو پاؤں دبائے سے آتی ہے بادشاہ بن کر نہیں آتی، میاں کیمیا کے واسطے تو سقہ بننا ضروری ہے۔ سنا ہے بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور اسے بہت ہی انعام دیا۔ اگلا شعر بھی میرا سنا ہوا نہیں، میری ہی طرف سے اضافہ ہے۔

تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی  
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں  
شرخرو ہوتا ہے انساں ٹھوکریں کھانے کے بعد  
رنگ لاتی ہے حتا پھر سے پس جانے کے بعد  
سقے نے بات تو بہت ہی صحیح اور پتہ کی کہی، خاکساری، تواضع اور خوشامد سے جو ملتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ اس قسم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سُن رکھے ہیں۔ مگر رسالے میں نہ نہیں ہی لکھوائے ہیں۔

مپنڈ اور جان پدر گر کسی  
کے بے سعی ہر گز بجائے رہی  
میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محنت، جفا کاری، پستی کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے۔ اللہ  
نبیس بہت ہی جزاً خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  
”من تواضع لله رفعه الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم.“  
(ترجمہ) ”جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اس کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں۔“  
یہاں تو تواضع بھی اللہ کے لیے نہیں تھی غرض کے واسطے تھی۔ مگر تواضع اور سبق کے پاؤں دبانے  
نے کیماں سکھا دی۔

### ایک نابینا اہل حدیث کا قصہ:

(۹) .... ابتدائی مدرسی میں ایک اہل حدیث نابینا جس کا نام تو مجھ کو یاد نہیں مگر میرے کمرے  
میں ان کی تالیف ”میزان الشریعۃ“ کے بہت سے حصے رکھے ہیں، وہ نابینا تھے اور اہل حدیث میں  
سے تھے۔ وہ مشکلاۃ کی احادیث کے (جو مسلک اہل حدیث کے موافق ہوں) چھوٹے چھوٹے  
رسائلے تصنیف کیا کرتے تھے۔ ایک باب الوضو، ایک میں باب الحجۃ، ایک میں باب الحیض وغیرہ  
خود ہی تالیف کرتے اور خود ہی طبع کرایا کرتے تھے۔ ہمارا پور میں ہمیشہ اس ناکارہ کے مہمان  
رہتے اور دیوبند میں حضرت مولانا الحاج سید انور شاہ صاحب کے مہمان رہتے تھے۔ ان کا دستور  
یہ تھا کہ درس گاہوں میں جاتے، مدرس کو ایک نذر پیش کرتے۔ میری اور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ  
کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی ان سے واقف تھے اکثر مدرسین نذر ان لینے کے بعد اس کی قیمت تین  
آنہ یا کم و بیش دے دیا کرتے تھے اور ان کی درخواست پر طلبہ سے بھی کلمۃ الخیر کہہ دیا کرتے تھے۔  
لیکن بعض لوگ اس وجہ سے کہ کوئی خاص مضمون ان کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ بجز روایات معروفہ مطابق  
اہل حدیث کا ترجمہ دیکھ کر معدورت کر دیا کرتے تھے۔

یہ ناکارہ ان کی آمد پر میں چپکس نہیں ہمیشہ خریدتا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ  
سوڈیڑھ سو نسخے ہمیشہ خریدتے اور ہم دونوں مشترہ قیمت سے زیادہ ہی دیا کرتے تھے۔ ان کی  
معدوری اور حدیث پاک کی خدمت اور حق مہماں کی بناء پر اور ان کے جانے کے بعد ان کے  
رسالوں کو طلبہ حدیث میں یہ کہہ کر تقسیم کر دیتے تھے کہ رسائل گو مسلک اہل حدیث کے ہیں مگر ان  
احادیث کا ترجمہ تو بہر حال ہے ہی۔ ان کے سامنے اس وجہ سے نہیں دیا کرتے تھے کہ اس مفت کی  
وجہ سے ان کی خریداری پر اثر نہ پڑے، ان کے رسائلے اب بھی میرے کتب خانہ میں اوپر کمرے

میں ہوں گے۔ جن پر ان کا نام و پتہ چھپا ہوا ہوگا۔ وہ ناپینا اور ایک کم عمر سالہ کا ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو ان کو سب جگہ لیے لیے پھرتا۔ رات کو مغرب کے بعد وہ میرے قریب بیٹھ کر اپنا حساب لکھوایا کرتے تھے۔ مجھے ان کے حساب میں بڑا لطف آیا کرتا تھا۔ رسالوں پر قیمت تو طبع شدہ ہوتی تھی، مگر وہ کسی شخص کو قیمت نہیں بتایا کرتے تھے، جس کا جو جی چاہے دے دے وہ خوشی سے قبول کر لیتے تھے اور جو قیمت نہ دے بلکہ جزاک اللہ کہہ کر نہ شادے تو وہ اس سے مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے۔

شام کو جب حساب لکھواتے تو اس میں اس طرح لکھواتے ”دو نسخے فی دو آنہ، تین نسخے فی ڈھانی آنہ، چار نسخے فی تین آنہ، آٹھ نسخے فی جزاک اللہ۔“ بہت ہی سیدھے بھولے بھالے آدمی تھے۔ اس زمانے میں اہل حدیث احباب سے اس ناکارہ کے تعلقات بڑی کثرت سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں دیوبند، سہارپور میں اہل حدیث طلبہ، بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ مگر وہ اہل حدیث ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس ناکارہ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ مجھ سے اخفاء نہ کریں، بے تکلف گھر پر آ کر اپنے اشکال حل کیا کریں، بہت سے طلبہ آتے تھے۔ اللدان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان میں سے بعض بیعت بھی ہوئے، بعض ان میں سے یہ بھی کہتے کہ اگر آپ حکما کہیں تو ہم رفع یہ دین، آمین وغیرہ چھوڑ دیں۔ میں ان کو منع کر دیتا کہ جب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے ذوق شوق میں کمر رہے ہو تو میں کیسے حکم دے سکتا ہوں؟

### مولوی عبدالجبار اہل حدیث:

(۱۰)..... ایک بزرگ تھے مولانا عبدالجبار صاحب کھنڈیلوی پہلے جے پور میں شیخ الحدیث تھے، اس کے بعد پھر مختلف مدارس میں شیخ الحدیث رہے اور تقسیم کے بعد اکوڑہ خٹک میں شیخ الحدیث رہے، میری ابتداء مدرسی میں مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی مرحوم سے انہوں نے کوئی حدیث کا سوال کیا مولانا مرحوم بھی اکثر حدیث پاک کے اشکالات لکھتے رہتے تھے۔ مولانا نے ان کو اس سیہ کار کا پتہ بتا دیا۔ پھر تو انہوں نے اپنے انتقال تک خوب سلسلہ رکھا۔ میرا خیال یہ ہے خود مولانا مرحوم کے یہاں بھی اور اس ناکارہ کے یہاں بھی ان کے خطوط مع مسودہ جوابات محفوظ ہیں کئی دفعہ مرحوم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری خط و کتابت شائع ہو جائے، بہت مفید ہے، میں نے ہمیشہ یہ لکھ دیا کہ کوئی تالیفی چیز تو ہے نہیں۔ اس میں چھاپنے کے واسطے غور و خوض اور نظر ثانی کی ضرورت ہوگی۔ مرحوم نے کئی دفعہ اصرار کیا کہ بہت مفید ہے ان کو شائع کر دیا جائے یا پھر مجھے اجازت دو میں چھاپ دوں گا۔ مگر میں نے خود چھاپے اور نہ اجازت دی، کیونکہ خطوط

وقتی چیز ہوتی ہے اور ان میں اکثر ماحول اور تجاطب کے مطابق مضامین ہوتے ہیں، اگر میرے دوستوں میں سے کوئی نظر ثانی کے بعد بالخصوص عزیزان مولوی عاقل، مولوی سلمان شاہد اس کو چھاپنا چاہیں تو شوق سے، ان میں کوئی مسئلہ اختلاف نہیں بلکہ صحاح کی مختلف احادیث پر اشکال اور ان کے جوابات ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قراءت خلف الامام کی حدیث پر بھی ایک اشکال لکھا تھا جس پر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ مسائل تو بر سہابہ کے چلے آ رہے ہیں، ختم ہونے والے نہیں۔ حدیث پاک کے متعلق جو اشکالات ہیں وہ شوق سے فرمادیں، میری او جز المسالک پر مرحوم نے ایک بہت ہی مفصل تبصرہ پاکستان کے کسی اخبار میں شائع کرایا تھا۔ جس پر ان کے بعض دوستوں نے ان کو خنث ملامت لکھی، مرحوم نے ان کو لکھا کہ محض مقلد ہونے کی وجہ سے کتاب سے نفرت نہ کرو، اس کو دیکھو بڑا خزینہ ہے، میں نے جو کچھ تبصرہ کیا ہے بہت غور و خوض اور بہت تفصیل سے دیکھنے کے بعد کیا ہے۔

### ایک اہل حدیث کا قومہ میں ہاتھ نہ چھوڑنا:

(۱۱).....میرے ایک مخلص دوست رفیق درس مظاہر علوم میں ملازم تھے۔ قلت تجنواہ کی وجہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر ملازم ہو گئے، جن کے یہاں ملازم تھے وہ ایک بڑے ڈاکٹر اور زوردار اہل حدیث تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب رکوع سے اٹھ کر رفع یہ دین کیا کرتے تو ہاتھوں کو گراتے نہیں تھے بلکہ کانوں تک اٹھائے اٹھائے سجدہ میں چلے جاتے۔ میرے ان دوست نے لکھا کہ وہ تو عادی ہیں ان کو اس کی بڑی مشق ہے۔ لیکن میں جب رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اٹھائے سجدہ میں جاتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں، بہت ہی جلد از جلد کوئی صورت میرے لیے نکالو، میری تازہ تازہ ملازمت ہے، جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو مولا نا شاء اللہ صاحب امر تری، علامہ شوکانی اور بڑے بڑے اکابر اہل حدیث کا بھی مسلک نہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تقلید کے واسطے تو امام ابوحنیفہ، امام شافعی رحمہما اللہ کیا کم ہیں جو میں کسی کی تقلید کروں مجھے تو حدیث پاک دکھاؤ۔

اللہ کا انعام و احسان کہ ان کا خط پڑتے ہی مجھے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آئی جو صحابہ کی کتب میں مختلف الفاظ سے ہے، مجھے یاد ہے کہ اس روایت کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ الفاظ ہیں ”حتی استقر کل عضو فی موضعه“ مگر اس وقت ابو حمید کی روایت کے اندر ابو داؤد میں معتدل اکالفاظ ملا ہے جس کا مفہوم یہی ہے۔ ابو داؤد کے اندر حضرت ابو مسعود النصاری کی روایت میں یہ لفظ ہیں ”ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقَامَ حَتَّىٰ اسْتَقْرَأَ

کل شئی منه“ (الحدیث) اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد میں ہے ”لم یسجد حتی یستوی قائمما“ (الحدیث) اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث نسائی میں ہے جس کے الفاظ ہیں ”تم رفع راسہ فقام حتی استوی کل شئی منه“ (الحدیث) اور بھی متعدد روایات میں نے لکھوائی تھیں۔ ممکن ہے کہ مکتوب الیہ کے پاس وہ خطاب بھی محفوظ ہو۔ میں نے ان کو لکھا کہ رکوع کے بعد رفع یہ دین کر کے ”استقر کل عضو فی موضع“ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہاتھ نیچے چھوڑ دیے جائیں۔ ان کے ذاکر نے میرے اس جواب کو بہت پسند کیا اور ہاتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے ان رفیق نے بہت شکریہ کا خط لکھا کہ میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔

### مجھے اہل حدیث سے مخالفت نہیں:

(۱۲)..... مجھے اہل حدیث سے ذاتی عداوت تو ہے نہیں، جب تک کہ وہ اکابر انہم کی شان میں بے ادبی نہ کریں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ شریعت تو صرف اللہ اور اس کے پاک رسول ہی کا کلام ہے، لیکن اس پر عمل کرنے میں اور روایات کی صحیح جرج و تعمیل میں انہم مجتهدین اور انہم اربعہ کا قول مجھے جیسے نابلد کی تحقیق پر بہت مقدم ہے۔ بلکہ ان حضرات کے ارشادات انہم محدثین سے بھی مقدم ہیں۔ اس لیے کہ یہ حضرات انہم بخاری و مسلم کے اساتذہ یا استاذ الاستاذ ہیں اور زمانہ نبوت سے پہلی نسبت انہم محدثین کے زیادہ قریب ہیں اس لیے روایات کے قبول اور رد میں ان حضرات کا مرتبہ اور ہم پا یہ لوگوں سے کیا بلکہ انہم محدثین سے بھی کہیں زیادہ اونچا ہے، اس لیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے مشہور استاذ ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام محمد کے مشہور شاگرد ہیں جن کا مشہور مقولہ ہے کہ میں امام محمد کی کتابیں دیکھ کر فقیہ ہوا ہوں اور امام محمد امام عظیم کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام بخاری کی ثلاثیات جن میں امام بخاری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تین واسطے ہیں۔ بخاری میں کل پانیس ہیں اس میں امام بخاری کی میں روایات امام عظیم کے شاگرد یا شاگردوں سے ہیں، ہماری مثال اس بندر کی سی ہے جو ایک گرہ ہلدی کی لے کر ڈگنڈی بجائے لگا کہ میں بھی پساری ہوں۔

### احکام شریعہ پر بغیر مصلحت سمجھے عمل کرنا ضروری ہے:

(۱۳)..... میرا ہمیشہ خیال یہ بھی ہے اور اس پر میرے یہاں بہت اہتمام رہا کہ اپنے عمل اور دوستوں سے نصیحت میں بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے اتباع میں جتنا ہو سکے غلو اور اہتمام کریں تا وقت کیلئے اپنے مذہب کے خلاف نہ ہو جیسا کہ اس سے پہلے نمبر میں بھی اشارہ

کر چکا ہوں۔ اس ناکارہ نے بہت عرصہ ہوا ایک رسالہ اختلاف ائمہ لکھا تھا جو رسالہ "المظاہر" میں شائع ہوتا تھا، جس کا ذکر تالیفات میں بھی گزر چکا ہے۔ اس میں اس سید کارنے بہت تفصیل سے ائمہ مجتہدین کے اختلاف کی وجہ اور اسباب مع امثالہ بہت کثرت سے لکھے تھے۔ جب تک رسال جاری رہا میرا مضمون بھی جاری رہا۔ اس میں میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اگر سمجھ میں نہ آئیں تو بھی ان پر عمل ضروری ہے، اگر اپنی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی فہم کا قصور تصور کرے۔ میں غالباً یہ قصہ لکھوا چکا ہوں کہ میری ایک چھوٹی بچی جب اس نے قاعدہ بغدادی شروع کیا اور "آن بان" کی تختی شروع کی تو اپنی والدہ مرحومہ کے سر ہو گئی، چار پانچ سال کی عمر تھی، چھوٹی سی بچی اس کا مناظرہ اور ضد، مجھے بھی بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ الف زیر آ، نون زبر ن آن، ب الف زیر بان نون زبر ن بان، ثان، ثان اخیر تختی تک پڑھ کر جب اس کا نمبر آیا کہ همزہ الف زبر آ، نون زبر ن آن، تو وہ اپنی والدہ سے الجھ پڑی اور بھولی بھائی زبان اب تک یاد ہے وہ بار بار الف با کی تختی شروع سے پڑھتی اور جنت قائم کرتی اور اخیر میں همزہ پر آ کر پھر جرح شروع کرتی کہ یہ آن کیوں ہے، همزان ہونا چاہیے۔ بہت ہی صحیح سے دو پھر تک اپنی ماں سے لڑتی کہ یہ همزان کیوں نہیں بنتا۔ ماں کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، اس نے تو اپنی جان بچائی کہ جب تیرے ابا آئیں گے ان سے پوچھئے۔ کہنے لگی کہ میں تو همزان ہی یاد کروں گی۔ دو پھر کو مقدمہ پیش ہوا۔ جواب میرے پاس بھی بجز اس کے کیا تھا کہ ابھی تو تو بھی ہے جب بڑی ہو گئی تب پوچھنا۔

دوسرا قصہ بھی اسی کا یا اس سے چھوٹی بہن کا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے اس پر جرح کرتی تھی کہ جب دودھ کو آگ پر گرم کرتے ہیں تو اس پر ملائی کہاں سے آتی ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ احکام شرعیہ میں ہم لوگ اپنے آپ کو محقق اعلیٰ کیوں سمجھ جاتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ نبوت کا درجہ ہم سے بڑھا ہوا ہے، ہم نا سمجھ ہیں، وہاں تک رسائی نہیں۔ مثال کے طور پر غسل جنابت ہی کو لے لو ساری عمر فقہاء اس کو غسل تعبدی لکھتے چلے آئے، کہ منی نکلتی تو ہے پیشاب گاہ کے چھوٹے سے سوراخ سے اور غسل سارے بدن کا فرض ہے، اس کو جملہ علماء نے فقہاء نے تعبدی لکھ کر چھوڑ دیا یعنی خلاف قیاس حکم شرعی ہی ہے۔ مگر چند سال ہوئے اس ناکارہ کو ہر چیز کے پڑھنے کا مرض تھا اور صحت و بصارت بھی قوی تھی۔ چند ڈاکٹروں کی تحقیق نظر سے گزری تھی، انہوں نے لکھا کہ جب آدمی کوشہوت کے ساتھ ازاں ہوتا ہے تو بدن کے مسامات سے ایک سمیت باہر ظاہر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اگر اس کو نہایت اہتمام سے رکڑ کر جلدی صاف نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سُکنی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے

امراض پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے صابن کے ساتھ غسل کرنا چاہیے، اس میں مجھے تو بہت ہی لطف آیا، اس لیے کہ خروج منی سے سارے بدن کے دھونے کی مصلحت بھی سمجھ میں آئی۔ جس کی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ حتیٰ کہ امام مالک کے نزدیک رکڑ کر دھونا غسل جنابت میں فرض ہے اور غسل کی جلدی کی تاکید کی مصلحت بھی معلوم ہو گئی۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے تاخیر بھی قولہ عملًا کر کے دکھلا دی۔ اسی طرح سے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی کا مسئلہ یہ تو عرصہ سے سننے میں آرہا تھا کہ انگلستان میں پائی ریا کا امراض اتنا عام ہے کہ جوان لڑکیاں بھی اپنے سارے دانت نکلوادیتی ہیں اور پھر مصنوعی ہنواتی ہیں۔ کئی سال ہوئے وہاں کے ڈاکٹروں کی ایک تحقیق نظر سے گزری کہ دانتوں کی رطوبت کے لیے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے امراض میں بالخصوص جریان، آتشک وغیرہ میں انگریز ڈاکٹرختنے کو بہت ضروری بتاتے ہیں۔

### شب معراج میں حضور کے قلب اطہر میں ایمان و حکمت بھرنا:

(۱۲).....اس سلسلہ کا ایک مسئلہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شق الصدر کے بعد ایمان و حکمت کا بھرنا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ شبِ معراج میں حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا، اس کو زمزم شریف کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں ایمان و حکمت بھر دیا۔ اپنی ابتداء طالب علمی میں اس حدیث پاک پر احمد لیوگوں کے بہت اعتراضات نے کہ ایمان و حکمت ایسی چیز ہے جس کو بھر دیا جائے۔ اخبارات میں بھی اس حدیث پاک پر اعتراضات پڑھے اور نیچری لیوگوں کے اشکال بھی خوب پڑھے۔ مگر اللہ پاک کا ارشاد حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لیوگوں کے عذر رکھا نہ کر دیے جائیں یعنی جب تک احمد لیوگوں کے مہمل اشکالات کا جواب دُنیا میں نہیں دکھایا جائے گا۔ جب سے بھلی کا علانج جاری ہوا ہے نہ کوئی چیز بوقت میں نظر آتی ہے اور نہ کسی طرح سے محسوس ہوتی ہے، مگر علانج والے کارنامے سناتے ہیں کہ چالیس (۲۰) گھوڑوں کی طاقت بھر دی، اسی (۸۰) گھوڑوں کی طاقت بھر دی وغیرہ وغیرہ۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز بھری جاتی ہے بھلی کی قوت ایمان کی قوت کا کب مقابلہ کر سکتی ہے۔ قیامت والی احادیث میں کثرت سے اس قسم کے مضماین آئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اولین و آخرین کو ایک زمین پر جو میدانِ حرث ہے جمع فرمائیں گے اور آواز دینے والے کی آواز سب سینیں گے اور مجمع کو ہر شخص دیکھے گا، اس پر بڑے اعتراضات لیوگوں کے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر

قیامت تک کی بے شمار مخلوق کس طرح سب ایک شخص کی آوازن سکتے ہیں اور کس طرح جمیع کو سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب لاڈا پیکر، ٹیلیفون اور اس سے بڑھ کر ٹیلی ویژن نے سارے اشکالات کو ”ہباءً مَسْتُورًا“ کر دیا ہے۔ چاند پر چڑھنے کا واقعہ آج کل معرکۃ الاراء مسلکہ بن رہا ہے، بندہ کے خیال میں تو یہ یا جوج و ماجوج کی احادیث کا مشاہدہ ہے، اس میں ہے کہ وہ فساد برپا کرنے کے بعد آسمان والوں کو قتل کرنے کے لیے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہاں سے حکم ہو گا کہ ان کے تیروں کو خون میں رنگ دو، اس کو دیکھ کر وہ بے وقوف کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، جن جن چیزوں پر ان احتملوں کے اشکالات ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جواب مشاہدہ کے طور پر قیامت سے پہلے ہی دکھاویا اور جو اشکالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات بھی ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہو جائیں گے۔

(۱۵) ..... حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو نہادنکی جنگ میں امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے یا خطبہ کے بعد زور سے ”یا ساریۃ الجبل“ فرمایا۔ یعنی ”اے ساریہ! پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے کر لو اور اس سے آگے بڑھ جاؤ۔“ مدینہ والے بھی حرمت میں رہ گئے کہ یہ خطبہ کے درمیان میں غیر متعلق بات کیوں فرمائی اور نہادن میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ بھی حرمت میں رہ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ اس کے بعد نہادن سے ایک قاصداً یا، اس نے بیان کیا کہ جب ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوا اور انہوں نے ہم کو مغلوب کر لیا تو ہم کو ایک آواز آئی کہ ”یا ساریۃ الجبل“ (جس کا ترجمہ گزر چکا ہے) تو ہم نے اپنی پشوں کو پہاڑ سے چپکایا۔ اللہ جل شانہ نے دشمنوں کو مغلوب کر دیا۔ ملاعلیٰ قاری تحریر فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کئی کراماتیں ہیں۔ مدینہ میں بیٹھے ہوئے نہادن کے معرکہ کا معائنہ کرنا اور ان کی آواز کا سینکڑوں میل پہنچ جانا اور پورے لشکر کا ان کی آواز کا سن لینا اور ان کی تجویز سے معرکہ پر غالب آ جانا وغیرہ وغیرہ، پھر اس واقعہ کو بھی واژہ لیں اور لاسلکی نے سچا کر دکھایا۔ (مرقات طبع جدید)

### صحابہ کرام کی کرامات کے واقعات:

(۱۶) ..... اکابر صوفیاء کے خوارق و کرامات پر بھی اس قسم کے احمد لوگ اعتراض ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن احادیث پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات میں اس قسم کی نظائر بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ مگر ہم لوگوں کو غویات اخبارات اور ناولوں سے فرصت ہوتی؟

احادیث پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہوں میں اس قسم کے واقعات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے ان کو اہمیت سے ذکر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مشکلۃ شریف میں بخاری کی روایت سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے اور اس کھانے سے تسبیح کی آواز سنائی کرتے تھے۔ اسی طرح مشکلۃ شریف کی دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ نصاریٰ کے ساتھ لڑائی میں ملک روم کے اندر ایک مرتبہ راستہ بھول گئے یا کافروں نے قید کر لیا۔ پریشان حال تھے کہ ایک شیر سامنے آیا، انہوں نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کو اپنی سرگزشت سنائی، وہ شیر ان کی طرف متوجہ ہوا اور قریب آیا اور دُم ہلاتا ہوا آگے آگے ہولیا، یہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور لشکر تک پہنچ گئے اور ان کے پہنچنے کے بعد وہ شیر واپس گیا۔

### حج کے موقع پر دو آدمیوں کی دعائیں:

(۱۷) ..... مشکلۃ شریف پڑھانے کے زمانے میں ایک قصہ مجھے تو یاد ہے کہ میں نے مرقاۃ میں دیکھا تھا، مگر میں تو لکھنے پڑھنے سے بھی معدود ہو گیا اور اب دوستوں سے کہا تو ان کو ملا نہیں۔ مگر قصہ بہت عجیب اور اہم ہے اور جو مضمون میں اس رسالے میں بار بار لکھوار ہا ہوں کہ اللہ کے یہاں اصل قیمت اخلاص کی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا۔ میں نے کعبہ میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کرتے زور سے رورو کر دعا میں مانگ رہا ہے کہ اس کے شور سے کعبہ کا طواف کرنے والے بھی پریشان ہو رہے ہیں مگر ایک منٹ کو بھی اس کا قلب خدا کی طرف متوجہ ہوا۔

اس کے بعد میں منی گیا، اس کے بازار میں میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک ہزار دینار کا کپڑا فروخت کیا، مگر ایک منٹ کو بھی اس کا دل غافل نہ ہوا۔ بالکل صحیح ہے ہم لوگوں کی یہی حالت ہے، ہماری نمازیں دعا میں سب رکھی ہیں۔ طوٹے کی طرح سے رٹے ہوئے الفاظ کہتے رہتے ہیں اور ہم کو ذرا پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے شور شغب مقبول نہیں ہے۔

### ایک آرہ کش کا ایک عجیب واقعہ:

(۱۸) ..... ہمارے مدرسہ کے ناظم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا جمیعت علی صاحب بہاولپور میں مدرس تھے۔ ایک دفعہ کتاب دیکھ رہے تھے۔ تقریباً ایک گھنٹہ تک وہ اہتمام سے مطالعہ کرتے رہے۔ ایک آرہ کش (لکڑاہارا) ان کے قریب اپنے آرے

سے لکڑی کاٹ رہا تھا۔ جب ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تو وہ مولانا مرحوم سے کہنے لگا کہ ابی مولوی جی! تم اتنی دیر سے کتاب کو گھور رہے ہو تم کو کیا ملا؟ اور دیکھو میں نے اتنی دیر میں اتنے تختے کاٹ دیے۔ مولانا مرحوم کو خوب ہنسی آئی۔ فرمائے گے کہ اپنا اپنا ذوق ہے، میں یہ کہوں گا کہ تم نے اتنی دیر میں کیا کیا۔ اچھا یہ بتا تیری تھنا اور ذوق کیا ہے۔ کہنے لگا ابی مولانا صاحب کیا پوچھو، میری تھنا تو یہ ہے کہ چار پانی پر گاؤں تکیہ لگائے پڑا ہوں اور حلقہ برابر میں رکھا ہوا ہو اور چاروں طرف سے کھیڑکیز آواز آرا چلنے کی میرے کان میں پڑتی رہے، فقط۔ مجھے اس قصہ میں ہمیشہ بڑا لطف آیا اور ذوق والوں کے مناظر بھی سامنے آگئے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی زندگی ہی اس پر ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ مراقب ہوں اور چاروں طرف ذاکرین کی آوازان کے کان میں پڑتی ہو۔ اس میں کوئی تصنیع نہیں کہ میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جن کی صحت کامدار ہی ذاکرین کی آواز پر ہے۔ جب یہ ہوتا ان کو طاقت کے انگلشن کا کام دیتا رہتا ہے اور جب یہ نہ ہوتا ان کو ضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔

### مولوی نصیر الدین ناظم کتب خانہ میکیوی:

(۱۹).....مولوی نصیر الدین ناظم کتب خانہ میکیوی میرے بہت ہی شدید ترین محسن ہیں۔ اللہ ان کو بہت ہی جزاً خیر عطا فرمائے اور ان کے احسانات کا اپنی شایان شان دین دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں اپنی عمومی دعاؤں کے ساتھ جو سارے محسنوں کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرتا ہوں مگر میں اپنے متعلق اپنے چچا جان قدس سرہ کا یہ مقولہ پہلے نقل کر چکا ہوں کہ میری تبلیغ کو جتنا لفظ زکریا سے ہے اتنا مجھے اپنے معاون کارکنوں سے بھی نہیں اور میری تبلیغ کا جتنا مخالف یہ ہے اتنا کوئی مخالف سے مخالف بھی نہیں۔ چچا جان نور اللہ مرقدہ کے اس مقولہ کو اگر میں مولوی نصیر الدین کے متعلق دھراوں تو بالکل بجا ہے کہ جتنی اعانت انہوں نے میری علمی، عملی، بدنسی کی ہے اتنی نہ کسی رشتہ دار نے کہ نہ اہل و عیال نے کی۔ ستاون (۵۷) برس ان کو میرے پاس رہتے ہوئے ہو گئے۔ اس مدت میں مجھ سے ذرا بھی مناسبت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہر چیز میں میری ضد اور مخالف ہیں۔ جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

یہ موضع جلالیہ قصبہ بیٹ کے رہنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کے زمانے میں رائے پور میں حافظ یوسف علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب قدس سرہ کی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں رائے پور کی آمد و رفت کثرت سے ہوا کرتی تھی، بالخصوص اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی طویل بیماری میں اعلیٰ حضرت کو میرے والد کے بیانے پر اصرار رہتا تھا، اس لیے کثرت سے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کے دورانِ قیام میں

حافظ یوسف صاحب کے مکتب میں ایک چھپر کی جھونپڑی میں ان اوقات کے علاوہ جو اعلیٰ حضرت کے پاس رہنے کے تھے والد صاحب کا وہاں وقت گزرتا تھا۔ بالخصوص گرمیوں کا دوپہر وہاں گزرتا۔ اس زمانے میں مکتب کے بعض طلبے بڑے ذوق و شوق سے والد صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جن میں مولوی نصیر الدین صاحب بھی تھے۔ جن کو اپنی پیدائش صحیح قمری تو یاد نہیں البتہ ۱۹۰۱عیسوی بتاتے ہیں۔ ۱۹۰۱عیسوی ۱۳۱۸ ہجری کا آخر اور ۱۳۱۹ ہ اوائل ہے۔ قرآن شریف حفظ اور ابتدائی اردو حساب وغیرہ رائے پور کے مدرسہ میں پڑھا۔ ذی الحجہ ۳۰ھ میں حافظ یوسف جو حضرت رائے پوری کے مدرسہ میں اول استاد تھے، ان کے یہاں کوئی شکایت پہنچی، جس پر پٹائی کے ڈر سے بھاگ کر سہار پور والد صاحب کے پاس آئے کہ ان سے خوب تعارف تھا، لیکن والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کئی دن کے لیے نظام الدین گئے ہوئے تھے، مجھ سے کچھ شناسانی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولانا (میرے والد صاحب) نے مجھ سے وعدہ کر کھا تھا کہ جب تیرا قرآن شریف پورا ہو جائے تو میرے پاس آنا میں تجھے عربی پڑھاؤں گا۔ مجھے چونکہ واقفیت نہیں تھی اس لیے میں نے مسجد بہادران متصل مظاہر علوم کے ایک جگرے میں جہاں اور طلبہ بھی رہتے تھے ان کو والد صاحب کے آنے تک رکھوا دیا اور کہہ دیا کہ کھانا دنوں وقت میرے گھر سے لے جایا کرو اور والد صاحب کی تشریف آوری پر انہوں نے ان کو مسجد بہادران سے منتقل کر کے مسجد موجیاں جو حکیم محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکان کے قریب ہے اور میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اکثر قیام اوقات درس کے علاوہ کثرت سے وہاں رہا کرتا تھا۔ اس میں منتقل کر دیا، اس مسجد میں دو جگرے تھے، جس میں مدرسہ کے طلبہ رہتے تھے، خاص طور سے وہ جن کو والد صاحب سے خصوصی تعلق ہو، دو تین سال اسی مسجد میں قیام رہا۔

۱۳۳ھ میں جب میرے والد صاحب تور اللہ مرقدہ نے میرا موجودہ مکان کرایہ پر لیا تو اس میں زنانہ اور مردانہ دو حصے تھے۔ اس میں یہ اور قاری میعنی الدین آروی جو آج کل مولوی قاری حافظ ہیں اور ان کے بیان کے موافق ہیں پہلیس دن میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اور مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد پچا جان کے ارشاد سے ان کو نظام الدین کے مدرسہ میں مدرس تھت، بنایا گیا تھا اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا انعام الحسن صاحب دو توں ان کے شاگردوں میں ہیں اور ان کے لڑکے بھی آج کل علماء بن کر متفرق شہروں میں مقیم ہیں خود ضلع آرہ کے ایک قصبہ میں کسی مدرسہ کے ناظم ہیں لیکن ابتداء میں جب وہ یہاں آتے تھے تو اردو بھی نہ جانتے تھے۔ لیکن میرے والد صاحب قدس سرہ کی برکت اور بقول مولوی شبیر علی تھانوی مرحوم کے جس کو انہوں نے اپنے اس خط میں لکھا ہے جو اکمال الشیم کے مقدمہ میں طبع شدہ ہے کہ میرے

والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو پڑھانا نہیں بلکہ گھول کر پلانا آتا تھا۔ چند سال میں اردو، فارسی، ابتدائی عربی سب کچھ پڑھادیا اور ان کے انتقال کے بعد میں نے مدرسہ میں داخل کر دیا تھا مگر آخر تک میرے ہی مکان پر رہا اور ۱۴۳۷ھ میں دورہ شریف سے فارغ بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔

اس جگہ تو مولوی نصیر الدین کا حال لکھنا شروع کیا تھا کہ میرے والد صاحب کے انتقال تک مولوی نصیر کے مراسم مجھ سے بھی ہو گئے اور میری خارش کے زمانے میں مجھ سے مقامات بھی پڑھی، اس کا ذکر پہلے گزر چکا اور میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد اس باق تو مدرسہ میں ہو گئے تھے، مگر قیام ان کا بھی میرے مکان (کچھ گھر) میں ہی رہا اور میرے تجارتی کتب خانہ میں معمولی کام پیکٹ وغیرہ بنانا باندھنا ان کے حوالہ تھا اور فرمائشوں کی تعییل میں خود کرتا تھا اور ۱۴۳۸ھ کے پہلے سفرِ حج میں کتب خانہ کا کام ان کے اور حکیم ایوب صاحب سلمہ کے حوالہ کر کے گیا تھا اور حج سے واپسی کے بعد کچھ نہ کچھ دیکھ بھال اس سے کارکی ہوتی تھی، لیکن شوال ۱۴۳۹ھ میں جب دوسری مرتبہ اس سے کارکی حج کو روانگی ہوئی تو تقریباً سولہ ماہ میں واپسی ہوتی۔ اس وقت ہمہ تن کتب خانہ مولوی نصیر کے حوالہ کر کے گیا تھا، عزیز موصوف کو ہمیشہ یہ گھمنڈا اور مجھ پر یہ الزام رہا کہ یہ تجارت سے بڑا ناقف ہے اور بہت ہی اس کی کوشش بوسائط کرتا رہا کہ یہ کتب خانہ کلی طور پر میرے انتظام میں دے دے اور میں اس پر چار چاند گاؤں۔

یہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے وقت ان کے ذمہ آٹھ ہزار روپے قرض تھا۔ جو شخص اللہ کے اطف و کرم اور احسان سے شوال ۱۴۳۹ھ میں صرف ایک ہزار روپے گیا تھا۔ جو یہ ناکارہ حجاز کو جاتے وقت مولوی نصیر کے حوالہ کر گیا تھا اور ان کو ایک ہزار کی وہ رقم بھی بتا گیا تھا جو اس ناکارہ کی دوسرے لوگوں کے ذمہ تھی لیکن جب یہ ناکارہ سولہ ماہ بعد واپس آیا تو انہوں نے کتب خانہ کو چار چاند نہیں بلکہ آٹھ چاند لگا رکھے تھے، یعنی میرے کتب خانہ کے ذمہ آٹھ ہزار روپے مزید قرض کر رکھا تھا اور ایسے اجنبی لوگوں سے قرض لیا تھا۔ جنہوں نے ان کا ناطقہ بند کر کھا تھا۔ اس ناکارہ نے اپنے دوستوں سے قرض لے کر اس کو ادا کرایا اور ان کو ہمیشہ سمجھایا اور اب تک باوجود اس کے کہ ہمیشہ ہی اللہ جل شانہ کے احسانات اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، مگر اس کی سمجھی میں یہ نہیں آیا کہ مالک کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ علیحدہ ہے، تجارتی اصول والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تجارتی ہی اصول کا ہے اور بے اصولوں کے ساتھ معاملہ کرم و احسان کا ہے، باوجود یہ کہ میں ان کا احسان مند ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے دل سے دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں مگر طبیعت کا جوڑ آج تک نہیں لگ سکا، میں ہمیشہ کتابوں کے حق تالیف کو رجڑ کرانے کا شدید

مخالف ہوں اور اس کو شرعاً جائز بھی نہیں سمجھتا۔ اختری بہشتی کا تکمیلہ مسحیوی کتب خانے نے کرایا تھا اور اجرت تکمیلہ اور طباعت بھی کتب خانہ مسحیوی کی طرف سے ہی ہوئی۔ مولانا نصیر الدین صاحب نے اس کو رجڑڑ کرالیا اور میرے ایک مخدوم زادے نے جب اس کو طبع کرالیا یہ سمجھ کر کہ میں ان سے کیا تعرض کروں گا اور ان کا خیال بھی بالکل صحیح تھا۔ تو مولانا نصیر الدین صاحب نے ان پر دعویٰ بھی کرادیا۔

مجھے ان کے رجڑڑ کرنے کی خبر اور نہ دعویٰ دائر کرنے کی، شیخ رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دہلی میں ان سر برآ وردہ لوگوں میں تھے کہ حکام ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اس لیے ان کے ذریعہ سے مقدمہ میں فوری کامیابی ہوئی اور کتابیں ضبط ہو گئیں اور شیخ رشید احمد صاحب نے مجھے مرشدہ کی اطلاع کر دی میں حیرت میں پڑ گیا کہ کیسا مقدمہ اور کیسی کتابوں کی ضبطی، میں نے جب تحقیق کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا۔ میرے رنج و فاقہ اور غصہ کی انتہائی رہی، میں نے منت، خوشامد، ڈاٹ ڈپٹ کبھی کچھ کیا، مگر انہوں نے بجائے دو خواست قبول کرنے کے چچا چان نور اللہ مرقدہ کو میرے خلاف ایک بہت سخت خط لکھا کہ ان کو کتب خانے کی آمدی سے تو کوئی تعلق نہیں، کھانے کے وقت جتنے مہمان ہوتے ہیں ان کے علاوہ رستہ چلتے لوگوں کو بھی دعوت دے دیتے ہیں اور تجارت کا جو حال ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، میں نے ایک کتاب کو رجڑڑ کر لیا تھا جس کی وجہ سے مجھ پر سخت عتاب ہے۔ میں نے تین دن سے نہ کچھ کھایا اور نہ سویا، دن رات روٹے گزر گئے ہیں۔ یہ خط انہوں نے رجڑڑی بھیجا، مجھے اس خط کی بھی کوئی خبر نہ ہوئی۔

ایک دن دوپہر کے وقت دستر خوان بچھے چکا تھا چچا جان نور اللہ مرقدہ اور جناب الحاج الحافظ فخر الدین صاحب تشریف لائے اور چہرہ پر غصہ نہایا بلکہ چہرہ سرخ ہو رہا۔ میں پچھا جان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، مگر چہرہ پر غصہ بہت ہی ظاہر ہوا تھا چچا جان نے تشریف لائے ہی سلام و مصافی سے پہلے ہی فرمایا کہ تم نے تو پریشان کر دیا۔ اس وقت تمہاری وجہ سے آتا پڑا۔ تم سے تخلیہ میں کچھ کہنا ہے۔ میں کا اپ گیا اور میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے ”ما حدث و ما قدم“ مجھے بھی سب یاد آگیانہ معلوم کس نے کیا شکایت لکھ دی ہوگی۔ اس وقت کھانا چچا جان نے اور حافظ صاحب نے تو غصہ میں نہیں کھایا اور میں نے فکر میں نہیں کھایا۔ کھانے کے بعد مجھے چونکہ یہ فکر تھا کہ نہ معلوم کیا شکایت پہنچی ہو گی اس لیے میں ان دونوں حضرات کو حکیم ایوب صاحب کی بیٹھک میں لے گیا اور سب دروازے لگائے اور چچا جان نے بیٹھتے ہی غصہ میں فرمایا کہ تمہیں آمدی کا کوئی فکر نہیں ہے، خرچ کی تم کو کوئی خبر نہیں وہ نصیر الدین بیچارہ دن رات فکر میں رہتا ہے یہاں تک کہنے پر میری جان میں جان آگئی اور ہوش و حواس بھی

درست ہوئے، مجھے اس کا اندازہ ہو جاتا تو اتنی دور بھی نہ لے جاتا۔ بلکہ کھلے کواڑاں سے تخلیہ کرتا پھر انہوں نے فرمایا کہ مولوی نصیر نے مجبور ہو کر ایک کتاب کو رجسٹرڈ کرایا تو تم اس پر خفا ہونے لگے، کئی دن سے نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ وہ سویا۔ میں نے عرض کیا حضرت چچا جان! کتابوں کی رجسٹری تو جائز بھی نہیں، مولوی نصیر الدین نے جناب الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب سے رجسٹری کے جواز کا فتویٰ بھی منگار کھا تھا۔ جس کی تقلیل بھی انہوں نے چچا جان کے پاس بھیجی تھی۔ چچا جان نے فرمایا کہ اس کے پاس مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت امیرے پاس حضرت گنگوہی کا فتویٰ ہے۔ مولوی نصیر اگر حضرت گنگوہی کے مقابلہ میں مفتی صاحب کا فتویٰ پیش کرے تو تعجب نہیں، مگر میں یا آپ حضرت گنگوہی کے مقابلہ میں مفتی صاحب کا فتویٰ اقبال کر سکتے ہیں، چچا جان تو میری گفتگو کے بعد بالکل خاموش ہو گئے اور خفیٰ بالکل زائل ہو گئی۔ البت یہ فرمایا کہ اتنی ناراضگی نہیں چاہیے تھی اس کی محنت اور جانشناختی کی رعایت ضرور چاہیے۔ لیکن میرے محترم حضرت حافظ فخر الدین صاحب کا غصہ بالکل کم نہ ہوا۔ انہوں نے واپسی تک نہ تو مجھ سے بات کی اور نہ چلتے وقت مصافحہ کیا۔ چچا جان بھی دوسرا گاڑی سے یہ فرمایا کہ چلے گئے کہ میں تو بہت مشغولی میں آیا ہوں قیام کا وقت بالکل نہیں تمہارے مولوی نصیر نے اپنی پریشانی کا ایسا سخت خط لکھا کہ مجھے فراؤ آتا پڑا۔

ان کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے مولوی نصیر الدین سے کہہ دیا کہ میری کتاب کی تو رجسٹری رہ نہیں سکتی، آج سے یہ ”اختری بہشتی زیور“ تمہاری ملک میں ہے تمہاری نذر ہے۔ اس کے سب مطبوعہ نہیں اور اس کی پیشیں وغیرہ سب تمہاری نذر ہیں اور اس دن سے یہ کتاب مولوی نصیر الدین کی ملک ہو گئی اور میں نے اخبارات میں بھی اس کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ اخبارات بھی اب تک میرے کمرے میں ہوں گے۔ تین چار سال بعد یہ ناکارہ ایک مرتبہ نظام الدین حاضر ہوا۔ تو چچا جان نے فرمایا کہ ارے بھائی تمہارے نصیر کی خود غرضی اور یہ کہ وہ تمہارے مال کو اپنے نام سے بنک میں جمع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی شکایات تو بہت ہی آرہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! یہ وہی مولوی نصیر ہیں جن کی بدولت مجھ پر عتاب ہوا تھا۔ فرمایا کہ ہاں! ہیں تو وہی، مگر اب تو اس قدر ان کی شکایات آرہی ہیں کہ حد نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب آپ تک اتنی شکایات باوجود دور ہونے کے آرہی ہیں تو مجھ تک لکنی پہنچتی ہوں گی۔ مگر میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ ابا جان کے انتقال کے بعد قرضہ تو آٹھ ہزار کا تھا اور کتب خانہ نیلام کی حیثیت سے پانچ ہزار کا تجویز کیا جا رہا تھا۔ میں نے دوچھ بھی کر لیے اگرچہ میرے اخراجات میں کتب کو دخل کم ہے۔ محض اللہ کے فضل و کرم کو دخل ہے ظاہری اسباب میں کتب خانہ ہی ذریعہ تھا ہدایا وغیرہ کا

سلسلہ اس وقت تک شروع نہ ہوا تھا اور جو ہوتا بھی تو مجھے اس سے وحشت بھی بہت ہوتی تھی اپنی شادی کی اور اپنی ہمسیرہ کی بھی کی، مہماںوں کا سلسلہ بھی رہتا ہی ہے اور یہ تو آپ کو مولوی نصیر نے اسی وقت لکھ دیا تھا کہ کتب خانہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ کہ میں واقعی کتب خانہ میں جا کر قدم نہیں رکھتا اور مجھے اپنی تصنیف و تالیف و تدریس سے اتنی فرصت بھی نہیں، اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ محنت کر رہا ہے اور مضراب کے طریق پر آدھا تھامی مجھے بھی دے دیتا ہے تو اس میں شکایت کی کیا بات ہے۔

میرے پچاچان نور اللہ مرقدہ اس جواب پر بہت ہی خوش ہوئے اور اتنی دعا میں ذوق و شوق سے دیں کہ مجھے بھی لطف آگیا۔ اللہ تم کو بہت ہی خوش و خرم رکھے، بہت ہی برکت عطا، فرمادے، اللہ کا بہت ہی احسان ہے کہ اس سید کار کے اوپر ابتداءً اکابر کی اور اب دوستوں کی دعاؤں کی وہ بھرمار ہے کہ کم کسی کو نصیب ہوتی ہوں گی سب سے ابتدائی دعا میں تو اعلیٰ حضرت رائے پوری کی جو میرے والد صاحب کے انتقال کے فوراً بعد ہی میرٹھ تجارتی کتب خانہ منتقل نہ کرنے پر میں تھیں کہ اصل شمرہ تو میں ان ہی دعاؤں کا سمجھ رہا ہوں اور اس کے بعد میرے حضرت قدس سرہ اور حضرت تھانوی اور جملہ اکابر کی دعا میں شامل حال رہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمادے۔ اس کے تھوڑے دن بعد مولوی نصیر الدین صاحب نے ہم کو لال جھنڈی دکھلائی کہ تمہارے مہماںوں کا خرچ میرے بس کا نہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ میری اور میرے مہماںوں کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے تیرے ذمہ نہیں۔ اس کے بعد سے اگر میں یہ کہوں کہ مالی احسان تو ان کا مجھ پر نہیں رہا بلکہ اس کا عکس ہی ہوا تو بے محل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب چند سال سے میری کتابوں کی طباعت کا سلسلہ بھی بجائے ان کے میرے مخلص عزیز داما دمولوی حکیم الیاس کے ذمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جملہ میرے محسنوں کو اپنی شایان شان بدلت عطا، فرمادے۔ مگر وہ بھی مسلسل امراض کا شکار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا، فرمادے۔ میں یہ لکھ رہا تھا کہ عزیز مولوی نصیر الدین کے ابتداءً مالی بھی اور انتہاءً جانی احسانات بہت بڑھ گئے۔ مہماںوں کا ہجوم اور بہت سے حضرات بے وقت دن میں ظہر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد بے اطلاع آتے ہیں، مجھے تو بعض مرتبہ بڑی کلفت پہنچتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ مولوی نصیر کو جزاً خیر عطا، فرمادے کہ وہی ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور قرآن پاک کے مکاتب کے جاری کرنے کا بھی اس کو بہت شوق ہے اور انشاء اللہ اس کی مغفرت کے لیے یہ چیزوں کافی سمجھتا ہوں، لیکن اس کے بالمقابل مقدمات اور ان کی پیروی سے بھی اس کو عشق ہے جس سے مجھے انتہائی نفرت ہے، اپنا نہ ہو تو دوسروں کے مقدمہ میں دلچسپی لینا اس کے لیے کھانا ہضم کرنے کا بہترین چوراں ہے۔

اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔ اس ناکارہ کو تو مقدمہ کے لفظ سے اتنی نفرت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر کسی مقدمہ کا ذکر آ جاتا ہے تو امتلا ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس بلاست نجات عطا فرمادے۔ اس ناکارہ کو تو مقدمات سے اتنی نفرت ہے کہ ہماری جدی جائیداد جھنچھانے میں ایک لاکھ روپے سے زائد بتلائی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد ۳۶ ہمیں جھنچھانے کے چند نوجوان شرفاء میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تمہاری جائیداد کی ہم نے تحقیق کرائی ہے وہ اسی ہزار ۸۰،۰۰۰ روپے کی ہے، ہم لوگ اس کے خریدار ہیں۔ بالقطع تیس ہزار ۳۰،۰۰۰ میں اس کو خریدنا چاہتے ہیں، روپیہ نقد دیں گے اور ضمانت کے لیے ہم کوئی دھوکہ نہیں کر رہے اور آپ کے اطمینان کے لیے میرے والد کے حقیقی ماموں مولانا روف الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وکیل مظفر نگر، میرے حقیقی پھوپھا مولانا رضی الحسن صاحب کانڈھلوی (مولانا انعام الحسن صاحب امیر اتباعی نظام الدین دہلی کے حقیقی جدا مجدد) اور میرے رشتہ کے دوسرے پھوپھا حکیم عبدالحیمد صاحب رئیس پڈھ ولی اور میرے بعض اعزہ کا بھی نام لیا کہ اپنے تعارف اور توثیق کے لیے ان سب کی تحریریات بھی آپ کو لادیں گے۔ آپ سہارپوری میں رہیں گے صرف ایک بعنایہ تیس ہزار نقد میں اس مضمون کا لکھنا ہو گا کہ میں نے اپنی جائیداد جو جھنچھانے میں ہے بعوض تیس ہزار فلاں فلاں کے ہاتھ فروخت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ آگے مقدمات کرنا اور ان کے قبضہ سے چھڑانا یہ سب کام ہم خود کریں گے۔ تیرا اس سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ تم اکابر خلائشہ مذکورہ سے اس سلسلہ میں مشورہ کرلو۔ ہم ان کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق مولوی زکریا کی ذات سے ہے وہ ہر قسم کی توثیق اور ہم لوگوں کے متعلق اطمینان دلانے کو تیار ہیں میں نے شدت سے انکار کر دیا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی اور بار بار تعجب سے سوال بھی کرتے رہے کہ تم کو اتنی بڑی رقم نفلتی رہی میں ہے پھر کیوں انکار کرتے ہو، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو گا، میں نے ان سے کہا کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں جب بائع ہوں گا تو مدعاعلیہ میں کیوں نہیں بنوں گا، مقدمات کی لغویت میرے بس کی نہیں، میں طالب علم آدمی ہوں مجھے طلب علم میں جوں رہا ہے اس پر تیس ہزار نہیں اس پر تیس لاکھ بھی قربان ہو سکتے ہیں اللہ ان دوستوں کو جزاۓ خیر عطا فرمادے کہ وہ بھی میری مدد کے واسطے آئے تھے، مگر ان مقدمات کی وحشت نے مجھے ذرا بھی ان کی بات کی طرف متوجہ نہ کیا۔

### حضرت سہارپوری کا دب کر مصالحت کی کوشش کرنا:

اس وقت ایک لطیفہ اور یاد آگیا معلوم نہیں کہ اپنے حضرت مرشدی سہارپوری کے حالات میں لکھوا چکا ہوں یا نہیں، حضرت قدس سرہ کا انتہشہ میں اُس کی عزیز سے کوئی نزاع ہوا۔ جس میں حضرت

قدس نے دب کر صلح اور فیصلہ کرنا چاہا اور ان کے مطالبہ کے حق میں کچھ رقم دینی چاہی۔ ان صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے ایک دفعہ اضافہ فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا اور پھر تیسرا مرتبہ بھی کچھ اضافہ کیا مگر وہ صاحب ہر مرتبہ صلح سے انکار کرتے رہے۔

تیسرا مرتبہ کے بعد حضرت نے ان کو پیام بھیجا کہ اب مصالحت ختم ہے دعویٰ کرو یا جائے۔ اس پر ان صاحب کا پیام آیا کہ میں مصالحت آخری نمبر پر تیار ہوں، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب تو نمبر ایک پر بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ اب جو کچھ ہو گا عدالت میں ہو گا۔ تم نے یہ سمجھا ہو گا کہ مولوی ہے مقدمہ کے لفظ سے ڈر جائے گا اور میں عزیز داری اور آپس میں نزاع کم کرنے کے واسطے دیتا چلا گیا۔ مگر تم نے یہ نہیں سوچا ہو گا کہ میں جہاں ایک طرف مولوی ہوں، دوسری طرف اپنہ کاشش زادہ بھی ہوں، اب کسی حال میں صلح نہیں ہے۔ انہوں نے کئی صاحب کے ذریعہ ابتدائی درجہ پر صلح کرنی چاہی، مگر حضرت نے انکار فرمادیا پھر انہوں نے دعویٰ کیا اور وہ ناکام ہونے، ان ناکامی کے بعد حضرت قدس سرہ نے ان سے کہلوایا کہ یہ تو میں نے آپ کی ہست و ہرمنی کی وجہ سے کیا، اب بھی جتنا آپ کا حق شرعی ہے وہ میں دوں گا۔ چنانچہ حضرت نے وہ ان کو مرحمت فرمادیا۔

(۲۰)..... ایک نہایت اہم اور ضروری امر جو میں آپ بیتی نمبر ۳ میں غالباً کئی جگہ لکھوا چکا ہوں اور آپ بیتی نمبر ۲ و نمبر ۳ میں بھی اس کا کچھ مضمون گزرائے کہ میں مدرسہ کے مسئلہ میں وقت کے مال میں اپنے بڑوں سے اور اپنے دوستوں سے کبھی لڑنے میں نہیں چوکا اور چھوٹوں سے تو پوچھنا ہی کیا۔ اس وجہ سے کہ میں نے اپنے اکابر کے اکابر کو اس میں بہت ہی محتاط پایا۔

اس سلسلے میں کئی قصے آپ بیتی نمبر ۳ میں لکھوا چکا ہوں کہ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسہ کے اس باقی کے وقت میں اگر کوئی شخص کسی ذاتی بات کے لیے آتا تو وہ گھنٹہ دیکھ لیا کرتے تھے اور اتنے مت نوٹ کر لیتے تھے جتنے بات میں خرج ہوئے اور مہینہ کے ختم پر ان کے گھنٹہ بنا کر اگر آدھے دن سے کم ہوتے تو آدھے دن کی رخصت درج کرتے اور آدھے دن سے زائد ہوتا تو پورے دن کی رخصت فرماتے تھے۔

میں یہ بھی لکھوا چکا ہوں کہ حضرت مولانا عنایت الہی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ مہتمم مدرسہ بھی تھے اور مفتی مدرسہ بھی اور عدالتی کاروبار کے لیے کوئی مستقل شخص نہیں تھا۔ سب مقدمات کی خود ہی پیروی کرتے تھے اور ان کے لیے دہرہ دون بھی اکثر جانا ہوتا تھا۔ لا ریاں اس زمانے میں نہیں تھیں، ریل سے یا ایک منزل بیچ میں رُک کر گھوڑے تانگے سے جانا ہوتا تھا محرکو ساتھ لے کر خود تشریف لے جاتے تھے۔ محصل چندہ شہر جب یہ شکایت کرتا کہ فلاں فلاں شخص نے چندہ نہیں دیا تو وہ ایک کاغذ پر ان کا نام و پتہ لکھ لیتے اور ان کے مکان پر خود تشریف لے جاتے۔ اس کو میں پہلے

تفصیل سے لکھوا چکا ہوں اور وہ اپنی معدود ری کی وجہ سے عموماً صحیح کو اپنی ڈولی میں تشریف لاتے۔ ساری دو پھر گرمی میں بھی مدرسہ کا کام کرتے رہتے تھے۔ ظہر کی اذان سے آدھ گھنٹہ پہلے دفتر میں ہی زمین پر لیٹ کر آرام فرماتے۔ اس کے باوجود ۲۳ھ میں حضرت قدس سرہ جب طویل قیام کے لیے جماز تشریف لے جا رہے تھے اور غیبت کے انتظامات کا پرچہ لکھوا یا تو حضرت مولا ناعنايت الہی صاحب کے متعلق لکھوا یا کہ وہ اپنی ضعف و پیری کی وجہ سے مدرسہ کے اوقات کی پابندی نہیں کر سکتے، اس لیے آئندہ ہر قسم کے گرید اور ترقی سے مستثنی رکھے جائیں۔

میں بہت ہی گستاخ تھا اور حد سے زیادہ بے ادب۔ میں نے بارہ اسفارش کی کہ حضرت دو تین آدمیوں سے زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کے کام بھی گنوائے، حضرت نے فرمایا کہ یہ سب صحیح ہے مگر ان کے دفتر میں دیرے سے آنے سے سارے ماتحتوں پرا شرپڑتا ہے اور ما تحت بھی وقت کی پابندی میں سُستی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے جب بھی میں کسی مدرسہ کے ناظم یا مہتمم یا کسی بھی ذمہ دار کو مدرسہ کے اوقات میں تاخیر کرتے دیکھتا ہوں تو ”من رأى منكم منكراً“ الحدیث کی بنا پر ہاتھ سے روکنے کی تو کہیں بھی قدرت نہیں ہے لیکن زبان سے جہاں کہہ سکتا ہوں وہاں کسر نہیں چھوڑتا ہوں اور جہاں اس کی بھی قدرت نہ ہو وہاں قلبی تعلقات پر تو بے اختیار اثر پڑتا ہے۔

میرے بہت سے مخلص دوست ایسے جن سے مجھے بہت ہی قلبی محبت تھی مدرسہ کے قصوں نے مجھے ان سے یا ان کو مجھ سے بہت ہی دور کر دیا، میں شاید یہ بھی لکھوا چکا ہوں کہ اب کی تو خبر نہیں کہ مجھے حالات کا علم نہیں رہا مگر جب حالات کا علم ہوتا رہتا تھا تو میں نے کثرت سے اس کا تجربہ کیا کہ جس نے بے وجہ کسی ذاتی ضرورت کی وجہ سے رخصت اتفاقی کے بجائے رخصت یہاری کی، وہ یا تو واقعی یہار ہوا اور یا کوئی مالی نقصان پہنچا، دیوں واقعات مجھے خوب یاد ہیں،

ایک صاحب کسی گاؤں کے رہنے والے جمعرات کے دن کچھ وقت سے پہلے چلے جاتے اور شنبہ کے دن گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد آیا کرتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ناصحانہ سمجھایا اور تنبیہ بھی کی لیکن انہوں نے التفات نہیں کیا۔ ان کے یہاں اتنی زوردار چوری ہوئی کہ بہت ہی رنج و قلق ہوا اور یہ تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ کوئی یہاری یا ناحق کا مقدمہ ایسا پیچھے لگتا ہے جو بہت ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہی معاف فرمائے اور میرے اکابر کو میری گستاخیوں اور بے ادبیوں پر بہت ہی بہتر سے بہتر بدله عطا فرمائے۔

میں نے ایک دفعاً پن مخدوم سیدی و سندی حضرت شیخ الاسلام مولانا مدفنی قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت کی علوشان کی وجہ سے کوئی کہہ سکے یا نہ کہہ سکے مگر حضرت کے اسفار کی کثرت تباخوا کے ساتھ بہت دل میں ٹکلتی ہے۔ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ملازمت کے

وقت ان سب چیزوں کو مجبراً مدرسہ سے طے کر لیا تھا کہ میں ان وجوہ سے اسفار پر مجبور ہوں اور پھر حضرت نے وہ شرائط نامہ بھی مجھے دکھایا جو ہر وقت حضرت کے بیگ میں رہتا تھا۔ اس میں واقعی اس سے بہت زیادہ کی گنجائش دی ہوئی تھی جتنے حضرت اسفار فرمایا کرتے تھے اور اہل مدرسہ بھی مجبور تھے کہ جن حالات میں انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کے پاؤں پکڑ کر بلکہ اقدام پر ٹوپی رکھ کر مدرسہ میں قیام کی درخواست کی تھی، اس وقت میں حضرت مدینی قدس سرہ کے علاوہ دارالعلوم کو سنبھالنے والا کوئی اور نہیں تھا ایک مرتبہ اس ناکارہ نے اپنے پچاچان سے بھی عرض کیا تھا کہ آپ مبلغین کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اس کا کوئی ضابطہ اور قانون ضرور ہوتا چاہے۔ قصہ تو بہت لمبا ہے۔ پچاچان نے ارشاد فرمایا کہ میں تبلیغ کی مد میں کسی شخص کا چندہ قبول نہیں کرتا۔ میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود خرچ کریں اور مجھ سے مشورہ کریں، لیکن جو شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ کی ملک ہے آپ کو کلی اختیار ہے کہ اپنے اوپر خرچ کریں یا کسی دوسرے پر، وہ میں لے لیتا ہوں۔ جب یہ ناکارہ ۳۶ھ میں ایک سالہ قیام کے بعد ججاز سے ہندوستان واپس آیا اور مستقل طور پر تختواہ لینے کا ارادہ سر پرستان سے ظاہر کیا کہ میں مدرسہ میں شام کے دو گھنٹے کے علاوہ نہیں دے سکتا کہ صحیح کا وقت میری تالیف و تصنیف کا ہے تو حضرات سر پرستان نے یہ کہا کہ ہم شام کے دو گھنٹے کے لیے تجھے پوری تختواہ دیں گے۔ اس ناکارہ نے کہا کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک تھائی وقت میں آپ پوری تختواہ کیسے دے سکتے ہیں؟ سر پرستان حضرات نے فرمایا کہ مدرسہ کی مصالح اور ضرورت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو کتنی تختواہ دیتی چاہے۔ میں نے کہا کہ آپ حضرات اپنے پاس سے مرحمت فرمادیں تو سارے انکھوں پر لیکن مدرسہ کے مال سے مجھے خود بھی سوچنا چاہیے کہ میں اتنی تختواہ کا مستحق ہوں یا نہیں؟ ان حضرات نے بہت اصرار فرمایا مگر اس ناکارہ نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے اکابر نے ہمیشہ بالخصوص میرے حضرت قدس سرہ نے ترقی کو یہ کہہ کر انکار کیا کہ میری حیثیت کے موافق یہ موجودہ تختواہ بہت ہے۔

بلکہ ذی قعده ۳۲ھ میں جب حضرت قدس سرہ کی ججاز کے طویل سفر سے واپسی ہوئی اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت نے تختواہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اب تک مولا نا یعنی صاحب میری جگہ سبق پڑھاتے تھے اور میں اور وہ دونوں مل کر ایک مدرس سے زیادہ کا کام کرتے تھے، لیکن مولا نا کے انتقال کے بعد میں ایک تھا ایک مدرس کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے مدرسہ کی تختواہ لینی مجھے جائز نہیں۔

غائبًا پہلے بھی یہ قصہ لکھا جا چکا ہے، بہت طویل قصہ ہے، اسی بناء پر اس ناکارہ کو اس مسئلہ پر

بہت ہی خوف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی میری لغزشوں کو معاف فرمادے۔ میں اپنے دوستوں میں جب کسی شخص کے متعلق مدرسہ کے اوقات میں یا معاملات میں تباہی دیکھتا ہوں تو بہت ہی طبیعت کو تکدر ہوتا ہے۔ میں چاہے اس کوٹوک سکوں یا نہیں، لیکن طبیعت اندر سے بہت مکدر ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل مدرسہ کے معاملات میں جس کو محتاط دیکھتا ہوں اس سے اگر میرا کوئی تکدر پہلے سے ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غالباً قاری سعید مرحوم کا قصہ بھی لکھوا چکا ہوں کہ ابتداءً ان سے تعلقات کچھ کشیدہ ہی رہے مگر صرف دو باтол نے ابتداءً میرا قرآن پاک سننے سے مدرسہ کے وقت میں انکار کیا اور اس کے بعد انہوں نے اجر اڑہ کے مدرسہ میں بکار مدرسہ جانے کو باوجود مخفی اس وجہ سے کہ وہاں ان کا گھر تھا انہوں نے رخصت لکھوائی۔ ان کو ایسا محبوب بنایا کہ ”ندمانی جزیمة“ بنادیا۔ گو موجودہ مدرسہ کے عملے میں بہت سے لوگوں کی تحقیقات بھی کرا رہتا ہوں کہ کون کون وقت پر مدرسہ کے دفاتر میں آیا اور آئے کے بعد مدرسہ کے کام میں مشغول ہے یا الغویات میں، اسی طرح سے مدرسین میں بھی باوجود یہ کہ میں اب اپنے اعذار و امراض کی وجہ سے تقریباً دو سال سے مدرسہ کے انتظامات سے غیر متعلق ہوں، پھر بھی اکثر آدمی بحیث کریا آنے والے دوستوں سے تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ کس مدرس نے وقت پر سبق شروع کرایا اور وقت پر ختم کرایا اور کس نے اول یا آخر میں زیادتی کی۔ ادل اللہ کر لوگوں کی دعوت کرنے کا بھی مجھ پر تقاضہ رہتا ہے اور ان کی مدارات کا بھی اور ثانی الذکر اشخاص کے متعلق طبیعت میں تکدر بڑھتا رہتا ہے۔

علی گڑھ کے اندر جو مواد ذہن میں تھا وہ سب ختم ہو گیا اور ان واقعات کے لکھوانے میں مزید مضامیں بھی ذہن میں آئے، مگر ایک تو رمضان کے بعد سے طبیعت بہت ہی خراب چل رہی ہے۔ کچھ دنوں تک میں رمضان کے بعد کا تکان سمجھتا رہا۔ مگر طبیعت روز افزول گرتی جا رہی ہے ادھر ماہ رمضان المبارک سے سفر جاز کا بھی ذکر و تذکرہ زوروں پر ہے، اگرچہ اپنے امراض ظاہرہ و باطنہ کی بناء پر امید تو نہیں کہ حاضری میسر ہوگی، مگر جیسا کہ پہلے بھی متفرق جگہ لکھ چکا ہوں کہ مجھے معمولی سفر کا بھی کہم بہت سوار ہوتا ہے، دہلی تک کے سفر میں کئی دن پہلے سے دورانِ سر اور حرارت شروع ہو جاتی ہے اور سفر سے واپسی کے بعد کئی دن تک اثر رہتا ہے اور یہ تو بہت طویل سفر ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کا اثر بھی بہت ہو رہا ہے۔ اس لیے اب تو دوستوں سے رخصت ہوتا ہوں:

پھر بھی آئیں گے گر خدا لایا

اگر موقع ہوا تو ممکن ہے کہ اس سلسلہ کا پانچواں اور چھٹا حصہ بھی مکمل ہو گا۔ انشاء اللہ اکابر و احباب کے بہت ہی قصے یاد آتے چلے گئے اور لکھنے کے دوران میں اس خیال سے بہت سے قصے اس لیے بھی چھوڑ دیے کہ اس تحریر سے کوئی دینی یاد نیا وی نفع سمجھنے میں نہیں آیا، مگر بار بار چھوڑنے کے بعد دوستوں کے اصرار پر کہ علی گڑھ میں جو کچھ مسودہ کی شکل میں لکھا جا چکا ہے اس کی تبیض ضروری ہے اس کو پورا کر دیا۔

واللہ الموافق لما یحب و یرضی و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و الہ و صحبہ و بارک وسلم تسليماً کثیراً کثیراً۔

زکریا کاندھلوی

۹ ذیقعدہ ۱۳۹۰ھ

صیحتہ یوم الخمیس



## ضمام

**نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِہِ الْکَرِیمِ**

یہ ناکارہ اوائل ذیقعدہ ۹۰ھ میں حج کو جاتے ہوئے یہ مسودات اپنے دوستوں کو جو طباعت کا کام کر رہے ہیں حوالہ کر گیا تھا۔ واپسی پر ۲۳ جون اے مطابق ۶ ربیع الثانی ۹۱ھ کو دہلی پہنچا، وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ آپ بیتی نمبر ۳ کی طباعت ہو چکی، جس کے چند نسخے مجھے دہلی میں ملے اور میں نے اسی وقت وہیں سے اپنے ایک مخلص دوست کے ہاتھ چھ (۶) نسخے حجاز مقدس بھیج دیے کہ میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ جو کتاب بھی طبع ہوتی ہے اس کا پہلا نسخہ ہمیشہ مدینہ پاک کی دوست کے پاس بھیجنے کا اہتمام رہا۔ عربی ہو تو سید محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں بھیجتا تھا یا مدرسہ شرعیہ میں اور اب سید صاحب کے وصال کے بعد سے ان کے صاحبزادے سید حبیب صاحب کے پاس بھیجتا ہوں اور اگر اردو میں ہو تو اردو وال دوستوں میں سے کسی کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ان چھ نسخوں میں سے دو مدینہ پاک کے احباب کے تھے اور چار کمی احباب کے۔ چند ہی دنوں میں اس کے بہت سے نسخے مفت یا قیمتاً ختم ہو گئے۔ اتفاق سے میرے مخلص دوست مولانا عبدالحکیم جو نپوری مظاہری جن سے ان کے دورہ شریف پڑھنے کے زمانے میں بہت ہی خصوصی تعلقات ہو گئے تھے، چونکہ خوش قلم تھے اس لیے میری بہت سی چیزوں کی نقل کرنے کی بیگار بھی مولانا موصوف کے ذمہ تھی اور اب تو وہ مدرسہ ضیاء العلوم جو نپور کے ناظم ہونے کے علاوہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی کے اجل خلفاء میں ہیں، مجھ سے ملنے کے واسطے آئے۔ میں نے آپ بیتی نمبر ۳ ان کو دی اور میرے ہی پاس بیٹھ کر انہوں نے دیکھنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے فرمایا کہ دوسرے صاحبزادے کی پیدائش تو اس زمانے میں تھی جس زمانہ میں میں دورہ میں تھا۔ ہم لوگوں نے دورہ کی جماعت کی طرف سے متفقہ شیرینی کا مطالبہ بھی کیا تھا اور بہت زور دار شیرینی بھی آپ سے وصول کی تھی، غور سے دیکھنے سے مجھے بھی معلوم ہوا کہ یہاں دوڑکوں کے دو قصے غلط ہو گئے۔

اس کے علاوہ عزیزم الحاج محمد شیم بن برادرم الحاج محمد سلیم مہتمم مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ سے خط آئے شروع ہوئے، اس میں آپ بیتی نمبر ۳ پر کچھ اشکال اور کچھ اضافوں کے اصرار کیے۔ میں نے ان کو لکھ دیا کہ اصلاحات تو جب بھی سمجھے میں آئیں ضرور لکھیں مگر اضافوں کی گنجائش نہیں۔ اس وقت چونکہ آپ بیتی نمبر ۵ کی کتابت قریب اکتم ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ۲۲ جمادی الثانی ۹۱ھ مطابق ۱۱۵ اگست اے تک اصلاحات و اضافات جو موصول ہوئے ہیں انہیں نقل

کرا دوں کہ اس وقت یہ حصہ کتابت کے بعد پر لیں میں جارہا ہے۔ آیندہ بھی کوئی چیز حصہ پنجم کی طباعت سے پہلے ملی تو اس میں شامل کر دی جائے گی اور اس کے بعد ملی تو احباب اصلاح کرتے رہیں گے۔ کیونکہ یہ رسالے میں نے جبکہ آنکھوں پر پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ بیماری کی حالت میں علی گڑھ کے شفاخانے میں لکھوانے تھے اس لیے املاع میں کچھ تصحیح بھی ہوا ہے۔

### اصلاح متعلقہ تولد ولاداں:

(۱)..... آپ بیتی نمبر ۳ پر دلوڑکوں کا قصہ غلط ہو گیا ہے۔ صحیح عبارت یہ ہے کہ ”میری سابقہ اہلیہ سے ایک لڑکا محمد موسیٰ نام رمضان ۲۳۴ھ میں سہارنپور میں پیدا ہوا، چند ماہ بعد نظام الدین میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت تو اس کے انتقال کا قصہ لکھا تھا۔“ یہاں سے لے کر آخر تک کی عبارت صحیح ہے اور اس سے اوپر کی چند سطریں ”میری اہلیہ سے ایک لڑکا طلحہ کا بڑا بھائی پیدا ہوا جس کا نام عبدالجعیں تھا۔“ یہ دوسرے لڑکے کا قصہ ہے۔ پہلے لڑکے کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ چچا جان کے خط سے اس کے انتقال کی اطلاع ہوئی میں اس وقت بذل الحجه و لکھوار ہاتھا، اخیر تک عبارت صحیح ہے اور دوسرے صفحہ پر دوسرے دن ڈاک سے عزیز یوسف کا خط آیا، یہاں سے لے کر اخیر تک کا واقعہ دوسرے لڑکے عبدالجعیں کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس بچہ کی پیدائش ۱۸ اربعین الثانی ۵۸ھ نظام الدین میں پختہ نبہ کو ہوئی۔ اسی کا نام عبدالجعیں تھا۔ مجھے اس معصوم کے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے انتقال کے بعد اگلے دن کی ڈاک سے اخ یہ عبارت صحیح ہے، آگے کے اشکالات عزیزم الحاج شیم کی کے خطوط سے منقول ہیں۔

### اصلاح بسلسلہ نکاح ماموں یا میں:

(۲)..... میں نے آپ بیتی نمبر ۳ پر ماموں یا میں کی شادی کا قصہ نقل کیا ہے اس پر عزیزم الحاج محمد شیم کی کا خط پہنچا، جس میں لکھا کہ ماموں عثمان کی عدم شرکت میں آپ سے سہو ہوا۔ وہ تو شریک تھا اور ان کی شرکت میں بڑے اطائف گزرے۔ ان کا خط بعدنہ نقل کرتا ہوں، نیز میں نے ان کو جواب لکھوادیا کہ میرا مناظرہ یا حکم عدولی دادار و فائز مرحوم سے جو ہوئی تھی وہ ولیمہ میں شرکت کے متعلق تھی۔ ولیمہ میں ان کی شرکت قطعاً نہیں تھی، اسی پر میرا مناظرہ تھا۔ اب یاد آیا کہ نکاح میں شرکت کے بعد ماموں عثمان صاحب ولیمہ میں شرکت سے مغدرت کر کے میری طرح پہلے ہی چلے گئے تھے۔ چونکہ یہ ساری بحث ولیمہ ہی کے متعلق تھی میں سمجھا کہ شاید نکاح میں بھی وہ شریک نہ ہو سکے تھے نیز بھائی اکرام کے کارڈ سے ایک شعر میں نے لکھا ہے (آپ بیتی نمبر ۳ پر) اب رسالہ طبع ہونے پر بھائی اکرام صاحب نے بقیہ اشعار بھی سنادیے، وہ یہ ہیں:

جانتا نہیں میں قبلہ قبلی بس بات یہ ہے کہ بھائی شبلی تکلیف فرماؤ آج کی رات لکھانا یعنیں لکھاؤ آج کی رات حاضر جو کچھ ہو دال دلیے سمجھو اس کو پلاو قلما

### نقل مکتوب بھائی شیمیم سلمہ:

بعد سلام مسنون! آپ نے آپ بیتی نمبر ۳ پر پھوپھایا میں صاحب کی شادی کے مضمون میں اباروف الحسن صاحب مرحوم کے تذکرہ کے ساتھ خالو عثمان صاحب مرحوم کا پھوپھایا میں صاحب کی شادی میں شریک نہ ہو سکنے کا ذکر فرمایا ہے۔ بھائی ابا (جناب الحاج محمد سالم صاحب ناظم مدرسہ صولتیہ) کو اور پھوپھایا میں کواس پر حیرت ہے کہ شاید خالو عثمان مرحوم کا نام لکھنے میں سہو ہو گیا اول تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالو عثمان شریک نہ ہوئے ہوں۔ کیونکہ شادی کے کرتا دھرتا وہی تھے۔ دوسرے یہ دلچسپ واقعہ خالو عثمان صاحب ہی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ پھوپا کی شادی میں رات کو خوب زور دار بارش ہوئی، بارات کو مولوی بدرا الاسلام صاحب کے وسیع مکان میں پھرہایا گیا تھا جس کے بے حد وسیع صحن اور چبوترے پر شامیانہ لگایا گیا تھا اور یہ شامیانہ خصوصی طور پر مظفر نگر سے نواب لیاقت علی خاں (وزیر اعظم پاکستان) یا ان کے والد کے یہاں سے آیا تھا اور انہوں نے ہی بڑے شوق سے بھیجا تھا۔ شادی میں کنور عنایت علی خان بھی مع اپنے لੜگاڑوں کے شریک تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا مولوی کی بے مزہ شادی ہے، سارے مردے آکر جمع ہو گئے ہیں۔ رات کو عشاء کے بعد زور دار بارش شروع ہوئی، یمنکڑوں آدمی شامیانے کے نیچے سور ہے تھے کہ ایک دم قیامت کا شورا تھا اور یہ جب جنگ شامیانہ ثُوث کراس طرف جھک گیا جدھر سب سے الگ خالو عثمان صاحب کا پلنگ تھا۔ شامیانے پر جتنا پانی تھا وہ سارا دھل کر خالو عثمان پر گرا، وہ اور ان کے ساتھ ۵، ۱۰ آدمی ہزاروں مشکل ٹھنڈے پانی میں نہا گئے۔ لوگوں کے بستر بھیکے، شامیانے کے ڈنڈے اور لکڑیاں لوگوں کے سروں میں لگیں۔ لوگ اندھیرے میں اٹھ کر بھاگے تو کسی کا پاؤں کسی کے چہرے پر تو کسی کے پیٹ پر۔ رات کے اندھیرے میں اور بارش میں وہ افراتفری پھی کے لطف ہی آگیا۔ سب سے زیادہ خالو عثمان کی بیٹی۔ صبح کوتاشتہ پر کنور صاحب مرحوم نے اعلان فرمایا کہ رات والا گارنامہ ان کا تھا اور انہوں نے اپنے ایک نوکر کو چھت پر چڑھا کر شامیانے کی رسیاں کٹوادی تھیں اور بار بار یہ کہتے تھے کہ مکہ کی لوٹنڈیا ہے (اس لیے کہ تائے سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیرانوی مہتمم مدرسہ صولتیہ مکہ معظمه کا قیام مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور ان کی صاحبزادی سے یہ نکاح ہوا تھا) اور کاندھلہ کے مولویوں کا لوٹنڈا۔ ان دونوں کی شادی میں تفریح نہ ہوئی تو کیا میری شادی

میں ہوگی اور اپنے تکلیف کلام گالی دے کر کہنے لگے کہ شامیانہ میں نے کٹوایا ہے، جس ماں کے پوت میں ہمت ہوسا منے آجائے۔ الغرض کنور صاحب نے اس شادی کو باعث و بہار بنا دیا۔ خالو عثمان صاحب کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا تو کنور صاحب نے زبردستی اپنا جوڑا ان کو پہنایا۔ بھائی ابا کا خیال ہے کہ کنور صاحب کے بنسی مذاق اور مہکلوں پن پرشاید کوئی فقرہ خالو عثمان صاحب نے کہہ دیا تھا جس کا انتقام کنور صاحب نے اس طرح لیا کہ شامیانے کی تین طرف کی رسیاں اس طرح کٹوائیں کہ سارے اپانی آدمی رات کو بے چارے خالو عثمان پر گرا۔

فقط

### الجواب:

عزیزم شیم نے جو قصہ پارش وغیرہ کا لکھوا یا وہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں تو اپنے ہم عمروں کے ساتھ ایک مستقل مکان میں تھا، لیکن میں نے جو واقعہ ولیمہ کے سلسلہ میں لکھوا یا اس میں کوئی تردید نہیں اور میرے دادا رؤوف الحسن صاحب مرحوم سے یہ کہنا کہ ماموں عثمان صاحب کی کیا مجبوری ہے ملازمت ہی تو ہے چھوٹ جائے گی تو اور کہیں مل جائے گی۔ مگر میں حضرت (قدس سرہ) سے ایک دن کی اجازت لے کر آیا ہوں، خوب یاد ہے اور دادا رؤوف الحسن صاحب کا انتہائی غصہ کی وجہ سے سکوت کا منظر اور چہرہ کا تغیر بھی میرے سامنے ہے، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ میری طرح سے ماموں عثمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی صرف نکاح میں شریک ہوئے ہوں گے ولیمہ میں نہیں شریک ہوں گے، جس کو میں نے دلیل بنایا۔ عزیزم الحاج محمد شیم سلمہ، مکی نے کنور صاحب کے متعلق جو کچھ لکھا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اللدان کو معاف فرمائے، مرحوم کے کارنامے اس سے بہت اونچے اونچے ہیں۔ میرے کانڈھلوی اکابر اقارب سے بہت ہی خصوصی دوستانہ سے بھی بڑھ کر تعلقات تھے۔ ۱۵، ۲۰، ۲۰، ۱۵، ۲۰ دن کانڈھلہ میں مستقل قیام کرتے تھے۔ قصبہ اولیٰ ضلع مظفرنگر کے مشہور ریس تھے۔ اس واقعہ کے ساتھ مرحوم کے بیسیوں واقعات دل و دماغ میں گھوم گئے۔

میرے بچپن میں ان کا بڑھا پا تھا۔ نمونہ کے طور پر دو تین واقعات ان کے بھی لکھوادیتا ہوں۔

(الف)..... میری عمر آٹھ سال سے زائد نہ تھی۔ اپنی والدہ کے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے کانڈھلہ جانا ہوتا تھا۔ ہمارے مکان کے قریب مظہر الحق مرحوم کا مکان تھا، اس زمانہ کے آپس کے تعلقات کا تو اگر اب ذکر بھی کیا جائے تو شاید یقین نہ آئے۔ آپس میں اتنی محبتیں تھیں کہ جنت کے تعلقات کا جو منظر احادیث میں پڑھا ہے: "قُلْوَبُهُمْ عَلَى قُلُوبِ رِجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغِضُ" یہ اپنے اکابر اقارب میں بہت دیکھا کنور صاحب ڈپٹی صاحب کے چبوترے پر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نالی اماں کے مکان سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہا

تحا۔ مجھے آواز دی بیٹا یہاں آنا۔ میں چبوترہ پر چڑھ کر ان کی کری کے پاس گیا، انہوں نے اپنی دونوں بائیں میری گردن میں ڈالیں اور میرے سر پر بڑی محبت سے دونوں ہاتھ پھیرے اور کہا کہ بیٹا دیکھ! او بیٹا! مرنے کے بعد تو توجنت میں ضرور جانے کا اور وادا دوزخ میں پڑا ہوا ہو گا۔ میں دیکھ دادا کا ہاتھ پکڑ کر دوزخ سے کھینچ کر اپنے پاس لے جائیے۔

(ب)..... ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے بیٹا! قرض حنے جانے کے کہتے ہیں؟ ہم حقیقت تواب تک بھی نہیں جانتے مگر جو سناتھا کہ ثواب کی نیت سے بغیر سود کے اللہ کے واسطے قرض دے اپنی کوئی غرض نہ ہو، اس قسم کی کوئی بات میں نہ کہی، کہنے لگا بیٹا یوں نہیں۔ تو نہیں جانتا یہ قرض حن نہیں قرض ہنستا ہے کہ کسی سے بڑے پکے وعدے پر قرض لے اور جب وہ غریب وعدہ پر مانگنے آئے تو ایک قہقہہ مار کر ہنس دے۔ وہ یوں تو منت سماجت ہر موقع پر کر لے اور تو ہر موقع پر ہنس دے، یہ دو دفعے تو مجھے پیش آئے اور ان کے علاوہ اور بھی میسوں واقعات نے ہیں۔

(ج)..... یہ میرا اسی وقت کا سنا ہوا ہے کہ مظفر نگر میں ایک غیر مسلم ڈپٹی صاحب نوجوان تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ کنور صاحب مرحوم ایک بہت موٹا سالاٹھا پے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے جو ان کے سر سے بھی اوپنچا تھا۔ اس کو درمیان میں پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ ڈپٹی صاحب کی تعزیت کے لیے ہندو مسلمانوں کا بہت اجتماع تھا۔ ان کے مکان پر آدمیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ کنور صاحب بھی اپناٹھے لے کر نہایت رنجیدہ منہ بنا کر کراہتے ہوئے، کہانتے ہوئے پہنچ، کیونکہ ہمیشہ مظفر نگر کے مجرم ٹریٹ رہے اس لیے ہندو مسلمان سب ہی باطن سے نہ کہی ظاہر سے ان کی بہت ہی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر سب مجھ مجمع اٹھ گیا۔ ڈپٹی صاحب کی برابر کی کری ان کے لیے خالی ہو گئی، بیٹھ کر کہنے لگے ڈپٹی صاحب جب سے نہ ہے بہت ہی رنج و قلق ہے ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ آدمی ہمیشہ روئے ہی (یہ تم سخرا تھا، انہیں معلوم تھا کہ ڈپٹی صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا ہے) ارے بھائی ڈپٹی پیارے مرننا توبہ کو ہے مگر ماں باپ کا بدل کہاں مل سکے۔ ماں کی محبت تو کبھی بھائی نہیں جا سکتی، سنا ہے کہ فرضی آنسو بھی گرانے۔ کسی صاحب نے جن کی کرسی ان کے برابر تھی اٹھ کر کر کان میں کہا کہ کنور صاحب ڈپٹی صاحب کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا اہلیہ محترمہ کا ہوا ہے۔ زور سے کہنے لگے ”لا حoul ولا قوة“، ارے میں نے تو ماں کی خبر سنی تھی اسی واسطے تو میں صح سے رور ہا ہوں، بیوی کا کیا روتا، پُرانی گئی تھی آئے گی، تم چلو ابھی میرے ساتھ کنواری کے کنواری، رانڈ کہے رانڈ، جسی کہے ویسے کراؤں، تو ہندو ہے اس واسطے ایک ہی ہو سکتی ہے مسلمان ہوتا تو چار کردا ہتا۔ ارے پیارے ڈپٹی (ڈپٹی صاحب تو عمر تھے) بیوی کو رو یا نہیں کرتے، تو دیکھ اب تجھے خیل مل جائے گی۔ دو چار دن میں تو اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ مجمع میں تو کھلکھلا کر کوئی

نہیں ہے اگرچہ چکے مجلس عزاداری میں مزاج بن گئی۔

(۵) حضرت مولانا الحاج الحافظ قاری محمد طیب صاحب دام مجددہم کے چھوٹے بھائی قاری محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دیوبند سے ایک اخبار تکالا کرتے تھے۔ غالباً "الانصار" اس میں کوئی مضمون کسی اعلیٰ افسر کے خلاف شائع ہو گیا۔ ان صاحب نے تک عزت کا دعویٰ کر دیا وہ چونکہ بڑے آدمی تھے، اس لیے وکلاء سے مشورے سے ان کے جواب دعویٰ کی تجویز میں کئی دن تک خوب ہوتی رہیں۔ مدعا کی کوشش تھی کہ وارث بلا ضمانت کسی طرح سے جلدی جاری ہو جائے، جس کی وجہ سے سب ہی بڑوں چھوٹوں کو فکر تھی، کنور صاحب مظفر گر سے دیوبند پہنچے، کہنے لگے طاہر بیٹا! اتنی سی چیز سے گھبرا گئے۔ جواب دعویٰ لکھ دو کہ میں تو ایک مہینہ سے کنور صاحب کے یہاں لوئی شکار کھلنے کے واسطے گیا ہوا تھا۔ میری غیبت میں یہ مضمون لکھا گیا۔ مدعا کو بھی عزیز طاہر مرحوم ہی سے کچھ عداوت تھی۔ عزیز مرحوم نے کہا، تایا جی آپ عدالت میں کس طرح کی جھوٹی قسم کھائیں گے کہ یہ میرے ساتھ شکار میں تھے۔ کہنے لگے کہ اپنے مقدمے میں ہزار قسمیں جھوٹی کھائی ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پوتے کے لیے اگر ایک جھوٹی قسم کھالوں گا تو خدا کی قسم میری ساری جھوٹی قسموں کا کفارہ ہو جائے گا، چنانچہ جواب دعویٰ میں یہی لکھا گیا کہ میں اس زمانے میں کنور صاحب کے ساتھ لوئی شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور کنور صاحب کی تصدیق پر مقدمہ خارج ہو گیا اور نئے مدیر پر دعویٰ کرنا مدعا کا بھی مقصود نہیں تھا۔ ان ستر سالوں میں کیا کیا مناظر اہل دنیا کے ان آنکھوں نے دیکھے، ان سب کو لکھا جائے تو کم از کم آدمی عمر پنیتیس سال اور چاہیس۔

(۳) ..... عزیز مرحوم الحاج شیم کی نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ آپ بیتی نمبر ۳ میں آپ کے والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ کی علالت اور وفات کی تفصیلات نہیں ہیں، جب کہ والدہ صاحب اور اہلہ کے حالات وفات درج ہیں۔

### الجواب:

صحیح ہے کہ یہ آپ بیتی جیسا کہ بار بار لکھا جا چکا ہے کوئی مستقل تالیف مسلسل نہیں ہے بلکہ یادِ دوستوں میں جب کہ علمی کاموں سے روک دیا گیا تھا۔ پڑے پڑے کیف ماتفاق جو واقعات یاد آتے رہے لکھواتا رہا۔ بہت سے اہم واقعات چھوٹ گئے اور بہت سے واقعات بے ترتیب بھی آگئے اور بہت سے مکر بھی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ واہم بھی نہیں تھا کہ یہ طبع بھی ہو گے۔ لکھنے کے بعد دوستوں کے اصرار اور اپنے شدید انکار کے باوجود طباعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے والد صاحب تو رالہ مرقدہ کی علالت بھی کچھ طویل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن سے بھی کم

عالالت رہی۔ ۹ ذیقعده جمعہ کی صبح سے طبیعت میں اضھال اور افسر دگی تھی، عزیز مولوی حکیم مولوی محمد ایوب سلمہ سے فرمایا کہ کوئی کتاب دیکھنے کے واسطے لا۔ کچھ مکان میں تشریف فرماتھے۔ عزیز حکیم ایوب مدرسہ میں والد صاحب کے کتب خانے میں گئے اور وہ دو تین مختلف کتابیں عربی اشعار کی کہ اس کا ذوق تھا لائے مگر اس کو ناپسند کر دیا، وہ پھر دوبارہ گئے اور سلوک کی کتابیں لائے۔ مگر اسے بھی پسند نہیں کیا۔ جمعہ کی نماز دار الطبلہ میں اطمینان سے پڑھائی۔ جمعہ کے بعد حسب معمول کھانا کھا کر لیٹ گئے تو کچھ اسہال کا سلسلہ معمولی شروع ہوا۔ جو عشاء تک بڑھتا رہا۔ عشاء کے بعد یوں فرمایا کہ مولوی عبداللہ جان صاحب وکیل (مشہور پیر سر جو میرے حضرت قدس سرہ کے جانشیروں میں تھے تذکرۃ الحلیل میں بھی ذکر ان کا کہیں کہیں آیا ہے اور میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص دوستوں میں تھے) کے یہاں جاتا ہے، انوار کی والدہ کے مقدمہ کی سفارش کرتا ہے۔ شیخ ابرار نیمیں محلہ چوب فروشان کے بڑے بھائی کا نام انوار ہے، جو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس حکیم ایوب مولوی نصیر کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ان کا کوئی مقدمہ تھا، وہ مرحومہ میرے حضرت قدس سرہ اور میرے والد صاحب کے ساتھ بہت ہی محبت رکھتی تھی، ان کا اصرار تھا کہ اگر آپ مولوی عبداللہ جان صاحب سے کچھ فرمادیں تو میرے لیے بہت مفید ہو گا۔ تاریخ مقدمہ کے قریب تھی۔ عشاء کے بعد ان کے یہاں جانے کا ارادہ کیا۔ مولانا ظفر احمد صاحب شیخ الاسلام پاکستان جو اس زمانے میں مظاہر علوم میں مدرس تھے اور میرے والد صاحب سے بہت ہی اخصل الخصوص تعلق تھا، ان سے اور میرے پیچا جان مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو، ایک لوٹا ساتھ لے لینا کہ اگر استنبخا کی ضرورت ہوئی تو نالہ کی پڑی پر فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ نالہ جو کھالہ پار کے دامنی جانب میں ہے اس وقت میں بہت ہی دیران تھا۔ اب تو عماراتوں کی اتنی بھر مارہے کہ آباد شہر بن گیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا پیغام پہنچا دیں گے آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ فرمایا اچھا زکر یا کوئی ساتھ لیتے جاؤ۔ ہم تینوں مولوی عبداللہ جان وکیل کی کوئی پر گئے جو اشتین کے قریب رہتے تھے۔ راستے میں یہ دونوں حضرات کچھ ایسی گفتگو کرتے گئے اور آئے تو میں تو کچھ سمجھنے سکا، بچپن تھا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے مولانا (یعنی والد صاحب) کی نہ تو کبھی قدر گی نہ ان کے رتبہ کو پہچانا۔ مولانا کے بے تکلفانہ طرز سے جو ہر چھوٹے کے ساتھ رہا کرتا تھا ہم بھی ساری عمر گستاخ بننے رہے۔

یہ دونوں ایسے ہی گفتگو کرتے چلے گئے اور آئے۔ میں سوچتا رہا کہ معمولی اسہال ہیں، یہ تو ایسی با تین کر رہے ہیں جیسے خخت یہاں ہوں، واپسی پر معلوم ہوا کہ دوستوں میں اضافہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور میرے سب گھر والوں کا اعلان حکیم محمد ایوب صاحب سر پرست مدرسہ

مظاہر علوم کے والد حکیم محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا رہا اور میرے حضرت قدس سرہ اور ان کے سب گھروں والوں کا علاج حکیم صاحب کے بڑے بھائی حکیم ایوب کے تایا حکیم محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا رہا کرتا تھا، حکیم محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی حافظ طبیب ہندوستان میں شاید ہی دو چار آدمی ان کے ہم پلہ ہوں، مگر علاج میں باہر بہت کم جاتے تھے اور یہاں بھی بہت ہی استغنا کے ساتھ علاج کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طرف رجوعات بہت کم تھیں اور چھوٹے بھائی حکیم محمد یعقوب صاحب فتحی حیثیت سے تو بڑے بھائی کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ جل شانہ نے ہاتھ میں شفاعة فرمائی تھی، ان کی طرف رجوعات اتنی کثرت سے ہوتی تھیں کہ شاید شہر میں کسی طرف ہوتی ہوں۔ حکیم صاحب کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے گھنٹہ گھنٹہ بھر کے فصل سے کئی دوائیں دیں مگر دست بجائے کم ہونے کے بڑھتے گئے۔ اخیر میں حکیم صاحب مرحوم نے اسہال بند کرنے کی کوئی سخت دوادی دی، معلوم نہیں کیا تھی مگر صحیح کو جب حکیم اسحاق صاحب نے ان سے دریافت فرمایا اور انہوں نے بتایا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی حکیم یعقوب صاحب پر مجمع میں ہی ناراض ہو گئے کہ کیا ستم کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس دوائے اسہال تو بند ہو گئے اور ایسے بند ہوئے کہ بند پڑ گیا۔ دونوں بھائیوں نے مختلف دوائیں دیں، پہبیت پر بہت سی ادویہ کو پیس کر گھر ایپ بھی کرایا، حکیم یعقوب صاحب نے صابن کی ایک قاش کاٹ کر اس پر بہت سے دوائیں مل کر اپنے ہی ہاتھ سے اینہے بھی کیا حکیم اسحاق صاحب خود اس وقت وہیں کھڑے تھے اس اینہے کو دیکھ کر فرمایا کہ اب کیا ہو؟ یہ دونوں حضرات اینہے کے بعد اپنے اپنے گھر کسی دوائی کی تجویز کے لیے گئے، یہ ہمارے مکان کے دروازے سے چند ہی قدم آگے نکلے ہوں گے اور ہم سب اجابت کے منتظر اینہے کے اثر کے امیدوار کہ اتنے میں ہمارے مدرسہ کے مہتمم صاحب گھر سے مدرس آتے ہوئے علالت کی خبر سن کر عیادت کی نیت سے ہمارے گھر پہنچ کے اس سے پہلے جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے اور یہ کہ رات تک علالت کا شدت سے اثر نہیں تھا، عام طور سے علالت کی شہرت بھی نہیں تھی۔

مہتمم صاحب نے مردانہ مکان میں گھستے ہی نہایت حزین آواز میں کہا کہ ارے چار پائی کا رُخ جلدی بدلو، اسی وقت فوراً چار پائی کا رُخ بدلا گیا۔ چچا جان نور اللہ مرقدہ چار پائی کے غربی جانب کھڑے ہوئے یہیں شریف پڑھ رہے تھے اور والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان پر نہایت سرعت کے ساتھ ضرب کے ساتھ بغیر جھرا اسم ذات کا ذکر شدت سے جاری تھا، بار بار جیب تالوکو لگتی ہوئی نظر آتی تھی اور ان کی اس ضرب کے ساتھ یہ ناکارہ بھی اسم ذات کا ذکر نہایت شدت جبرا کے ساتھ بغیر اختیار کر رہا تھا۔ ان کی اللہ کے ساتھ میری اللہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جولطف،

لذت اس وقت کے ذکر بالجہر میں آرہی تھی وہ آج تک کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ چند منٹ بعد وصال ہو گیا۔ حکیم اسحاق و یعقوب صاحب کو اطلاع دی گئی وہ اتنے واپس آئے روح پرواز کر چکی تھی۔ عزیز حکیم محمد ایوب سلمہ صبح سے تو یہیں تھے اور والد اور تایا کے ساتھ چند منٹ پہلے واپس گئے تھے، ان ہی کے ساتھ واپس آئے اور دروازے میں آ کر چکر کھا کر بیہوش ہو کر گئے والد صاحب کے ساتھ ان کے بھی لینے کے دینے پڑ گئے۔ ان کے بھائی وغیرہ ایک کھٹولے پر لٹا کر ان کو گھر لے گئے، وہاں ہوش میں لانے کی دوائیں استعمال کرائیں اور یہاں بھلی کی طرح سے شہر میں شور مج گیا۔ ہمارے کچھ گھر میں تو اتنی جگہ نہیں تھی جو آرہے تھے مدرسہ میں جمع ہو رہے تھے کہ اتنے میں تدفین کا مسئلہ معرکہ الآراء بن گیا، حکیم صاحب جان کی رائے تمنا اصرار کے ساتھ یہ تھی کہ ان کے باع میں ان کے جدی قبرستان کے اندر تدفین عمل میں آئے اور ہمارے محلہ کے چند احباب جن میں جناب الحاج شیخ حبیب احمد صاحب ولد اکبر جناب الحاج فضل حق صاحب جو اعلیٰ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خادم خاص اور مظاہر علوم کے حسن اعلیٰ تھے ان کا اور ان کے چند دوستوں کا اصرار یہ تھا کہ محلہ کے قبرستان حاجی شاہ میں تدفین عمل میں آئے گی۔ حکیم صاحب جان متین صاحب وقار لوگ تھے اور شیخ حبیب احمد صاحب مع اپنے رفقاء کے لمبی لمبی لامھیاں لے کر مکان کے دروازے پر آگئے کہ تدفین حاجی شاہ میں ہو گی ورنہ لٹھ بازی ہو جائے گی۔ چونکہ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب قدس سرہ بانی مظاہر علوم کا مزار مبارک بھی وہیں ہے اس لیے ان حضرات کو اصرار کا اور بھی زیادہ موقع تھا، بالآخر وہیں تدفین عمل میں آئی۔ انتقال ۸ بجے ہوا اور ۱۰ بجے تدفین سے فراغ پر میں گھر واپس آگیا اور تعزیت کرنے والوں کا ہجوم رات دیر تک روز افزود رہا جیسا کہ حادث کے ذیل میں والد صاحب کے حادثہ میں ذکر کر چکا ہوں، جس وقت بھائی شیم مکی کا یہ خط پڑھا جا رہا تھا اور میں یہ سطور لکھوارہا تھا میرے مخلص دوست الحاج مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی دارالعلوم دیوبند بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دو واقعات اپنے سنے ہوئے بیان کیے جن کو میں نے انہی کے الفاظ میں یہاں لکھوادیا ہے۔

(الف) ..... مفتی صاحب نے کہا کہ مجھ سے حضرت صاحبزادی صاحبہ یعنی اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی صاحبزادی جناب الحاج پچا محمد یعقوب صاحب کی والدہ محترمہ نے خود سنایا کہ ایک دن مولانا محمد بھی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی ضروریات کا سامان منگایا۔ گھر میں سے دریافت کیا کہ خلاف عادت یہ سامان کیوں منگایا۔ کیا سفر میں جانے کا ارادہ ہے؟ پھر وضو کرتے ہوئے ایک آواز آئی کہ مولانا آرہے ہیں۔ (حضرت مولانا سہار پوری کا تاریخ دن سے آچکا تھا کہ فلاں تاریخ کو بھی پہنچ رہا ہوں) اس پر مولانا بھی صاحب نے فرمایا کہ پھر ہم بھی جا رہے ہیں۔

اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، جواب دیا جہاں سے مولانا آرہے ہیں (یعنی حجاز مقدس) گھر میں سے کہا کہ میں بھی چلوں گی، جواب دیا کہ تم میرے ساتھ نہیں جاسکتی تم کو زکریا پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تباہ کیے جانے دوں گی۔ فرمایا کہ میں تو کندھے پر لکھی ڈالی لائھی ساتھ میں لے کر چل دوں گا اسی روز شام کو طبیعت خراب ہوئی اور اگلے روز صبح کو انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعة - فقط

### از زکریا

حضرت قدس سرہ کے عدن کے تاریخ پر شہر اور مدرسہ میں خوشی کی جو لہریں دوڑ رہی تھیں وہ تو ظاہر ہے۔ بہت سے تو بسمیلی جانے کا ارادہ کر رہے تھے اور دہلی کا ارادہ کرنے والے تو بہت تھے۔ حاجی حبیب احمد صاحب جن کا اوپر فن کے سلسلہ میں ذکر آچکا ہے میرے والد صاحب کے بے تکلف دوستوں میں تھے اور مرحوم کی مجھ پر بھی بعد میں بہت شفقتیں رہیں۔ صبح کی چارے عموماً میرے ساتھ پیا کرتے تھے ان کے ایک صاحبزادہ نے ایک دفعہ کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہمیشہ صبح کی چارے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں ہمیں بہت غیرت آتی ہے کہنے لگے جا بیوقوف وہ تو میرے لیے تم بیٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے مرحوم نے میرے حضرت کے تاریکے آنے پر میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے پوچھا اجی مولانا آپ کہاں تک جائیں گے بسمیلی یاد دہلی، والد صاحب نے فرمایا میں تو اٹیشن تک بھی نہیں جانے کا، اپنی جگہ پڑا پڑا ہی زیارت کر لوں گا، اس وقت تو لوگ اس کو مذاق کا فقرہ سمجھتے کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی مزاج کی عادت بہت تھی، لیکن شنبہ کی صبح کو میرے والد صاحب کا وصال ہوا اور شنبہ کی دوپہر کو حضرت قدس سرہ کا جہاز بسمیلی پہنچا اور والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاجی شاہ قبرستان میں پڑے پڑے ہی زیارت کی ہوگی۔

(ب)..... دوسرا واقعہ مفتی محمود صاحب نے یہ لکھوا یا کہ پیر جی جعفر صاحب ساڑھوڑی (اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے مشہور خادم تذکرۃ الرشید میں بھی جن کا بار بار ذکر آیا ہے) نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے (یعنی پیر جی ظفر نے) سہار پور مولانا بیگی صاحب کی ملاقات کے لیے آنے کا ارادہ کیا۔ اب اسے ایک مجدد و بیوی عورت انگریزی نوب اور ہاتھ میں بیدر کھتی تھی اور سب صیغہ مذکور کے اپنے لیے بولا کرتی تھی، لوگ اس کو خان صاحب کہا کرتے تھے میں (پیر جی جعفر صاحب) اس کی طرف سے گزر ا تو اس نے کہا کہ سہار پور جا رہا ہے۔ مولوی صاحب (مولانا بیگی صاحب) سے یوں کہنا کہ:

ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے

میں سہار پور آگیا۔ مولانا سے یہ مصرع بیان کیا کہ یہ اس مجدد و بیوی نے کہا ہے، اس پر مولانا کے

چہرہ کارنگ زرد ہو گیا۔ میں سہارنپور سے جب انبالہ واپس ہو رہا تھا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے غور کیا تو دوسرا مصروع ذہن میں آیا وہ یہ تھا:

عدم کے جانے والو کوچہ جانال میں جب پہنچو  
ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے

(۳)..... عزیزم الحاج شیم کی نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ میری ایک خصوصی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ قبول فرمائیں کہ آپ بیتی کے اختتام پر ایک نقش بالتفصیل یا تذکرہ اپنے خاندان کے تمام افراد بزرگوں، اعزہ، مستورات اور احباب و متعلقین و بچگان کی پیدائش و وفات کی تواریخ اور مقام دفن وغیرہ جو آپ کے علم میں ہوں یا تاریخ کبیر میں درج ہو یا احباب سے لکھ کر معلوم کر لیا جائے حسب سہولت اور میرے خیال میں اس کی ابتداء حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ الحمد للہ آپ کے ہاں تو اکثر مواد موجود ہے، تمام اعزہ کے نام تین چار صفحات پر مع تواریخ آجائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک خانہ میں یہ بھی آجائے کہ کس کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ بہر حال اس کی ترتیب تو آپ ہی زیادہ عمدگی سے فرماسکتے ہیں۔ خاندان پر آپ کا یہ بڑا احسان ہو گا۔ خاندان و احباب و متعلقین کو آپ ذکر بد و ام بخشیں گے۔

### فقط

اس کا جواب میں نے بھائی شیم کو لکھوادیا کہ نسب نامہ تو میری تاریخ کبیر میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی بارہویں پشت جناب شیخ قطب شاہ نور اللہ مرقدہ سے موجود ہے اور بارہویں پشت میں حضرت مفتی صاحب آتے ہیں۔ ان کے اوپر کے انساب اور ان کے اجزاء بھی درج ہیں اور مفتی صاحب سے لے کر عزیز سلمان، عاقل سلمہما کی اولادتک بھی درج ہیں، لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے کہ آپ بیتی کا جزء بن سکے یادو چار صفحوں میں آسکے۔ چھ صفحے میری تاریخ کبیر کے اس کی تقطیع ہدایہ کے برابر ہے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی ہندوستان آؤ تو زیارت کر لینا۔ نقل تمہارے بس کی بھی نہیں، بھائی شیم! جب میں زندہ تھا تو بہت کچھ کرڈا۔ علی میاں زاد مجد ہم تو اپنی تالیف میں میری تاریخ کبیر سے بہت کچھ نقل کراتے ہیں۔ ان کائی دفعہ یہ بھی خیال ہوا کہ ان کے پاس کوئی مشین ہے جس میں ہر تحریر کا فون تو آ جاتا ہے۔ میری اس تاریخ کبیر کا فون لیا جائے۔ بہر حال تمہاری اس فرمائش کا مowaں تو میرے یہاں بہت کچھ ہے مگر اس کی تعیل سے محفوظ ہی ہے۔ میرے بچوں میں تو کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی تحریر یا طباعت کر سکے۔ اللہ جل شان خاندان میں سے کسی کو توفیق عطا فرمائے تو نقل دینے میں مجھے بھی انکار نہیں۔

(۴)..... بھائی شیم نے لکھا کہ آپ بیتی نمبر ۱۔ ۲۔ ۳۔ پڑھنے کے بعد بہت سی چیزیں ذہن میں

آرہی ہیں۔ مگر بے ادبی اور دخل در معقولات کے خیال سے لکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ فقط

### الجواب:

نتواس میں بے ادبی ہے تھے دخل در معقولات۔ تمہارے ذہن میں بہت سی باتیں آرہی ہیں اور میری ستر سالہ عمر میں تولاکھوں واقعات ہیں۔ لیکن مستقل وقت تو اس معدود ری میں بھی اگر خرچ کیا جاسکتا ہے تو حدیث پاک کی خدمت میں ہو سکتا ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ آپ بیتی حصہ اول تو صرف عزیزم مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی سوانح مؤلفہ عزیزم الحاج مولوی محمد ثانی کے ایک باب پر استدرآک تھا اور بقیہ چار حصہ آنکھ بنوانے کے زمانے کی اوقات گزاری تھی۔ اگر دوسری آنکھ بنوانے کی نوبت آئی، جس میں کئی سال سے نزول ماء بھی ہے اور احباب کا تقاضہ بھی ہے تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکے۔ البتہ مطبوعہ میں کوئی چیز قابل اصلاح ہو تو ضرور درج کر دیں، اس کو دوبارہ سن لوں گا لیکن جدید واقعات کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ واقعات تولاکھوں ہیں اور آپ بیتی نمبر ۲ کی کتابت ہو چکی ہے زیر طباعت ہے۔ یہ اضافے بھی جو تم نے لکھواے ضمیر کے طور پر ۵ کے ختم پر لکھوانے کو کہہ دیا اس لیے کہ ۵ کی بھی کتابت قریب آخر ہے۔

(۶) ..... بھائی شیم نے لکھا کہ آپ بیتی کے سبق آموز عبرت انگلیز اور بے حد دلچسپ اور دینی اور دینی اعتبر سے تندید حالات و واقعات کو بار بار پڑھتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک عرض ہے کہ مجھے کاندھلہ میں آپ کے والد مرحوم کے متعلق ایک عجیب قصہ سننے میں آیا تھا کہ کاندھلہ میں بڑا بزرگست ہیضہ یا طاعون پھیلا اور اس شدت کے ساتھ کہ گھروں اور راستوں سے مردے اٹھانے والا تنک نہیں رہا تھا اور بر سات کا زمانہ تھا۔ جبکہ امرود کی خوب ریل پیل بھی تھی۔ بر سات میں دیے بھی سنا ہے امرود سخت مضر اور ہیضہ و بدہضمی کا گھر ہے کوئی شخص مردہ کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں تھا۔ ایسے سخت حالات میں آپ کے والد صاحب اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے جن کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ یہ دونوں قصہ کے اموات کو نہلا تے نماز پڑھتے اور خود ہی قبریں کھوکھو کر دفن کرتے، سارے دن یہی معمول تھا۔ بھائی تک بھائی کی لعش کے پاس جانے کا روادار نہیں تھا۔ مگر حضرت مولانا تیجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایسی ہمت عطا دی تھی کہ سینکڑوں مسلمان اموات عزت و احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ سنگوائی گئیں اور اس قصہ میں سب سے دلچسپ پہلو اور قدرت الہی کا مشاہدہ یہ تھا کہ یہ دونوں حضرات سارے دن امرود کھاتے تھے، جس کے متعلق یہ یقین تھا کہ جس نے امرود کھایا اس کو ہیضہ ہوا۔ یہ بھی سنا ہے کہ یہ دونوں حضرات جنازہ لے جا رہے ہیں جیبوں میں امرود پڑے ہوئے ہیں اور واپسی میں امرود کھا رہے

ہیں۔ واپسی میں بڑے گھر کے چبوترے پر بیٹھ کر دوپھر کے کھانے کی بجائے امر و دکھاتے رہتے اور پھر قبے میں اموات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ جس گھر میں رونا پینا سنا دیاں جا کر تسلی تشفی کی احادیث سنائیں، عمل صالح کی تلقین کی اور خود تجهیز و تکفین کے انتظام میں لگ گئے۔

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس کو ضرور آپ بیتی میں شامل فرمادیں اور ایسے نہ معلوم کرنے والے واقعات ہوں گے۔ شیخ اباجی اگزارش ہے کہ آپ بیتی کو آپ ہرگز مختصر نہ فرمائیں۔ ”نحن نقص علیک احسن القصص“ اللہ تک نے فرمایا ہے، پھر آپ کی نیت تو عبرت اور اصلاح کی ہے۔ ان واقعات سے لوگوں کے قلوب زم ہوں گے۔ فقط

### الجواب:

بھائی شیم یہ واقعہ مختصر تو میرا سنا ہوا ہے، اس تفصیل سے نہیں جو تم نے بیان کیا۔ اموات کی کثرت میرے والد صاحب کا ہر میت کی تجهیز و تکفین کرنا اور کھانے کی جگہ امر و دکھانا لیکن نہ تو متصل سند سے سنا اور نہ میرے زمانہ ہوش کا قصہ ہے۔ میری تو شاید پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے، اس لیے تمہارے خط کی عبارت نقل کر اؤی ہے اور ابھامی تصدیق اپنی بھی۔ مگر تفصیلات مجھم یاد نہیں۔ البتہ اس نوع کے واقعے میرے والد صاحب کی زندگی کے بہت ہیں تم نے لکھا کہ آپ بیتی کو مختصر نہ کرنا، میرے پیارے یہ کوئی مقصود چیز نہیں۔ علم حدیث کو چھوڑ کر اس میں لگنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔

(۷) ..... بھائی شیم نے یہ بھی لکھا حضرت قبلہ مولانا یحییٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مجھ سے بھائی افتخار صاحب نے سایا تھا کہ حدیث پران کو اس قد رعبور تھا اور ہزار بیا احادیث ان کو اس طرح از بر تھیں کہ جمعہ کی نمازوں گنگوہ کی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے اور اس سے قبل حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس غسل کر کے جب مسجد کے لیے روانہ ہوتے تو راستہ میں زبانی بغیر لکھے ہی احادیث سے اپنے ذہن میں خطبہ تیار کر لیتے۔ برسوں یہی معمول رہا۔ آپ بیتی کے مطالعہ سے ان کا حدیث سے تعلق اور تعمق کا تو بخوبی علم ہو جاتا ہے اگر اس قسم کے واقعات آپ کے علم میں ہوں تو ضرور اضافہ فرمادیں۔ فقط

### الجواب:

حضرت گنگوہی قدس سرہ کے زمانے میں میرے والد صاحب کو حضرت کی حیات میں ایک آدھ دفعہ امامت کی نوبت آئی ہوگی۔ اس لیے کہ حضرت قدس سرہ خود ہی امامت فرمادیا کرتے تھے، البتہ حضرت قدس سرہ کی یماری کے زمانے میں بھی پڑھانے کی نوبت آئی اور جس جمعہ کو حضرت گنگوہی قدس سرہ کا وصال ہوا وہ جمعہ بھی سب اکابر کی موجودگی میں میرے والد صاحب

نے ہی پڑھایا تھا۔ مفتی محمود صاحب نے جو اس وقت میرے پاس اس واقعہ کی تسویہ کے وقت موجود ہیں یہ واقعہ سنایا۔ جس سے بھائی شیم کے واقعہ کی تسویہ ہوتی ہے کہ یہ واقعہ خانقاہ شریف کی مسجد کا نہیں بلکہ گنگوہ کی جامع مسجد کا ہے کہ اس کی ابتدائی تعمیر کے زمانے میں حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کو اس کی تعمیر کا بہت اہتمام تھا۔ اس لیے کہ غیر مسلم علاقہ تھا اور جامع مسجد کی جگہ وہاں پر ایک نیلہ تھا اس میں سے ایک پتھر نکلا تھا جس پر جامع مسجد لکھا ہوا تھا، اس لیے اس جگہ پر جامع مسجد بنوانا حضرت نے تجویز فرمایا اور ابتداء تعمیر کے بعد مولانا تیجی صاحب ہر جمعہ کو وہاں جمعہ پڑھانے جایا کرتے تھے اور ہر جمعہ کو نماز کے بعد اور نماز سے پہلے جامع مسجد کے لیے چندہ کی تحریک فرمایا کرتے تھے اور ہر اعلان کی ابتداء میں اپنی طرف سے پانچ روپے کا چندہ دیا کرتے تھے۔ جس کے لیے نہ معلوم کہاں سے بہت ہی سفید چاندی کے روپے منے لایا کرتے تھے۔ فقط

غالباً صوفی افتخار نے جس خطبہ کا واقعہ ذکر کیا وہ اس جامع مسجد کے راستہ کا ہوگا کہ یہ خانقاہ شریف سے بہت دور ہے۔ خانقاہ کی مسجد تو حضرت کے جھرے کے برابر ہی ہے۔ اپنے ہی آپ سے خطبہ تصنیف کر کے پڑھا دینا ان کے یہاں کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ سہارپور کے زمانہ مدرسیں حدیث میں وصال تک حدیث کی بہت سی کتابیں بالخصوص جس زمانہ میں نزول آب ہو گیا تھا، بغیر دیکھے ہی حفظ پڑھانے کی نوبت آتی تھی اور جس زمانہ میں آنکھ کا آپریشن ہوا اس زمانہ میں بھی تقریباً چھو (۲) ماہ تک بغیر کتاب دیکھے بغیر مطالعہ کے سبق پڑھانے کی نوبت آتی۔ عزیز مولوی عاقل سلمہ، مولانا صدیق احمد صاحب جمودی مرحوم سابق مدرس مظاہر علوم کے حوالہ سے واقع نقل کیا کہ مولانا محمد تیجی صاحب کی آنکھیں جس زمانے میں بنی ہوئی تھیں اور آنکھ پر سبز پٹی بندھی ہوئی تھی تو حدیث کا سبق پڑھاتے وقت ایک گاؤں کا آدمی آیا۔ سلام کیا اور کہا کہ راتے پورا عالیٰ حضرت شاہ عبدالریسم صاحب کی خدمت میں جا رہا ہوں، اس پر مولانا تیجی صاحب نے فرمایا کہ حضرت سے کہنا کہ مظاہر علوم کے ایک اندھے مدرس نے سلام کہا ہے۔

(۸)..... از مکتوب بھائی شیم سلمہ آپ بیتی میں حج اور سفر حرمن کے متعلق ہے۔ اس میں گزارش ہے کہ آپ نے کر ۸۳ھ میں جو بخاری شریف اور اس کے بعد کے حج میں نسائی شریف مدرسہ میں ختم کرائی تھی اور گزشتہ سفر میں با برکت دیوان میں صبح کو عزیزان زعیم و شیم کی جلالیں شروع کر اکر دعا فرمائی تھی اور اس سفر میں بروز بدھ ۵ ذی الحجه ۱۳۹۰ھ کو بعد نماز ظہر آپ نے اسی دن دیوان میں ان کی مشکلوۃ شریف شروع کرائی تھی اور بھائی انعام صاحب نے دعا کرائی تھی اور آپ نے اپنے پاس سے گاجر کا حلوا تقسیم کیا تھا، مجملہ اور باتوں کے اگر ان چاروں کا بھی آپ اضافہ فرمادیں تو عین کرم ہوگا۔ فقط

الجواب:

بھائی شیم! تمہاری محبت اور تمہارے احسانات کی وجہ سے میں نے تمہارے خط کے یہ سب اجزاء ضمیمہ میں نقل کر دیے ہیں، لیکن اس نوع کے واقعات تو آپ بیتی کا مقصد نہیں، اگر اس نوع کا واقعہ کہیں آگیا تو مجھے یاد نہیں، کسی اور سلسلہ میں تبعاً آگیا ہو گا۔ ورنہ کتب احادیث کا افتتاح بخاری شریف کا افتتاح و اختتام تونہ معلوم کرنے مدارس کا ہوا ہو گا۔ پیچا جان نور اللہ مرقدہ عزیزان مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا انعام الحسن صاحب سلمہ کی مشکوٰۃ شریف کی بسم اللہ کنی ماہ تک موخر کی کہ مجھے اتفاقیہ حاضری میں دری ہوتی رہی اور پھر اپنی موجودگی میں باوجود میرے شدید انکار کے خود پاس بیٹھ کر مجھ سے کرائی اور ترمذی شریف کی بسم اللہ قبل از وقت یہ کہہ کر اس سے کار سے کرائی کہ تمہارے دوبارہ آنے کا انتظار نہ کرنا پڑے ترمذی شریف کی بسم اللہ کراتے جاؤ۔ عزیزان کو صرف ابو داؤد پڑھنے کے لیے ایک سال کے لیے سہار پنور بھیجا، جس میں انہوں نے ابو داؤد کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابیں بھی دوسرے اکابر حدیث سے پڑھیں یا سنیں۔ یہ واقعات تو بہت لا تعداد لا تحصی ہیں مگر آپ بیتی کی لائیں اس کی نہیں، تمہارے جمل خطوط کا جواب ہو گیا۔ آیندہ اس نوع کے واقعے یا کسی نوع کے اضافے کی تو گنجائش نہیں البتہ چونکہ آپ بیتی علی گڑھ میں معذوری کی حالت میں لکھوائی گئی ہے اس لیے کسی واقعہ کی اصلاح کی ضرورت ہو تو فوراً لکھ دیں کہ نمبر ۵ کی طباعت ابھی باقی ہے۔ باقی اضافے تو ستر سال زندگی میں ہر نوع کے لاکھوں ذہن میں ہیں۔

(۹) ..... یہ کتاب طبع ہو ہی رہی تھی کہ بعض ضروری باتیں خیال میں آتی رہیں اور اپنی عادت کے مطابق دوستوں سے اکابر کے قصے اور اکابر کی یادگاریں تذکرہ کرنے کا معمول ہی ہے۔ جس بات کے متعلق دوستوں نے اصرار کیا کہ یہ واقعہ ضرور آپ بیتی میں آنا ہے، میں نے کہہ دیا کہ نقل کر دو۔ اسی سلسلہ میں میں نے ایک واقعہ سنایا دوستوں کا اصرار تھا کہ یہ تو بہت اہم ہے ضرور لکھوادیں۔ میں نے کہا طبع ہونے تک جو چاہے لکھوادیوں، جب طباعت ہو جائے گی تو سلسلہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔

فتاویٰ پر بغیر تحقیق دستخط نہ کرنا:

وہ واقعہ یہ ہے۔ ۳۵ میں ابتدائی مدرسی میں مدرسہ کے دستور کے مطابق جو فتاویٰ آتے اس پر دیگر مدرسین کی طرح یہ ناکارہ بھی سرسری دیکھ کر اکابر کے دستخطوں پر اعتماد کرتے ہوئے دستخط کر دیا کرتا تھا، ایک فتویٰ اکابر مدرسین میں سے ایک بزرگ کا لکھا ہوا تھا۔ ان کے لکھنے پر اعتماد اور

سرسری نظر سے دیکھنے کے بعد دیگر مدرسین کی طرح اس پر میں نے بھی دستخط کر دیے۔ یہ فتاویٰ ابتداء میں یاد گیر مدرسین کے دستخط کے بعد میرے حضرت میرے مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے جایا کرتے تھے اور حضرت قدس سرہ کے دستخط بغیر یا ہر نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ فتویٰ جب حضرت قدس سرہ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت نے فتویٰ پر یہ لکھ کر اس میں یہ غلطی ہے دوبارہ درست کرو۔ اس کو واپس کر دیا اور کسی مدرس سے بھی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن از راہِ شفقت اللہ جل شانہ میرے جملہ اکابر کو ان کی شفقوتوں کا بہت ہی بہتر سے بہتر بدله عطا فرمائے، مجھ سے دریافت کی کہ اس فتویٰ پر پڑھ کر دستخط کیے یا بغیر پڑھے ہی دستخط کر دیے، میں نے کہا کہ سرسراً دیکھا تھا مگر فلاں حضرت کا لکھا ہوا تھا اور سب مدرسین کے دستخط ہونے کی وجہ سے زیادہ غور کی ضرورت نہ تھی۔ میرے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ نے ایک ڈانٹ پلانی کہ دستخط فتوؤں کی تصدیق اور اس کی شہادت ہے۔ بغیر تحقیق کے کیوں دستخط کیے۔ وہ ڈانٹ مجھ پر ایسی موثر ہوئی کہ اس کے بعد کسی ایسے مسئلہ کے علاوہ جو بندہ کے خیال میں بالکل کھلا ہوانہ ہوا اور اس پر اس ناکارہ کے دستخط کی خاص وجہ بھی نہ ہو دستخط بھی نہیں کرتا بلکہ اس ناکارہ کے نام جو فتاویٰ ڈاک سے آتے ہیں وہ بھی جواب کے کاغذ پر یہ لکھوا کر ”یہ ناکارہ مفتی نہیں ہے اس لیے فتاویٰ ہمیشہ مفتی مدرسہ سے دریافت کرنا چاہئیں۔ آپ کا خط مع جوابی لفافہ کے مفتی صاحب کے حوالہ کر رہا ہوں، دارالاوقافیہ میں تصحیح دیتا ہوں۔“

(۱۰)..... اس ناکارہ کے دفتر میں میرے اکابر حضرت اقدس گنگوہی سے لے کر جملہ اکابر کے سینکڑوں خطوط محفوظ ہیں۔

چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط

بعد مرئے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا

خطوط کا ابشار تو اتنا ہے کہ اگر ان کو شائع کیا جائے تو کئی ہزار صفحات چاہئیں، مگر میرے بچے آج کل میرے اکابر کے خطوط پر بہت مسلط ہیں، جب میری آنکھیں کام دیتی رہیں میں نے اس خزانے کی کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی، مگر اپنی معدود ری کی بدولت اور اس وجہ سے کہ میں تولپ گور ہوں اور یہ میرے بچے اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے ہر نوع کی ترقیات سے توازے، کوئی خط لا کر پھر اصرار کریں کہ اس کو ضرور لکھوا دیں تو باوجود یہکہ بعض خطوط کے متعلق میرا جی نہیں چاہتا کہ معلوم نہیں عوام کی عقول ان کی متحمل بھی ہوگی یا نہیں، مگر میرے دوست مدرسین مظاہر علوم خاص طور سے مفتی محمود صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند جب اس کو ضروری مفید اور غیر مضر بتاتے ہیں تو میں اجازت دے دیتا ہوں کہ لکھوا دو۔

## صرات کے ترکِ طعام کی ابتداء:

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط اور جواب طلبی سے انہی تک بہت سے احباب واقف ہیں۔ بہت سوں پر یہ گزری ہوگی اور بہت سوں نے سن ہوگا۔ غالباً میں لکھواچکا ہوں کہ حضرت قدس سرہ کو بہت ہی ضرورت سے زیادہ میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھ پر شفقت تھی۔ چنانچہ حضرت قدس سرہ نے زبانی بھی اور تحریری بھی مجھ سے کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ ٹو میرے یہاں قواعد سے مستثنی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ناکارہ حضرت کے قواعد کا بہت اہتمام کرتا تھا۔ اگر بے وقت گاڑی کے پہنچنے کا اندازہ ہو تو بغیر بھوک بھی اپنے گھر سے کچھ کھا کر جاتا تھا اور حضرت بعض مرتبہ استفسار بھی فرماتے کہ کھانے کا ابھی وقت بھی نہیں ہوا تھا آپ نے کیوں کھالیا، تو عرض کرتا کہ حضرت رات کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی، اس لیے چائے کے ساتھ تھوڑی سی کھالی اور یہ جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس ناکارہ کا معمول اپنی ابتدائی مدرسی یعنی ۳۵ھ سے ایک وقت کھانے کا ہو گیا تھا۔ جس کی ابتداء تو حرج سے ہوئی تھی کہ رات کے کھانے میں مطالعہ کا بھی حرج ہوتا تھا، نیند بھی جلدی آتی تھی، پانی بھی زیادہ پیا جاتا تھا، ابتداء میری ایک چھوٹی بہن مرحومہ (معلوم نہیں واقعہ کہیں لکھواچکا ہوں یا نہیں) کھانا لے کر اُپر میری کوٹھری میں پہنچ جاتی اور لقمه بنا کر میرے منہ میں دیتی رہتی اور دیکھتی رہتی کہ جب منہ چلنا بند ہو جاتا تو دوسرا لقمه دے دیا کرتی تھی، اس ناکارہ کو الفاظ بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھلایا۔ ایک یادو سال بعد اس کو بھی بند کر دیا، اس زمانے میں بھوک تو خوب لگتی تھی مگر حرج کا اثر بھوک پر غالب تھا، چند سال بعد بھوک تو جاتی رہی، لیکن میرے اکابر حضرت مدینی، حضرت رائے پوری ثانی اور پیچا جان نور اللہ مرقدہ ہم میں سے کسی کی آمد ہوتی تو بڑے شوق اور غبہت سے ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کرتا، لیکن ان حضرات قدس اللہ اسرار ہم کے انتقال کے بعد تو بھوک ایسی گئی کہ اگر دوسرے وقت کھاتا ہوں تو پیٹ میں گرانی ہوتی ہے۔ اب تو صرف ایک ہی وقت کھانے کا معمول بن گیا۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ ہندوستان کے قیام میں وہ ایک وقت دن کا ہوتا ہے اور جاز مقدس کے قیام میں وہ ایک وقت شام کا ہوتا ہے کہ مشاغل کے اعتبار سے دونوں جگہ کے لیے یہی وقت مناسب ہے۔

لکھوا تو پر رہا تھا کہ حضرت ھانوی سے مجھے اس بات کے کہنے میں کہ رات نہیں کھائی تھی اس لیے صحیح کھائی تھی، کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ یہ بھی غالباً پہلے لکھواچکا ہوں کہ میرے پیچا جان نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی سہار پور تشریف لاتے اور وقت میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو وہ اس ناکارہ کو ساتھ لے کر تھانے بھون یاد یو بند یا گنگوہ یا رائے پور ضرور تشریف لے جایا

کرتے ہر سفر میں چاروں جگہ میں سے کسی ایک یا دو جگہ جانے کا خاص معمول تھا۔ ایک مرتبہ تشریف آوری پر چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ تھانہ بھون حاضری کو زیادہ دن ہو گئے، صبح کو تھانہ بھون چلتا ہے۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا اور اپنے معمول کے مطابق خود بھی ایک آول قمہ کھایا، اس لیے کہ صبح کی چائے میں ناشتا کی اس ناکارہ کو بھی بچپن سے عادت نہیں۔ مفت کے ایک دو بیٹھے مل جائیں تو اس سے انکار نہیں لیکن مول کے وہ بھی پسند نہیں۔

بہر حال اس ناکارہ نے بھی بلا رغبت ایک دو لقمانے کھائے اور چچا جان کو بھی کھلانے اور حب دستور تھانہ بھون حاضری پر حضرت کے استفسار پر عرض کر دیا کہ کھالیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ میرا وہی جواب۔ حضرت قدس سرہ کی مجلس ختم ہونے کے بعد ہمارے ایک عزیز بھائی ظریف صاحب مرحوم کا تقریباً ۱۵، ۲۰ یوم پہلے انتقال ہو چکا تھا، ان کے یہاں تعزیت کی نوبت نہیں آئی تھی۔ چچا جان نور اللہ مرقدہ اور میری بھی رائے تھی۔ حضرت قدس سرہ کے مکان پر تشریف لے جانے کے بعد ہم لوگ ان کے یہاں گئے۔ ان کے لڑکے بھائی اختر مرحوم نے اصرار کیا کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، آپ بھی شرکت فرمائیں۔ میں نے شدت سے انکار کر دیا کیونکہ ہم حضرت کے یہاں یہ کہہ چکے تھے کہ کھالیا، یہی عذر میں نے بھائی اختر سے بیان کر دیا۔ لیکن چچا جان نے فرمایا کہ حضرت ضرور لاو اور مجھ سے فرمایا کہ ایسے موقع پر دلداری ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا اگر حضرت کے یہاں روپورٹ پہنچ گئی تو جواب طلبی ہو جائے گی کہ میرے یہاں انکار کر دیا اور وہاں کھالیا۔ چچا جان کو اس کا وہم بھی نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے بھائی اختر سے کہا کہ ضرور لاو، آنے پر میں نے بھی چند لقمانے کھائے۔ میں ڈر رہا تھا کہ نہ معلوم حضرت کے یہاں یہ کس عنوان سے پہنچ گاو، ہی خطرہ سامنے آیا۔ ایک صاحب نے جن کا نام میں لکھوانا نہیں چاہتا، حضرت قدس سرہ کے یہاں یہ شکایت کر دی کہ یہ دونوں تعزیت میں آئے تھے وہیں کھانا کھایا اور ان لوگوں نے حضرت سے یہ جھوٹ بولا کہ حضرت کی خدمت میں آئے ہیں۔

### خط و کتابت از حکیم الامت قدس سرہ برائے دفع ابہام گرامی گرانی طبع:

حضرت قدس سرہ کا ایک عتاب نامہ بذریعہ ڈاک پہنچا۔ وہ مکتوب مبارک اور اس پر میرا جواب، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو طبع کرایا جائے مگر دوستوں کا اصرار ہے کہ اس میں تنبیہ ہے اور اصلاح ہے، اگرچہ تیرے متعلق شکایت غلط تھی مگر اکابر کے یہاں ان چیزوں میں احتیاط رکھنی چاہیے اور یہ صحیح بھی ہے، مجھے تو اس سے روزانہ ہی سابقہ پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مقدموں میں آتے ہیں اور شام کو جب واپسی کا وقت نہیں رہتا یا دوسرے دن کی تاریخ ہو جاتی ہے

تو اس قدر بے تکلف اور بلا جھجک آکر کہتے ہیں کہ حضرت کی زیارت کو آئے ہیں صبح کو چائے کے بعد مصافحہ کر کے رخصت ہوتے ہیں اور پھر شام کو جب کارروائی مکمل نہیں ہوتی تو پھر آکر ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت آج مقدمہ کی تاریخ تھی کام ہوا ہی نہیں۔ اس پر مجھے تھانہ بھون بہت یاد آ جاتا ہے۔ بہر حال اس سلسلہ کی حضرت قدس سرہ کی خط و کتابت بھی ایسے لوگوں کے لیے تعبیر ضرور ہے جو مشائخ کے یہاں جا کر جھوٹ بولتے ہیں، بھائی ظریف تھانوی کے قصے کے سلسلہ میں حضرت قدس سرہ سے جو خط و کتابت ہوئی وہ حسب ذیل ہے:

(مکتوب حضرت حکیم الامت قدس سرہ بنام ناکارہ و پچاچان قدس سرہ)

”مکرم نعم سلمہ اللہ تعالیٰ! السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ کل کے واقعہ سے تجربہ ہوا کہ بعض اوقات متحمل الاشتراک حضرات اضیاف سے پوچھنے پر بھی صاف نہیں معلوم ہوتا کہ کس کے مہمان ہیں اور اس معلوم نہ ہونے سے ضروری انتظام میں جو خلل واقع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس لیے آیندہ کے لیے احترقنے یہ معمول مقرر کر لیا کہ جب پوچھنا غیر کافی ہے تو پوچھنا نہ چاہیے، ایسے حضرات بے تکلف خود فرمادیا کریں کہ ہم تیرے یا فلاں شخص کے مہمان ہیں، اس کے بعد خدمت سے عذر نہیں اور اس فرمانے کو میں اپنا فخر بھوں گا، ایسے حضرات کو اس معمول کی اطلاع کر دی ہے، اسی سلسلہ میں آپ دونوں حضرات کی خدمت میں بھی بے تکلف عرض کرنے کی جسارت کی۔

والسلام

اشرف علی از تھانہ بھون

(جواب: از زکریا):

”مخدوم و مطاع بندہ ادام اللہ ظلال بر کاتکم، بعد ہدیہ سلام نیاز آنکد۔“  
گرامی نامہ نے مفتخر فرمایا، حقیقتہ اس گڑ بڑے خود اپنے ہی کو کلفت ہوئی تھی مگر اتفاق بے مقصد پیش آیا۔ حضرت تک چونکہ یہ قصہ پہنچ گیا اس لیے تفصیل کی ضرورت پیش آئی ورنہ میں اپنے اکابر تک ایسی معمولی باتیں پیش کرنے کا عادی نہیں۔ میری عادت اول سے یہ ہے کہ بے وقت جب کہیں پہنچتا ہو تو گھر سے خواہ بھوک نہ ہو کچھ کھا کر جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر میزبان کی خوشی ہو تو دوبارہ کھانے میں تامل نہیں کرتا۔ چنانچہ تھانہ بھون حاضری میں بھی اس اوقات یہاں سے کھائیں کے بعد مولا ناظم فراحمد صاحب کے ارشاد پر مکران کے ساتھ تشرکت کی نوبت آئی۔ میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا، اس لیے بے تکلف عذر کر دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر پچاچان سے اس کا تذکرہ آیا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج بھائی ظریف کے یہاں کھانا چاہیے کہ انہیں

ملاں نہ ہو، میں نے اس کو سُم بھجھ کر عذر کر دیا اور بالآخر مولا ناظر احمد صاحب پر اس کا فیصلہ تھا، انہوں نے بھی چچا جان کی تائید فرمائی، لیکن ابتداء حضرت کے سوال پر چونکہ وہ اپنے خیال کو عرض نہ کر سکے اور میں نے اپنے خیال کو گستاخانہ عرض کر دیا، اس لیے بھی طے شدہ امر ہو گیا۔ مگر وہاں پہنچ کر ان کے گھر والوں کا زیادہ اصرار ہوا اور باوجود ہمارے یہ عرض کردینے کے کہ مولا ناظر احمد صاحب کے یہاں طے ہو چکا، ان کی خواہش ہوتی کہ تھوڑی سی شرکت کر لی جائے۔ اس لیے ان کی ولداری کہ مصدقہ وہ تھیں، مقدم بھی گئی اور وہاں بھی شرکت کی کہ ان کی ولداری اہم خیال کی گئی۔ اس کے بعد مولا ناظر احمد صاحب کے پورا قصہ بھی مع اپنے چچا جان کے اختلاف رائے کے ساتھ اتنا تھا اور اب حضرت سے بھی مفصل عرض کر دیا۔ اس میں جو امر اصلاح کے قابل ہو حضرت ضرور ارشاد فرمادیں، انشاء اللہ اس پر عمل ہو گا۔ نیز حضرت ہی اس کا تفصیلہ فرمادیں کہ اس سفر میں وہاں کا کھانا رسم تھا یا نہیں۔ باقی حضرت کا اصول سر آنکھوں پر، میں تو اس سے قبل بھی حضرت کے یہاں پہنچنے کا تکلف مانگ کر کھا چکا ہوں، بے وقت حاضری پر گھر والوں کو تکلیف دینا خلاف ادب سمجھتا ہوں اور اطلاع کی اس لیے ہمت نہیں ہوتی کہ متعدد مرتبہ با وجود پختہ قصد کے عوارض سے مل گیا۔ دوسری جگہ تو بعد میں عذر کا لکھ دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت کے یہاں اس کو بھی دل گوار نہیں کرتا۔

از چچا جان بعد سلام نیاز مضمون واحد وہ اسی وقت دہلي تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے خود غریضہ لکھنے کا وقت نہیں ملا۔  
فقط امتحان، عنو گستاخ  
ذکر یا

(جواب: از حضرت اقدس حکیم الامۃ قدس سرہ)

مشفق مکرم دام فیضہم! السلام علیکم ورحمة الله،

آپ کے کریمانہ جواب سے جس قدر مسرورو مطمئن ہوا اس سے زیادہ جعل ہوں، بارک اللہ تعالیٰ فی مکار مکم اگر میرے نیاز نامہ میں دوبارہ نظر عاڑ فرمائی جائے تو واضح ہو گا کہ مجھ پر کھانے کے اختلال نظام سے اثر نہیں ہوا، اس کا تعلق مولوی ناظر احمد صاحب سے ہے اور تعلقات کے تفاوت سے احکام متفاوت ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ اس سے متأثر ہوا کہ جو امر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ میاں ظریف والوں کے مہمان تھے وہ میرے استفسار پر ظاہر نہیں فرمایا گیا، اس کو ظاہر نہ کرنے کی کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آئی اور اس ظاہر نہ کرنے میں ظاہر ہے کہ مصالح مخلل ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم تشویش اس کا اثر لازمی ہے، نیز تعلق خصوصیت اس سے بالکل آئی ہے، مقصود اس توضیح سے اپنے کلام کی تفسیر ہے نہ کوئی شکوہ، وہ تو ختم ہو چکا اور اس کے ختم کے ساتھ اس عزم جدید

کو بھی ختم کرتا ہوں یعنی اب خود بھی پوچھ لیا کروں گا۔

میری اس جارت سے جس کا نام میں نے صفائی رکھا ہے طبع لطیف پر جواہر ہوا ہواں کی معافی چاہتا ہوں اور رسم ہونے نہ ہونے کے متعلق جو تحریر فرمایا ہے بفضلہ تعالیٰ اس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ باقی میرا معمول اب تک جب تعریت کے لیے سفر کرتا تھا کھالینا تھا۔ اگر اس کے خلاف تحقیق ہو تو آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ فقط والسلام

### اشرفت علی

(جوں اب: از زکر یا غنی عن)

”مخدوم و مخدوم العالم ادام اللہ ظلال بر کاتكم، بعد بدیہ سلام نیاز آنکه۔“

گرامی نامہ اقدس عین انتظار و تشویش میں پہنچا، حضرت کی گرانی کی بڑی فکر تھی، الحمد للہ کہ بے حد سرست و اطمینان بخش ہوا۔ مگر چونکہ اس میں ایک لفظ تھا جو کسی درجہ تاثر کو مشعر ہے اور میں اپنی طرف سے حضرت کے قلب مبارک پر ذرا سا بھی تاثر نہیں چاہتا۔ اس لیے مکر عریضہ کی جرأت کرتا ہوں، میرے والد صاحب کی بڑی تربیت و تنبیہ تھی کہ بزرگوں کے قلب میں کسی قسم کا میل نہ ہو اور اللہ کا انعام ہے کہ اس کے بہت سے فوائد مجھے محسوس بھی ہوئے اور حدیث ”من عادی لی ولیا فقد اذنه بالحرب“ سے متاثر بھی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اور حضرت کی خدمت اقدس میں درخواست کرتا ہوں کہ جو تاثر الفاظ ذیل سے معلوم ہوتا ہے وہ بھی حضرت زائل فرمادیں۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ ”میں زیادہ اس سے متاثر ہوا کہ جو امر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ میاں ظریف والوں کے مہمان تھے۔“ اخ

اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ وہ اپنے خیال میں اصل نہ تھا بلکہ تبعاً تھا اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں بھی۔ درحقیقت حاضری کی اصل یہ تھی کہ پچا جان کی جب بھی دہلی سے کسی ضرورت سے تشریف آوری ہوتی ہے۔ ان کی تمنا و اصرار تین جگہ حاضری کی ہوتی ہے۔ گنگوہ، تھانہ بھون اور رائے پور مولانا عبد القادر صاحب سے ملنے کے لیے۔ مگر ان تینوں جگہ کے لیے میری ہمراہ کابی شرط ہوتی ہے، مجھے مدرسہ کی اور اپنی ضروریات کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ملتا کہ تینوں جگہ حاضر ہو سکوں اس لیے ان تینوں جگہ میں سے کبھی صرف کوئی سی ایک کی نوبت آتی ہے اور کبھی دو کی، چنانچہ اس مرتبہ گنگوہ حاضری نہ ہو سکی، البتہ تھانہ بھون اور رائے پور کی حاضری ہو گئی۔

ان کا ارشاد حادثہ کے معلوم ہونے سے پہلے مجھ سے ہو چکا تھا کہ تھانہ بھون حاضری کو زیادہ دن ہو گئے رائے پور سے واپسی پر وہاں بھی چلنا۔ مگر میں ہفتہ کا درمیان ہونے کی وجہ سے متامل تھا۔ لیکن جب یہ دوسرا محکم پیدا ہو گیا تو حاضری کا قصد پختہ کر لیا۔ باجمحلہ حضرت کے قلب مبارک

میں جتنا خفیف بھی اثر ہے اس کے ازالہ کا متنی و متدعی ہوں کہ اکابر کی گرانی کو میں اس باب  
ہلاکت سمجھتا ہوں۔ فقط

### محتاج کرم زکر یا سہار پور

(جواب: از حضرت اقدس قدس سرہ)

”مکرمی السلام علیکم و رحمۃ اللہ“

مجھ کو وسوسہ بھی نہیں ہوا کہ ان الفاظ کی دلالت بقائے تاثر پر ہو سکتی ہے۔ نہ میراقصد تھا اور نہ  
اب تاثر باقی ہے بہر حال اب تو اثنائیں ہی شرمند ہوں کہ میں نے لکھا ہی کیوں تھا۔ مگر ہمیشہ سے  
یہی عادت رہی اور پختہ ہو گئی کہ دوستوں سے معاملہ صاف رہے، اب کچھ اثر باقی نہیں بالکل  
مطمئن رہئے اور مجھ کو اپنا مخلص سمجھئے۔ اگر یہی معلوم ہو جاتا کہ اصالہ یہاں آنا ہوا ہے اور تبعاً  
ظریف کے یہاں تو مجھ کو ابہام نہ ہوتا۔ خصوصاً وہاں کھانا کھانا اس ابہام کا اور موید ہو گیا۔ توبہ توبہ  
کہاں اکابر اور کہاں اصغر الاصاغر، صلاح کا رکھا و من خراب کیا، احسن اللہ تعالیٰ عاقبتاً۔ فقط  
ماہ مبارک میں اس ناکارہ کا اکابر سے خط و کتابت

(۱۱)..... اس ناکارہ کا معمول ماہ مبارک میں تقریباً چالیس سال سے خط و کتابت کا بالکل نہیں  
مگر یہ کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے جو مدرسہ سے تعلق رکھتی ہیں یا اور کوئی خاص مجبوری ہو تو لکھنے  
پڑتے ہیں۔ لیکن اس ضابطہ میں ایک استثناء ہمیشہ سے رہا وہ یہ کہ اکابر کی خدمت میں ایک دو خط  
اس تشرع کے ساتھ کہ اس کے جواب کی ہرگز ضرورت نہیں صرف دعاء کی یاد وہانی ہے، لکھنے کا  
ہمیشہ سے رہا۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے  
متعدد خطوط پاوجوہ میرے اس لکھنے کے کہ جواب کی ضرورت نہیں اور باوجود اس اہتمام کے کہ اعلیٰ  
حضرت رائے پوری اول اور حضرت اقدس رائے پوری ثانی حضرت مولانا عبد القادر صاحب نور  
اللہ مرقدہ کے میرے انبار میں متعدد موجود ہیں اور حضرت شیخ الاسلام مدینی قدس سرہ کا توبیہ بھی  
اہتمام تھا کہ حضرت اقدس باوجود اپنے مشاغل اور ماہ مبارک کے اہتمام کے ایک دو کارڈ ماہ  
مارک میں اگر میں نہ لکھوں تو بھی حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ عموماً اس  
میں ایک یاد و شعر ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے کارڈ کہیں محفوظ ہیں اور وہ اشعار اتنے اوپرے ہوتے  
تھے کہ یہ ناکارہ ان کا مصدق نہیں بن سکتا۔ مگر حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے تعلق کے اظہار  
اور شفقت کو یاد کر کے رونے کے سواب کچھ نہیں رہا۔ ایک کارڈ کا مضمون جو حضرت نے متعدد  
رمضانوں میں لکھا تھا یہ تھا:

آنا نکہ خاک را بنظر کیمیا کنند  
آیا بود کہ گوشہ چشمے بما کنند  
ایک ماہ مبارک کے کارڈ کا شعر یہ تھا۔

گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ شر بھی  
اے ابر کرم، بحر سخا، کچھ تو ادھر بھی

مجھے یہ شعراہی طرح یاد ہے، کارڈ سامنے نہیں بعض خطوط میں عربی کے اشعار بھی تحریر فرمائے۔  
اسی طرح اس سے کارکا بھی معمول ہر ماہ مبارک میں ایک دو کارڈ حضرت مدینی کو لکھنے کا تھا اس میں  
بھی ایک دو شعر ہوا کرتے تھے یہ دونوں شعر مجھے بھی اپنے مختلف کارڈوں پر رمضان میں لکھنا بہت  
یاد ہے چونکہ حضرت قدس سرہ کا اہتمام اور معمول مجھے معلوم تھا اس لیے حضرت کی روائی کے بعد  
جہاں کہیں بھی حضرت قدس سرہ کا رمضان گزرتا میں انتیس شعبان یا یکم رمضان کو کارڈ لکھ دیتا تاکہ  
میرا کارڈ جوابی نہ بنے بلکہ ابتدائی درخواست بنے اس واقعہ کی تسوید کے وقت بھی مفتی محمود صاحب  
میرے پاس ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک کارڈ حضرت مدینی کے نام ان کے کسی خلیفہ  
کے پاس دیکھا جس میں صرف یہ مصروف تھا۔

”چوبا چینپشنی و بادہ پیکائی“

فقط

اس کا دوسرا مصروف یہ ہے۔

”بیاد آرا مجان بادہ پیکارا“

اسی طرح ہر دو شیخین رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطوط بھی میرے خزانے میں محفوظ ہیں، یہ  
چیزیں اکابر کے حالات میں آنا چاہیں تھیں مگر چونکہ اس وقت ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا اس  
لیے میرے بچوں نے اعلیٰ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک کارڈ یہ کہہ کر دکھلایا کہ اس کو تو ضرور  
نقل کرنا ہے۔ میں نے منع بھی کیا کہ اس قسم کے کارڈ نقل کرنا مناسب نہیں ہیں مگر جیسا کہ میں نے  
اوپر تحریر کیا ان بچوں کا اصرار ہے کہ یہ تبرکات ہیں اور ان سے اپنے اکابر کی تواضع معلوم ہوتی  
ہے۔ میری درخواست دعا پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارڈ حسب ذیل ہے:

”مکرمی دام فیصلکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ“

محبت نامہ نے مسرور فرمایا صحیح جواب تو یہ ہے کہ:

صلاح کار کجا و من خراب کجا

بنیں تفاوت رہ از کجاست تا به کجا

لیکن چونکہ دعاء کے لیے صلاح شرط نہیں بلا صلاح بھی عبادت ہے اس لیے دل سے دعاء کرتا ہوں اور خود بھی اس کا متنی ہوں۔ والسلام

### اشرف علی

ایک صاحب کے کارڈ پر حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا یہ ارشاد ملا۔

”بخدمت مولوی محمد زکریا صاحب، السلام علیکم۔ میرے چھوٹے بھائی کا خط شاید آپ کے پاس اس مضمون کا آیا ہو کہ کوئی شوہر اپنی بی بی پر ظلم کرتا ہے اول انہوں نے مجھ سے مجھ سے کہا کہ یہ ساذھوڑہ کا قصہ ہے۔ اگر کوئی مخلص دوست وہاں ایسا ہو کہ کوئی شوہر کو فہماش کر دے تو اچھا ہے ان کو آپ کا پتہ میں نے ہی بتایا تھا کہ شاید ان کا کوئی ذی اثر ملنے والا وہاں ہو سو میں بھی ثواب کے لیے لکھتا ہوں کہ اگر کسی مصلحت کے منافی نہ ہو تو اس کا خیال رکھئے۔ (آگے اس شوہر اور بیوی کا نام بھی تحریر فرمایا ہے)۔ فقط

### رمضان المبارک حضرت تھانوی و حضرت سہار نپوری رحمہما اللہ کے معمولات:

(۱۲)..... اس ناکارہ نے جب فضائل رمضان لکھا تو اس میں اپنے اکابر کے کچھ معمولات لکھے تھے، تھانہ بھون مجھے رمضان گزارنے کی نوبت بھی نہیں آئی اور اس سے کارکو خواجہ عزیز الحسن مجدوب سے بڑی بے تکلفی تھی کہ وہ حضرت سہار نپوری قدس سرہ اور میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ تھانہ بھون کی حاضری میں جاتے ہوئے اور واپسی میں ایک دو شب سہار نپور قیام فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں نے حضرت حکیم الامت کے رمضان کے معمولات بہت اہتمام سے دریافت کیے۔ اس خط میں حضرت کے تو معلوم نہ ہو سکے مگر بعض دوستوں کا اصرار ہے کہ اکابر کے معمولات میں تیرے اس استفسار کو بھی بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ان کے درج کرنے کی ہے۔

”مکتوب زکریا بنام خواجہ عزیز الحسن صاحب مجدوب رحمہما اللہ تعالیٰ۔“

مندرجی حضرت خواجہ صاحب زاد مجدد کم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، یہ سن کر کہ آپ کچھ طویل مدت کے لیے تھانہ بھون مقیم ہیں، بے حد سرگت ہوئی، حق تعالیٰ شانہ ترقیات سے نوازیں، اس وقت باعثِ تکلیف وہی ایک خاص امر ہے جس کے لیے بڑے غور کے بعد جناب ہی کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا کے یہاں آپ سے زیادہ بے تکلف شاید کوئی نہ ہو۔ اس لیے جناب کو اس میں سہولت ہوگی۔ مجھے حضرت کے معمولاتِ رمضان شریف معلوم کرنے کا اشتیاق ہے خود حضرت سے پوچھتے ہوئے تواریخ مانع ہے اور خود حاضر ہو کر دیکھوں تو ایک دو روز

میں معلوم کرنا مشکل ہے۔ اس لیے جناب کو واسطہ بناتا ہوں۔ امید ہے کہ تکلیف کو گوار فرمائیں گے۔ سوالات سہولت کے لیے میں خود ہی عرض کرتا ہوں۔

- (۱) وقتِ افطار کا کیا معمول ہے۔ یعنی جنتریوں میں جو اوقات لکھے جاتے ہیں ان کا لحاظ فرمایا جاتا ہے یا چاند وغیرہ کی روشنی کا۔ (۲) اگر جنتری پر مدار ہے تو تقریباً کتنے منٹ اختیاط ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ (۳) افطار میں کسی خاص چیز کا اہتمام ہوتا ہے یا "کل ما تیسر" اگر اہتمام ہوتا ہے تو کس چیز کا۔ (۴) افطار اور نماز میں کتنا فصل ہوتا ہے۔ (۵) افطار مکان پر ہوتا ہے یا مدرسہ میں۔ (۶) مجمع کے ساتھ افطار فرماتے ہیں یا تہا۔ (۷) افطار کے لیے کھجور یا زمزم کا اہتمام فرمایا جاتا ہے یا نہیں۔ (۸) مغرب کے بعد نوافل میں کمایا کیفًا کوئی خاص تغیر ہوتا ہے یا نہیں، اگر ہوتا ہے تو کیا۔ (۹) اذایں میں تلاوت کا کیا معمول ہے۔ رمضان اور غیر رمضان دونوں کا معمول ہے۔ (۱۰) غذا کا کیا معمول ہے، یعنی کیا کیا اوقات غذا کے ہیں، نیز رمضان اور غیر رمضان میں کوئی خاص اہتمام کی کمی زیادتی کے اعتبار سے معقاد ہے یا نہیں۔ (۱۱) تراویح میں امسال تو معلوم ہوا ہے کہ علالت کی وجہ سے مدرسہ میں سنتے ہیں مگر مستقل عادت شریفہ کیا ہے، خود تلاوت یا سماع اور کتاروزانہ۔ (۱۲) ختم کلام مجید کا کوئی خاص معمول مثلاً ستائیں (۲۷) شب یا آنسیں (۲۹) شب یا کوئی اور شب ہے یا نہیں۔ (۱۳) تراویح کے بعد خدام کے پاس تشریف فرمائے ہے کی عادت شریفہ ہے یا نہیں، فوراً مکان تشریف لے جاتے ہیں یا کچھ دیر کے بعد تشریف لے جاتے ہیں تو یہ وقت کس کام میں صرف ہوتا ہے۔ (۱۴) مکان تشریف لے جا کر آرام فرماتے ہیں یا کوئی خاص معمول ہے، اگر آرام فرماتے ہیں تو کس وقت سے کس وقت تک۔ (۱۵) تہجد میں تلاوت کا کیا معمول ہے، یعنی کتنے پارے کس وقت سے کس وقت تک۔ (۱۶) حرج کا کیا معمول ہے یعنی کس وقت تناول فرماتے ہیں اور طلوع فجر سے کتنا قبل فارغ ہو جاتے ہیں۔ (۱۷) حرج میں دودھ وغیرہ کسی چیز کا اہتمام ہے یا نہیں، روٹی تازی کیتی ہے یا رات کی رکھی ہوئی۔ (۱۸) صبح کی نماز معمول کے وقت اسفار میں ہوتی ہے یا کچھ مقدم۔ (۱۹) دن میں سونے کا وقت ہے یا نہیں، اگر ہے تو صبح کو یادو پھر کو۔ (۲۰) روزانہ تلاوت کا کوئی خاص معمول ہے یا نہیں یعنی کسی خاص مقدار تلاوت کی رمضان میں مقرر فرمائی جاتی ہے یا نہیں۔ (۲۱) کسی دوسرے شخص کے ساتھ دو رکایا سانے کا معمول ہے یا نہیں۔ (۲۲) تلاوت حفظ اکثر فرمائی جاتی ہے یاد کیے کر۔ (۲۳) اعتکاف کا معمول ہمیشہ کیا رہا اور اعتکاف عشرہ سے زیادہ کا مثلاً اربعینہ کا بھی حضرت نے فرمایا یا نہیں۔ (۲۴) آخر عشرہ میں اور بقیر حصہ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں۔ (۲۵) ان کے علاوہ کوئی خاص عادت شریفہ آپ لکھ سکیں گے، بہت بھی کرم ہو گا۔ اگر مفصل جواب تحریر

فرمائیں گے اور اگر حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے معمولات کا پتہ لگا سکیں تو کیا ہی کہنا کہ حضرت مولانا ہی کی ذات اب ایسی ہے جو حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مفصل معمولات کچھ بتا سکتی ہے۔ جناب کو بہت ہی تکلیف تو ضرور ہوگی۔ مگر مشائخ کے معمولات خدام کے لیے اسوبہ ہو کر انشاء اللہ بہت ہوں کو نفع ہوگا۔ دعاء کا متنقی اور مستدی۔ فقط السلام زکر یا عفی عنہ

الجواب:

مخدوم و مکرم و معظم مد فیوضکم العالی  
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

گرامی نامہ شرف صدور لایا۔ چونکہ حضرت اقدس کے بعض بلکہ اکثر معمولات رمضان المبارک پر میں خود ہی مطلع نہ تھا، اس لیے بضرورت جناب کا والا نامہ خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہ لکھ دیا جائے کہ اگر چاہیں وہ برا و راست خود مجھ سے دریافت کر لیں۔ جواب اطلاع اعراض ہے، چونکہ اعتکاف میں ہوں، اس لیے پہل سے لکھ رہا ہوں،  
گستاخی معاف ہو۔ والسلام

طالب دعائے خیر عزیز الحسن عفی عنہ (اس خط پر کوئی تاریخ نہیں)

اس خط کے نقل کرنے پر بعض دوستوں کو خواہش ہوئی اور خود میرا بھی جی چاہا کہ ان سوالات کے جواب میں سیدی و سندی و مرشدی حضرت اقدس سہار پوری قدس سرہ کے معمولات نقل کراؤں، اگر چہ اجمانی طور پر فضائل رمضان میں اور تذکرۃ التخلیل میں گزر چکے ہیں، لیکن ان مسلسل سوالات کے جواب میں مسلسل جواب لکھواؤں کہ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں ۲۸ سے ۳۵ تک رمضان گزارنے کی نوبت آئی۔ بجز ۳۴ کے کہ اس رمضان المبارک میں حضرت قدس سرہ مکملہ مکملہ میں تھے اور یہ ناکارہ سہار پور میں تھا۔

(۱) حضرت قدس سرہ کے یہاں گھڑی کا اہتمام اور اس کے ملانے کے واسطے مستقل آدمی تو تمام سال رہتا تھا، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں گھڑیوں کے ڈاک خانے اور شیلیفون وغیرہ سے ملوانے کا بہت اہتمام رہتا تھا۔ افطار جنتزیوں کے موافق ۳-۲-۳ منٹ کے احتیاط پر ہوتا تھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ، رائے پور میں چونکہ طلوع آفتاب اور غروب بالکل سامنے صاف نظر آتا تھا۔ اس لیے دونوں وقت گھڑیوں کے ملانے کا اہتمام طلوع و غروب سے بہت تھا۔ میرے والد صاحب اور پیچا جان نور اللہ مرقدہ کے یہاں جنتزیوں پر زیادہ مدار نہیں تھا۔ گھڑیوں پر۔ بلکہ "اذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار

من ہلھنا، آسمان پر زیادہ نگاہ رہتی تھی۔

(۲) اور گزر چکا کہ جنتی کے اعتبار سے ۲-۳ منٹ کی تاخیر ہوتی تھی۔

(۳) کھجور اور زمزم شریف کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ سال کے دوران میں جو حجاج کرام زمزم اور کھجور ہدایا لاتے تھے وہ خاص طور سے رمضان شریف کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ زمزم شریف تو خاصی مقدار میں رمضان تک محفوظ رہتا۔ لیکن کھجور میں اگر خراب ہونے لگتیں تو رمضان سے پہلے تقسیم کر دی جاتیں۔ البتہ افطار کے وقت آدمی یا پون پیاں دودھ کی چائے کا معمول تھا اور بقیہ اس سیہ کارکو عطا ہوتا تھا۔

(۴) حضرت نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں تقریباً اس منٹ کا فصل ہوتا تھا، تاکہ اپنے گھروں سے افطار کر کے آنے والے اپنے گھر سے افطار کر کے نماز میں شریک ہو سکیں۔

(۵) حضرت کا معمول مدرسہ میں افطار کا رہا۔ چند خدام یا مہماں ۱۵-۲۰ کے درمیان ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں مدرسہ شرعیہ میں افطار کا معمول تھا۔

(۶) گزر چکا۔ (۷) نمبر ۳ میں گزر چکا۔

(۸) مغرب کے بعد کے نوافل میں کما کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا، کیفًا ضرور ہوتا تھا کہ معمول سے زیادہ دیر لگتی تھی۔ عموماً سوا پارہ پڑھنے کا معمول تھا اور ماہِ مبارک میں جو پارہ تراویح میں حضرت سناتے وہی مغرب کے بعد پڑھتے۔

(۹) سابقہ میں گزر چکا۔

(۱۰) اوایں کے بعد مکان تشریف لے جا کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ تقریباً ۲۰-۲۵ منٹ اس میں لگتے تھے۔ کما اس وقت کی غذا میں بہت تقلیل ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے یہاں یعنی کامنڈھلہ اور گنگوہ میں سحر میں پلاو کھانے کا بالکل معمول نہیں تھا بلکہ سخت خلاف تھا کہ اس کو موجب پیاس خیال کرتے تھے، سحر میں پلاو سب سے پہلی مرتبہ سہارنپور میں حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں کھائی، اس سیہہ کا معمول ہمیشہ سے افطار میں کھانے کا بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ تراویح میں قرآن شریف سنانے میں وقت ہوتی تھی۔ البتہ جب تک صحت رہی سحر میں اندازی کی بندوق بھرنے کا دستور رہا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ مجلس میں اس کا ذکر آگیا کہ یہ ناکارہ افطار میں نہیں کھاتا، تو حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں کس طرح کھایا جائے، جو کھاتے ہیں وہ بھی ضابطہ ہی پورا کرتے ہیں۔

(۱۱) میرے حضرت قدس سرہ کے اخیر کے دوساروں کے علاوہ کہ ضعف و نقاہت بہت بڑھ گیا تھا، ہمیشہ تراویح میں خود سنانے کا معمول رہا۔ دارالطلبہ بننے سے پہلے مدرسہ قدیم میں تراویح

پڑھایا کرتے تھے۔ دارالطلبہ قدیم بن جانے کے بعد پہلے سال میں تو حضرت کی تعیل حکم میں میرے والد صاحب نے قرآن پاک سنایا تھا۔ اس کے بعد ہمیشہ حضرت قدس سرہ کا وہاں قرآن پاک سنانے کا معمول رہا۔

(۱۲) اکتوبر ۲۹ کی شب میں ختم قرآن کا معمول تھا۔ چند روز تک شروع میں سوا پارہ اور اس کے بعد اخیر تک ایک پارہ کا معمول تھا۔ اس سلسلہ میں ایک عجیب و غریب قصہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی قدس سرہ کا معروف ہے کہ اگر رمضان مبارک ۲۹ کا ہوتا تو یہی رمضان کو ایک پارہ قدس سرہ کا معمول یہی رمضان کو دو پارے پڑھنے کا تھا اور ۳۰ کا ہوتا تو یہی رمضان کو ایک پارہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ یہی رمضان کو اپنی مسجد میں تراویح پڑھانے کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے کہ بھائی نے آج ایک پارہ پڑھایادو۔ اگر معلوم ہوتا کہ دو پڑھنے تو شاہ صاحب فرمایا کرتے، اب کے رمضان ۲۹ کا ہو گا، یہ علم غیب نہیں کہلاتا بلکہ علم کشف کہلاتا ہے۔

(۱۳) تراویح کے بعد ۱۵-۲۰ منٹ حضرت قدس سرہ مدرسہ میں آرام فرماتے تھے۔ جس میں چند خدام پاؤں بھی دباتے اور قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی گفتگو بھی رہتی مثلاً کسی نے غلط لفظ دے دیا یا تراویح میں اور کوئی بات پیش آئی ہواں پر تبصرہ، تفریغ چند منٹ تک ہوتی۔ حضرت قدس سرہ کے پچھے تراویح پڑھنے کے لیے دور وورے حفاظ آتے۔ یہ ناکارہ اپنی تراویح پڑھانے کے بعد جو اکثر حکیم اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اور بھی بھی امام جی کے اصرار و ارشاد پر حضرت قدس سرہ کے مکان پر پڑھانے جاتا تھا۔ جلد جلد فراغت کے بعد حضرت قدس سرہ کے یہاں پہنچ جاتا۔ اس وقت تک حضرت قدس سرہ کے یہاں ۲-۲ رکعتیں ہوتیں۔ اس لیے کہ حکیم صاحب مرحوم کی مسجد میں نماز سوریے ہوتی تھی اور مدرسہ دارالطلبہ کی مسجد میں تاخیر سے اور یہ ناکارہ اپنی ناہلیت سے پڑھتا بھی بہت جلدی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ نے سورہ طلاق شروع کی اور ”یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن الآیہ“ آیت شریفہ شروع کی اور اس ناکارہ جلدی سے لفظ دیا۔ ”یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء“ حضرت حافظ محمد حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو حضرت قدس سرہ کے مستقل سامع تھے۔ ہر سال اجراءہ سے سہار پور رمضان گزارنے تشریف لایا کرتے تھے۔ نیز حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اور میرے بھیجاں نور اللہ مرقدہ ما اقتداء میں تھے، تینوں ایک دم بول ”یا ایها النبی“ تراویح کے بعد حب معمول لیٹنے کے بعد حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا۔ مولوی زکریا سورہ ہے تھے، میں نے عرض کیا حضرت بالکل نہیں، مگر ”اذا طلقتم النساء فطلقوهن واحصوا العدة، و اتقوا

الله ربکم و لا تخرجوهن۔“ سارے جمع کے صیغے تھے، مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ ”یا ایها الذین آمنوا“ ہوگا۔ ”یا ایها النبی“ مفرد کیوں ہوگا۔

حضرت اقدس سہار پوری نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف میں بھی قیاس چلاتے ہو۔ میں نے عرض کیا، حضرت یہ تو قیاس نہیں، یہ تو اعد نجویے کی بات تھی ایک مرتبہ حافظ محمد حسین صاحب نے غلط لفظ دے دیا۔ میں نے ایک دم صحیح لفظ دیا۔ حضرت حافظ صاحب کی زبان سے بے اختیار نکل گیا نماز ہی میں ”ہاں“ اور پھر جو میں نے بتایا تھا وہی حافظ صاحب نے بتایا۔ تراویح کے بعد کے وقٹے میں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میر القمر لیا یا حافظ کا، میر امطلب یہ تھا کہ حافظ صاحب کی نماز تو ”ہاں“ کہنے سے نوٹ گئی اور حضرت نے اگر ان کا لفظ لیا ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ سب کی نوٹ گئی۔ حضرت قدس سرہ میری حماقت کو سمجھ گئے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں باوہلا تھا جو ان کا لفظ لیتا۔ اس قسم کے تفریحی فقرے یا کسی آیت شریفہ کے متعلق کوئی تفسیری نکالتے ہوتا تو اس پر بھی گفتگو فرماتے رہتے، ایک مرتبہ ”وان تعدوا نعمۃ اللہ“ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں شامل ہیں۔ اس لیے تعداد ارشاد فرمایا گیا۔

(۱۴) تراویح کے بعد چند منٹ قیام کے بعد جیسا کہ اوپر لکھا مکان تشریف لے جا کر ۱۵-۲۰ منٹ گھروں سے کلام فرماتے اور محلہ کی کچھ مستورات اس وقت آ جاتیں ان سے بھی کچھ ارشاد فرماتے، اس کے بعد ڈھائی تین گھنٹے سونے کا معمول تھا۔

(۱۵) تہجد میں عموماً دو پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ کبھی کم و بیش سو گنجائش اوقات۔ بذل الجھوڑ میں جب نظائر والی حدیث آئی جو مصحف عثمانی کی ترتیب کے خلاف ہے تو حضرت قدس سرہ نے اس ناکارہ سے فرمایا تھا کہ اس حدیث کو ایک پرچہ پر نقل کر دینا، آج تہجد اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ یہ فرط محبت اور فرط عشق کی باتیں:

”محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھا دے گی،“

سنا ہے کہ حضرت شیخ البند قدس سرہ کا معمول وتروں کے بعد درکعت بیٹھ کر پڑھنے کا تھا، کسی نے عرض کیا کہ حضرت آدھا ثواب آیا ہے، حضرت نے فرمایا ہاں بھی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اتباع میں جی زیادہ لگے ہے، پڑا ثواب زیادہ نہ ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ ضابطہ میں تو آدھا ہی ثواب ہے مگر یہ جذبہ عشق شاید پورے حصہ سے بھی بڑھ جائے۔ مشہور ہے کہ مجنون لیلی کے شہر کے کتوں کو پیار کرتا تھا۔

(۱۶) تقریباً صبح صادق سے با اختلاف موسم دو یا تین گھنٹے پہلے اُٹھنے کا معمول تھا اور صبح صادق سے تقریباً آدھہ گھنٹہ پہلے سحر کا معمول تھا۔ ۱۵-۲۰ منٹ میں فراغت ہو جاتی تھی۔ یعنی

طلوع فجر سے ۱۵۔ ۲۰ منٹ پہلے۔

(۱۷) سحر میں دودھ وغیرہ کی چیز کا اہتمام نہیں تھا، کبھی ہدایا میں بھی نہیں آ جاتیں تو بلا اہتمام سب گھروالوں کے لیے بھگوڑی جاتیں ایک آدھ چچھے حضرت قدس سرہ بھی تو شفرماليتے، البتہ پلاو کبھی کبھی سحر میں حضرت کے یہاں پکائی جاتی تھی، البتہ افطار میں کبھی نہیں پکا کرتی تھی شاید میں پہلے کہیں لکھوا چکا ہوں حضرت قدس سرہ کے قبل کا ندخلہ یا لگنگوہ میں سحر میں پلاو کھانا جرم تھا۔ مشہور یہ تھا کہ اس سے پیاس لگتی ہے مگر حضرت قدس سرہ کے یہاں کھانے کے بعد سے جب تک اس ناکارہ کی صحت رہی اور سحور کا اہتمام رہا اس وقت تک تو میرا معمول سحر میں پلاو کھانے کا رہا اور اب تو دس بارہ سال سے جب سے مہماں کا جووم بڑھ گیا۔ افطار میں پلاو اور گوشت روٹی کے علاوہ سحر میں میٹھے چاولوں کا بھی ہو گیا، حضرت قدس سرہ کے یہاں سحر میں تازی روٹی پکتی تھی۔ البتہ سحر میں چائے کا معمول حضرت کے یہاں تھا، اس ناکارہ کا اپنا سحر میں کبھی چائے پینا یاد نہیں، کیونکہ رمضان میں نماز فجر کے بعد سونے کا معمول ہے ۳۸ ۴ یعنی پہلے سفرج سے رمضان میں رات کو نہ سونے کا معمول شروع ہوا تھا جواب سے ۷، ۸ سال پہلے تک بہت اہتمام سے رہا۔ لیکن اب تو امراض نے سارے ہی معمولات چھڑا دیے۔

(۱۸) حضرت قدس سرہ کے یہاں رمضان میں اسفار میں نماز پڑھنے کا معمول تھا، البتہ غیر رمضان سے دس بارہ منٹ قبل۔

(۱۹) حضرت قدس سرہ کا معمول بارہ مینیٹ صبح کی نماز کے بعد سے تقریباً اشراق تک سردیوں میں جھرے کے کواڑ بند کر کے اور شدید گرمی میں مدرسہ قدیم کے گھن میں چار پائی پر بیٹھ کر اور ادا کا معمول تھا اس میں مراقبہ بھی ہوتا تھا۔ بارہ مینیٹ اشراق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ۳۵ ۴ سے پہلے بخاری اور ترمذی شریف کے سبق کا وقت تھا۔ لیکن ۳۵ ۴ کے بعد بذل کی تالیف کا وقت ہو گیا تھا جو ہر موسم میں ۱۲، ۱۳ بجے تک رہتا۔ لیکن ماہ رمضان مبارک میں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد گرمی میں ایک بجے تک بذل لکھواتے اور سردی میں ۱۲ بجے تک اس کے بعد ظہر کی اذان تک قیلولہ کا معمول تھا۔

(۲۰) رمضان میں حضرت قدس سرہ کا معمول ہمیشہ وصال سے دو سال قبل تک خود تراویع پڑھانے کا تھا، ظہر کی نماز کے بعد تراویع کے پارے کو ہمیشہ حافظ محمد حسین صاحب اجزاؤ کو سنا یا کرتے تھے کہ وہ اسی واسطے رمضان المبارک ہمیشہ سہار پور کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی ان کی غیبت میں اس سے کار کو بھی سننے کی نوبت آئی، البتہ مدینہ پاک میں ظہر کے بعد پارہ سننا اس ناکارہ کے متعلق تھا اور میرے سفر جاز سے واپسی پر چونکہ بذل بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد

مستقل ایک پارہ اہلی محترمہ کو سنانے کا دستور تھا اسی پارہ کے جو ظہر کے بعد سنانے کا معمول تھا۔ مغرب کے بعد ادا بین میں اور رات کو تراویح میں پڑھتے تھے۔

(۲۱) ۳۳ھ کے سفر حج سے پہلے عصر کے بعد میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے دو رک معمول تھا جو اسی پارہ کا ہوتا تھا۔ جو تراویح میں سناتے، میں نے اپنے والد صاحب قدس سرہ کے علاوہ کسی اور سے دور کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(۲۲) حضرت قدس سرہ کو دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے کم دیکھا ہے البتہ کبھی کبھی ضرور دیکھا ہے۔

(۲۳) حضرت نور اللہ مرقدہ کو وصال سے دو سال قبل کہ ان دو سالوں میں امراض کا جواضاف ہو گیا تھا ان میں سے قبل میں نے کبھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک فرماتے تھیں دیکھا اور دارالطلیبہ بننے سے قبل مدرسہ قدیم کی مسجد میں کرتے تھے اور دارالطلیبہ بننے کے بعد یعنی ۳۵ھ سے دارالطلیبہ میں فرماتے تھے اور اس عشرہ میں بھی بذل کی تالیف متوفی نہیں ہوتی تھی بلکہ مسجد کلثومیہ کی غربی جانب جو جگہ ہے اس میں میں تاریخ کوتالیف سے متعلقہ سب کتابیں جاتیں تھیں جو صحیح کی نماز کے بعد یہ ناکارہ اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتا اور تالیف کے ختم پر پھر اسی جگہ میں منتقل کر دی جاتیں۔ عشرہ اخیر کے علاوہ میں نے کبھی اعتکاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(۲۴) میں نے کوئی خاص فرق نہیں دیکھا۔ بجز اس کے کہ اٹھنے میں کچھ تقدیم ہو جاتی۔ اگرچہ میں اجمیا طور پر فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرہ اور حضرت حکیم الامت کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بخلاف حضرت شیخ الہند اور اعلیٰ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے کہ ان دونوں کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں بہت فرق ہوتا تھا جیسا کہ میں نے فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں۔

(۲۵) اس کے علاوہ کہ اخبار دیکھنے کا جو معمول کسی کسی وقت غیر رمضان میں ہوتا تھا وہ رمضان میں نہیں ہوتا تھا بلکہ رمضان میں ان دو سالوں کے علاوہ جن میں میرے والد صاحب کے ساتھ دور ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی اور زبان پر اور آہستہ آہستہ، کوئی خادم بات دریافت کرتا تو اس کا جواب مرحمت فرمادیتے کچھ لوگ دس پندرہ کے درمیان میں جیسے متولی جلیل صاحب، متولی ریاض الاسلام صاحب کاندھلہ سے اور میرٹھ سے رمضان کا کچھ حصہ گزارنے کے لیے حضرت کے پاس آ جایا کرتے تھے، مگر اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے اس لیے کہ عید سے ایک دن پہلے گھر واپس جانا چاہتے تھے۔

مکتوبات حضرت تھانوی بسلسلہ لفظ "امام" نام نامی حضرت حسین رضی اللہ عنہ

(۱۳) مکتب زکریا بنام حکیم الامت نور اللہ مرقدہ

حضرت اقدس ادams اللہ ظلال بر کا تکم و نورنا با نور افیوضکم، بعد سلام مسنون آنکہ۔ ایک امر میں حضرت اقدس کا ذوق اپنے عمل کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر امام کا لفظ تحریر و تقریر میں استعمال کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ استعمال میں تجھے بالفرض کا شبہ ہے کہ اصل اطلاق اس کا شیعہ کے یہاں سے ہے۔ عدم استعمال میں تجھے بالخروج کا شبہ ہے کہ اب یہ لفظ اہل سنت کے کاموں میں اتنی کثرت سے استعمال ہونے لگا کہ گویا جزو نام بن گیا۔ اپنے اکابر کی کلام میں دونوں طرح کی ملتی ہیں فتاویٰ مولانا عبد الحق صاحب ماشیت بالشیخ عبد الحق وغیرہ میں سید حسن و سید حسین کو لفظ امام کے ساتھ متعدد جگہ استعمال کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ میں عن الامامین الهمامین ہے، حضرت گنگوہی کے رسائل رو شیعہ میں نہیں ہے۔ جناب حسن جناب حسین اور حضرت حسن وغیرہ کے الفاظ ہیں۔

دعاء کا محتاج:

ذیقعده ۷۵ھ زکریا کاندھلوی مظاہر علوم سہار پور ۲۰۰۴ء۔

### الجواب:

(۱۲) ”میرا ذوق ہی کیا۔ مگر میرے اعتقاد میں یہ تجھے اس لیے نہیں کہ اس کا شیوع اس قدر ہو گیا کہ خصوصیت کا شایبہ نہیں رہا بلکہ اگر اطلاق کے وقت اس کا خیال آ جاتا ہے تو بجائے امام کے حضرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں اور اولیٰ سمجھتا ہوں۔“

اس ناکارہ زکریا کا معمول ایک عرصہ سے یہ ہے کہ حضرت قطب الارشاد حکیم الاسلام حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اعلیٰ اللہ مراجیہ، کو مند الہند کہا کرتا ہوں اور لکھا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ناکارہ نے ۲۰ھ سے حدیث شریف پڑھانی شروع کی تھی۔ اس وقت میں دیکھا کہ اپنے سلسلہ کی ساری اسانید حضرت مند الہند پر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ دوسرے ممالک والوں کی سند میں بھی تحقیق کروں۔ چنانچہ میں نے اس وقت میں ہر مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا اہل حدیث کا ہو یا اہل بدعت کا ہو یا کسی بھی مسلم کا ہو اور وہاں حدیث پڑھائی جاتی ہو ان کو ایک ایک جوابی کارڈ لکھا جس میں یہ لکھا کہ آپ کی سند حدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا سلسلہ ہے یا نہیں؟ مجھے کسی مسلم کے خط سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی بھی حدیث پڑھانے والا ہندوستان میں ایسا ہے جس کا سلسلہ سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے واسطے سے نقیح گیا ہو، ایسا تو ضرور ہوا کہ بہت سے مشائخ حدیث کی ایک سند ولی اللہ واسطے اور اس کے علاوہ دوسری سند میں بھی ان کو حاصل ہیں، چنانچہ خود میرے حضرت قدس

سرہ کی سند ولی اللہ خاندان کے علاوہ مکرمہ مدینہ منورہ کے مشائخ سے ہے جیسا کہ مقدمہ بذل الجھوڑ، لامع الدراری، مقدمہ او جز میں تفصیل سے مذکور ہے اس لیے میں حضرت قطب عالم شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو مند ہند کہا کرتا ہوں، حضرت مندالہنڈ قدس سرہ کے تین رسائلے ”الفضل المبين فی المسلسل من حدیث النبی الامین“ ووسرا رسالہ ”الدر الشمین فی مبشرات النبی الامین“ اور تیرسا ”النوادر فی حدیث سید الاولین والآخرين“ ان میں دوسرا رسالہ الدر الشمین تو مطبع مجتبائی میں ترجمہ کے ساتھ چھپا ہوا ملتا تھا۔ لیکن پہلا اور تیرسا نایاب قلمی میرے حضرت قدس سرہ کے پاس تھا۔ ان تینوں رسالوں کو حضرت یحیائی ۱۳۲۰ھ میں چھپوایا تھا اور اس وقت سے حضرت قدس سرہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی سمجھدار ذی علم اس کی سند اور اجازت کی درخواست کرتا تو حضرت اس کو انفراد ایسا اجماعاً پوری سن کر یا ادائیل سن کر اجازت فرمادیا کرتے۔ اس سے کارکوب سے پہلے اس کی اجازت شوال ۱۳۲۳ھ میں، جبکہ حضرت قدس سرہ حضرت شیخ الہنڈ نور اللہ مرقدہ کی معیت میں طویل قیام بلکہ براہ رجاء حجاز قسطنطینیہ کا بیل وغیرہ سے ہندوستان پر حملہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت قدس سرہ کی مشایعت کے لیے اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرہ تشریف لائے تھے۔ لیکن اللہ والوں کی خلافت تو سنت قدیمہ ہے۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین بھی مشرکین اور منافقین کی ایذا رسانی سے نہ چھوٹے۔ بعض مفسدوں کو یہ خیال ہوا اور سنایہ تھا کہ محض تفریخاً کہ حضرت سہار پوری کا سفر حجاز رونکا جائے اور اس کے لیے ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر کے حضرت قدس سرہ پر دعویٰ کر دیا کہ عین وقت پر سکن کی تعمیل کر اکر سفر کرو کر دیا جائے۔ حضرت قدس سرہ اس کی وجہ سے دون تک اہل راپور کے اس مکان میں جو دارالطلبہ قدیم کی برابر میں ہے روپوش رہے۔ اسی مکان میں اعلیٰ حضرت راپوری نور اللہ مرقدہ کا قیام تھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے درخواست کی یا حضرت سہار پوری قدس سرہ نے از خود ارشاد فرمایا ہوگا۔

### مسلسلات کی پہلی اجازت:

غرض اس وقت حضرت کے سفر حجاز سے دو تین روز قبل اس مکان میں اس سے کارکی مسلسلات کی پہلی اجازت ہے جس میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مدرس مظاہر علوم، میرے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی حال شیخ الاسلام پاکستان شریک تھے اور بہت ہی لذائذ سے یہ اجازت ہوئی تھی جس کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے اس کے بعد سے چونکہ حضرت قدس

سرہ کی حجاز واپسی کے بعد سے آخر ۲۵ھ تک یہ یہ کار سفر آور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کا ہم رکاب رہا اس لیے عموماً کوئی شخص اجازت لینے کے لیے آتا تو یہ ناکارہ بھی اس میں شریک رہتا، بلکہ اکثر قراءت بھی میں ہی کرتا، مگر یہ اجازت عموماً انفراد ہوتی۔ اس ناکارہ کی سفر حجاز سے واپسی ۳۶ھ کے بعد سے ابو داؤد شریف کا سبق مستقل طور پر میرے متعلق ہو گیا اور ابو داؤد شریف کے ختم پر طلبہ کے اصرار پر اول مخصوص طلبہ کو اس کے بعد درفتہ رفتہ ابو داؤد کی پوری جماعت اور اس کے بعد سے قرب و جوار کے مدارس کے طلبہ نے بھی شرکت کرنی شروع کی اور اس ناکارہ نے بھی ان تینوں رسائل کا مطالعہ کئی سال تک مسلسل اجازت کے موقعوں پر کیا۔ ان میں سے دور سالے درشین اور نوادر کے اندر توزیادہ تحقیق کی بات نہیں تھی۔ بجز اس کے کہ انوادر میں بعض معمر صحابہ کی روایات ذکر کی گئی تھیں۔ جن پر محدثین نے بڑے سخت کلام کیے ہیں اور مسلسلات کے بعض رواۃ پر بھی سخت کلام کیا۔ جس کے متعلق مجھے یہ اشکال پیدا ہوا کہ ان رسائل کی اجازت دینا جائز ہے یا نہیں، حضرت مند ہند کی تالیف اور میرے حضرت قدس سرہ کا ان کو طبع کرنا تا اور مسلسل اجازت دینا تو محرك تھا لیکن محدثین کا کلام موجب اشکال تھا۔ اس لیے ۵۲ھ میں اس ناکارہ نے جملہ اکابر حضرت شیخ الاسلام مدینی، حضرت حکیم جمیل الدین صاحب گینوی شاگرد حضرت قطب عالم گنگوہی، مولانا کفایت اللہ صاحب دہلی مفتی اعظم ہند اور بیسوں اکابر اور معاصرین کو جوابی کارڈ لکھئے، میری عادت ہمیشہ اپنی زندگی یا صحت کے زمانے میں یہ رہی کہ جب مجھے مسئلہ میں اشکال پیش آتا تھا تو اپنے اکابر اور معاصرین اور بعد میں شاگردوں سے بھی جو استفسار میں عار نہیں ہوا، جن جن کو مناسب سمجھتا ایک ایک جوابی کارڈ لکھوا دیتا کہ مجھے اس مسئلہ میں اشکال ہے اس کے متعلق تمہاری معلومات کیا ہیں، اسی سلسلہ میں ۵۲ھ میں تقریباً پچاس خطوط لکھئے جن کے جواب میں اکثریت تو ایسے حضرات کی تھی جنہوں نے اس کتاب سے لاعلیت ظاہر کی اور بعض نے لکھا کہ محمد ثانہ کلام کی طرف التفات نہیں ہوا۔ اسی سلسلہ میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کو بھی ایک عریضہ لکھا تھا۔ جس کا جواب حضرت قدس سرہ نے جوار شاد فرمایا وہ دونوں یہاں درج کرنا تھا۔

خلاصہ استفسار از:

**حضرت اقدس حکیم الامت کا مسلسلات کے سلسلہ میں ایک مکتوب**

**حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی ادام اللہ خلال بر کاتكم**

**مجد دعصر حضرت مند ہند شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے رسائل میں بہت سی روایات**

محدثین کے قاعده کے موافق متکلم فیہ بلکہ بعض کو موضوع بھی کہا گیا ہے۔ بالخصوص رتن ہندی اور ابوالدنیا وغیرہ سے جو روایات منقول ہیں کہ رتن ہندی کی صحابیت محدثین کے نزدیک ثابت نہیں، اصحاب میں ان کے متعلق طویل کلام کیا ہے اور ابوالدنیا کو لسان المیز ان میں سخت الفاظ سے تعبیر کیا ہے ایسے حالات میں ان روایات کا معمول شاہ صاحب کے زمانے سے متداول ہے مجھے حضرت مولانا سہار پوری نور اللہ مرقدہ سے اجازت ہے۔ اب بھی بعض طلبہ کے اصرار پر بندہ کبھی کبھی روایت کرتا ہے، امسال یہ خلجان درپیش ہے کہ حسب قاعده محدثین یہ موضوعات کی روایت ہے اور شاہ صاحب کی تالیف ہونا اور اپنے اکابر کی روایت یہ دونوں امراء کے معارض ہیں اکابر کے ساتھ حسن ظن ان پر اعتماد ان کی چھان میں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرف الثقات نہ ہو اور محدثین کی تحقیق فن رجال ائمہ کا فیصلہ اس سے مانع ہے کہ ان کی روایت کی اجازت دی جائے۔ ایسی حالت میں خلجان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کون سی تحقیق راجح ہے، جائز میں بعض مشائخ کے یہاں متداول ہے اگر اجازت نہ دی جائے تو اس تسلسل کے صانع ہونے کا اندیشہ ہے جو تیرہ سو برس سے باقی ہے اور اجازت وی جائے تو عید و خول فی الکذب کا اندیشہ ہے اس مختصر ا۔

### الجواب:

مکرم السلام علیکم آپ نے غایت ورع و احتیاط سے اس کو ضرورت سے زیادہ اہم ٹھہرالیا۔ آخر ابن ملجم وغیرہ میں بھی بعض احادیث موضوع کی گئیں۔ مگر ان کی روایت بلا نکیر برابر ہوتی ہے۔ اکابر کا روایت کرنا دلیل ثبوت کسی حال نہیں۔ ان کو جو پہنچار روایت کر دیا۔ روایت کرنا اور بات ہے اور ثبوت کا حکم کرنا اور بات ہے۔ البتہ روایت کر کے اس کے عدم ثبوت کو مع درج عدم ثبوت کے ظاہر کر دینا ضروری ہے اس طرح سے موضوعات کی روایت بالاجماع جائز ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات ذہن میں نہیں باقی دوسرے علماء سے مراجعت کرنے سے شاید اس سے زیادہ تحقیق ہو سکے۔

والسلام اشرف علی

۲۳ ربیع اول ۱۳۵۲ھ

(یہ مضمون رسالہ النور رمضان ۱۳۵۲ھ میں شائع بھی ہو چکا)

### مکتب ذکر یا بیان حضرت سہار پوری بسلسلہ ذکر

(۱۵) خلاصہ مکتب ذکر یا بیان:

حضرت اقدس سیدی سنی و مرشدی سہار پوری قدس سرہ

(۱) ذکر میں بعض وقت وساوس سے لذت و توجہ نہیں رہتی ذکر کے وقت کوئی تصور ارشاد فرمادیں

کہ جس سے طبیعت کو اس کی طرف متوجہ کر لینے کی وجہ سے انتشار خیال نہ رہے۔

(۲) بعض وقت عجلت کی وجہ سے اور بعض وقت بلا تنگی وقت بھی اطمینان سے ذکر پورا نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں تعداد کا پورا ہونا ضروری ہے اگرچہ جلدی جلدی ہو یا اتنے وقت میں جس قدر ہو سکے اتنا کر لیا جائے پھر کی تماز کے علاوہ بقیہ ارشادات کی تعمیل حضرت کی توجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر کا وقت مشین چلنے کا ہے اس میں فراغت نہیں ہوتی۔ حضرت والا سے توجہاتِ عالیہ کی استدعا ہے۔

### الجواب:

(۱) ذکر کیے جائیے ذوقِ شوق کے پیدا ہونے کی فکر نہ کیجئے۔ توجہ کے لیے حدیث "عبد اللہ کانک تراہ" کے مضمون کو پیش رکھئے۔

(۲) رات دن کے چوبیس گھنٹے میں معینہ ذکر کی تعداد کو پورا کر لیا کیجئے۔

(۳) پھر کا وقت ارتقای عُشْش سے زوال تک ہے۔ محمد شین کے نزدیک پھر اور اشراق ایک چیز ہے اور جو نوافلِ مشین سے پہلے پڑھے جائیں گے وہ پھر ہی ہیں۔ فقط والسلام "مشین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکارہ یذلِ امجدود کی طباعت کے سلسلہ میں تھانہ بھون اور وہ ملی آتا جاتا رہتا تھا اور تین چار دن بسا اوقات وہاں قیام رہتا تھا یہ خط تھانہ بھون کی حاضری کے موقع کا بظاہر ہے۔"

### وصیت نامہ سہانپوری رحمہ اللہ تعالیٰ

(۱۶) حضرت قدس سرہ کی عادت شریفہ اکثر یہ رہی کہ یہاں کی زمانے میں وصیت نامہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سہانپور میں طبیعت بہت ناساز رہی۔ ایک ہفتہ تک باہر بھی تشریف نہ لاسکے۔ یہ سیہ کارہ نماز کے وقت نماز پڑھانے کے لیے مکان پر جایا کرتا تھا۔ حالت کچھ مایوسی کی ہو چکی تھی۔ اس وقت میں حضرت قدس سرہ نے یہ وصیت نامہ مجھ سے ہی تحریر کرایا تھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حَمَدُوا مُصْلِيَا وَ مُسْلِمَا . هَذِهِ وَصِيَّةٌ مِنَ الْمَدْبُرِ عَنِ الدِّينِ الْمَقْبُلِ إِلَى الْآخِرَةِ  
خَلِيلُ اَحْمَدُ وَ فَقِهُ اللَّهُ لِلتَّزِّ وَ دَلْغَدُ اَمْلِيَّهَا عَلَى حَسْبٍ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا  
حَقُّ اَمْرِي مُسْلِمٌ بَيْتُ لِيْلَتِينَ وَ لِهِ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ الْاَوَّلُ وَ وَصِيَّةٌ مُكْتَوَبَةٌ عِنْهُ أَوْ  
كَمَا قَالَ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَ غَيْرُهُ مِنْ اَرْبَابِ الصَّاحِحِ فَأَوْصَى بِاِمْرُورٍ أَحَدُهُمْ أَنْ  
أُدْفَنَ عِنْدَ قَبْرِ اسْتَاذِي مُولَانَا مُحَمَّدَ مَظَهُرَ النَّانُوتُوِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ بَعْدَ الْاِسْتِيَّدَانِ

من أصحاب المقبرة و ملائكتها و ان يحفر الحصة الاولى من القبر على قدر نصف قامة الانسان الى السرة و هي أدنى مرتبة الحفر او إلى الصدر و هي أعلىها و يحفرون الحصة الثانية منها التي تسمى بالشق و يجعل عمقها على قدر ذراع او قريباً من ذلك بحيث تنفصل اللبنت أو القصب عن الجسد ويكتفى على هذا على خلاف ما هو معمول في السهار نفور فانهم يحفرون الحصة الاولى من القبر على قدر الشرين او قريباً و يحفرون الحصة الثانية التي تسمى بالشق و يعمقونها كثيراً و هي خلاف السنة ثانية ليس على فيما احفظ من الدين و ثالثها ان مالي على الناس من الديون فتفصيله ان مائة روبية على مولوى انوار احمد ورقعة مكتوبة موجودة و خمس عشرة روبية على العزيز محمد صالح وعدة ربابي على العزيز لطيف احمد ابن اخي رشيد احمد و هي من دين مولوى فيض احسن على لطيف احمد و يعلم هو مقدارها و مكتوب عنده. خمس و عشرون روبية على مولوى اسحق البريلوى واما الودائع والا مانات فالعدد الكثير منه عند الحافظ الحاج محمد اسماعيل و حافظ محمد عثمان و ما أذكر تعدادها و هي عند هما محفوظة مكتوبة فاما الرقوم التي عند الحافظ محمد اسماعيل و محمد عثمان فيها خمس مائة روبية لزوجتي والدة ام هانى و هي ملكها ليس لها حق حصل لها من تركة ام هانى المرحومة بنتها و ما بقى من الرقوم فاوصى فيه إلا أن يعطى منه الف روبية بنت بنتى عطية و اربعمائة لبت "اخى فاطمة بنت مولوى نذير احمد المرحوم و ما بقى منها فيقسم على حسب امر الشريعة بين مستحقى التركى وأوصى ايضاً ان لا تكشف زوجتى والدة ام هانى عمما أغلفت عليه بابها فانما في البيت حوائج البيت او ما كان عندها من الحللى و الثياب والظروف والسرر فكلها لها تصرف فيها كيف تشاء و تعطى من تشاء الا ان المناسب لها أن تعطى بعض الظروف والسرر وغير ذلك من الحوائج عطية و امها و أماما كان لها من الثياب والحوائج المختصة فكلها تدخل في المدرسة غير الساعة الكبيرة وواحدة من الساعة الصغير تخذلها ف تكون عندها في البيت وأوصى من الرقوم المذكورة أن تكون منها بعدى مائى روبية عند زوجتى لتكون للصرف على احبابي الواردين بعدى للتغزية وغيرها نعم بقى لها من الدين بان لها على

اولاد حافظ احمد جان الف و أربعمائة روبيہ و قد صار القضاء بها من الحكومة  
فالورثة لو شاء ان يسعوا في وصولها فلولا. فقط  
جمادی الآخری ۲۰۱۷

### ایک ضروری تنبیہ:

(۱۷) (ایک ضروری تنبیہ) بڑی نجاش غلطی آپ بیتی نمبر ۳ صفحہ ۲۳۶ پر حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کے پاکستان سے واپسی کے سلسلہ میں یہ لفظ لکھا گیا کہ اگر میرا وہاں انتقال ہو جائے تو میری نعش کو روانہ جائے۔ اصل ارشاد حضرت کا یہ تھا کہ مجھے روانہ جائے یہ ارشاد تو تقریباً ہر سفر میں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ اہل پاکستان کی ہمیشہ یہ عادت تھی کہ وہ یہاں سے تو بہت وعدے مواعید صرف ایک ماہ دو ماہ کے کر کے لے جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد مختلف جہات سے اتنا زور حضرت قدس سرہ پر ڈالتے تھے کہ واپسی مشکل ہو جاتی تھی اور کئی کئی ماہ لگ جاتے تھے بار بار تشریف آوری میں ناخ و منوخ بھی ہوتا تھا اس سے ہر وہ شخص واقف ہے جو حضرت نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ان دوستوں کی محبت کی کشاکشی دیکھی ہو، وہاں جانے کے بعد لا ہو رائیل پور کی کشاکشی مستقل مرحلہ ہوتا تھا اس میں بہت وقت لگتا۔ اس لیے حضرت کو ہر مرتبہ روانگی کے وقت اس کے عہد و معاشر لینے پڑتے کہ مجھے روانہ جائے۔ آخری مرتبہ حضرت نے بہت زائد معاشر لیے اور حضرت حافظ عبد العزیز کو واپسی کا ذمہ دار بنایا۔ اس وقت تو ہر شخص کے ذہن میں حبِ معمول زندگی میں واپس لانے کا مطلب تھا۔ لیکن وصال کے بعد عام طور سے زبانوں پر نعش کی واپسی کا لفظ چل پڑا۔ اسی مغالطے کی بنا پر آپ بیتی نمبر ۳ میں اماکن غلطی یا کاتب کے سہوکی وجہ سے یہ لکھا گیا کہ ”اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کونہ روانہ جائے۔“ یہ نجاش غلطی ہے بلکہ ارشاد عالی یہ تھا کہ میری واپسی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، جو احباب حضرت قدس سرہ کے ارشادات سنتے رہتے تھے ان کا بیان تو یہ ہے کہ حضرت اپنے وجود کو نعش فرمایا کرتے تھے کہ اس نعش کو کہاں کہاں اٹھائے پھرتے ہو، بہت سوں نے سنا ہوگا۔ میں نے بھی بار بار یہ لفظ سنایا۔ لہذا آپ بیتی میں جہاں لفظ نعش ہواں کی اصلاح کر لی جائے جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ صفحہ ۹۹ پر بھی یہی لفظ ہے اس کے علاوہ جہاں ملے ضرور تصحیح کریں، ان دونوں موقع کی تصحیح تو میں نے طبع ثانی کے لیے پلیٹوں پر کرنے کو کہہ دیا ہے، لیکن جن کے پاس طبع سابق کے نسخہ پہنچ گئے ہوں وہ اس کی اصلاح کر لیں کہ یہ غلطی ہے۔

### ایک اہم مضمون متعلق خلفاء:

(۱۸) ایک نہایت اہم مضمون جو دس بارہ سال سے یہ ناپاک ہر رمضان میں کئی کئی مرتبہ اور بغیر رمضان کے بھی اپنے خصوصی احباب سے کہتا رہا اور کہتا رہتا ہے اور مفصل و مختصر تقریر میں کرتا رہتا ہے وہ یہ کہ بیعت کی اجازت دراصل بمنزلہ مدارس کی سند کے ہے، جو تعلیم کی تمجیل یا اہلیت کی سند ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغ کے بعد پڑھنے پڑھانے کے مشغله میں مشغول رہے تو علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سلسلہ میں مثلاً زراعت، تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو علم سے مناسبت جاتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامۃ نور اللہ مرقدہ کو اپنی سالانہ وصیت بسلسلہ خلفاء میں یہ لکھتا پڑتا تھا کہ فلاں صاحب دوسرے مشغله میں لگ گئے ہیں اور اس مشغله کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ان کا نام خارج کرتا ہوں، چنانچہ انفاس عیسیٰ ص ۱۳۳ میں حضرت حکیم الامۃ حضرت تھانوی قدس سرہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ ”اجازت شیخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے۔“  
(حال):

از تحریر مجازیت خود شرم می آید      خود بخود خیال کمال می آید  
(تحقیق):

ایں اعتقاد کمال نیست کہ مضر باشد و سو سہ است کہ مضر نیست در چنیں اوقات استحضار عیوب کند و بدلت آرند کہ اجازت دلیل کمال نیست بلکہ دلیل مناسبت است۔ چنانچہ دستار فضیلت بعد فراغ کتب می بندند اگرچہ عالم کامل نہ باشد صرف مناسبت مدارا یہیں رسم باشد کمال بفرائخ دور است اھ، ایک دوسرے مقام پر انفاس عیسیٰ میں حضرت حکیم الامۃ کا ارشاد ہے کہ جیسے علوم درسیہ میں سند فراغ دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اسی وقت کو ان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس کو ان علوم سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ برابر درس و مطالعہ میں مشغول ہے تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا، پھر اگر وہ اپنی غفلت اور ناقدری سے خود ہی مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہرگز نہیں بلکہ خود اسی پر ہے۔ اسی طرح جو کسی کو اجازت دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال، ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، بلکہ محض اس ظن غالب پر اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضروری حاصل ہو گیا اور اگر وہ برابر اس کی تمجیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ

اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ مشائخ بسا اوقات نااہل کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ ”مشائخ بعض دفعہ کسی نااہل میں شرم و حیا کا مادہ دیکھ کر اس امید پر اس کو مجاز کر دیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو اس کی لاج و شرم سے اپنی بھی اصلاح کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن کامل ہو جائے گا۔“ اسی طرح دوسرا ارشاد ہے ”بعض دفعہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نااہل ہے اور اس کا مرید کوئی مخلص ہے تو طالب صادق کو تو حق تعالیٰ اس کے صدق و خلوص کی برکت سے نواز ہی دیتے ہیں، جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ پر کو بھی کامل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنا تھا۔“

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے نااہل کی اجازت کے متعلق جوار شاد فرمایا ہے وہ بہت دیقیق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب بالا کی بناء پر ہر نااہل کو اجازت دی جاسکتی ہے۔ بلکہ مشائخ کے حالات میں اس قسم کی چیزیں پائی گئیں ہیں کہ بعض اوقات کسی مرید کی وجہ سے شیخ کی ترقی ہوئی اور خوب ہوئی اس کے واقعات تو متعدد مشہور ہیں۔ ایک ڈاکو تھا وہ اپنی ضعف و پیری میں شیخ بن گیا اور لوگوں کو بیعت بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے یہاں تو اخلاص کی قدر ہے۔ یہ تو طے شدہ اور اصول موضوعہ ہے طالبین کو ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نواز اور خوب نوازا۔ ایک مرتبہ ان طالبین کی جماعت نے شیخ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے مشائخ کے مقامات کو دیکھنا شروع کیا اور سب اکابر کے مقامات معلوم ہو گئے۔ مگر حضرت کا مقام اتنا عالی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت تو ہوتی ہی ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کا یہ مقولہ کہیں لکھوا چکا ہوں کہ اللہ کا نام چاہے کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس مصنوعی پیر پر بھی اللہ کے نام کا آخر اثر ہو کر رہا۔ وہ مریدوں کی یہ بات سن کر رو دیا اور اس نے پھر اپنی حقیقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی کہ اب تم میری مدد کرو۔ ان سب نے مل کر توجہ کی تو اللہ نے اس پیر کو بھی نواز دیا۔ اللہ والوں کی توجہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ اصل چیز اخلاص ہے جس کی وجہ سے پیر کا نااہل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو مضر نہیں ہوتا۔

چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک قصہ سناتا ہے کہ ایک ڈاکو تھا۔ جب تک شباب و قوت رہی خوب ڈاکے مارے لیکن جب ضعف و پیری لاحق ہوئی اور اعضاء نے جواب دے دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیش اختیار کیا جائے۔ ساتھیوں نے بتایا کہ پیری

مریدی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں بے محنت مشقت خوب مزے اڑتے ہیں۔ قصہ تو طویل ہے اور شاید میں اسے اور اس قسم کے بعض اور قصے اپنے رسائل میں لکھ بھی چکا ہوں۔ اس مصنوعی پیر کی لغویات کے ساتھ ساتھ ایک سچا طالب اس کے پاس پہنچا۔ یہاں پہنچنے لغویات میں مشغول تھا۔ مگر اس کی طلب اور صدق نیت نے پیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی نہ ہونے دی۔ اس نے جا کر بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں آپ سے اللہ کا راستہ سیخھنے آیا ہوں، وہ چونکہ غلطی سے ناوقت پہنچ گیا تھا اس لیے وہ اس کے بے وقت آنے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یوں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس کو ایک پھاؤڑا دیا اور کہا کہ فلاں باع میں اس کی گلوں کو صاف کرو۔ اس کی ڈولیں بناؤ اور نالیاں درست کرو۔

وہ اسی وقت پھاؤڑا لے کر تحقیق کرتا ہوا اس باع میں پہنچا اور اس کی مرمت شروع کر دی باع والے مزاحم ہوئے کہ تو ہمارے باع میں کیوں دخل دیتا ہے اس نے بہت منت خوشامد کر کے کہا کہ مجھے تمہارے باع سے کچھ لینا نہیں ہے مجھے میرے پیر نے اس باع کے صاف کرنے کو اور مرمت کرنے کو کہا ہے۔ اول اول تو وہ لوگ بہت ڈرتے رہے اس کو مارا پیٹا بھی۔ مگر یہ دلکھ کر یہ نہ کھانے کو مانگتا ہے اور کچھ جو کچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھالیتا ہے۔ تین مینے اسی حال میں گزر گئے۔ مشہور یہ ہے کہ ابدال میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غوث وقت کی مجلس میں اس کا بدل منتخب ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی ابدال کا انتقال ہوا اور غوث کی مجلس میں انتخاب کے لیے ابدال حضرات نے اپنی اپنی رائے سے لوگوں کے نام بتائے۔ حضرت غوث نے سب کے نام سن کر یہ کہا کہ ایک نام ہمارے ذہن میں بھی ہے اگر تم پسند کرو۔ سب نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ فلاں مالی بڑا مخلص ہے کچی طلب رکھتا ہے۔ بہت اخلاص سے مجاہدہ میں مشغول ہے۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر سب نے مع حضرت غوث اس پر توجہ ڈالی۔ جس کی وجہ سے اسی وقت اس پر انکشافت ہوئے اور طی الارض کرتا ہوا اور پھاؤڑا باع والوں کے یہ کہہ کر حوالہ کر دیا کہ یہ فلاں پیر صاحب کا ہے جو فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور میں جا رہا ہوں ہر چندان لوگوں نے خوشامد منت سماجت کی کہ ذرا اپنا حال تو بتا دے مگر اس نے کچھ نہیں بتایا اور کہا سنا معاف کر کرو ہیں سے غائب ہو گیا۔

یہی مطلب ہے اس مشہور مقولہ کا کہ ”پیر من حست اعتقد من بس است۔“ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ خود اس یہ کار کو میرے حضرت مرشدی قدس سرہ نے میرے ایک عریضہ کے جواب میں لکھا تھا کہ میری کوئی حقیقت نہیں میری مثالیں کیسی ہے جتنی طلب ہوگی اتنا ہی مبدل افیاض سے عطا ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آئئے گا فل ہی کے ذریعہ، یہ مضمون لطیف

بھی ہے اور دقيق بھی بعض لوگوں کو مشائخ حق کے بعض خلفاء پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں اجازت مل گئی۔ مشائخ حق کے خلفاء پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ درحقیقت مشائخ حق ہی پر اعتراض ہے۔ ہمیں اور تمہیں کیا معلوم مشائخ نے کس باریک بینی اور دوراندیشی سے اس کو اجازت دی ہے۔ تم زائد سے زائد یہ تو کر سکتے ہو کہ اگر تم کو ان سے اعتقاد نہیں تو مرید نہ ہونا۔ نیز اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مشائخ کے مشائخ کے یہاں اجازت کے بھی مختلف طرق ہوتے ہیں۔

شیخ الطائف قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب کا ارشاد ہے کہ میرے خلفاء دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کو میں نے از خود بلا یاد رخواست اجازت دی ہے وہی اصل خلفاء ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام بتلا دوں؟ میں نے کہا بتلا دیا کرو، یہ اجازت پہلے درج کی نہیں ہے۔ اسے ہمارے حضرت مولانا الحاج الشاہ عبدال قادر صاحب کے یہاں بھی یہ دونوں طریقے راجح تھے کہ بعض کو بیعت کی اجازت دے دیا کرتے تھے اور بعض کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام بتلا دیا کرو۔

میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا میں اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر تھا ایک جگہ کے چند معزز حضرات تشریف لائے ان میں سے ایک صاحب کے متعلق انہیں کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے صفائی سے ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا نام پوچھئے تو بتلا اجازت نہیں دی۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا نام پوچھئے تو بتلا دینا حضرت نے فرمایا کہ یہ خلافت یا اجازت ہوئی؟ اور حضرت حکیم الامم رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یا قاعدہ مجازین کے دو طبقے تھے۔ ایک مجازین بالبیعت دوسرے مجاز بالصحبة مضمون تو یہ بہت طویل ہے اور شاید میرے دوستوں کے پاس اس قسم کے مضمایں جو میں نے مختلف مجالس میں کہے ہیں، کچھ اضافہ کے ساتھ لکھئے ہوئے بھی ہوں۔ بہر حال مقصود یہ تھا کہ اجازت کا نہ تو گھمنڈ ہونا چاہیے نہ اس کو دلیل کمال یا دلیل تکمیل سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اجازت کے بعد تو محنت و مشقت میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ حضرت قطب الارشاد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو عالی حضرت نے بیعت کرنے کے آٹھویں روز خلافت و اجازت عطا فرمادی تھی اور فرمایا تھا کہ میاں مولوی رشید احمد جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دے دی آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔ حضرت قطب العالم قدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی متعجب ہوا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو عالی حضرت کو حق تعالیٰ نے دی تھی اور مجھے عطا ہوئی۔ آخر پندرہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ کیا تھا۔  
(تذكرة الرشید جلد اول)

تذکرہ الرشید یہ میں لکھا ہے کہ بیعت کے وقت حضرت قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ مجھ سے ذکر و شغل اور مخت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا ”اچھا کیا مضمون تھے ہے۔“ اس تذکرہ پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ ”پھر تو مر منا“ فقط حضرت نے بالکل صحیح فرمایا شیخ المشائخ ہونے کے بعد آخر زمانے تک نا ہے کہ ذکر بالجہر نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبدالقدیر صاحب نور اللہ مرقدہ کو شدید بیماری سے کچھ پہلے تک اور حضرت شیخ الاسلام اور اپنے پیچا جان کو دیکھا کہ بہت اہتمام سے ذکر بالجہر کرتے رہے اور مشائخ سلوک کا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ ”جس چیز کی برکت سے یہاں پہنچے اب اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔“ بہر حال خلافت و اجازت نہ تو کسی سبب اور بڑائی کا سبب ہونا چاہیے اور نہ اس کے بعد تسلیم یا تغافل ہونا چاہیے کہ اس سے یہ دولت جاتی رہتی ہے۔ اکابر کے یہاں اجازت کے بارے میں میں نے اپنے مشائخ کو دو طریقوں پر پایا ہے۔ بعض اکابر کے یہاں شہیل پائی جیسے کہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں اور حضرت حکیم الامم کے کلام میں بھی گزر جکی ہے اور بعض حضرات کے یہاں تشدد تھا۔ چنانچہ حضرت قطب الارشاد گنگوہی قدس سرہ کے یہاں، حضرت کے بعض خدام نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے بیعت کی اجازت فرمادی۔ لیکن حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ میرے یہاں تو انہی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت گنگوہی کے خلفاء میں بھی حضرت سہار پوری و حضرت شیخ الہند کے یہاں بہت تشدد تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدینی قدس سرہ کے یہاں اولاً گوتشدد تھا، لیکن پھر آخر میں تسلیم پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ اس ناکارہ کے ذہن میں یہ ہے کہ صوفیہ کے یہاں نسبت کے چار درجے ہیں، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

### سلوک کی نسبت چار قسمیں:

لیکن نسبت کی حقیقت کے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد عام فہم ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”نسبت کے لغوی معنی ہیں لگاؤ و تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کا حق تعالیٰ سے خاص تعلق، اطاعت دائرہ و ذکر غالب اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضا۔ جیسا عاشق مطیع اور وقار معموق میں ہوتا ہے اور صاحب نسبت ہونے کی یہ علامت تحریر فرمائی کہ اس شخص کی صحبت میں رغبت ”الی الآخرہ“ اور ”نفرة عن الدنيا“ کا اثر ہو اور اس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ ہو اور دنیاداروں کی کم۔ مگر یہ پہچان خصوصاً اس کا جز، اول عوام میں مجوہ میں

کو کم ہوتی ہے ابی طریق کو زیادہ جب نسبت کے معنی معلوم ہو گئے تو ظاہر ہو گیا کہ فاسق و کافر صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ غلطی سے نسبت کے معنی خاص کیفیات کو (جو شمرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا) سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہر مرتضی میں ہو سکتی ہے۔ مگر یہ اصطلاح جہلاء کی ہے۔ فقط (انفاس عیسیٰ) اس سے معلوم ہوا کہ نسبت ایک خاص نوع کے تعلق کا نام ہے اور جس قدر تعلق قوی ہو گا اسی قدر نسبت بھی قوی ہو گی۔ عمومی نسبت تو ہر مسلمان کو اللہ جل شانہ سے ہے، لیکن یہ نسبت خاص قسم کی محبت اور خصوصی تعلق کا شمرہ ہوتا ہے اور جیسا کہ محبت کے مراتب اور عشق کے درجات ہوتے ہیں ایسے ہی اس نسبت کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم و بیش ہوتے رہتے ہیں اس کا منتہی تواریخ عشق میں ڈوب جانا ہے۔

عیث ہے جب تک بحر محبت کے کنارے کی

بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا

لیکن شیخ الشائخ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں نسبت کی چار قسمیں فرمائی ہیں۔ جو سمجھنے کے اعتبار سے اور ایک دوسرے کو تمیز کرنے کے واسطے بہت مفید ہیں۔ حضرت قدس سرہ کا ارشاد تو فارسی میں ہے اور اس مضمون کو یہ ناکارہ لامع الدراری کے حاشیہ پر عربی میں لکھ چکا ہے۔ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کی چار قسمیں ہیں۔

### اول نسبت انعکاس:

سب سے ابتدائی تو انعکاسی کہلاتی ہے یعنی ذکر و شغل کی کثرت سے دل کا زنگ دور کرنے کے بعد اس میں آئینہ کی طرح سے ایسی صفائی اور شفافی پیدا ہو جائے کہ اس میں ہر چیز کا عکس آئینہ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہو۔ یہ شخص جب شیخ کی خدمت میں جاتا ہے تو شیخ کے قلبی انوار اور اثرات کا عکس اس کے قلب پر پڑتا ہے اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں۔ اس کا اثر سالک کے قلب پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک شیخ کے پاس رہے یا اس ماحول میں رہے۔ لیکن جب شیخ کی مجلس یا وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے تو یہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ کے خیال میں اس کی مثال فوٹو کی ہی ہے کہ اس میں ہر وہ چیز منعکس ہو جاتی ہے جو اس کے سامنے ہو اور جب اس کو ہٹا لیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن فوٹو کی طرح سے اس کو مصالحہ وغیرہ کے ذریعہ سے پختہ کرایا جائے تو وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشائخ اجازت دے دیتے ہیں جس کے متعلق حضرت تھانوی کے کلام سے اور پر گزر چکا ہے کہ اگر مجاہدہ و ریاضت سے اس کو باقی رکھا جائے تو باقی رہتا ہے بلکہ مزید پختہ

ہو جاتا ہے بندہ کے خیال میں یہی وہ درجہ ہے جس کو حضرت تھانوی نے باس مضمون لکھا ہے کہ ”بعض مرتبہ غیر کامل کو بھی مجاز بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو جو ناقص یا نا اہل کہا گیا ہے وہ کمال کے اعتبار سے ہے اس درجہ کی اجازت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ باقی رہے بلکہ ترقی کر سکے۔

### دوسری نسبت القائی:

دوسرے درجہ جس کو حضرت شاہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہ نسبت القائی جس کی مثال حضرت نے لکھی ہے کہ کوئی شخص چراغ لے کر اس میں تیل اور بتنی ڈال کر شیخ کے پاس لے جائے اور اس کے عشق کی آگ سے لو لگائے۔ حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ درجہ پہلے سے زیادہ قوی ہے اور اس درجہ والے کے واسطے شیخ کی مجلس میں رہنے کی شرط نہیں بلکہ شیخ کی مجلس سے غائب بھی ہو جائے تو یہ نسبت باقی رہتی ہے اور جب تک تیل اور بتنی رہے گی یعنی اور ادا و اشغال کا اہتمام رہے گا کہ یہی چیزیں اس مشعل پدایت کی تیل اور بیان ہیں اس وقت تک یہ نسبت باقی رہے گی۔ اس نسبت کے لیے تیل بتنی تو ادا کار و اشغال ہیں اور با دخالف یعنی معاصی وغیرہ سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہ با دخالف سے چراغ گل ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ جس درجہ کی تیل بتنی میں قوت ہو گی اتنے ہی درجہ کی مخالف ہوا کو برداشت کر سکے گی۔ یعنی اگر معمولی سا چراغ ہے تو ہوا کے ذرا سے جھوٹکے سے بچھ جائے گا گویا ذرا سی معصیت سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر چراغ قوی ہے تو معمولی ہوا اس کو گل نہیں سکتی۔ بندہ کے خیال میں اس جگہ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ہر شخص کو اپنی حفاظت تو نہایت اہتمام سے کرنی چاہیے۔ میادا کسی معصیت کے سرزد ہونے سے یہ بچھ جائے، لیکن اگر کسی دوسرے صاحب نسبت کے متعلق کسی واقعی یا غیر واقعی معصیت کی خبر سنی تو ہرگز اس کی فکر میں نہ رہے، نہ اس کے شیخ پر اعتراض کی فکر کرے، نہ معلوم اس کی مشعل کس قدر تیز ہو، بندہ کے خیال میں میرے اکابر کی اکثر اجازتیں اسی نسبت القائی پر ہیں۔ چنانچہ بہت سے اکابر اور ان کے مجازین کے حالات میں یہ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ جب ان کو اجازت دی گئی تو ایک بجلی سی ان میں کونڈگئی، جس کے اثرات مختلف ظاہر ہوئے۔ بندہ کے خیال میں یہ بجلی کی سی جو کیفیت کوندگی ہے، یہ شیخ کی نسبت کا القا ہوتا ہے، جس کے بہت سے مظاہر دیکھنے اور سننے ہیں یہ نسبت پہلی نسبت کے بمقابلہ زیادہ قوی ہوتی ہے۔ لیکن دو چیزوں کی اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تیل بتنی کے بقا اور اس کے اہتمام کی یعنی اور ادا و اشغال کی دوسرے با دصرص سے حفاظت کی اگرچہ معمولی سی ہوا اس کو ضائع نہیں کرتی، لیکن معمولی ہوا بھی ایک دم تیز ہو جاتی ہے اور معمولی معصیت بھی ایک دم کبیرہ بن جاتی ہے۔

### تیسرا نسبت اصلاحی:

تیسرا درجہ جو حضرت شیخ المشائخ نے لکھا ہے وہ نسبت اصلاحی کا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ یہ نسبت دونوں سے بہت قوی ہے۔ حضرت نے اس کی مثال کی ہے کہ ایک شخص نہر کھو دے اور اس کو خوبصورت بنائے اور اس کی ڈولیں درست کرے اور اس کو گھوڑا کر اس کا دہانہ کسی دریا سے ملا دے۔ اس دریا سے پانی کا دھارا زور شور سے اس نہر میں آجائے کہ معمولی عارض بھی پتے نہیں اس معمولی ایسٹ روٹے اس کے پانی سے سیل کو نہیں روک سکتے بلکہ اس کے ساتھ بتے چلے جائیں گے، الایہ کہ کوئی نقب اس نہر میں لگ جائے یا کوئی چنان اس نہر میں آکر حائل ہو جائے۔ بندہ کا خیال ہے کہ قدماء کی اجازتیں زیادہ تر اسی پر ہوتی تھیں کہ وہ اولاً ترکیہ نفوس و اخلاق پر بہت زور لگاتے تھے اور جب نفس مزکی ہو جاتا تھا اس کے بعد اور ادا و اذ کار کی تلقین کے بعد اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ اکابر کے مجاہدات اور ترکیہ کے قصے اگر لکھے جائیں تو بڑا ففتر چاہیے اور وہ آپ بیتی بھی نہیں ہے۔ صرف مثال کیے شاہ ابوسعید صاحب گنگوہی قدس سرہ جو مشائخ چشتیہ کے مشاہیر مشائخ میں سے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ کے پوتے ہیں، جن کا مزار شریف گنگوہ شریف میں موجود ہے کا واقعہ مختصر طور پر لکھواتا ہوں۔ واقعہ تو جیسا اکابر سے تباہ اور کتب تواریخ میں بڑھا بھی زیادہ طویل ہے، لیکن ارواح علماء میں اس کو حضرت تھانوی قدس سرہ کی روایت سے مختصر لفظ کیا ہے، اس کو بعینہ نقل کرتا ہوں۔

ایک روز فرمایا کہ شاہ ابوسعید گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ بغرض بیعت شاہ نظام الدین بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بلخ تشریف لے گے۔ شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہوئی کہ صاحبزادہ تشریف لاتے ہیں تو ایک منزل پر آکر استقبال کیا اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر بلخ پہنچ وہاں پہنچ کر صاحبزادہ صاحب کی خوب خاطریں کیں۔ ہر روز نئے نئے اور لذیذ سے لذیذ کھانے پکوا کر کھلاتے، ان کو مند پر بھاتے خود خادموں کی جگہ بیٹھتے۔ آخر شاہ ابوسعید نے اجازت چاہی کہ وطن واپس ہوں تو شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اشرفیاں بطور نذر پیش کیں، اس وقت شاہ ابوسعید نے عرض کیا کہ حضرت اس دینیوی دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے نہ اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے تو وہ دولت چاہیے جو آپ ہمارے یہاں سے لے کر آئے ہیں۔

بس اتنا سنتا تھا کہ شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ آنکھ بدل گئے اور جھٹک کر فرمایا کہ جاؤ طویلہ میں جاؤ کر بیٹھو اور کتوں کے دانہ راتب کی فکر رکھو۔ غرض یہ طویلہ میں آئے، شکاری کئے ان کی تحویل

میں دے دیئے گئے کہ روز نہلا میں دھلامیں اور صاف سترار بھیں، کبھی حمام جھکوا یا جاتا اور کبھی شکار کے وقت شیخ گھوڑے پر سوار ہوتے اور یہ کتوں کی زنجیر تھام کر ہمراہ چلتے۔ آدمی سے کہہ دیا گیا کہ یہ شخص جو طولید میں رہتا ہے اس کو دور نیاں جو کی دلوں وقت گھر سے لا کر دیا کرو۔ اب شاہ ابوسعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب کبھی حاضر خدمت ہوتے تو شیخ نظر انہا کر بھی نہ دیکھتے، پھر ان کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فرماتے اور اتفاقات بھی نہ فرماتے تھے کہ کون آیا اور کہاں بیٹھا۔ تین چار ماہ بعد ایک روز حضرت شیخ نے بھنگن کو حکم دیا کہ آج طولید کی لید جمع کر کے لے جائے تو اس دیوانے کے پاس سے گزرے جو طولید میں بیٹھا رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ کے ارشاد کے بموجب بھنگن نے ایسا ہی کیا۔ پاس سے گزری کے پچھے نجاست شاہ ابوسعید پر پڑی۔ شاہ ابوسعید کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا۔ تیوری چڑھا کر بولے، ”نہ ہوا گنگوہ ورنہ اچھی طرح مزاچکھاتا۔“ غیر ملک ہے شیخ کے گھر کی بھنگن ہے اس لیے کچھ نہیں کر سکتا۔

بھنگن نے قصہ حضرت شیخ سے عرض کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، ہاں ابھی بو ہے صاحزادگی کی۔ پھر دو ماہ تک خبر نہ لی۔ اس کے بعد بھنگن کو حکم ہوا کہ آج پھر دیسا ہی کر، بلکہ قصداً پچھنلا خاتم شاہ ابوسعید پر ڈال کر جواب نے کہ کیا ملتا ہے۔ چنانچہ بھنگن نے پھر ارشاد کی تعییل کی۔ اس مرتبہ شاہ ابوسعید نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا، ہاں تیز اور ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھا اور گروں جھکا کر خاموش ہو رہے۔ بھنگن نے آکر حضرت شیخ سے عرض کیا کہ آج تو میاں کچھ بو لے نہیں، تیز نظر دل سے دیکھ کر چپ ہو رہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، ابھی بُو باقی ہے۔ پھر دو چار ماہ کے بعد بھنگن کو حکم دیا کہ ”اس مرتبہ لید گو بر کا بھرا لو کرا سر پر پھینک ہی دینا کہ پاؤں تک بھر جائیں۔“ چنانچہ بھنگن نے ایسا ہی کیا۔ مگر اب شاہ ابوسعید بن چکے تھے جو کچھ بننا تھا۔ اس لیے بھرا گئے اور گز گڑا کر کہنے لگے، ”مجھ سے ٹھوکر کھا کر بیچاری گرگئی کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟“ یہ فرمایا کہ گری ہوئی لید جلدی جلدی انہا کر ٹوکرہ میں ڈالنی شروع کی کہ لا میں بھر دوں۔

بھنگن نے قصہ حضرت شیخ سے آکر کہا کہ آج تو میاں جی غصہ کی جگدائی مجھ پر ترس کھانے لگے اور لید بھر کر میرے ٹوکرے میں ڈال دی، شیخ نے فرمایا، ”بس اب کام ہو گیا۔“ اسی دن شیخ نے خادم کی زبانی کھلا بھیجا کہ آج شکار کو چلیں گے۔ کتوں کو تیار کر کے ہمراہ ہونا۔ شام کو شیخ گھوڑے پر سوار خدام کا مجمع جنگل کی طرف چلے۔ شاہ ابوسعید کتوں کی زنجیر تھامے پاپہ رکاب ہمراہ ہو لیے۔ کتے تھے زبردست شکاری کھاتے پیتے تو انا اور ابوسعید بے چارے سو کھے بدن کمزور، اس لیے کتے ان سے سنبھالے سنبھلتے نہ تھے۔ بہتر اکھیچتے روکتے مگر وہ قابو سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے زنجیر اپنی کمر سے باندھ لی، شکار جو نظر پڑا تو کتے اس پر لپکے۔ اب شاہ ابوسعید بے

چارے گر گئے اور زمین پر گھستے کتوں کے کھنچے کھنچے چلے جاتے تھے۔ کہیں ایسٹ لگی کہیں کنکر چھپی، مدن سار الہوہاں ہو گیا۔ مگر انہوں نے اُف نہ کی۔ جب دوسراے خادم نے کتوں کو روکا اور ان کو اٹھایا تو یہ تھر تھر کاٹنے کے حضرت خغا ہوں گے اور فرمائیں گے حکم کی تعیل نہ کی، کتوں کو روکا کیوں نہیں؟ شیخ کو تو امتحان منظور تھا سو ہولیا۔

اسی شب شیخ نے اپنے مرشد قطب العالم شیخ عبدالقدوس کو خواب میں دیکھا کہ رنج کے ساتھ فرماتے ہیں، ”نظام الدین میں نے تجھ سے اتنی کڑی محنت نہ لی تھی جتنی تو نے میری اولاد سے لی۔“ صبح ہوتے ہی شاہ نظام الدین نے شاہ ابوسعید رحمہما اللہ کو طویلہ سے بلا کر چھاتی سے لگایا اور فرمایا کہ خاندان چشتیہ کا فیضان میں ہندوستان سے لے کر آیا تھا۔ تم ہی ہو جو میرے پاس سے اس فیضان کو ہندوستان لیے جاتے ہو۔ مبارک ہو وطن جاؤ۔ غرضِ مجازِ حقیقت بنا کر ہندوستان واپس فرمایا۔

ارشادِ الملوك میں لکھا ہے کہ جب مریدِ توبہ کے مقام کو صحیح کر چکے اور ورع و تقویٰ کے مقام میں قدم مصبوط جما کر زہد کے مقام میں قدم رکھے اور اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدات سے ادب دے چکے تو اس کو خرقہ پہننا جائز ہو جاتا ہے فقط۔ اسی وجہ سے وہ حضرات اپنے خلفاء کو اجازت دینے کے بعد مختلف اقالیم میں منتقل کر دیا کرتے تھے اور وہاں کی اصلاح ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ایسے درج کے لوگوں کو مشائخ کی خدمت میں کثرت سے حاضری کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر حضرت تھانوی رحمہما اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ ”شیخ کے ہوتے ہوئے اس سے استغناء بعدِ تحکیل بھی نہ چاہیے۔ کیونکہ گومجاز ہو جانے کے بعد شیخ سے سلسلہ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں نہ رہے، لیکن ترقیات کے لیے تو پھر بھی اس کی حاجت رہتی ہے بلکہ اکثر احوال میں یہ افادہ درجہ ضرورت میں بھی رہتا ہے۔ لہذا شیخ حق سے استغناء کسی حال میں بھی نہ چاہیے اور جنہوں نے اپنے کو مستقل سمجھ لیا ان کی حالت ہی متغیر ہو گئی۔ اہ (انفاس عیسیٰ)

مطلوب یہ ہے کہ ضرورت استفادہ دوسری چیز ہے اور استغناء دوسری چیز ہے یعنی اپنے کوشش سے مستغنی اور اپنے کو مستقل سمجھنے تو یہ یقیناً مضر ہے، بلکہ بعض اوقات کمال کے بعد بھی کبھی کبھی احتیاج پیش آجائی ہے۔ اسی بنا پر میں نے اپنے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کو بارہا کہتے ہوئے سن اور بعض خطوط میں خود ہی اس ناکارہ سے لکھوا یا کہ میرے بعد اگر کہیں مشورہ کی توبت آجائے تو فلاں فلاں سے کرتے رہیں۔ البتہ یہاں ایک نہایت اہم بات قابلِ لحاظ یہ ہے کہ شیخ سے یا جن لوگوں کا شیخ نے نام بتایا ہے یا جو شیخ کے ملک پر ہوں اور دلالتہ حال سے ان سے رجوع و مشورہ شیخ سے رجوع و مشورہ کے خلاف نہ ہوایے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے اور مشورہ لیا جائے

اور جن کا مسلک شیخ کے مسلک کے خلاف ہواندازہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ شیخ ان سے رجوع یا مشورہ کو پسند نہ کریں گے تو ان سے رجوع نہ کرنا چاہیے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی انفاس عیسیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ شیخ کے مساوا دوسرا شیخ کی خدمت میں دو شرط سے جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مذاق شیخ کے مذاق کے خلاف نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس سے تعلیم و تربیت میں سوال نہ کرے فقط اور عوام کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ شیخ کی زندگی میں سلوک اور احوال کے متعلق کسی دوسرے سے رجوع نہ کرے۔ بھر اس کے کہ خود شیخ سے قول آیا دلالۃ ان سے رجوع کرنے کی اجازت ہو اور بعض جاہل جو اس فن سے بالکل ہی نا بلد ہیں اور بالکل ہی احمق ہیں وہ یہ ظلم کرتے ہیں، جس کا آج کل بہت زور ہو رہا ہے کہ بیک وقت کئی کئی مشائخ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں وہیں بیعت ہو جاتے ہیں۔

اس لیے اس زمانہ میں مشائخ کو بھی اس پر تنبیہ کر دینی چاہیے کہ جو شخص اہل حق میں سے کسی ایسے شخص سے مرید ہو کہ وہ ابھی حیات ہے تو دوسرے سے بیعت نہ ہو۔ اس مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب نے جو تحریر فرمایا ہے کہ معمولی عارض پتے ٹھہریاں معمولی اینٹ روڑے اس کے پانی کے سیل کو نہیں روک سکتے، بندہ کے خیال میں اس سے مراد حیوانی تقاصیر ہیں۔ شیطانی تقاصیر بہت سخت ہیں، وہ بمنزلہ چٹان کے ہیں۔ جس کو میں اپنے رسالے، اسٹرائک میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اور اسی درجہ میں شیخ کی ناراضی اور اس کا تکدر بھی داخل ہے۔ میں رسالہ اسٹرائک میں یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ ہمارے سلسلہ کا مدار عقیدت اور محبت پر ہے یعنی شیخ کی طرف سے محبت اور مرید کی طرف سے عقیدت ہو۔ مشائخ سلوک کا مشہور مقولہ ہے کہ شیخ کی معمولی ناراضی اتنی مضر نہیں ہوتی جتنی مرید کی طرف سے عقیدت میں کوتا ہی مضر ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ نے انفاس عیسیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ طریق باطن میں اعتراض اس قدر برآ ہے کہ بعض اوقات کہاڑ سے برکات منقطع نہیں ہوتے، مگر اعتراض سے فوراً منقطع ہو جاتے ہیں، اس طریق میں یا تو کامل اتباع کرے ورنہ علیحدگی اختیار کرے:

از خدا خواہیم توفیق ادبے ادب محروم گشت از فضل رب  
بے ادب تھا نہ خود را وشت بد بلکہ آتش در ہم آفاق زد  
دوسری جگہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ شیخ کے ساتھ جو بست ہوتی ہے کیا وہ بھی قطع ہو جاتی ہے، فرمایا کہ ہاں! شیخ کے ساتھ جو بست ہوتی ہے وہ بھی قطع ہو جاتی ہے۔ گستاخ بڑی خطرناک چیز ہے گو معصیت نہیں ہے مگر خاص اثر اس کا معصیت سے بھی زیادہ ہے اس طریق میں سب

کوتا ہیوں کا حمل ہو جاتا ہے، مگر اعتراض اور گستاخ کا نہیں ہوتا:

ہر کے گستاخی کند اندر طریق گردد اندر وادی حرث غیر ق  
لہر کے پیسا کی کند در راہ و دوست رہن مہداں شد و نامرداؤست  
اس نسبت والے اکابر مشائخ سے اگر کوئی لغزش عوام کی نگاہ میں محسوس ہو تو اس پر اعتراض  
ہرگز نہ کریں، کیا بعید ہے کہ اس لغزش کو ان کی نسبت کا سیلا ب بھائے لیے چلا جائے اور تم اس  
کی عیب جوئی اور لغزشوں پر نگاہ کر کے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی  
اللہ عنہ نے تو ایک اہم وصیت فرمائی ہے جو ابو داؤد شریف میں بہت تفصیل سے ہے۔ اس میں  
ارشاد فرماتے ہیں کہ حکیم سے بھی بعض باتیں مگر ابھی کی نکل جاتی ہیں اور منافق بھی بعض مرتبہ  
کلمۃ الحق کہہ دیتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا اللہ آپ پر حرم کرے ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ یہ  
حکیم کی بات مگر ابھی کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حکیم کی ایسی باتوں  
سے اجتناب کرو جس کو لوگ (علماء حق) یوں کہیں کہ فلاں نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ لیکن یہ  
بات تجھ کو اس حکیم سے ڈورنا کر دے۔ کیا بعید ہے کہ وہ حکیم تو عنقریب اپنی بات سے رجوع کر  
لے (یا اپنے فعل سے توبہ کر لے) اور تو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہو جائے، مطلب یہ کہ علماء  
حق کی غلط بات میں پیروی تو نہ کی جائے اور نہ ہی ان کے اس قسم کے قول و فعل کا اتباع  
کیا جائے لیکن ان پر سب و شتم نہ کیا جائے۔ اس میں بڑے مضرات ہیں جن کو یہ ناکارہ اپنے  
رسالہ الاعتدال میں بہت تفصیل سے لکھ چکا ہے۔

### ایک اہم اور ضروری وصیت:

یہاں نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری امر یہ بھی قابلٰ لحاظ ہے کہ اس نسبت والے اکابر  
کے کسی نامناسب فعل میں اتباع ہرگز نہ کیا جائے اگرچہ یہ مضمون اور پر بھی آپ کا ہے مگر اہتمام کی وجہ  
سے میں دوبارہ لکھتا ہوں۔ مثلاً نسبت القائی والے ان حضرات کی کسی لغزش میں یہ سمجھ کر اتباع  
کریں کہ یہ امر فلاں حضرت نے بھی کیا ہے یا کہا ہے تو ان کے لیے سخت مضر ہے۔ اس لیے پہلے  
لکھا جا چکا ہے کہ نسبت القائی والوں کے لیے ذرا سالم یعنی بھی ان کی نسبت کے زوال کا سبب ہوتا  
ہے اور اس کی نسبت والے حضرات کی لغزشیں سیلا ب میں بہہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا  
راتوں کے چکے چکے رو نا صرف کفارہ بلکہ بسا اوقات ”فَاوْلَنَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاْتَهُم  
حَسَنَاتٍ“ کا مصدقاق بن جاتا ہے اور نسبت القائی والا ان کی حرص کر کے اپنے کو نیچے گرادے گا  
اور جب نسبت القائی والے کا یہ حال ہے تو انکا سی والے کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہ بہت ہی اہم اور

قابل لحاظ بات ہے۔ میں بسا اوقات بعض مبتدیوں کو بعض منتهیوں کی لغزشوں میں حرص کر کے اپنی جگہ سے بہت دور گرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

حضرت شاہ صاحب نے نسبت کی چوتھی قسم اتحادی بتائی ہے۔ جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ اپنی نسبت روحانیہ کو جو حامل کمالات عالیہ ہے۔ مرید کی روح کے ساتھ قوت سے متصل کر دے اور اپنی نسبت کو قوت کے ساتھ دبوچ کریا اور کسی طرح سے مرید کے قلب میں پیوست کر دے اور گویا شیخ و مرید میں روحانی اعتبار سے کوئی فرق نہ رہے۔

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی

تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

### چوتھی نسبت اتحادی:

حضرت شاہ صاحب نے اس چوتھی نسبت کی مثال میں ایک عجیب قصہ حضرت خواجہ باقی اللہ کا جو حضرت مجدد الف ثانی کے شیخ تھے ان کا مزار مقدس دہلی میں ہے، ان کے متعلق لکھا ہے، ان حضرات کو کوئی شخص ہدایا دے تو بعض اوقات بڑی گرانی سے محض ہدیہ دینے والے کی دلداری کی بنا پر قبول کرتے ہیں، لیکن جو ہدیہ غایت احتیاج کے وقت آئے اس کو بہت ہی قدر سے قبول کرتے ہیں۔ اس وقت کی دعاء، بہت دل سے تکلتی ہے۔ ایسے وقت کی دعاوں میں معطی کے لیے یہ حضرات جو کچھ مانتے ہیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمادیتے ہیں۔ ایسے وقت کی دعا میں ہر وقت نہیں ہوتیں۔ لیکن جب ہوتی ہیں تو تیر بہدف ہوتی ہیں اور بہت جلد پوری ہوتی ہیں۔ ایسی ہی دعاوں کو دیکھ لیکر بعض لوگوں کو مشائخ کے متعلق یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ حضرت کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے حالانکہ یہ قاعدہ کلی نہیں۔ اس سلسلہ میں ایک اہم وقت ان حضرات کے یہاں وہ ہوتا ہے جب ان کے ہاں کوئی مہمان اللہ والا آجائے اور پاس کچھ نہ ہواں وقت کا ہدیہ ان کے یہاں بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ میں پہلے اکابر کے حالات میں لکھوا چکا ہوں کہ جب میرے اکابر میں سے کوئی ایک دوسرے کے یہاں مہمان ہوتا تو میزبان کی یہ خواہش ہوتی کہ جو خاطر ہو سکے کر دوں۔

بہر حال اس سلسلہ میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں کچھ مہمان اہم آگئے، ایک بھیارے کی دکان حضرت کی قیام گاہ کے قریب تھی، اس بھیارے نے دیکھا کہ کچھ نیک قسم کے مہمان بے وقت آئے ہیں۔ اس نے بہت بڑا خوان لگا کر اور اس میں مختلف قسم کے کھانے رکھ کر حضرت خواجہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خواجہ صاحب

نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں کچھ مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے کچھ لا یا ہوں قبول فرمائیں۔ حضرت کو بہت ہی صرفت ہوتی اور وہی بے اختیاری شان کے ساتھ فرمایا ”ماںگ کیا مانگتا ہے“۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بنادو۔

حضرت نے تھوڑی دیر تاکہ کے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لے، طباخ نے کہا کہ بس یہی چاہیے۔ چونکہ حضرت زبانِ مبارک سے یہ فرمائے تھے کہ ماںگ کیا مانگتا ہے اس لیے اس کے تین مرتبہ کے اصرار پر اس کے جھرہ مبارکہ میں لے گئے، اندر سے زنجیر لگائی۔ اس کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح سے کہ انہوں نے نزولِ وجی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ دیوچا تھا اور ہر مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ پڑھو، دو مرتبہ کے دبوچنے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں قاری نہیں اور تیسری دفعہ میں دیا کر جو حضرت جبریل نے بتایا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یا حضرت خواجہ صاحب نے کوئی اور توجہ فرمائی ہوگی آدھ گھنٹہ بعد جب جھرہ کھول کر باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت تک بھی ایک ہو گئی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب تو جیسے جھرہ میں گئے تھے ویسے ہی باہر تشریف لے آئے۔ لیکن وہ طباخ سگر (بے خودی) کی حالت میں تھا اور کچھ دیر بعد اسی حالت میں انتقال ہو گیا اللہ بلند درجے عطا فرمائے۔ موت تو آنی ہی تھی اور اس کا جو وقت مقرر تھا اس میں تقدم و تاخذ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کہ ساری عمر تو طباخی کی اور موت کے وقت خواجہ جیسا بن کر آخرت کے بھی مزے لوئے۔

### شاہ غلام بھیک کا واقعہ:

اسی نوع کا ایک قصہ حضرت شاہ غلام بھیک نور اللہ مرقدہ کا مشہور ہے کہ وہ اپنے شیخ شاہ ابوالمعالیٰ قدس سرہ کے عاشق تھے اور جب حضرت شیخ سفر میں جاتے تو یہ بھی ہم کاب ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ قدس سرہ سہارنپور خدام کے اصرار پر تشریف لائے اور شاہ غلام بھیک بھی ہم کاب تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ شیخ کے یہاں آج کل فاقوں پر فاقہ چل رہے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ قدس سرہ کی جہاں دعوت ہوتی شاہ غلام بھیک دعوت کرنے والے سے یہ طے کر لیتے کہ دو آدمیوں کا مزید کھانا دینا پڑے گا اور روزانہ عشاء کی نماز کے ساتھ حضرت کو لانا کر دنفر کا کھانا لے کر پاپیا دہ انہم جو سہارنپور سے ۱۶ میل ہے تشریف لے جاتے اور الہیہ کو کھانا دے کر قرار دا اپس آتے اور تہجد کے وقت حضرت کی خدمت میں آ جاتے۔ چند روز بعد حضرت انہم پہنچے تو الہیہ سے پوچھا کہ کس طرح گزری تو ان کو اس سوال پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ روزانہ کھانا بھیجا کرتے تھے پھر گزر کا سوال کیا اور بیان کیا کہ دو گھنٹی رات گزرنے پر شاہ بھیک

روزانہ کھانا دے جایا کرتے تھے۔ شیخ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور باہر آ کر شاہ بھیک سے پوچھا تو انہوں نے صورت حال عرض کر دی اور کہا کہ اماں جی اور صاحبزادی صاحب تو فاقہ کرتے اور بھیک اپنے پیٹ بھرتا، اس کی غیرت نے گوارانہ کیا، شیخ کو اس جواب پر مسرت ہوئی اور یہ فرمایا کہ تو نے میرے توکل میں تو ضرور فرقہ ڈالا مگر خدمت کا حق ادا کر دیا اور اپنی چھاتی سے لگالیا اور روحانی نعمت جو کچھ دینی تھی وہ عطا فرمادی۔ شاہ بھیک نے اپنے قلب کو تورِ معرفت سے معمور دیکھا تو شیخ کے قدم چوم لیے اور مستانہ وارثوق میں یہ دوہازبان سے نکلا:

بھیک مالی پرداریاں پل میں سو سو بار  
کاگا سے نہ کیا اور کرت نہ لائی بار

یعنی بھیک (اپنے مرشد) ابوالمعالی پر ہر آن سو سو دفعہ قربان ہو کہ انہوں نے اس کو زاغ سے نہ بنادیا۔ (یعنی ناکارہ و نااہل سے اہل بنادیا اور ایسی جلدی بنایا کہ دری بھی نہ لگی) ادھر سیدہ سے سینہ لگا اور ادھر ولایت و معرفت الہیہ نصیب ہو گئی۔ اس قصہ میں دعوت میں شرط کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی شرط فرمائی تھی۔ (تذکرۃ الخلیل جدید صفحہ ۲۹)

### حضرت جبرائیل کا حضور کو دبوچنا:

سینہ سے سینہ ملا کر سب کچھ ملنے کے واقعات مشايخ کے کثرت سے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے مبارک یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء وحی کے وقت تین مرتبہ دبوچنا نسبت اتحاد یہ پیدا کرنے کے لیے ہے اور جس مقدس ہستی کی ابتداء ترقی حضرت جبرائیل سے اتحاد کے ساتھ شروع ہوئی ہواں نے ۲۳ سالہ زندگی میں کہاں تک ترقی کی ہو گئی اس کو تو اللہ ہی جانے یادہ جانے جس نے یہ مراتب حاصل کیے۔ لیکن اتنا ضرور ہر آدمی بھی جانتا ہے کہ جس نے ابتداء میں تین مرتبہ دبوچ کر ابتداء کرائی تھی، تیرہ برس بعد شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر پیچھے رہ گئے کہ

اگر یک برم مونے برتر پرم فروع تجلی بیوز د پرم

کہ میری تو پرواہ کی انتہا ہو چکی۔ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلی باری سے جل جاؤں گا اور پھر سید الکوئین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر قاب قوسین تک پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد زندگی کے دس سال تک کیا کیا ترقیاں کی ہوں گی اس کو وہی جانتے ہیں جن پر حقیقت محمد یہ کی حقیقت منشف ہو گئی ہو۔ حضرت شاہ صاحب کا ارشاد تو اتنا ہی ہے کہ حضرت

جبریل کے دبوچنے سے نسبت اتحادیہ حاصل ہوئی لیکن اس سے کارکا خیال یہ ہے کہ یہ سلوک تفصیلی تھا۔ غیرِ حرام میں چھ ماہ تک انقطاع عن الدنیا و توجہ الی اللہ کے ساتھ قلب اطہر میں وہ صفائی اور نور تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا جو نسبت انعکاسی کا محل ہوتا ہے اور حضرت جبریل علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت دیکھ کر صفاتِ ملوکیت کا انعکاس تو شروع ہی ہو گیا تھا اور پہلی مرتبہ دبوچنے میں نسبت القائی اور دوسرا مرتبہ میں نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ میں نسبت اتحادی پیدا ہو کر وہ صفاتِ ملوکیت جس کا انعکاس ابتداء و بہاء میں حاصل ہوا تھا وہ تیسری مرتبہ دبوچنے میں طبیعت ثانیہ بن گیا اور جس کی ابتداء میں فرشتوں کے خصائص بلکہ سید الملاک نکہ جبریل کے خصائص طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اس کے ۲۳ سالہ مجاہدات اور تعلق مع اللہ میں کتنی ترقیات ہوئی ہوں گی۔ اگر اس کی کوئی مثال کہی جاسکتی ہے تو بس بھی ہے کہ:

میان عاشق و معشوق رمزیت کراما کاتبین راهم خبر نیست  
میں نے اپنے اکابر کے بعض خدام میں بھی اس نسبت اتحادی کی جھلک پائی کہ گفتگو میں، طرزِ کلام میں، رفتار میں، کھانے پینے کی ادائیں میں اپنے شیخ کی بہت ہی مناسبت تھی۔ مگر خود نا بلد ہوں،  
تا بالغِ بلوغ کی لذتوں سے کب واقف ہوتا ہے۔ میری مثال اس شعر کی سی ہے:

یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب  
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باہد خوار ہوتا

ماہ مبارک قریب آرہا ہے اور میرا کاتب آپ بیتی نمبر ۵ ختم کرنے کے واسطے مضمون مانگ رہا ہے۔ اس لیے آج ۸ شعبان ۹۱ ھ کو یہ مضمون ختم کر کے کاتب کے حوالے کر رہا ہوں جو لغزشیں اس ناکارہ سے اپنی سوءِ فہم سوءِ حافظہ سے اس میں ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی معاف فرمائے۔ دوستوں کو بہت ہی شدید اصرار بلکہ اکابر کے تقاضہ بھی اس سلسلہ کو باقی رکھنے کے ہیں کہ خالی اوقات میں کیف ماتفاق اکابر کے احوال جو بھی یاد آ جایا کریں لکھوادیا کروں۔ مگر ضعف پیری اور امراض کی کثرت میں دل یہ چاہتا ہے کہ حدیث پاک کی کوئی خدمت بقیہ زندگی میں ہو جائے تو مالک کا احسان ہے۔ اس رسالہ کی ابتداء کیا تھی؟ عزیز مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح میں علی میاں کے ایک باب پر تقدیم تھی۔ لیکن پھر اس کشکول میں نہ معلوم کیا کیا آگیا اور اکابر کے حالات شروع میں تو مجھے بھی نہ معلوم کیا کیا یاد آتے چلے گئے ان کا حصار بھی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ والوں کے حالات بالخصوص میرے اکابر کے حالات کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ:

دامان نگہ نگ و گل حُن تو بسیار  
گل چیں بہا رتو رو اماں گلہ دارو

میرے اکابر کے احوال اور ان سب گلدوں کے مختلف پھول کو کوئی غور سے دیکھے تو تخلق  
با خلاق اللہ کا منظر اس گلدستہ میں خوب پائے گا بشرطیکہ اللہ نے دیدہ عبرت عطا فرمایا ہو:  
دید لیلی کے لیے دیدہ مجھوں ہے ضرور  
میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا

وَمَا تَوْفِيقٌ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُّلُّ ثُوَّالِيْهِ أُنْبِ

اللّٰہم اغفر لی ما وقع فیہ من الخطاء والزلل و ما لا ترضی به من العمل  
فانک عفو کریم. غفور حلیم، رؤوف الرحیم و صلی اللہ علی سید الاولین  
والاخرين سید الانبیاء والمرسلین صاحب المقام المحمود والحضور المورود  
والشفاعة الكبرى ومن دنسی فتدلی و كان قاب قوسین او أدنسی و علی الہ و  
 أصحابہ و اتباعہ حملة الدین المتین الی یوم الدین.  
و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

۸ شعبان المکرم ۱۳۹۱ھ

.....☆☆☆☆☆.....

## تمکملہ

یہ رسالہ ماہ مبارک کے قرب کی وجہ سے اوائل شعبان میں ختم کر دیا تھا، اس ناکارہ کا معمول ماہ مبارک میں مغرب عشاء کے درمیان مہمانوں کے کھانے سے فراغ کے بعد دوستوں سے خصوصی ملاقات کا وقت ہے۔ اس میں احباب سے خصوصی درخواستیں اہتمام سے عمل کرنے کے لیے کہتا رہتا ہوں۔ یہ نسبتوں والا مضمون بھی مختصر و مفصل ہر مقصان میں سنانے کی نوبت آتی رہتی ہے کہ ذاکرین بالخصوص جن کو اس سیدہ کارنے اجازت دی ہے۔ ان کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ان کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ اجازت سے مغرور نہ ہوں بلکہ اس کی وجہ سے ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ جس سے بہت فکر چاہیے، اس سال چونکہ اس ناکارہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہی، بولنا دشوار تھا۔ اس وقت کچھ بجائے زبانی کہنے کے اکابر کے مضامین سے کچھ سنواتا رہا۔ انفاس عیسیٰ کے خاتمه پر ایک نہایت اہم عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ ”طیوة الحیوان و میری“ سے مفتی محمد شفیع صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حال ناظم دارالعلوم کراچی نے محرم ۱۴۰۵ھ میں ترجمہ کر کے شائع کیا تھا۔ جو انفاس عیسیٰ سے زیادہ مفصل ہے اور اس سیدہ کارنے بھی اپنے والد صاحب نوراللہ مرقدہ سے بارہا اس کو سنائی جو دنوں سے زیادہ مفصل تھا اور نہایت ہی اہم سبق آموز عبرت انگیز ہے کہ آدمی کو بالخصوص جو کسی دینی منصب میں علمی ہو یا سلوکی یا اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہو اس کو اس قصہ سے زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص عجب و غریب اور کسی دوسرے کو تحریر کی نگاہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور حضرت شیخ سعدی نوراللہ مرقدہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کی نصیحت کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بہت ہی جامع اور اہم ہے، وہ فرماتے ہیں:

مرا پیر دانائے روشن شہاب  
دوا ندرز فرمود بر روئے آب  
کیے آنکہ بر خویش خود بین مباش  
و گر آنکہ بر غیر بد بیس مباش

فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روشن ضمیر شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے دلصیحتیں فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ اپنے اپر کبھی خود بینی میں بتلانہ ہونا۔ دوسرے یہ کہ

دوسرے کے اوپر بد بینی تحقیر نہ کرنا۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ یہ قصہ بھی جو آگے آ رہا ہے خود بینی اور بد بینی کا نہایت عبرت آموز سبق ہے۔ اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی نے تو بہت مختصر لکھا جس کی ابتداء یہ ہے کہ آدمی کو ہرگز زیبا نہیں کہ آدمی اپنی حالت پر نازکرے اور دوسروں کو تحریر سمجھے، خود نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں، بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبد اللہ ایک بزرگ تھے۔ بغداد میں ان کی وجہ سے تیس (۳۰) خانقاہیں آباد تھیں۔ وہ ایک پارمع اپنے مجتمع کے چلے جا رہے تھے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصہ کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں:

### شیخ اندری کا عبرت آموز قصہ:

ذیل کا مضمون عبرت آموز واقعہ علامہ دمیری کی "حیۃ الحیوان" مطبوعہ مصر سے نقل کیا جاتا ہے سن بھری کی دوسری صدی ختم پر ہے، آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی زیادہ مدت نہیں گزری۔ لوگوں میں امانت دیانت اور مددین و تقویٰ کا عصر غالب ہے۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے کچھ بر سر کار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پار ہے ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے، ہر ایک شہر علماء دین و صلحاء متفقین سے آباد نظر آتا ہے۔ خصوصاً مدینۃ الاسلام (بغداد) جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے۔ اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ گزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی ولفریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی شہریں دل بھانے والی ہیں تو دوسری طرف علماء اور صلحاء کی محلیں، درس و تدریس کے حلقے ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی دلجمی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقهاء و محدثین اور عجتاد و زہاد کا ایک عجیب و غریب مجتمع ہے۔ اس مبارک مجتمع میں ایک بزرگ ابو عبد اللہ اندری کے نام سے مشہور ہیں جو اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ چکی ہے، جن کا ایک عبرتاک واقعہ اس وقت ہدیہ ناظرین کرتا ہے۔

یہ بزرگ علاوه زائد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو تیس (۳۰) ہزار حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کو تمام روایات قراءت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا، تلمذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنتیل بغدادی اور حضرت شبی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت شبی قدس سرہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے

نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان منزل بے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے رہباں اور پادریوں کا تجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوچھتا اور کوئی آگ کو ڈنڈوت کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھے۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومت گھومت بستی کے کنارے پر ہم ایک کنوئیں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبد اللہ انہی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو خداداد حسن و جمال میں سب بھجویوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی، شیخ کی اس سے آنکھیں چار ہوتے ہی حال دگر گوں ہونے لگی۔ چہرہ بد لئے لگا، اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کی بھجویوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے یہ کس کی لڑکی ہے؟

لڑکیاں: ”یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔“

شیخ: ”پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنارکھا ہے، کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے۔ کیا وہ اس کے لیے کوئی مامانا نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟“

لڑکیاں: ”کیوں نہیں مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور فہیم آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متعاق خشم خدم پر غرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔“

حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور تین دن کامل اس پر گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ میریدین اور تلامذہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، لیکن سخت ضيق میں ہیں، کوئی تدبیر نہیں آتی۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ ”اے شیخ! آپ کے مریدین آپ کے اس مستمر سکوت سے متجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کیا حال ہے؟“

شیخ: ”(قوم کی طرف متوجہ ہو کر) میرے عزیز وا میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آچکی ہے کہ میرے تمام اعضاء

وجوارح پر اس کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سر زمین کو چھوڑ دوں۔“

حضرت شبلیؒ: اے ہمارے سردار آپ اہل عراق کے پیر و مرشد علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے متباہز ہو چکی ہے، بطیفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب گورسواء نہ کچھے۔

شیخؒ: ”میرے عزیز و امیر اور تمہارا تصیب، تقدیر خداوندی ہو چکی ہے، مجھ سے دلایت کالباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھائی گئیں۔“ یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور کہا:

”اے میری قوم! قضا و قد رنا فذ ہو چکی ہے۔ اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔“

حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعہ پر سخت تعجب ہوا اور حضرت سے رونا شروع کیا شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیالب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بقداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخؒ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔

واقعہ سن کر لوگوں میں کہرا موج گیا۔ شیخؒ کے مریدوں میں سے کثیر التعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی اور یا تی لوگ گزر گڑا کر خدائے بنے نیاز کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے کہ اے مقلوب القلوب! شیخؒ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبہ کو لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم ایک سال تک ایسی حسرت و افسوس میں شیخؒ کے فراق میں لوٹتے رہے، ایک سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخؒ کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تو ہماری جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخؒ کا حال دریافت کیا۔

گاؤں والے: ”وہ جنگل میں سورچار ہا ہے۔“

ہم: ”خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟“

گاؤں والے: ”اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی۔ اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سورچرانے کی خدمت پر مامور ہے۔“

ہم: ”یہ سن کر ششد رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے سچنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امنڈ نے لگا، بمشکل تمام دل تھام کر اس جنگل میں پہنچ جہاں وہ سورچار ہے تھے۔ دیکھا تو شیخؒ کے سر پر نصاریٰ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت ہمارا لیا کرتے

تھے۔ جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔

شیخ: ”(کسی قدر دبی زبان سے) علیکم السلام۔“

حضرت شبیلی: ”اے شیخ! اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟“

شیخ: ”میرے بھائیو! میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون نالنے والا تھا۔“ اے عزیزو! خدا نے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغزور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا! گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔

(میرے والد صاحب اس قصہ کو سناتے وقت یہ شعر بھی شیخ کی طرف پڑھا کرتے تھے)

بے نیازی نے تری اے کبریا  
مجھے غریب و ختہ کو کیا کیا؟

(غالباً یہ کسی عربی شعر کا ترجمہ کسی اردو داں شاعر نے کیا ہو گا)

اور شیخ نے آواز دے کر کہا: ”اے شبیلی اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔“

(حدیث میں ہے ”السعید من وعظ بغیره“ یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔

حضرت شبیلی روئے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لمحے میں:

”اے ہمارے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفعہ کرنے والا نہیں۔“

خنزیریان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بُل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا اور اس زور سے چیخنے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھئے۔ یہ میدان میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ اوہر شیخ حضرت کے عالم میں زار زار و رہے تھے۔

حضرت شبلی: ”شیخ! آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں قراءت سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟“

شیخ: ”اے عزیز مجھے قرآن میں دو آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔“

حضرت شبلی: ”وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟“

شیخ: ”ایک تو یہ ہے ”وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُكْرِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ“ (جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والے نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا اور دوسری یہ ہے ”وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفُرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ“۔ (جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق و سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔)

شبلی: ”اے شیخ! آپ کو تمیں ہزار حدیثیں مع اسناد کے بر زبان یاد تھیں اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے۔“

شیخ: ”صرف ایک حدیث یاد ہے، یعنی من بدل دینہ فاقتلوه (جو شخص اپنادین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو)

ہم یہ حال دیکھ کر بصدق حضرت ویاس شیخ کو وہیں چھوڑ کرو اپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند شہادتیں ”اَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ“۔ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہماری مسیرت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حضرت ویاس کا اندازہ ہو۔

شیخ: (قریب پہنچ کر) ”مجھے ایک پاک کپڑا دو اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔“

ہم: ”اسن خدائے قدیر و علیم کا ہزار ہزار شکر، جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ پھر جانے کے بعد پھر درست فرمادیا، مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا۔“

شیخ: ”میرے دوستو! جب تم مجھے چھوڑ کرو اپس ہوئے میں نے گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خداوند مجھے اس جنجوال سے نجات دے میں تیر اخطا کار بندہ ہوں اس سمیع الدعاء نے بایس ہمس میری آوازن لی اور میرے سارے گناہ محکردیے۔“

ہم: ”شیخ! کیا آپ کے اس ابتلاء (آزمائش) کا کوئی سبب تھا؟“

**شیخ:** ”اہ جب ہم گاؤں میں اُترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا۔ آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمخت کیسے جاہل واحمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، مجھے اس وقت ایک نبی آواز دی گئی:

”یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذلتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جوان کو حقیر سمجھتے ہو۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلادیں۔“ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے۔ جو درحقیقت ایمان تھا۔

**حضرت شبلی:** ”اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منار ہے ہیں۔ خانقاہیں اور جگرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و مذکیر تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالی نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرمادیا۔ بلکہ اب نبتاب پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلمذہ کی تعداد چالیس ہزار اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے جگہ کا دروازہ ہٹکھٹایا۔ میں دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔“

میں: ”آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟“

آنے والا: ”اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں (اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ بتلا ہوئے تھے) چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔“

پھر ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو کر رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے:

”چواز دکشتی ہمس چیز از تو گشت“

میں شیخ کے پاس گیا۔ واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے، اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔

لڑکی دیکھتے ہی زار زار رورہی ہے۔ شدتِ گریدم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔

**شیخ:** ”(لڑکی سے خطاب کر کے) تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا۔“

لڑکی: ”اے میرے سردار! جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو کچھ میرا دل ہی جانتا ہے، نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی، میں رات بھرا سی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اس وقت مجھ پر کچھ غنوڈگی سی غالب ہوئی، اسی غنوڈگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔“

میں: ”(اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے) شیخ کا دین کیا ہے؟“

شخص: ”اس کا دین اسلام ہے۔“

میں: ”اسلام کیا چیز ہے؟“

شخص: ”اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول و پیغمبر ہیں۔“

میں: ”تو اچھا میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں۔“

شخص: ”ذرا آنکھیں بند کرو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔“

میں: ”مہت اچھا، یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔“

شخص: ”میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے۔ بس آنکھیں کھول دو۔“

میں نے آنکھیں کھولیں۔ اپنے کو دجلہ (ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے) کے کنارے پایا۔ اب میں متغیر ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔

اس شخص نے آپ کے مجرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ سامنے شیخ کا مجرہ ہے وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر (علیہ السلام) آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے ارشاد کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوں کے ایک مجرہ میں ٹھہرایا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے اکثر اقران سے سبقت لے لگی۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھرا پنے مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ محبت سے بدن ڈھل گیا۔ ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا متد ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ کیونکہ جس وقت

سے اس حجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ یہی شیخ کی زیارت کر سکی۔ جس سے آپ چند گھنٹی کے مہمان کی حضرت ویاس کا اندازہ کر سکتے ہیں، آخر شیخ کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہو جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے، جاں بلب لڑکی حضرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے مگر آنسوؤں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ضعف سے بولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس کی زبان بے زبانی یہ کہہ رہی ہے۔

دم آخر ہے طالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر  
سدا پھر دیدہ تر کرتے رہتا اشک فشانی

آخر لڑکھرائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا۔ السلام علیکم۔ شیخ (شفقت آمیز آواز سے) تم گھبراو نہیں، انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی ممتد ہوئی یہ مہر سکوت صحیح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی مسافر آخرت نے اس دارفانی کو خیر آباد کیا۔

شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ ہیں۔ مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبیل کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پر فضاباغ میں مقیم ہیں اور ستر ہو روں سے آپ کا نکاح ہوا ہے جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ لڑکی اور اب وہ دونوں ابد الآباد کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔

”دَلْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتَيْهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ“

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انفاس عیسیٰ میں نقل کیا ہے کہ جب یہ حال ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہ ہمارے مستقل اختیار سے ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بہت حسین ہو مگر وہ اپنے چہرے پر کا لک مل لے تو اس کا قدرتی حسن حقیقتہ زائل نہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بد شکل ہو مگر وہ پاؤ ڈرمل لے تو کیا وہ حسین ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسا پاؤ ڈر۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کا لک۔ جب ڈر اہٹا تو اصل رنگ عود کر آیا اور اس کا ہٹ جانا اپنے مستقل اختیار میں نہیں ہے یہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پھر کیا زیبا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر نماز کرے

اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ فقط یہ قصہ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی ساتھا۔ اس میں ایک شعر جو اور پر گزر چکا وہ فرماتے تھے کہ اس شعر کو شیخ ابو عبد اللہ اندرسی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، غالباً عربی کا کوئی شعر ہو گا جس کا اردو میں کسی نے ترجمہ کیا۔ اس کے ساتھ اس قصہ کی ابتداء میں میرے والد صاحب نے جو سنایا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے کے ایک بزرگ نے غلبہ حال میں یہ فرمایا ”قدمی علی رقبہ نکل ولی“ (ترجمہ) کہ ”میرا قدم ہر دلی کی گردن پر ہے“۔ ان اندرسی بزرگ نے جب یہ مقولہ سنات تو فرمادیا ”الا اذَا“ وہ بزرگ نہ معلوم اس وقت کہاں تھے، انہوں نے ان کا انکار سن کر یہ فرمادیا کہ ”جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہے“۔ مگر یہ واقعہ مجھے اس وقت کسی جگہ نہیں ملا۔ مولانا الحاج ابو الحسن علی نے سن کر فرمایا کہ یہ واقعہ میں نے کسی کتاب میں اسی طرح دیکھا جس طرح آپ نے اپنے والد صاحب سے ناگر اس وقت حوالہ یاد نہیں۔

یہاں ایک ضروری بات یہ قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کا واقعہ حضرت پیر ان پیر کا بھی ہے نور اللہ مرقدہ ہم جس کو امداد المنشاق میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی سے افضل ہیں اور دوسرا حضرت شاہ عبدالقادر کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم کونہ چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”فَضَّلُنَا بِعَظَمَهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ جس سے معلوم ہوا کہ واقع میں تفاصل ہے لیکن ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے۔ اس واسطے مناسب شان ہماری نہیں ہے کہ محض رائے سے ایسی جرأت کریں، البتہ مرشد کو تمام اس کے معاصرین پر فضیلت باعتبار محبت کے دینا مصالحتہ نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی محبت پیچا سے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آدمی معدود ہے۔ اس نے یعنی قادری نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت شاہ عبدالقادر نے ”قدمی علی رقباب اولیاء اللہ“ فرمایا تو حضرت معین الدین نے فرمایا ”بل علی عینی“ یہ بیوت افضیلت حضرت شاہ عبدالقادر کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے تو فضیلت حضرت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہو سکتی ہے نہ برخلاف اس کے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر اس وقت مرتبہ اوہیت یعنی عروج میں تھے اور حضرت شیخ مرجب عبدالیت یعنی نزول میں اور نزول کا افضل ہونا عروج سے مسلم ہے۔

(امداد المنشاق)

### قدمی علی رقبہ کل ولی اور اکابر کے اس نوع کے اقوال کا صحیح مجمل:

یہ قصہ شیخ اندری کا دوسری صدی کے ختم کا ہے اور حضرت شاہ عبدالقدوس رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ۵۶۱ھ میں ہے۔ یعنی چھٹی صدی ہجری کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے متنبہ کر دیا کہ ایک قصہ کا دوسرے سے خلط نہ ہو۔ اصل قصہ شیخ اندری کے متعلق یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ میں آپ بیتی میں کسی جگہ اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ وصیت نقل کر چکا ہوں کہ ان اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے اور اس کلام کی شرح بھی حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے نقل کر چکا ہوں۔ اس لیے ان اکابر کے ایسے جملوں پر جو اور نقل کیے گئے ”قدمی علی رقبہ کل ولی“ یا اس نوع کے بعض دوسرے اکابر کے جملے مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے متعدد ارشادات جن میں سے بعض اوجز کے مقدمہ میں بھی نقل کر چکا ہوں، جس میں ان کی کتاب فہیمات سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔

”وَمَنْ نَعَمَ اللَّهُ عَلَى وَلَا فَخْرَانَ جَعَلَنِي ناطقَ هَذِهِ الدُّورَةِ وَحَكِيمَهَا وَقَانِدَ  
هَذِهِ الطَّبِيقَةِ وَزَعِيمَهَا فَنطَقَ عَلَى لِسَانِي وَنَفَثَ فِي نَفْسِي فَانْطَقَتْ بَاذْكَارِ  
الْقَوْمِ وَأَشْغَالَهُمْ نَطَقَتْ بِجُوَافِعِهَا إِلَى أَخْرِ ما بَسْطَ فِيهِ.“

اس قسم کے الفاظ حضرت شاہ صاحب کے کلام میں بھی اور حضرت پیر ان پیر اور دیگر اکابر کے کلام میں پائے جاتے ہیں، ان الفاظوں پر ناگھوں کو چیزیں بھیں نہ ہونا چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں اکابر کو بعض اوقات میں اکراماً اور اعزاز آوقتی طور پر عطا ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ ارواحِ ثلاثة میں بروایت حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ ایک بزرگ خواجہ احمد جام مسجاب الدعوات مشہور تھے۔ ایک عورت ان کی خدمت میں اپنے ایک نایبنا بچے کو لائی اور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر پھیر دیجئے اور اس کی آنکھیں اچھی کرو دیجئے۔ اس وقت آپ پر شانِ عبدیت غالب تھی۔ اس لیے نہایت افسار کے ساتھ فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس نے اصرار کیا مگر پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ عرض کہ تین چار مرتبہ یوں ہی رد و بدل ہوئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ مانتی ہی نہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھا۔ وہ اندرھوں اور مبروصوں کو اچھا کرتے تھے۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ الہام ہوا کہ تو کون، عیسیٰ کون اور موسیٰ کون؟ پیچھے لوٹ اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیر، نہ تم اچھا کر سکتے ہونے عیسیٰ ”مامی کنیم“ (ہم کرتے ہیں) آپ یہ کرن کرلوئے اور ”مامی کنیم، مامی کنیم“ فرماتے جاتے تھے اور جا کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیر دیا اور آنکھیں اچھی ہو

گئیں۔ یہ قصہ بیان فرمایا کہ حضرت نبی توی قدس سرہ نے فرمایا کہ احمق لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کہ یہ ”مامی کنیم“ خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی گوئے سے عمدہ شعرستا ہے تو اس کو اپنی زبان سے بار بار دہراتا ہے اور مزے لیتا ہے۔ اسی طرح وہ اس البام کی لذت سے حق تعالیٰ کا ارشاد ”مامی کنیم“ بار بار دہراتے تھے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ اس حکایت کے اندر حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قوله وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ اقول منصور طلاق (کے قول انا الحق) کی سب سے اچھی تاویل یہی ہے اور یہ حکایت حضرت مولانا رحمنہ اللہ تعالیٰ سے اس احرق نے بھی سنی ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ مجھ کو ان بزرگ کا نام لینا یاد نہیں اور اول بار جو اس عورت کو جواب دیا اس کا لہجہ جوش کا یاد ہے۔ وہ یہ کہ میں عیسیٰ ہوں جو انہوں کو اچھا کروں اور ”ما می کنیم“ کی جگہ ”ما کنیم“ یاد ہے۔

مقصد اس ساری تحریر سے یہ ہے کہ آدمی کو اپنی فکر میں ہر وقت مشغول رہنا چاہیے۔ دوسروں کی تنقید یا عیب جوئی کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے، خاص طور سے اکابر کے جو کہ معتمد، مقتدی و علماء ہوں ان کے اقوال و افعال کے پچھے نہ پڑنا چاہیے۔ خلافِ شرع میں اتباع کسی کا نہیں، لیکن ان کے اقوال و افعال کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ مجھ سے چند سالوں سے ایک لغوسوال کثرت سے خطوط میں کیا جا رہا ہے کہ فلاں حضرت نے فلاں کو کیوں اجازت بیعت دے دی۔ میں تو ان لغویات کا جواب اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ جب قبر میں منکر نکیر تم سے یہ سوال کریں گے تو تم بے تکلف کہہ دینا مجھے خوب نہیں۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اور عجب پندرار اور دوسروں کی تحقیر تنقیص یہ نہایت خطرناک امور ہیں۔ جیسا کہ اوپر کے سور کے قصہ سے معلوم ہو گیا۔ اللہ ہی محفوظ رکھے، ان سے بھی بہت زیادہ نچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے دوستوں کو اس سے محفوظ رکھے۔

وَمَا تَوْفِيقٌ إِلَّا بِاللَّهِ

محمد زکریا عفی عنہ  
۳ شوال ۱۴۹۱ھ

فن، زبان اور امتحان کی ضرورت کو پورا کرنے والی

# اساس الحکمة

اردو شرح

## ہدایۃ الحکمة

جسے ڈاکٹر شیر علی صاحب مدد ہم نے طلبہ کرام کے لیے "عمل مصغی" قرار دیا

تقاریب:

خصوصیات:

حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب  
شیخ الحدیث دارالعلوم حفاظانیہ کوڑہ خٹک

حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب  
استاذ حدیث دارالعلوم کراچی

- ☆ دقيق عبارت کا شستہ اور عام فہم حل
- ☆ مغلق مقامات کی توضیح بذریعہ تمہیدات
- ☆ پیچیدہ مباحث کی تشرییع بذریعہ نقشہ جات  
ہر بحث سے متعلق خاکے (ڈائیاگرام)

تألیف:

محمد طفیل قاسمی

مکتبہ عمر فاروق

شاہ فیصل کالونی 4 کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علی امیر (دہلی) مکتبہ

# احاطہ دار العلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن

تصنیف

حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی

ترتیب

حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب عظیمی

ناشر

مکتبہ عمر فاروق شاہ فیصل کالونی 4 کراچی